

قصص الأنبياء

۱۱/۱۵۱۱
انبیاء کے حالات اور واقعات کا مستند مجموعہ

قصص الانبیاء
صلی علیہم السلام

تصحیح و جدید موضوع بندی

سید سعید علی شاہ

شبیر برادرز۔ بی بی اردو بازار لاہور

نام کتاب _____ قصص الانبياء
 تصحيح و جديد موضوع بندي _____ سيد سعيد علي شاه زنجاني
 اشاعت اول _____ جنوری ۱۹۸۸ء
 تعداد _____ ۱۱۰۰
 مطبع _____ اشپان پرنٹنگ پریس لاہور
 ناشر _____ ملک شبیر حسین
 ہدیہ مجلد ڈائی وار _____ ۱۱۰/- روپے
 ہدیہ کارڈ کور _____ ۱/- روپے

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	پہلی نمبر	دوئم نمبر	عنوان	نمبر
۸۷	حضرت اسماعیل علیہ السلام	۱۵	۸	تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکتہ	۱
۹۲	تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام	۱۶	۱۵	حضرت آدم علیہ السلام	۲
۱۰۰	حضرت لوط علیہ السلام	۱۷	۱۸	قبول توبہ حضرت آدم علیہ السلام	۳
	حضرت اسماعیل علیہ السلام	۱۸	۲۴	عزازیل علیہ اللعنة	۴
۱۰۶	حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہما السلام	۱۹	۳۸	حضرت شیت علیہ السلام	۵
۱۱۲	حضرت یوسف علیہ السلام	۲۰	۳۹	حضرت ادریس علیہ السلام	۶
۱۸۰	اصحاب کعبہ کا قصہ	۲۱	۴۱	حضرت نوح علیہ السلام	۷
۱۸۶	حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام	۲۲	۵۰	حضرت ہود علیہ السلام	۸
۱۹۰	حضرت یونس علیہ السلام	۲۳	۵۴	شداد لعین	۹
۱۹۹	حضرت ایوب علیہ السلام	۲۴	۵۷	حضرت صالح علیہ السلام	۱۰
۲۰۹	سکندر ذوالقرنین	۲۵	۶۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام	۱۱
۲۲۱	زرعون علیہ اللعنة	۲۶	۷۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش گدے	۱۲
۲۲۷	عروج بن عنق	۲۷		نکلنے کا۔	
۲۳۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام	۲۸	۷۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر قطیفین	۱۳
۲۳۷	ہجرت مصر	۲۹		میں سکونت اختیار کرنا	
۲۳۹	حضرت شعیب سے ملاقات	۳۰	۸۴	حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام	۱۴
۲۴۳	مصر میں دوبارہ واپسی	۳۱		کی مہاجرت	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	
	کے ساتھ اور مارا جانا جلالت کا حضرت	۲۶۷	فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ	۳۲	
	داؤد کے ہاتھ سے	۲۷۲	کوہ طور پر اللہ سے کلام ہونے کا قصہ	۳۳	
۳۲۹	بیان حضرت عزیر علیہ السلام کا	۲۷۶	سامری کا قصہ	۳۴	
۳۴۰	بیان حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا	۲۸۱	ہلاکت قارون	۳۵	
۳۴۳	بیان حضرت یحییٰ علیہ السلام کا	۲۸۶	عامیل مقتول بن سلیمان کا واقعہ	۳۶	
۳۴۴	بیان حضرت شمعون علیہ الصلوٰۃ والسلام کا	۲۸۹	ملاقات حضرت خضر اور حضرت موسیٰ	۳۷	
۳۴۷	بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا	۵۵	علیہ السلام		
۳۵۰	صیانت کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام	۲۹۲	وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت	۳۸	
	کا تمام مخلوقات کو		بارون علیہ السلام		
۳۵۲	حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات	۲۹۷	عابد یحییٰ ابن باعور اور حضرت یوشع بن	۳۹	
	چیونٹیوں کے بادشاہ کے ساتھ		نون کا واقعہ		
۳۵۴	بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور	۳۰۲	طلوت علیہ السلام	۴۰	
	خبر لانا بدہد کا بلقیس کے شہر سے	۳۰۲	جنزبیل ابن ثوری علیہ السلام	۴۱	
۳۶۳	بیان حضرت سلیمان کا شہر صیدون میں	۵۹	ایسا کہ ابن یاسین	۴۲	
	جانا اور بادشاہ عنکبوت کا مارا جانا	۳۰۷	حضرت خنظلہ علیہ السلام	۴۳	
۳۶۵	بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبتلا	۶۰	حضرت شیموئیل علیہ السلام	۴۴	
	ہونا رنج میں بعض بہو اتقصیرات کی وجہ	۳۱۳	حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ طاوت	۴۵	
۳۷۲	بیان تولد حضرت مریم علیہا السلام	۶۱	کی عداوت		
۳۷۴	بیان تولد حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۶۲	۳۱۵	حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت	۴۶
	بیان ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی	۶۳	۳۱۷	حضرت داؤد علیہ السلام کا بلا میں مبتلا	۴۷
۳۸۱	جمہاہ بادشاہ سے ملاقات			ہونے کا واقعہ	
	حضرت مریم کی وفات اور حضرت عیسیٰ	۶۴	۳۳۲	بنی اسرائیل کی صورتیں مسخ ہونے کا واقعہ	۴۸
۳۸۸	عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا		۳۳۴	بیان طلوت کے بادشاہ ہونے کا	۴۹
۳۹۲	بیان نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد	۶۵	۳۳۶	بیان نثرانی طلوت بادشاہ کی جلالت	۵۰

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۴۱۵	بیان دوسری دفعہ چاک کرنا سینہ مبارک	۷۳	رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رحم میں آنے کا	
	آنحضرت کا اور نکاح کرنا غد یحہ الکبریٰ	۳۹۵	بیان بادشاہ ابراہیم ملعون و مردوکا	۶۶
	سے اور اقوال و افعال آنحضرت صلی	۳۹۶	بیان جانا عبدالمطلب کا واسطے تہنیت	۶۷
	اللہ علیہ وسلم کے قبل نکاح کے جو		بادشاہ سیف ذی یزن ابن دوران ملک	
	واقعہ میں آئے تھے۔		زادہ حمیر کے پاس بعد موت مسروق بیٹے	
۴۲۳	بیان اسماء و خصائل حمیدہ آنحضرت	۷۴	ابراہیم کے۔	
	سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم	۳۹۸	ذکر احوال عبد اللہ والد رسول خدا صلی	۶۸
۴۲۸	بیان ازواج مطہرات آنحضرت رسول		اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور بعض باتیں	
	مقبول صلی اللہ علیہ وسلم		آنحضرت کی اپنی ماں کے شک مبارک میں	
۴۲۹	بیان اولاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم		رہتے وقت جو وقوع میں آئی تھیں۔	
۴۳۰	بیان چاک کرنا سینہ مبارک کا تیسری	۷۷	بیان تولد ہونا جناب سرور کائنات	۶۹
	مرتبہ اور فوجی لانا حضرت جبرائیل علیہ		صلی اللہ علیہ وسلم کا۔	
	السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۴۰۳	بیان عبدالمطلب کا پیدائش میں رسول خدا	۷۰
	کے پاس		صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کرامات	
۴۳۳	مہراج مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم		کا جو انہوں نے دیکھی تھیں۔	
۴۵۸	بیان کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجز	۷۹	بیان حضرت حلیمہ دانی جنہوں نے دوسرے	۷۱
	کی حقیقت کو اور یہودی کا مسلمان ہونا		پلایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو	
	وغیرہ	۴۱۲	بیان جانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۷۲
۴۶۱	معجزات اور بزرگی اور خصائل حمیدہ	۸۰	کا اپنے ماموں کے گھر میں اپنی والدہ آمنہ	
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم		کے ساتھ اور آمنہ کا راستہ میں فوت ہونا	
۴۷۲	ہجرت حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام	۸۱	عبدالمطلب کا اور ہمراہ جانا آنحضرت صلی	
۴۷۶	بیان جنگ بدر الکبریٰ	۸۲	اللہ علیہ وسلم کا ابوطالب کے ساتھ شام	
۴۷۹	احوال جنگ اُحمد	۸۳	کے سفر میں تجارت کو اور طلاق ہونا	
۴۸۰	احوال جنگ بدر الصغریٰ	۸۴	ایک راہب سے راستے میں۔	

نمبر	عنوان	پاڻي	پاڻي	نمبر
۴۸۹	فضيلت حضرت امام شافعي رحمۃ اللہ عليه	۸۸	۴۸۱	۸۵ احوال جنگ خيبر
۴۹۱	فضيلت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ عليه	۸۹	۴۸۲	۸۶ بيان وفات آنحضرت محمد مصطفیٰ صلي
۴۹۳	فضيلت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ عليه۔	۹۰		اللہ عليه وآله وسلم
			۴۸۸	۸۷ بيان فضيلت حضرت امام ابو حنيفه رحمۃ اللہ عليه

مِسْكَ اہل سُنَّتِ كَا تَبْلِغِي نَصَابُ

الموسم

مُسْتَحَبَاتُ اَعْمَالِ

(مکمل ۱۳ حصے)

علامہ عالم فقیری

فضائل کلمہ طیبہ		
روزہ	زکوٰۃ	نماز
اتباع سنت	فضائل ذکر	حج
حقوق العباد	کسب حلال	فضائل درود شریف
فضائل ایثار	امر بالمعروف ونہی عن المنکر	فضائل اخلاص
صفحات ۹۷۶ - قیمت - جلد - اردو پے		

شبیر برادرز - بمبئی اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم و کائنات

روایت کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذربخاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے اور وہ اپنے باپ حضرت امام محمد باقر سے اور وہ اپنے باپ امام زین العابدین سے اور انہوں نے روایت کی اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے سنا اپنے والد حضرت امیر المؤمنین کرم اللہ وجہہ سے آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جاہرا بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آکر رسول خدا سے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی وامی مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا جنابے سالت آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور میرا کیا تھا۔ ہزار برس پہلے کہ ایک روز اس جہان کا ہزار برس کے برابر ہے اس جہان کے کما قال اللہ تعالیٰ **وَ اِنَّ یَوْمَ عِنْدَ ذٰلِکَ کَانَ سَنَۃً مِّمَّا تَعَدُّوْنَ** ترجمہ ایک دن تمہارے رب کے نزدیک ہزار برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو، وہ نور میرا قدرت الہی سے عظمت اور بزرگی الہی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد مصطفیٰ نے دوبارہ ہزار برس تک عالم تجروی میں خدا کی عبادت کی۔ پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو چار قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا۔ دوسری قسم سے قلم کو تیسری سے بہشت کو۔ چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا اور ان چار میں سے چار قسم نکال کر تین قسموں سے عقل اور شرم و عیش پیدا کیا اور قسم اول سے عزیز و مکرم تیسرے میں پیدا کیا کہ میں رسول اس کا ہوں **لَوْلَاکَ لَمَّا خَلَقْتَ الْاٰنْسَانَ** کہ تجھ کو اسے محمد صلعم اگر میں نہ پیدا کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو اور موافق اس حدیث کے **اَنَا مِنْ نُورِ اللّٰہِ وَ اَلْخَلْقُ کُلُّہُمْ مِنْیْ** **وَ مِنَ الشُّوْرِی** ترجمہ حضرت نے فرمایا میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا اس کے بعد رب العلیین کا حکم ہوا قلم کو ساق عرش پر اول اس کلمہ کو **لِکُمْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ** - ترجمہ۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں قلم نے چار سو برس میں **لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ** تک لکھا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قلم نے جو **لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ** تک لکھا تو عرض کی یا رب العالمین تو بے ماخذ ہے تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے پس جناب باری

سے آواز آئی یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے تو لکھ محمد رسول اللہ، جب یہ حکم ہوا، ہیبت
 خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شکاف ہوا۔ تب قلم نے محمد رسول اللہ لکھا تبھی سے قلم کاشکان
 مسنون جاری ہوا قیامت تک اس کے بعد عرش کے اوپر اٹھارہ ہزار برج پیدا کئے اور ہر برج میں
 اٹھارہ ہزار ستون کھڑے کئے اور ہر ستون کے اوپر اٹھارہ ہزار کنگرے بنائے اور ایک کنگرے سے
 دوسرے کنگرے تک سات سو برس کی راہ ہے اور ہر کنگرے پر اٹھارہ ہزار قدریل ہیں۔ اور ہر ایک
 ایسا بڑا کہ سات طبق زمین و آسمان اور جو کچھ کہ بیچ اس کے ہے اس میں اس طرح سماوے کہ جیسے ایک
 انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہے اس کے بعد چار فرشتے پیدا کئے ایک بصورت آدمی اور دوسرا
 بصورت شیر اور تیسرا بصورت گدھا اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ پاؤں ان کے تحت التری میں پہنچے
 ہوئے اور منڈھے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں۔ اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھائیں ہر
 ایک قدم سات ہزار برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان کو عرش اٹھانے کا تب ان چاروں نے
 زور کیا ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ بعد اس کے جناب باری سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتو! میں نے تم کو ہفت
 آسمان وزمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دیا عرش کو اٹھاؤ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا
 سکے۔ عاجز ہو رہے پھر جناب باری سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَ
 الْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْمُهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَمَالِ وَالْجَلَالِ
 وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمُحْيِ الْمَيِّتِ لَا يَمُوتُ وَلَا يَمُوتُ سُبُوْحُ
 قُدُّوسٌ ذُبُنْدٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالسُّرُورِ۔ ترجمہ۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ
 اور عالم ملکوت کا صاحب ہے میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور
 ذیشان ہے اور قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا
 ہوں اس بادشاہ زندے کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا وہ ظاہر اور بہت پاک ہے ہمارا پروردگار
 اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا
 لیا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کے
 تسبیح پڑھیں، اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لئے امرزش اور معافی چاہیں۔ قوله تعالى الَّذِينَ
 يَعْمَلُونَ الْعَمَلِاتِ وَمِنْ حَوْكِهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ
 يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا هَا فَاعْفُ لِلَّذِينَ
 تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اٹھا

رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی پائی اور خوبوں کو بیان کرتے ہیں اور اس
 پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشتاتے ہیں ایمان والوں کے، اے رب ہمارے ہر چیز سہانی ہے
 تیری مہر اور علم میں سو تو معاف کر ان کو جو تو بہ کریں اور چلیں تیری راہ پر اور بچا ان کو آگ کے صدموں
 سے اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ
 تیار کیا بلندی اس کی سات سو برس کی راہ اور چوڑائی اس کی تین سو برس کی راہ ہے اور چاروں طرف
 یاقوت سرخ جڑا ہوا اور حکم ہوا تم کو اُکْتُبْ عَلٰی فِی خَلْقِیْ وَ مَا کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ۛ ترجمہ
 لکھ علم خدا کا موجودات میں خدا کے اور جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہیں۔
 قیامت تک، پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اِنَّا
 هِن اَسْتَسْلَمَ بَقَضَائِیْ وَ یَضْبِرُّ عَلٰی بِلَادِیْ وَ یَشْکُرُّ عَلٰی نِعْمَائِیْ کَتَبْتُهُ وَ بَعَثْتُهُ
 مَعَ الصّٰوْتِیْنِ یَقِیْنًا وَ مَنْ لَحَ یَضْبِرُّ عَلٰی بِلَادِیْ وَ لَحَ یَشْکُرُّ عَلٰی نِعْمَائِیْ
 فَا یُطْلَبُ رَبًّا سَوَآءِیْ وَ یَخْرُجُ مِنْ سَمَائِیْ۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام جو بہت
 مہربان ہے نہایت رحم والا ہے، میں ہوں پروردگار سب کا نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں جو
 راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر
 کی ہیں۔ پس شامل کروں گا میں اس کو صدیقیوں میں اور وہ جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو
 بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر لازم ہے اسے کہ طلب کرے رب کو سو امیر کے نکل جاوے
 تحت سما سے میرے بعد اسے لکھنے کے لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ مثل میرے ہستی میں
 کوئی نہیں اس واسطے کہ علم خدائی کا مجھ پر لکھا گیا پس جناب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی۔
 قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی یَمْحُو اللّٰهُ مَا یَشَاءُ وَ یُنْبِتُ وَ هُوَ الَّذِیْ یُحْیِی الْمَوْتِیْنَ اَمْ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ
 اٰمَنُوْا لَیْسَ بِاللّٰهِ شَیْءٌ اَنْ یَّحْیِی الْمَوْتِیْنَ اَمْ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَیْسَ بِاللّٰهِ شَیْءٌ اَنْ یَّحْیِی الْمَوْتِیْنَ
 اور ثابت رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے کہا اگر چاہوں مشاؤون یا رکھوں اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ
 عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقدر کی ہیں ہرگز ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا مگر چار
 چیزیں۔ رزق۔ موت۔ سعادت۔ شقاوت اور پھر اس مروارید کو حکم ہوا یعنی اسے مروارید پھیلے
 جَا کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَ سِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَمْ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَیْسَ بِاللّٰهِ شَیْءٌ
 نے فرمایا کا وہ ہوئی کرسی اسی کی برابر ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے اور نام اس کا کرسی ہوا پھر
 اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا بعضوں نے کہا کہ وہ مروارید کا تھا بلندی اس کی

پانچ سو برس کی راہ ہے اور چوڑائی بھی اسی قدر تھی، جب اس کی طرف دیکھا اور جبل شانہ نے ہیبت سے وہ خود پانی ہو گیا اور بعد اس کے صبا و بوز جنوب شمال ان چار باد کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم ہر چار گوشہ پر اس پانی کے موج مار کر کھٹ نکالو اور ویسا ہی کیا بعدہ قدرت الہی سے آگ دھواں دھار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے بہا پر معلق ہو رہا بعد اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے سات پارہ کر کے ایک پارہ سے پانی ایک پارہ سے تانبہ اور ایک پارہ سے لوہا اور ایک پارہ سے چاندی اور ایک پارہ سے مروارید اور ایک پارہ سے یاقوت سرخ پیدا کیا اور اس پانی سے آسمان اول اور ایک پارہ سے تانبے کا دوسرا آسمان اور ایک پارہ سے لوہے کا تیسرا آسمان اور ایک پارہ سے چھٹا آسمان اور ایک پارہ سے ساتواں آسمان بنایا اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے پانچ سو برس کی راہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اس کیفیت آب سے پشتہ خاک سرخ پیدا کیا۔ اسی جگہ پر کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کو حکم ہوا کہ چار گوشہ اس پشتہ خاک کے پھیلا دو، انہوں نے ویسا ہی کیا اور یہ زمین اسی پشتہ خاک سے پیدا ہوئی، قوله تعالیٰ خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمٍ سِتَّةٍ تَرْجَمَهُ، بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو دو دن میں؛ اور روایت ہے کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز احوال زمین کے دریافت کرنے کے واسطے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا آنحضرت نے فرمایا کہ کھنکھ۔ پھر پوچھا کہ وہ کھنکھ سے پیدا ہوا فرمایا پانی کی موج سے پھر فرمایا موج کس سے نکلی فرمایا پانی سے پوچھا وہ پانی کس سے نکلا ہے فرمایا ایک دانہ مروارید سے کہا مروارید کس سے ہے فرمایا تاریکی سے کہا صدفت یا رسول اللہ پھر سوال کیا یا رسول اللہ زمین کو قرار کس سے ہے فرمایا کوہ قاف سے کہا کوہ قاف کس سے بنا ہے فرمایا زمر دہیز سے اور آسمان کی سبزی اس کے پر تو سے ہے کہا یا رسول اللہ اور بلندی کوہ قاف کی کس قدر ہے فرمایا پانچ سو برس کی راہ اور گرد انگرداں کے کس قدر ہے فرمایا دو ہزار برس کی راہ ہے اور اس پارہ کوہ قاف کے کیا چیز ہے فرمایا سات زمینیں ہیں چاند کی، اور بعد اس کے کیا ہے فرمایا ستر ہزار علم ہیں اور نیچے ہر علم کے ستر ہزار فرشتے ہیں کہ آدم اس تسبیح سے پیدا ہوئے۔ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ اللہ! کہا صدفت یا رسول اللہ اور اس طرف کیا ہے آنحضرت نے فرمایا کہ ایک اندھا درازی اس

کی دو ہزار برس کی راہ ہے اور یہ سارے عالم اس کے حلقہ میں ہیں۔ کہا صدقت یا رسول اللہ ساتویں زمین پر کون ہے فرمایا فرشتے سب اور چھٹی زمین پر شیطان اور فرزند ان شیطان اور پانچویں زمین پر وہ سب اور چھٹی زمین پر سانپ اور تیسری پر جانوران گزند اور دوسری زمین پر پریاں و آسیب اور پہلی زمین پر سب آدمی کہا صدقت یا رسول اللہ اور نیچے ساتویں زمین کے کیا چیز ہے ایک گائے ہے ایسی کہ اس کے چار ہزار سینک ہیں۔ اور اس کے ایک سینک سے دوسرے سینک کا فاصلہ پانچ سو برس کی راہ ہے اور یہ سات طبق زمین اس کے دو سینکوں کے درمیان ہیں۔ پھر پوچھا کہ وہ گائے کس پر کھڑی ہے آنحضرتؐ نے فرمایا ایک مچھلی کے مہرہ پشت پر اور وہ مچھلی پانی پر ہے اور عمق اور گہرائی اس پانی کے چالیس برس کی راہ ہے اور وہ پانی ہوا پر ہے اور ہوا تار بجی دوزخ پر اور دوزخ ایک سنگ آسمان پر اور وہ سنگ آسمان سر پر ایک فرشتے کے اور وہ تار کی پر اور وہ ہوا پر کھڑا ہے اور ہوا قدرت خدا سے معلق اور قدرت اس کی بے پایاں ہے اور ذات و صفات اس کی منزہ ہے نقصان اور زوال سے کہا صحیح ہے یا رسول اللہ۔ اور روایت کی عبد اللہ بن عباسؓ نے کہ ہر آسمان پر حق تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا ہے اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے ہیں اور حکم ان پر تسبیح و تہلیل اور تقدیس و تعظیم کرنے کا ہے اگر اس سے ایک لحظہ غافل رہیں تو فی الفور بجلی سے خدانے جل شانہ کے جل بھن کر خاک ہو جاویں اور ان میں بعضوں کی شکل گائے کی ہے اور بعض کی صورت سانپ کی اور بعض کی شکل گدھ کی اور بعض کا نصف بدن اوپر کا برف اور آٹھیا نیچے کا آگ ہے اور یہ سب کے سب جلتے ہیں اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں سُبْحَانَ مَنْ أَلْفَ بَيْنِ الشَّجَرِ وَالنَّارِ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس خدا کی جس نے ہمیں ترکیب دی ہے اور آگ سے نہ برف آگ کو بجھا سکتی ہے نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے اور یہ سب کے سب کوئی قیام میں ہیں اور کوئی رکوع میں اور کوئی تجدد میں اور کوئی قعود میں قیامت تک اور قیامت کے دن سب کوئی غدر خواہی کریں گے اور پھر کہیں گے سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ ترجمہ: اسے پروردگار ہمارے ہم نے نہیں پرستش کی تیری جو حق پرستش تیری کا ہے۔ اور بعد اس کے خالق نے یہ سات دن پیدا کر کے روز یکشنبہ کو حاملان عرش کو بنایا اور دوشنبہ کو سات طبق آسمان اور سہ شنبہ کو سات طبق زمین اور چہار شنبہ کو تار بجی پنج شنبہ کو منفعت زمین اور چھواں میں ہے اور جمعہ کے دن آفتاب اور ہستاب اور سب ستاروں کو اور ساتویں آسمان کو حرکت میں لایا اور ساتویں روز تمام جہان سے فراغت کی۔ کہا قال اللہ تعالیٰ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ تَرَجَمَ جِيسَا كَهَق تَعَالَى نِي فَرِيَا اللّٰهُ تَعَالَى نِي
 آسمان کو اور زمینوں کو اور جو بیچ اس کے ہے چھ دن میں پیدا کیا اور ایسا بڑا وہ دن ہے بمصدق
 اس آیت کے ذِ اِنْ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ كَالْوَسْمَةِ مِمَّا تَعَدُّ ذُنَّ اِيَكِ دِن تَهْلَس
 رب کے یہاں ہزار برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو یعنی ہزار برس کا کام ایک دن
 میں کر سکتا ہے پس جان لو اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے کہ ہزار مخلوقات کو ایک طرفہ العین
 میں پیدا کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں
 تعجیل نہ کریں اور صبر کریں بمصدق اس کے اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَوْزِ یعنی صبر کنجی ہے کشادگی کی، اور
 بعد اس کے تحت الشریٰ پیدا کیا اور تحت الشریٰ نام ہے زمین کل ترکا اور عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ
 عنہما نے فرمایا کہ شریٰ ایک بزمہ پتھر کا نام ہے اور نیچے شریٰ کے دوزخ کو بنایا اس میں ایک سردار
 کہ اسکو مالک کہتے ہیں اور دوزخ اس کے تابع ہیں اور ایسے فرشتے پیدا کر کے ان کو مالک کے زیر حکم
 کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَلَيْهِمَا تِسْعَةٌ عَشْرَ رَجْمَةٍ کہ دوزخ کے اندر ایسے فرشتے ہیں
 داہنے طرف ہر فرشتے کے ستر ہزار ہاتھ ہیں اور بائیں طرف ستر ہزار ہاتھ اور ہر ہاتھ میں ستر ہزار
 تھیلی اور ہر تھیلی پر ستر ہزار انگلیاں اور ہر انگلی پر ایک ایک اترد ہا قائم ہے اور ہر ایک اتردے
 کے سر پر ایک ایک سانپ دوزخی اس کی ستر ہزار برس کی راہ ہے اور ہر سانپ کے سر پر ایک
 بچھو اگر دوزخیوں کو ایک میٹھ مارے تو ستر ہزار برس تک درد سے اس کے ٹوٹیں اور فریاد و زاری
 کریں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آتش کا ہے۔ اگر ایک ستون اس کا شکر کے میدان میں
 ڈالا جائے اور تمامی مخلوقات جن وانس اسے ہلانا چاہیں تو ہرگز جگہ سے نہ ہلا سکیں، اور ان فرشتوں
 پر حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ انہوں نے عرض کیا خدایا ہم بخوف آتش دوزخ میں نہیں جا سکتے تب
 رب العالمین کا حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک خادم بہشت سے لاکر پیشانی پر ان کی ہر تہابت
 کر دی اور اس خادم پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ تاکہ آتش دوزخ
 ان پر اثر نہ کرے، تب وہ ایسے فرشتے برکت سے اس کلمہ کی ایک مرتبہ دوزخ کے اندر داخل ہوئے
 اس زمانے سے قیامت تک دوزخ کے اندر رہیں گے اور جو مومن داغ محمدی پیشانی اور دل میں
 رکھے گا بمصدق اس کے اُوَلِّكَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ تَرَجَمَ: وہ لوگ کہ لکھا گیا دلوں میں ان
 کے ایمان تو ہرگز الم آتش دوزخ ان کو نہ پہنچے گا اور دوزخ کے سات دروازے ہیں جیسا کہ اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا ہے لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ يُكْرَمُ بَابٌ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ تَرَجَمَ دوزخ کے

سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں سے ایک فرقہ بٹ رہا ہے، طبقہ اول حجیم، اور دوسرا جہنم، اور تیسرا سقر، چوتھا سعیر، پانچواں نطی، چھٹا ہادیہ، ساتواں حطمہ اور مروی ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام یہ آیت رسول خدا کے پاس لائے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى مَخْلَفٌ مِّنْ يَحْيَىٰ خَلْفًا آمَنَ عَوَّ الصَّلَاةَ ذَاتِ بَعْدِ الشَّهْوَةِ اِتِّسَّوْنَ يَكْفُونَ غَيًّا - ترجمہ: پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کہ انہوں نے قضا کی نماز اور پیچھے بڑے مزدوں کے آگے ملے گی گمراہی اور اسی وقت ایک نزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا اور اس کے ساتھ ایک آواز آئی کہ رنگ چہرہ مبارک کا متغیر ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سات ہزار برس کے آگے سے آدم علیہ السلام کے ایک پتھر ستر ہزار من کا کندے پر دوزخ کے پڑا ہوا تھا وہ پتھر پندرہ ہزار برس سے نیچے کی طرف چلا جاتا تھا، ابھی قعر حطمہ میں جا پہنچا یہ آواز اسی کی تھی حضرت نے پوچھا وہ جگہ کس کی ہے، وہ بولے منافقوں کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ترجمہ منافق ہیں سب سے نیچے درجے میں آگ کے اور چھٹے درجہ میں دوزخ کے مشرکین رہیں گے۔ اور پانچویں درجے دوزخ میں بت پرست اور جو تھے درجے میں مے نوش اور تیسرے درجے میں ترسا اور دوسرے درجے میں جمود اور اول درجے میں عاصیان امت تمہاری کے رہیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصِيئَةَ وَالْمُجْرِمِينَ وَالشُّرَكَاءُ اِلٰهًا ترجمہ جو لوگ کہ مسلمان ہیں گنہگار اور جو یہودی اور صابئی جو کہ بت پرستوں سے ایک فرقہ ہے اور انصاری اور نجاشی اور جو شرک کرتے ہیں، یہ چھ گروہ دوزخ میں رہیں گے اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک ستر برس کی راہ ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ قدرت الہی سے جب ہزار برس آتش دوزخ دہکانی کی تو سرخ ہوئی پھر ہزار برس دھونکی کٹی تو سفید ہوئی، پھر ہزار برس سلکانی کی تو سیاہ ہوئی قیامت تک ویسی ہی سیاہ رہے گی جیسی اندھیری رات ہے، اور ایک پارچہ تنگ کہ جس کی چوڑائی پانچو برس کی راہ ہے دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے اور وہ قیامت تک رہے گا اور دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے اس کے نیچے ایک فرشتہ مجھری پشت پر کھڑا ہے اور اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی عرش سے لگی ہوئی ہے اور کائے فردوس اعلیٰ کی ستر ہزار سینک اس کے ہیں زمین سخت گڑھی ہوئی اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے اور کائے نے اولادہ کیا کہ جنبش کرے خدا تعالیٰ نے ایک نچر کو پیدا کر کے اس کے سامنے رکھا اور مجھری نے اس کی ناک میں کاٹا اور اس کائے نے در سے

لغزش کی بعدہ مستقل ہوئی اب تک وہ پھر اس کی ناک میں ہے قیامت تک وہ کائے اس کے خوف کے مارے نہیں بل سکتی اگر وہ لغزش کرے تو سارا عالم زیر و زبر ہو جائے، اور فرج اس کی عبد اللہ بن سلام کے قصہ میں لکھی ہوئی ہے اور بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے زنگ کو پیدا کر کے ہوا کو حکم کیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصہ کو زیر زمین لے گئی پیچھے اس کے آتش بے دود پیدا کر کے اس سے قوم جنات کو پیدا کیا جیسا کہ جناب الہی نے فرمایا ہے وَ الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ السَّمُومِ تَرَجَمَ : اور جنات کو بنایا ہم نے آگ کی کو سے اور جنات سے جہان بھر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا نام ان کا یوسف تھا کہ ان کو شریعت بتلا دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کرے انہوں نے ان کو نہ مانا اور مار ڈالا، اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے، تب حق تعالیٰ نے عزرائیل کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا انہوں نے سب کو مار کر جہان خالی کیا۔ وَاللّٰمَّا اَعْتَدْنَا لِلصّٰوِاِبِ ۔

حضرت آدم علیہ السلام

راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادۃ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے بموجب آیت کریمہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الدُّرِّضِ خَلِیْفَۃً ۔ اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا تب حضرت عزرائیل کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں حضرت عزرائیل بلجکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگارنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کی رکھی اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا اور چالیس برس تک وہ قالب بیجان وہاں پر رہا جب عنایت الہی نے چاہا کہ تارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب الارباب کا روح کو پہنچا اَدْخُلْ اَیُّهَا الرُّوْحُ فِیْ هٰذَا الْجَسَدِ یعنی اسے جان داخل اس بدن میں ہو، جب روح قالب میں آدم کے مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچی تھی بدن ناک کی جو مانند ٹھیکرے کے تھا گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا جب روح سینہ مبارک

ملکت پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ لٹھنے کا کیا وہیں زمین پر گر پڑے اس واسطے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کَانَ الْاِنْسَانُ عَجْزًا لَّا مَعْنٰی ہے انسان جلد باز اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چینکا اور ابہام الہی سے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اِنِّیْ اِنِّیْ اِنِّیْ اِنِّیْ اِنِّیْ اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا ۱۰ رَحْمَتُكَ اللّٰہُ مِنْ رَبِّیْ اُوَّلُ جَلُوٰہِ رَحْمَتِ الْاٰلِہِیْ كَا شَامِلِ حَالِ حضرت آدمؑ کے ہوا اور مجید سَبَقَتْ رَحْمَتِیْ عَلٰی عَصٰیۃِیْ كَا اِن كے طفیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا بعد اس کے ایک فرشتہ بموجب حکم الہی کے ایک جوڑا مرصع فوراً بہشت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ تشریف خلعت الہی سے شرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتداء پیدا نش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدا نے تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے منہ خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز ہوگا اور ہم جو بارگاہِ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا حق تعالیٰ نے بموجب آیت عَلَّمَہَا اَدَمَ الْاَسْمَاءَ تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو ابہام کر کے حکم کیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا اَنْیَسُوْنِیْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ یعنی خبر دو میرے تئیں ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ۔ یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو اور جو عالم اور دانہ ہے تب اللہ تعالیٰ نے آدم کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم و تکریم کے ملائک عظام کو جو آدم علیہ السلام کو تخت کے گرد اگر وصف باندھے ہوئے مؤدب کھڑے تھے حکم کیا اَسْجُدْ لِاَدَمَ سَجْدًا وَّلَا اِلٰہَ اِلَّا جَبَلِیْسُ اَبٰی دَاۤ اَسْتَكْبَرُوْا وَ کَانَ مِنْ الْمَکٰۤیْرِیْنَ۔ یعنی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے تئیں بمجرد حکم الہی کے سب فرشتوں نے بلا عذر و کما کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس واسطے میرے تئیں آگ سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندہ گیا اور فرشتوں سے نکال لیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت ان کی متناقض تھی جلیس مہدم اور انیس محرم کی ہوئی تب حضرت آدم پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے آدم کے پہلوئے چپ سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے ان کی طبیعت ہماروں اور صورت میموں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے

اور پوچھا کہ تو کون ہے۔ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت حوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی سوچتے تھے اسی میں سے نوے حصے حسن حضرت حوا کو اور دس حصے باقی عالم کو عنایت فرمایا تب آدمؑ سجدہ شکر بجالائے۔ جناب الہی نے ان کا عقد رب و روحا لان عرش اور ساکنان سموات کے باندھا اور دونوں کو حکم ہوا کہ اسے آدم علیہ السلام و حوا تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ایلین عین نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور راندہ گیا اور شتوں سے نکالا گیا۔ اس سبب آتش کینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے اور آدم کو وہاں سے نکالے پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں اور آگے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا۔ اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کیا، سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا۔ اور نگہبان بہشت کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ایلین حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا، حضرت آدم اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا، تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ایلین نے کہا کہ تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں اگر تمھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے۔ شیطان نے کہا وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے حق سبحانہ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ اور کہا کہ ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں دَسَمْتَهُمَا اِنِّیْ لَنُکْحَا لَیْسَ النَّاسِ حَیْثُ بَعْدَ اِسْ کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر پہلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں دوسرہ ڈالا اور شیطان کے کہنے پر گواہی دی حضرت حوا نے آدم سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم بہشت کا ہے اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگیو اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر

بہشت کی نعمتیں جہن سے کھایا کرو۔

قبول توبہ حضرت آدم علیہ السلام

توبہ آدم بہ شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول ہوئی اہام ہوا سے آدم تم اور تمہاری بیوی سراندر پیم میں جا رہے تو فرزند تمہارے پیدا ہوں، آدم برضائے الہی خطہ بندرتان میں آئے اور بود و باش اختیار کی ایک روز جبرائیل علیہ السلام سات ٹکڑے لٹکڑے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری سکھلا دیں حاجت آگ کی ہوئی آواز آئی اے جبرائیل آگ مانگ دو دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لاکر آدم کو دی گری و پیش سے ان کا ہاتھ جلا آدم نے زمین پر ڈال دی وہ آگ سات طبق زمین کے چھید کر پھر دوزخ میں چلی گی اور خبر ہے اسی طرح سات دفعہ دوزخ کے لئے پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی اے جبرائیل سات دریا تے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ تب ٹھہرے گی، اور کعب الاجار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل آگ لانے میں عاجز رہے تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا آدم کو انہوں نے چہرے سے حقیقتی جھاڑ کر آگ نکالی اور جبرائیل نے ان کو آہن گری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کئے جبرائیل نے ایک جوڑا بہشت سے بل کالادیا۔ اور بعض نے کہا ہے دو کانیں عین البقر سے لاویں اور ایک مٹت گندم بہشت سے لادیا اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر تب آدم نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جو نا حیب بل کچے چلنے لگاتے حضرت آدم نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بل نے کہا اے آدم مجھ کو تو کیوں مارتا ہے اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا۔ آدم نے اس بات کو سن کر غصے میں آکر اس بل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیئے۔ پھر حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو۔ حضرت آدم نے کہا کہ بل نے مجھے سرزنش کی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے۔ یہی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم نے دوسری دفعہ بل جو تان شروع کیا پھر بل کچی کرنے لگا پالان گردن تب کو ہندی زبان میں جو لاکتے، میں نیچے کو لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم سے اس کے لکڑی ماری تب بل نے رو لبوئے آسمان کیا اور رویا۔ پس آدم نے اس کو دق ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے پھر جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو۔ وہ بولے کہ بل نے آزر دہ کر گونڈا کی درگاہ میں تضرع کیا حضرت جبرائیل نے کہا خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے

بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا اب اس وقت تم پر اذیت ہو گئی اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔
 تم جلد جاؤ اپنے کام میں مصروف رہو۔ میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں، تب
 اچھی طرح ان سے کام لو پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے زمین پر گہیوں، کھیرا دہ بار لایا اور بختہ ہوا
 تب کاٹ لیا یہ سب سات گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا اے آدم مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف
 ہوں دگر نہ اس سے جلدی تم کو گہیوں دیتی۔ آدم نے جب گہیوں کو مل کو صاف کر کے کھانا چاہا تب
 جبرائیل نے فرمایا کہ اول گہیوں کو پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک، تب حوئے ان سے
 تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم کے سامنے لا رکھیں۔ آدم
 نے چاہا کہ کھاویں جبرائیل نے فرمایا کہ ذرا تا مل کیجئے آفتاب مغرب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو
 جب شام ہوئی آدم و حوئے ساتھ مل کر روٹی کھائی پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی
 تو آدم نے ذیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلدی بڑھ گیا یہاں تک کہ ہفت اندام
 ان کے سیاہ رنگ ہوئے اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری ذلت آگئی، جبرائیل علیہ
 السلام تشریف لائے اور کہا تم دو روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے اور ان روزوں
 کا نام ایام بیض ہے کہ تیرھویں چودھویں پندرھویں تاریخ ہرمبینہ کی حضرت آدم پر اللہ تعالیٰ نے فرض
 کیا تھا اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ کے زمانہ تک اس پر عمل تھا۔ پس جب حضرت آدم
 نے خطہ ہندوستان میں آکر مسکن کیا تو حوا حامل ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنہی بیٹے کا نام قابیل
 اور بیٹی کا نام ایلیمہ رکھا وہ بنیاد خرد صورت تھی پھر حوا حامل ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنہی
 بیٹے کا نام ہابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا ایک سو بیس بار جنہی
 تھیں ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنہیں اور دوسری روایت ہے کہ ایک سو اسی بار جنہی تھیں
 اور روایت کی کئی ہے کہ قابیل مال کے پیٹ میں بہشت میں تھے پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی اس
 واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے نہ جائے آلودگی خون کی جب ہابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے
 تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدائے تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا
 اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ یعنی قابیل کی بہن کو ہابیل کے ساتھ اور
 ہابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو
 بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن ایلیمہ صاحبہ جمل ہے میں
 اس کو نہیں دوں گا، آدم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں۔ مگر تم

ہابیل کو دوست رکھتے ہو اور یہ بسبب دوستی کے تم کہتے ہو پہلے جس نے عدول رکھی اپنے ماں باپ کی
 کی وہ قابیل ہی تھا آخرش آدمؑ نے بموجب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی ہابیل کے ساتھ اور ہابیل
 کی بہن کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے ہابیل کو کہا کہ میری
 بہن اقلیما کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں کھوں گا۔ ہابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے میرے باپ
 نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے میں ہرگز اپنے والد کا حکم رو نہ کروں گا۔ اور خدا کا حکم بجا رکھوں
 گا۔ آدمؑ نے جب یہ ماجرا سنا واسطے تشفی خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں
 بھائی کوہ منابر دو قربانیاں کر کے رکھ دو۔ جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیوی اقلیما
 ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ نے کئی بکریاں لاغرض کر کے کوہ منابر پر رکھ دیں بمصرق
 اس آیت کے **وَ اَحْلٰ عَلٰیھُمْ نَبَاً اٰنٰی اَدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا نَا نُسُقُیْلَ مِیْنِ اَحَدٍ
 ھِمَا ذَا کُمْ یُتَقَبَّلُ مِیْنِ الْاٰخِرِہٖ** ترجمہ اور سنانا کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا جب نذر
 مانی دونوں نے کچھ نذر پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے سے، غرض دونوں
 بھائیوں نے قربانی کوہ منابر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کر دین آتش بے درد
 مثال سیرخ نے اگر قربانی ہابیل کی جلادی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل ہابیل سے
 بولا جبکہ حق تعالیٰ نے فرمایا **اِنَّ لَکَ قَاتِلًا** لے قتلک ترجمہ قابیل نے ہابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مائٹ
 ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی ہابیل نے کہا **اِنَّ نَا یُتَقَبَّلُ اللّٰہُ مِیْنِ الْمُتَّقِیْنَ** ترجمہ۔
 ہابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کر تا ہے پر ہیزگاروں کی اگر تو ہاتھ چلا دے گا مجھ پر مارنے کو
 میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے
 جہان کا، اب وہ کوہ مناجیوں کا محل مناجات ہے قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم
 کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھی جو چیز کہ انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے غیب سے آگ آکر اسے
 جلادیتی تو خدا کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اور حضرت نوحؑ کے ایام میں حاکم کشتی تھی۔ اس میں چھوٹ پیر
 معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا متخاصمین میں سے اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا اور
 اگر بچی تو دروغ گو ہوتا اور حضرت یوسف کے زمانے میں حاکم صاع تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا اگر آواز
 نکلتی تو وہ چھوٹا ٹھہرتا اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت
 میں حاکم زنجیر تھی آسمان سے نکلتی ہوئی جو متخاصمین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس
 کے ہاتھ میں آجاتی تو وہ راست گو ہوتا اور اگر نہ آتی تو چھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت سلیمان کے عہد میں

حاکم سوراخ صومنہ کا ہاتھ متھا ہمیں پر کہ پاؤں اس میں ڈالنے اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا اگر بھینس جاتا تو وہ دروغ گو ٹھہرتا۔ اور حضرت زکریا کے زمانے میں قلم آہنی تھا۔ قلم کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا۔ اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پہنچا تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محمد صلعم! جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی اور اگر کاذب ہوگا جزا اس کی بدلے کی بمصداق اس آیت کے جَزَاءُ عَمَلِكُمْ كَانْتُمْ تَعْمَلُونَ ترجمہ۔ یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں، پس حاصل کلام ہاں و قابیل دونوں بھائی کو وہ منا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل تیری بہن اعلیٰ اب ہایل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام، قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کہ کیونکر اس کو دفع کریں اور اس زمانے تک کسی نے کسی کی خونریزی نہیں کی تھی مگر قابیل نے ہایل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے ہایل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی ہمارے باپ کی نہیں، ہایل نے کہا اے بھائی اس میں میری کیا تقصیر ہے۔ خدا عادل ہے۔ اچھا اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا حق برادری کا بیجا لاڈن کار۔ مگر تو روزِ عشرت عند اللہ ماخوذ ہوگا اور مستوجب دوزخ ہوگا۔ اور میں خلاصی پاؤں گا وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا ایک روز اس اتفاق ہوا کہ حضرت آدم حج کو گئے قضا ابلیس سے ایک روز قابیل نے ہایل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا اور وہ منگل کا دن تھا کہ ہایل اس میں سوتا ہے، اس میں مترد ہوا کہ اس کو کس طرح سے مار ڈالوں قضا ابلیس سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آکر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا تب قابیل نے ابلیس یعنی سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر ہایل کے سر پر مارا ہایل مر گیا اور وہ مردود قتل کا درگاہ میں عاصی دکا فر ہوا۔ بعد ازاں اس پر آگ سے قابیل مترد ہوا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے پھرنے لگا جس زمین پر ہوا اس کا گرا وہ زمین شور ہو گئی پس خدا نے تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کو شیعیت کر سے تب کو سے کو بھینسا جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا قَبَعَتِ اللّٰهُ عُرَا جًا يَنْجَحُّ فِي الْاَرْضِ يَسْمَعُ كَيْفَ يَسُوْر اِدْرٰى سَوٰ اَقَا اَجْبَلِيْطُ ترجمہ! پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کو اکبریتہ نازیں کہ اس کو دکھا دے کہ کس طرح چھپاتا ہے میت اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ کسی نے اللہ تعالیٰ نے بھینسے وہ دونوں آپس میں لڑنے سے ایک

ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور اپنے جنگل اور منقار سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کو سے کو گاڑ کر چلا گیا۔ پس قابیل نے کہا توہ تعالے قال یٰٰدٰی اٰخٰیةُ اَنْ اَکُوْنَ مِثْلَ هٰذَا لَعُوْبِ خَادِیْ سَوَآةٌ اٰخٰیةُ خَاصِمٍ مِّنَ الْمَشْرِیْمِیْنَ ترجمہ قابیل بولالے خرابی مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کو سے کہ میں چمپاؤں عیب اپنے بھائی کا پھر لگا پھتانا سورہ مائدہ میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل ہابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے تب اس کو ماتہ پتار سے کے باندھ کر کئی روز لئے پھر آخر اللہ تعالے نے ایک کو سے کو بھجھا اس نے اس کو دکھا کر زمین کرید کر دوسرے مردہ کو سے کو دفن کیا تو اس نے دفن کرنے کا طور دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں دیکھی تب وہ پشیمان ہوا۔ اس نے کو سے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور ہابیل کو دفن کیا، بعدہ جانے کا قصد کیا اسی وقت جناب باری تعالے سے آواز آئی اے زمین قابیل کو داب لے تب حکم اپنی سے زمین نے اس کو زانفل زانوں تک داب لیا جب قابیل نے روسوسے آسمان کیا اور کہا خدایا! ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے اس کو بھی زمین داب لیتی، آواز آئی اے ملعون ابلیس نے اپنے بھائی کی خونریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا۔ خدایا میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا اس کو بھی زمین ہی دفن کر دیتے پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا۔ اے مردود تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا، پھر قابیل کو سینے تک زمین میں دبا لیا جب اس نے کہا یارب تم سے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرض پر رکھا دیکھا لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اس کلمہ کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی اے زمین اس کو چھوڑ دو تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالے نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا اس نے اس کو نیزہ سے مارا۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم تشریف لائے ہابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا بعدہ لوگوں سے پوچھنے لگے کسی نے جواب دیا چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم نے ان کے لئے کھانا پینا سوناسب ترک کیا اور شب دروزان کے غم ذکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ ہابیل اَلْغِیَاکُتُ اَلْغِیَاکُتُ۔ اے پردا سے پردکا رہتا ہے، حضرت آدم نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ قابیل سے ہم نیزا رہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام

نے کہا امت گریہ و زاری کرو۔ خدائے تعالیٰ بھی اس سے بہت نیرا ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدمؑ نے دیکھا اور بولے اگر قبیل ہابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ہوزین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی تب زمین نے خون اس کا اٹکل دیا یہ دیکھ کر حضرت آدم و حوا نے قبر اس کی کھود کر اسے نکالا دیکھا کہ مغز اس کا نکلا پڑا ہے اور خون سے تریتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی بہت سارے دونوں روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے آخر حضرت آدم علیہ السلام ہابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے۔ اور روایت کی ہے ابن عباسؓ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چالیس روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جس موضع میں وہ جاتے وہ موضع یہ ظلم دیکھ ماتم کرتا اور وحوش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریہ و زاری کرتے اور کہتے کہ بھانگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وقا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے ہابیل کو اپنے مکان پر لاکر دفن کیا اور اس وقت ان کے فرزند ایک سو بیس تھے اور اس وقت سولہ ہابیل کے کوئی بھی نہ رہا تھا سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آکر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں تاکہ اس سے کمادیں اور سو داگری کر کے کھادیں تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لادی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا بنے گا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھادیں پس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کر کے کھادیں تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا پس بعد ہزار سال کے حضرت آدمؑ بیمار ہوئے اور کھانے کے لئے مختلف اقسام کے میوؤں کی بیٹیوں سے فرمائش کی سب بیٹے میوے لانے کے لئے گئے مگر حضرت شیدت علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی خدمت میں حاضر رہے جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیدت علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میوے لے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیدت علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں آپ کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بیشک ضرور میوے بھیجے گا اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے حضرت آدمؑ نے فرمایا کہ میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث کدم غوری کے، اور تم پاک صاف ہو تب انہوں نے حسب الحکیم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام معہ ایک طبق زریں اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امر وعدہ سید

دنا ربی، ترخ دیول، انکور، انجیر، خربزہ وغیرہ اس میں لکھ کر اورد درسل طبق زدر سرن کا اس پر ڈھانپ کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے، حور اپنے چہرہ سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی حضرت آدم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ حور کس کے لئے ہے حضرت جبرائیل نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس حور کو بہشت سے حضرت شیت کی زوجت کے لئے بھیجا ہے کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں بعض نے روایت کی ہے کہ وہ حور پھر بہشت میں چلی گئی اور ان کے لئے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ حضرت آدم نے اس حور کی تادی حضرت شیت سے کر دی اور اس حور کی عربی زبان تھی جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا اور حضرت محمد صلے اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پس حضرت آدم نے اس میوے سے کچھ آپ کھا یا کچھ بیٹوں کو دیا جس نے اس میوے کو کھا یا فاضل تر اور دانا دینا ہوا تب حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں گا حضرت شیت کا مقام میرا رہے گا تم سب اس کی فرمانبرداری کیجو اور اس پر ایمان لائیو تب انہوں نے حضور میں اقرار کیا اس کے بعد حضرت نے اس دنیا سے رحلت فرمائی بیٹے باپ کی مفارقت میں بہت روئے نماز جنازہ کی پڑھ کر دفن کیا۔ دو سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے بعدہ جلا ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔

عزائل علیہ اللعنة

حق بجا نہ تعلق نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کیں۔ ایک صورت شیر کی دوسری بھیڑیے کی یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سمیں میں جا کر باہم جفت ہوئیں اس سے یہ عزائل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں ہزار سال تک خدائے تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر ہزار سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا حق بجا نہ تعلق نے اس کو دوزخ دوزخ بردہ سب کے عنایت کئے تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا وہاں ہزار برس تک خدائے تعالیٰ کو سجدہ کیا تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا پھر ہزار سال خدائے تعالیٰ کو سجدہ کیا وہاں رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا پھر تیسرے آسمان پر جا کر ایک ہزار سال تک رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک کف دست کے برابر جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکا یا ہو۔ بعدہ عرش معلیٰ پر جا کر چھ ہزار برس حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سزا ٹھا کر جناب باری تعالیٰ کو عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھالے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں، جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام پر کہ اسے اٹھالے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا نظر اس کی نوشتہ پر جا پہنچی اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدایا

چھ لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی چھ لاکھ برس کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی چھ لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس مردود و مہرہوم رکھے گا۔ عزرائیل اس کو پڑھ کر وہیں چھ لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رو یا۔ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ عزرائیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے مزا اس کی کیا ہے۔ عزرائیل نے کہا کہ خداوند! جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا اے عزرائیل تو اس کو مکھ رکھ۔ اور عبد اللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ عزرائیل کے مردود ہونے سے بارہ ہزار برس پہلے جو امر واقع ہوا تھا۔ حاصل یہ کہ عزرائیل نے کہا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ مَا أَطَاعَ اللَّهَ، لعنت خدا کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ تب حکم ہوا کہ عزرائیل بہشت میں کئی ہزار سال خزانچی بہشت کا رہے اور ایک دن اس جہان کا اس جہان کے ہزار سال کے برابر ہے۔ پس بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھو کہ ہزار برس تک درس تدریس اور وعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل اور جمع ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر حفظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہوئے تو عزرائیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمارا گناہ معاف کرے۔ اتفاقاً ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پٹینے لگے تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے بھی ہو اور اپنے اپنے سر کو پیٹتے بھی ہو انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول و مردود ہو گا۔ اس بات کو سن کر عزرائیل کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے اور ان دن عزرائیل نے جناب احدیت میں عرض کی کہ یا الہی جنوں نے پردہ زمین پر آپس میں کشت و خون و فساد برپا کر رکھا ہے مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں جناب احدیت نے قبول فرمایا اسے عزرائیل تو چار ہزار فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا کر اس کو قتل اور کسی کو کوہ قاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کر بعد دیکھا الہی سے خطاب آیا کہ اے عزرائیل اور اے جماعت ملائک میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ پناہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْمُكَ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب بولے کیا تو رکھے گا اس میں شخص کو جو فساد اور خونریزی کرے اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام

پیر ربیع الثانی کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ جو حکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فورا اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں اس وقت زمین نے ان کو تمہاری کہ جبرائیل برائے خدا مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار مستوجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں طاقت و تحمل عذاب خدا کا نہیں رکھتی ہوں، اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے غرض اسی طرح سے جبرائیل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہما السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا تب عزرائیل کو بھیجا ان کو بھی زمین نے منع کیا انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا تجھ کو لے ہی جاؤں گا پس عزرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی سرزمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا دیتا ہے میں نے یہ حاصل کیا ہے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزرائیل میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لئے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب عزرائیل نے معزرت کی کہ یارب تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا اے عزرائیل تو غم مت کر میں خالق مخلوقات کا ہوں ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپ دق میں اور کسی کو پانی میں کروں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ منظرہ کے رکھ دی پس بارانِ رحمت برسات دوبرس میں وہ خاک گیلی ہوئی اور چوتھے برس میں صلابہ ہوئی اور چھ برس میں خار ہوئی اور آٹھویں برس میں آدم کی صورت بنی، تو ایسے ن ایلیس ستر ہزار فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم کے پاس آیا دیکھا تو قالبِ آدم کا خاک پر پڑا ہوا تھا اس نے پشیم حنارت اس کی طرف نظر کی اور ایک دن فرشتوں نے عزرائیل سے کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا وہ بلا پج ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بندہ کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کروں گا اور اگر مجھے اس کا فرما بندہ کرے گا تو میں اس کی فرما بندہ کی نہ کروں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ایلیس علیہ اللعنة قالب میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر نافت تک پہنچا تھا بسبب گرمی و آتش کے وہاں سے نکل آیا اور اس کے سبب حسد و بغض و دشمنی ان سے زیادہ ہوئی اور اپنے منہ کا تھوک انکے قالب میں ڈال کر چلا گیا اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اب دہن ایلیس علیہ اللعنة کا کالبد سے آدم کے لئے کرکنا اور گل باقی سے آدم کے درخت خرابا پیدا کیا اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ایلیس علیہ اللعنة قالب میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر نافت تک پہنچا تھا بسبب گرمی و آتش کے وہاں سے نکل آیا اور اس کے سبب حسد و بغض و دشمنی ان سے زیادہ ہوئی اور اپنے منہ کا تھوک ان

کے قالب میں ڈال کر چلا گیا اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اب دین ابلیس علیہ اللعنة کا کابلہ سے آدم کے لئے کرکنا اور گل باقی سے آدم کے درخت خرابی پیدا کیا۔ اور عبد اللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ جان پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبدیل میں عرش معلیٰ پر تیسچ پڑھی تھی اور قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء ہے اور حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی آدم پر مل دیا تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے دو چند ظاہر ہوا بعد اس کے جب چالیس دن گزرے خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی اس وقت رب جمیل کی طرف سے فرمان آیا کہ لے جبرائیل میکائیل اسرافیل جان آدم کی اس کے قاب میں پہنچا دو ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لارکھا پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا اور تمام ملائک ساتوں آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم کی قالب میں کیونکر جاتی ہے اسکو دیکھیں اور یہ آواز آئی۔ اِنَّهَا الْمَرْدُ حَمْدٌ حُلُّ نِيْ هَذِهِ الْجَنَّةِ۔ ترجمہ: اے جان آدم اس قالب کے اندر جاتے سات مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے قالب کے گشت کیا اور اندر نہ جاسکی اور عرض کی یا مائتق میں ہم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قالب اندھیرا کثیف ہے میں کیونکر جاؤں پھر یہ آواز آئی اَدْخُلْ كَرِهًا وَاَخْرُجْ كَرِهًا۔ ترجمہ اے جان آدم داخل ہوتی ہو تو تن میں نفرت سے اور نکل آتے سے نفرت سے اسی وقت جان پاک آدم کی ناک کی رُہ سے داخل ہو کر پہنچا روئے طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم نے آنکھیں اپنی کھولیں فوراً جان ان کے دماغ سے حلق میں آ رہی اور حق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی جب وہ گل گوشت پوست ہڈی رگ اور آنت ہو گئی بعد آدم نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شباب ہو گا کہ اب تک آدھاتن اس کا گل ہے اور چاہتا ہے کہ اٹھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خَلِقَ الْاِنْسَانَ عَجْوَةً۔ ترجمہ۔ پیدا کیا گیا انسان جلد باز یعنی شباب کا اور آدم نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا اور جان آدم کی جوڑوں اور بندوں میں مانند ہوائے رگوں میں اور گوشت پوست میں سارے بدن کے پھیر رہی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرمادے کہ بوجھیا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلا دیں اور پیشانی ان کی ملیں اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کی گوشت اور پوست اور رگوں میں قرار پذیر اور متحکم ہوئی فی الفور چھینک آئی آدم باہم خدائے تعالیٰ کے کلمہ الحمد للہ زبان پر لائے اور اس کا جواب رب العالمین کی طرف سے يَرْحَمُكَ اللهُ ارشاد ہوا۔ اسی لئے اس کا جواب ہوا جو کوئی پھینکے اور الحمد للہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب پر رحمک اللہ کہے۔ بعد اس کے جناب

باری سے حضرت جبرائیل کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے لے کہ اس سے ایک بندہ عیسیٰ ابن مریم پیدا کروں گا اور جب آدم خاک سے اٹھے حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مکمل پر بہشت میں چالیس میل کا زر زریور جو اہر سے اور جلد تاج زریں پہن کر جا بیٹھے اور نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا اور وہ نور حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع ملائک آدم کو سجدہ کریں اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا نہ کہ عبادت کا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ**۔ جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے نہ کیا اور تکبر کیا اور تھا وہ منکروں میں سے فرشتوں نے جب سجدے سے سزا ٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آگئے پس سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا **قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَهْ كُنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ** ترجمہ۔ اے ابلیس تجھ کو کیوں تکبر انکار ہوا کہ سجدہ کرے تو اس چیز کو میں نے بنا ڈیا ہے دونوں ہاتھوں سے یہ تو نے غرور کیا کیا تو بڑا تھا اور جے میں۔ ابلیس نے کہا۔ تو نے تعالیٰ نے کہا **وَإِنِّي خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُم مِّن طِينٍ** ترجمہ۔ وہ بول لایں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو پھر دوسرے کو کیوں نہ سجدہ کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے **قَالَ فَاحْرَجْ مِنْهَا فَاثْبَتَكَ فِي جَهَنَّمَ** **وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي الْيَوْمَ يَا آدَمُ** یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہوا کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے اور بعض کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ جماعت فرشتوں کی سے نکل جا اور ابلیس کی صورت میں ہو جا تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور انکھیں اس کے سینے پر آئیں جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندہ گیا اور مردود و مخدول ہوا۔ اس وقت شیطان بعین نے زبان کھولی اور کہا اے پروردگار تو نے مجھے مخدول و مردود کیا آدم کے لئے۔ یہ شامت میری تھی تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا جو تیرا خدا کا حکم زمانے سزا اس کی لعنت ہے اس نوشتے کو پڑھ کر خجل و مایوس ہوا اور کہا تو نے تعالیٰ **قَالَ فَاطَّيَّرَ لِلْيَوْمِ يُبْعَثُونَ**۔ ترجمہ شیطان بولا اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں اور دوسری عرض یہ ہے کہ گوشت اور پوست اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے دخل دے اور ان

کے دیدوں سے مجھے محبوب رکھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الرُّجْتِ
 الْمَحْذُوْمِ ط ترجمہ: تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت تک جو دن کے معلوم ہے جب مراد اس کی حاصل ہوگی لیکن گناہ
 میں آدمی کے جا بیٹھا اور تاک میں رہا پھر کہا شیطان نے تو کہہ تعالیٰ ذَبِعَزَّتِكَ لَعْنَةُ يَوْمِ يَتْلُوْنَ اَجْمَعِيْنَ
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِيْنَ ط ترجمہ: ابلیس نے کہا تم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کروں گا ان
 سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں پننے۔ وہی ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ
 اَقْوَلٌ لَا فَلَئِنْ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّا تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ط ترجمہ ٹھیک بات یہ ہے
 اور ٹھیک ہی کہتا ہوں مجھ کو بھرنے ہے دوزخ تجھ سے اور ان سے جو تیری راہ پر جائیں گے، بعد جناب
 باری کے حکم کے تخت آدم کا ذرہ نے جنت الفردوس میں جا رکھا اور سب منمنس برحق تعالیٰ نے انکو عنایت
 کی تھیں اس کے ساتھ ہی ان کو قرار و تسلی نہ تھی کیونکہ آدم و تسلی ہو کر اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے اور عالم تہائی میں
 کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا اور خالق کی مرضی بھی تھی کہ ان کا جفت و ہمسر پیدا کرے کیونکہ نہ جفت و بے مثل و
 بے حاجت سوا خدا کے کوئی نہیں جب وہ بے قرار ہوئے تب حق تعالیٰ نے ان کو خواب میں ڈالا اور وہ
 ایسے سوئے کہ میند نہ آئی اور نہ بیدار ہوئے اس صورت میں خالق نے جبرائیل سے ایک ہڈی بائیں ہسوے
 ان کے نکلوائی اور اس سے ان کو درد و الم نہ پہنچا تھا اگر نہ پہنچتا تو ہرگز محبت عورتوں کے دل میں مردوں کی نہ
 ہوتی۔ اس ہڈی سے حضرت حوا کو بنایا خوبصورتی و نیابت و رؤی و ملامت و سن و جمال اور جو کچھ خوبیان جہان
 کی عورتوں میں تھیں تمام تر حق سبحانہ، تعالیٰ نے ان کو بخشیں اور زیر کی شرم اور مہر و شفقت کمال ان کو دی
 اور حملہ زریں، بہشت سے لاکر ان کو پہنائے اور تاج زریں ان کے سر پہ رکھ کر تخت زریں پر بٹھایا۔
 بعد اس کے آدم کو میند سے بیدار کر کے حوا کے ساتھ جلوہ دیا۔ آدم علیہ السلام نے حوا کو اس طرح دیکھ کر
 بے اختیار چاہا کہ ان پر دست انداز ہوں تب درگاہ الہی سے آواز آئی کہ لے آدم خبردار اسے
 مت چھو ڈبے نکاح اس کی صحبت حرام ہے تب آدم نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش گاری کی، بعد ازاں
 حق تعالیٰ نے آدم کا نکاح حوا کے ساتھ کر دیا اور فرمایا سر اور پردے جلنے میں لگانے جائیں اور طبق
 زرد و مرادید اور جو اہرات نثار کئے اور ساتوں آسمان کے فرشتے سب رخت کے نیچے حاضر
 ہوئے بعدہ حق تعالیٰ نے وہ پردے سب اٹھائے اور سنا اپنی آپ کو نادی۔ الْحَمْدُ شَتَائِيْ
 وَ الْكِبْرِيَاءُ ذِي دَائِيْ وَالْعِظْمَةُ اِذَا رِي وَ الْخَلْقُ عَجِيْدِي وَ اِلْمَا اِيْ وَ اَنْبِيَاءُ
 دُؤْبِيْ وَ اَذْيَا اِيْ وَ مَحْمَدٌ حَبِيْبِي وَ دَسُوْئِيْ خَلَقْتِ الْاَشْيَاءَ لِيَسْتَدْرِكَ
 بِهَا عَلٰى وَحْدَا اِيْتِيْ اَشْهَدُ وَاَمْلَا ثِيْبِيْ وَ سَكَانَ سَمَوَاتِيْ وَ حَمَلْتَهُ عَوْشِيْ تَدْرُوْجَتِ

اَمَّتِي حَوَّاءَ اَدَمَ بِسَلْبِيحِ نَظَرِي وَصَنِيحِ قُدْرَتِي وَصِدَاقِ اَدَمَ لِحَوْ اَبْرِ تَمِيحِي
 وَتَمَنُّي حَيْحِي وَتَحْيِيحِي وَتَقْدِيحِي وَهِيَ شَهَادَةٌ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ اَخَذَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ يَا اَدَمَ يَا حَوَّاءَ اَدْخَلَا جَنَّتِي وَكَلَّامَهَا شَرَّتِي وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
 مِنَ الظّٰلِمِيْنَ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمَا وَوَحْمَتِي وَبَرَكَتِي حَقَّ تَعَالَى بِجَمَانَةِ تَعَالَى نَعَى نِكَاحِ مِيں
 آدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَيْ يَنْبَاهِي اَوْ كَيْ تَنْبَاهِي اَوْ كَيْ تَنْبَاهِي اَوْ كَيْ تَنْبَاهِي اَوْ كَيْ تَنْبَاهِي اَوْ كَيْ تَنْبَاهِي
 ہے اور کل مخلوقات میرے غلام اور لونڈیاں ہیں اور انبیاء میرے رسول اور اولیاء میرے دوست ہیں اور محمد
 صلعم میرے حبیب اور رسول ہیں اور پیدا کیا میں نے کل سے کو تاکہ گواہی دیوے میری وحدانیت پر اور گواہی
 میرے فرشتے سب اور سب آسمان کے رہنے والے اور عرش کے اٹھانے والے بیشک میں نے نیکانہ باندھ
 دیا ساتھ اپنی بلاغ فطرت اور منبع قدرت کے اور آدم کا ہر حواء کے نکاح کا میری تسبیح اور تہنیت ہے اور تسبیح اور
 تقدیس ہے نہیں کوئی مجبور سوائے خدا کے ایسا خدا کہ وہ واحد ہے اور نہیں کوئی اس کا شریک ہے آدم تم اور تمہاری
 عورت جنت میں جا رہا اور وہاں کے سب میوے محفوظ ہو کر کھاؤ اور تم جانا اس درخت کے پاس ورنہ پھر
 تم نا انصاف ہو گے اور میرا سلام تم پر ہوا اور میری طرف سے صحت و برکت ہو۔ بعدہ آدم نے خود نانا کی سُبْحٰنَ
 اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ
 السَّحِيحِ الْعَظِيْمِ۔ ترجمہ میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے اور نہیں ہے کوئی معبود
 سوائے اللہ تعالیٰ کے جو بڑا بزرگ ہے۔ اللہ جل شانہ کو جب خلیفہ نکاح خوانی آدم سے فرحت ہوئی تو سب
 فرشتے خوشیاں منانے لگے اور مبارکبادیاں دینے لگے اور زرد و جواہر بنا کر بے بس جب آدم علیہ السلام نے تصدقاً
 کایا حواء کے ساتھ وہیں آواز آئی اے آدم خبردار! جب تک کہ دلے دین مہر حواء نہ کرے تب تک وہ تم پر
 حلال نہ ہوگی، آدم نے کہا الہی میں کہاں سے ادا کروں، فرمایا کہ دس دفعہ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر پڑھ آدم یہ نام برگزیدہ سنتے ہی مشتاق دیدار کے ہوئے۔ خدا کا حکم کہ تو ناخن دست پر اپنے دیکھ جب آدم
 نے دیکھا صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہوئی تو مہر فرزند کی اور شفقت پدری دل میں زیادہ ہوئی، تب
 آدم نے شوق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دس مرتبہ درود پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لائے۔
 تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ دس دفعہ درود جو تم نے پڑھا ہے یہ اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت
 سے تم نے تم کو سب نعمتیں بخشیں اور حوا کو تم پر حلال کیا۔ بعدہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمْنَا يَادَمُ اسْكُنْ
 اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكَلَّامِنَهَا عِنْدَ اَحْيَتْ مِنْتُمْ اَمَّا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
 فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ہ ترجمہ اے آدم تو جنت میں جا اور بیوی تیری بھی ادر کھاؤ اس میں بافر

ہو کر جہاں سے چاہو مگر ایک درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ تم پھر بے انصاف ہو گے۔ مروی ہے کہ اس
 درخت کی جڑ چاندی سے کی اور ڈایاں سونے کی اور پتیاں زبرجد سبز کی تھیں، آدم نے جب اس درخت
 کی طرف نظر کی نہایت خوش وضع اور خوبصورت دکھا کہا سبحان اللہ کیا خوبصورت درخت ہے حق تعالیٰ نے
 ارشاد ہوا کہ اس کو میں نے تجھے بخشا مگر اس سے میوہ مت کھانا تب وہ بولے جب تو نے وہ خوبصورت مجھے بخش
 دیا تو پھر مجھے اس کے میوے کھانے سے کیوں منع فرمایا تب حکم ہوا کہ اے آدم تم مہمان ہو میرے گھر کے اور
 وہ درخت ہے تمہارا۔ اور یہ چیز بعید ہے کہ مہمان میرا ہو کر اپنی چیز کھائے بعدہ ایک طرف سے آواز
 آئی اے آدم صبر کرو اور دوسری طرف سے آواز آئی کہ اے صبر تو آدم کے پاس مت جا اور دوسری طرف
 سے آواز آئی اے ابلیس تو حوا کو لہجھا اور اس کی خواہش دلا۔ پس قضا نے کہا کہ ابھی اس کا کیا سبب ہے حکم
 ہوا کہ اس میں کچھ بھید ہے، اس باغ سے باغ میں دنیا میں بھیجوں گا تاکہ قدرت میری ظاہر ہو اور مرتبہ زیادہ
 ہو اور کہا گیا اے سرور تو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال اور آگ کو کہا گیا کہ اے آتش تو مت جلا اے ابلیس تو
 مطمئن کر پھر قضا نے عرض کی حکم ہوا کہ مجھے اس میں کچھ تامل ہے مگر آتش کو یہ جان سے بدل دوں تاکہ خلق میں
 میرا دست پیدا ہو اور کہا گیا اے تو منو! تم معصیت سے باز رہو اور اے شیطان تو ان کو جہوہ دے اور
 اور کہا کہ اے دنیا تو دل میں بندوں کے شیریں بن جا اور بندوں کو کہا گیا اے بندو! تم رہنا سے دور رہو
 تاکہ جفا کو دفا سے تبدیل کر دوں اور میری رحمت و مغفرت میں زادتی ہو انصاف کے دن اور کہنے ہیں کہ بہشت
 میں چار چیزیں نہیں بھوک پیاس، سردی، دھوپ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنَّ لَكَ اَنْتَ
 جَوْحًا مِّمَّهَا دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ وَاِنَّكَ لَآتَظْمَنُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَشَاۤءُونَ ۗ اِنَّ لَكَ اَنْتَ
 جَوْحًا مِّمَّهَا دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ اِنَّ لَكَ اَنْتَ جَوْحًا مِّمَّهَا دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ اِنَّ لَكَ اَنْتَ جَوْحًا مِّمَّهَا
 دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ اِنَّ لَكَ اَنْتَ جَوْحًا مِّمَّهَا دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ اِنَّ لَكَ اَنْتَ جَوْحًا مِّمَّهَا دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ
 اِنَّ لَكَ اَنْتَ جَوْحًا مِّمَّهَا دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ اِنَّ لَكَ اَنْتَ جَوْحًا مِّمَّهَا دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ اِنَّ لَكَ اَنْتَ
 جَوْحًا مِّمَّهَا دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ اِنَّ لَكَ اَنْتَ جَوْحًا مِّمَّهَا دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ اِنَّ لَكَ اَنْتَ جَوْحًا مِّمَّهَا
 دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ اِنَّ لَكَ اَنْتَ جَوْحًا مِّمَّهَا دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ اِنَّ لَكَ اَنْتَ جَوْحًا مِّمَّهَا دَلَّاتٌ تَدْعُو ۗ

اتفاقاً ایک طاؤس کنگرے پر بہشت کے بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ وہ اسمِ اعظم پڑھتا ہے طاؤس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ایک فرشتہ ہوں خدا تعالیٰ کے، طاؤس بولا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ شیطان نے کہا کہ لَا تَنْظُرُوا الْجَنَّةَ یعنی میں بہشت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اندر جانا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک آدم بہشت میں ہی رہتا ہے شیطان بولا تو مجھے بہشت میں لے جاؤ اس کے صلہ میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاؤں گا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو تین چیزیں حاصل ہوں گی ایک تو وہ بوڑھا نہ ہوگا دوسرے وہ مرے گا نہیں اور تیسرے جنت میں ہمیشہ رہے۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنگرے سے بہشت کے دروازے پر دونوں آئے اور طاؤس نے یہ ماجرا سناپ کو سنا دیا۔ اس بات کو سنتے ہی خون سے دروازے بہشت کے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر ان سے پوچھنے لگا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھا اسمِ اعظم پڑھتا ہے۔ وہ بولا میں ایک فرشتہ ہوں فرشتوں میں سے حق تعالیٰ کے سانپ نے کہا وہ دعا مجھے سکھا شیطان نے کہا بشرطیکہ تو مجھے بہشت میں لے جاوے۔ سانپ بولا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بہشت میں لے جاؤں جب تک کہ آدم بہشت میں ہی۔ ابلیس نے کہا میں قدم اپنا بہشت میں نہ رکھوں گا اس سے باہر نہ نکلوں گا تب سانپ نے اپنے منہ کو پھیلا دیا ابلیس یعنی اس کے منہ کے اندر جا گھسا تب اس کو بہشت میں لے گیا اور دروازے بہشت کے بند کر دیئے۔ بعدہ شیطان نے کہا کہ مجھ کو اس درخت کے پاس لے جا کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع فرمایا ہے جب ابلیس کو لے کر اس درخت کے پاس پہنچا تب وہ ملعون اپنے مکر و فریب سے سانپ کے منہ کے اندر رونے لگا جو شخص کہ پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان یعنی تھا اور اس کی آواز سن کر بہشت کی حویں اور علمان سب کے سب مجتمع ہوئے اور کہنے لگے ہم سب نے یہ آواز سانپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی تھی اور سانپ سے حوا پوچھنے لگیں کہ تو کس لئے رو تے شیطان نے کہا میں اس لئے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہشت سے نکالے گا کیونکہ تم کو اس درخت کے میوہ کھانے سے منع کیا ہے مگر جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ بہشت میں رہے گا نکالا نہیں جائے گا تو لہ تعالیٰ قَالَ يَا آدَمُ هَذَا هُوَ الشَّجَرُ الَّذِي كُنتَ نَهَىٰ عَنْهُ فَكُلْ مِنْهُ لَعَلَّكَ تَكُونُ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کہا شیطان نے لے آدم میں تمہیں بتاؤں وہ درخت کہ جس سے زندگی جاوید ملے اور بادشاہی پرانی نہ ہو اور بولنا تم خدا کی سچ کہتا ہوں اور تمہاری برائی نہیں چاہتا بلکہ میں تو آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ سَمِعْتُمْ مَا بَدَّ لَكُمْ لَكُمُ الْوَيْسُوعُ الَّذِي كَانَ يَكْتُمُ آيَاتِهِ وَيُرِيدُ أَنْ يَمْدُدَ إِلَيْكَ الْحَدِيثَ لِيُخْرِجَكَ مِنْهَا وَأَيُّهَا الْيَهُودُ قَدْ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ۔ اور شیطان نے ان کے پاس تم کھائی پس حوانے اس کے تم کھانے سے یقین کر لیا کہ یہ جو کہتا

ہے بچ کہتا ہے تب اس سے فریب کھا کر اس درخت پر ہاتھ بڑھایا تین دانے گندم کے لئے ایک تو آپ
کھایا اور دو دانے حضرت آدم کے لئے لائیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حوا نے
گندم خوشے سے توڑ لئے تو خوشے کی جگہ سرخ ہو گئی اور ایک قطرہ خون اس سے پکاتا اللہ تعالیٰ نے اپنی
تم کھا کر فرمایا کہ تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر نبی میں ایک مرتبہ خون سے آلودہ کروں گا اور اپنے
درخت کی داد تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا پس حضرت آدم بہشت میں جب تخت پر جا بیٹھے گندم
خود بخود ان کے نزدیک آ موجود ہوا اور جب بوئے شیر میں اس کی حضرت کو معلوم ہوئی تب حضرت نے
تخت سے اتر یہاں سے بچھے دوڑے جا کر رکھ جب وہ تخت سے نیچے اترے تو وہاں بھی گندم جا
موجود ہوا۔ بعدہ گندم کہنے لگا کہ اے حضرت آدم جو کچھ خدا نے مقدور کیا ہے سو وہ ضرور پہنچے گا۔ اگر تم
لاکھوں برس کی راہ کے فاصلہ پر بھی جا کر رہو گے گندم وہاں بھی پہنچے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت حوا
حضرت آدم علیہ السلام کے لئے دو دانے گندم کے لئے گئیں۔ وہ بولے یہ کیا چیز ہے حوا نے کہا یہ پھل
اس درخت کا ہے کہ جس درخت کے پھل کھانے سے ہمیں خدا نے منع فرمایا تھا۔ اس میں سے میں نے ایک
دانہ کھایا ہے اور دو دانے آپ کے واسطے لائی ہوں حضرت آدم نے کہا کہ اس میں کیا لذت ہے؟ وہ بولیں
کہ حلاوت و شیریں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں کھاؤں گا میرا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ
اس درخت سے میوے نہ کھانا اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِبٰنَ اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ
فَنَسِيَ وَ لَمْ يَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ۝** ترجمہ اور ہم نے عہد کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے پھر
بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت، حوا جب مایوس ہوئیں حضرت آدم دانہ کھلانے سے پہلے
ایک پیالہ شراب بہشت سے لا کر پلا دیا تو بے ہوش ہو کر ان سے دو دانے گندم کے لے کر کھا گئے اور
عہد شکنی کی۔ ہنوز دانے ابھی حوا کے نیچے نہیں اترے تھے کہ تاج ان کے سر سے اڑ گیا اور تخت سے بھی نیچے
گر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا۔ **فَلَمَّا ذَا قَا الشَّجَرَةَ بَدَا لَهُمَا
سَوَآئُهُمَا وَ طَفِيفًا مُّخْصِفًا عَلَيْهِمَا مِنْ زَكَوٰتِ الْجَنَّةِ ۝** ترجمہ پھر چھپے درخت سے
دونوں نے میوے اور ظاہر ہوئیں شرم کاٹیں ان کی اور بہشت کے پتے جوڑنے لگے جس درخت کے
پاس پتے لینے کے لئے جاتے تو وہ درخت پتے نہ دیتا۔ جب درخت انجیر کے پاس دونوں گئے تو اس
درخت نے سر جھکا دیا اور کہا **خُذْ هٰٓؤُلَآءِ وَ ذٰلِكَ لَعْنَتُنَا ۝** یعنی تم مجھ سے پتے ضرورت کے مطابق لے لو اور
ان پتوں سے اپنے ستر کی پردہ پوشی کر لو۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت سے پتے لے کر اپنے اپنے ستر
ڈھانک لے اور درخت عود سے بھی پتے لے کر اپنی ستر پوشی کر لی، بعدہ جناب ہاری سے آواز

آئی اسے انجیر کے درخت تو نے ان کے ساتھ سلوک کیا میں تجھ سے خرابی و خشکی دور کر کے یہ لذت عطا کی کہ اگر تجھ کو کوئی سرد فہم بھی چہائے تو وہ نئی نئی لذت تجھ سے اٹھا دے گی۔ اور اسی طرح درخت عود کو بھی خطاب ہوا کہ اے درخت عود سب کے نزدیک میں نے تجھے عزیز کیا کہ آگ پر دھڑ کر تجھ سے خوشبو یوں رعبہ بہشت کے باشندے آواز دینے لگے کہ آدم و حوا دونوں خدا کی درگاہ میں عاصی ہوئے اور دیوانوں کی طرح بہشت میں بھٹکے پھرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عاصی ہوئے ندامت اور شرمندگی سے پھر رہے تھے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے من باران کی پکار ہوئی جواب اس کا کچھ نہ دیا حضرت جبرائیل ان کے پاس آئے اور بولے اے آدم تجھے تیرا رب بلاتا ہے تب آدم نے کہا یا رب ہم تجھ سے شرمندہ ہیں تو لہ تعالیٰ وَخَادُهُمَا آتَمَّ اللَّهُ أَلْسِنَهُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقْلَلْنَا لَكُمَا الْإِنْسَانَ كَمَا عَلَّمْنَا دُمَيْنًا ۝ ترجمہ۔ اور پکارا ان کو ان کے رب نے اور کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا اس درخت سے اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تب حضرت آدم اور حوا دونوں روتے ہوئے کہنے لگے جیسا کہ حق تعالیٰ فرمایا ہے قَالَ ذُنُوبًا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ترجمہ۔ آدم و حوا نے کہا اے رب ہمارے ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر اور اگر نہ بخشے تو ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ہو جائیں گے نامراد اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ احْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا ۝ وَكَذَلِكَ فِي آيَاتٍ مُّسْتَقَرَّةٍ وَمَتَابًا ۝ اے جینے والے ترجمہ۔ بہت کم تر ایک دوسرے کے دشمن ہوئے اور تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک اور کہا اسی میں جو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ (یہ مضمون کلام اللہ کا ہے) تب فرمان رب العالمین کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوا کہ آدم و حوا اور ساتپ اور شیطان اور طاؤس ان سب کو بہشت سے نکال کر دنیا میں بھیج دو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ حال بیان کیا وہ اس بات کو سنتے ہی گھبرا گئے اور بہشت کی جدائی سے زور و قطار رونے لگے آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے واسطے وہاں سے لیا اور وہ لکڑی پختہ پختہ ان کے خاندان میں سے چلی آئی یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا لٹھا بن گیا۔ پس آدم و حوا اور مردو ساتپ اور شیطان مردودان پانچوں کو بہشت سے نکال کر اول آدم کو سراندیپ میں کہ ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے ڈالا، اور حوا خراسان میں، اور طاؤس کو سیتان میں اور ساتپ کو اصغہان میں اور شیطان علیہ اللعنة کو کوہ و ماؤند میں ڈالا اس وقت ساتپ کے چار ہاتھ اور پاؤں مثل شتر کے تھے باعث واقعہ ہونے اسی ماجرے کے اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لئے تاکہ وہ پیٹ کے بل پھلے اور تاک چھانے اور کھاوے۔ آدم کو جب سراندیپ میں ڈالا وہ اپنے گناہ سے چالیس برس تک روتے رہے اور دوسری روایت میں ہے کہ تین سو برس تک روتے رہے اس کے بعد ان کی نہریں بنا دی

ہوئیں اور کنارے پر نہروں کے درخت خرما اور زنگب اور جافل پیدا ہوا اور سحاکے آنسو سے ہندی اور
 دسمہ اور سرمہ پیدا ہوا اور جو قطرات ان کے آنسو کے دریا میں گرے اس سے مراد پیدا ہوئے تاکہ ان
 کی لڑکیوں کے زیورات نہیں اور ایک روز جبرائیل آدم کے پاس آئے اور کہا اے آدم قبل اپنی موت کے
 حج کرو، وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور حج کا قصد کیا۔ جس جگہ پر ان کا قدم
 جاتا وہاں گاؤں اور بستی ہو جاتی اور جس جگہ پر وہ ٹھہرتے اور اپنی مسافت کی منزل کرتے تو اس جگہ پر
 خداوند کریم چند روز میں شہر بنا دیتا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ تک حضرت آدم علیہ السلام کے تیس
 قدم ہوئے تھے اور جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے سب فرشتے وہاں حضرت آدم کے پاس آئے اور کہا یا آدم
 ہزار برس ہوئے کہ ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں اور اس وقت اس کعبہ کا نام بیت المعمور تھا اور اندر باہر
 اس کا ظاہر تھا اور اس کے اوپر خیمہ زبرجد کا تھا اور طنائیں اس کی سونے کی تھیں اور حوہ منجیس اس کی تھیں
 آج وہ ستون ہیں اور حرم شریف میں داخل ہیں اور جو شکار اس میں پناہ لیسے اس کا مارنا حرام ہے اور
 آدم علیہ السلام میدان عرفات میں جبل رحمت پر آرام کے واسطے جب بیٹھے تو حوا کو دیکھا کہ جد سے کی طرف
 سے آئی ہیں، انہوں نے اٹھ کر انہیں گودی میں اٹھالیا اور دونوں ڈار ڈار رونے لگے۔ چنانچہ ان کے رونے
 سے آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے پس دونوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور خداوند تعالیٰ نے حجاب کو ان
 کی آنکھوں سے اٹھالیا تب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَوْنِی اِدْمَ مِیْنِ
 ذَیْبِهٖ کَلِمًا مِّنْ فَتَاٰبِ عَلَیْہِہٖ۔ ترجمہ۔ پھر سیکھ لیں حضرت آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں، پھر توجہ
 ہوا اس پر حق وہی ہے معاف کرنے والا مہربان، اور ساق عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا۔ لَا اِلٰہَ اِلَّا
 اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ تب آدم نے کہا یا رب اس کلمہ مبارک کی برکت سے جو تیرے نام کے
 ساتھ ہے ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری توبہ قبول فرمائی الحال جبرائیل ان کے پاس آئے اور کہا کہ
 تعالیٰ نے تجھ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے اگر تو بہشت میں اس نام کو شفیع بنا تا تو تم کو ہرگز دنیا میں نہ
 بھیجا اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مناجات میں یہ کہتے تھے یَا ذٰلِجَنَّةِ
 حٰیطَانُ قَالِ اللّٰہُ تَعَالٰی لِجَنَّتِہٖ حٰیطَانُ قَالِ لِجَنَّتِہٖ حٰوْرٰمُ قَالِ اللّٰہُ تَعَالٰی لِجَنَّتِہٖ
 حٰوْرٰمُ فَقَالَ کَیْفَ دَخَلَ اِبْلِیْسُ وَعَزَا اِدْمَ قَالِ اللّٰہُ یَا مُرْسٰی لَا نَفْسٌ مِّنْ قَضَائِیْ
 وَ قَدْ رِیَہٗ تَرْجَمَہٗ اَیْکَ رُوْزِ حَضْرَتِ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامِ مَنَاجَا تِ مِّنْ کِتٰبِہٖ یَا رَبِّ بَہِشْتِ مِیْنِ رِیَوٰرِی
 ہوں یا نہیں حق تعالیٰ نے فرمایا دیواریں ہیں پھر کہا جنت کے دربان ہیں فرمایا ہیں تب موسیٰ علیہ السلام نے
 کہا کہ ابلیس لعین کیونکر بہشت میں گیا اور آدم کو فریب دیا کہا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ میری مرضی سے مفر

نہیں کیونکہ میری مرضی یہی تھی اور باری تعالیٰ فرمایا **حَدَّثَ لَهُمْ مَا يَخْتَارُونَ** پھر کھینچ لیا ان کو فریب سے پس آدم نے جب حج سے فراغت پائی تو ان کے پاس حکم آیا۔ اسے جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کو وادٹی نعمان میں جو ایک میدان کا نام ہے لے جا کر اپنے پردوں کو ان کی پشت پر مل دے جب جبرائیل نے ملاقات ذریات، بیٹھار ان کی پشت سے نکلیں اس طرح پر کہ تمام عالم ان کی اولاد سے بھر گیا۔ پس حضرت آدم بولے یہ سب کون ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ سب تمہارے فرزند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مخلوق کی گنجائش زمین پر کیونکر ہوگی۔ تب آواز آئی اے آدم ان کی تدبیر میں نے آگے سے کر رکھی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب اللطیف کیا تدبیر ہے حق تعالیٰ نے فرمایا بعضوں کو ان کے اباؤں کے اصحاب میں اور بعضوں کو اہمات کے ارحام میں کسی کو روئے زمینی پر اور کسی کو زیر زمین رکھوں گا پھر حضرت آدم نے کہا۔ خداوند امیرے فرزند کے لئے کیا فرماتے ہیں، فرمایا کوئی مؤمن ہے تو کوئی کافر ہے اور کوئی تو نکر ہے اور کوئی فقیر ہے کوئی خوشحال ہے، کوئی غناک، پھر کہا یہ سب مساوی ہوتے تو کیا خوب ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں اس سے خوش ہوں جو میرا شکر کرے اس لئے خوشحال کو غناک اور تو نکر کو دردیش اور طبع کو عاصی نہ کیا تاکہ شکر کریں پس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ذریات آدم کی کھڑی ہوئیں صف باندھ کر مشرق سے مغرب تک اسی وقت کھڑی ہو گئیں سب کی سب جو لوگ داہنی طرف آدم کے کھڑے تھے وہ سب کے سب مؤمن تھے اور صف اول میں انبیاء اور انبیاء میں سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے اور جو لوگ بائیں طرف ان کے کھڑے تھے وہ سب کافر اور صف اول میں ان کے جبار اور منکر تھے بعدہ امراہنی ہو اُسْتُ جِدَّ جُحُودٌ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلٰی بولے سب یح ہے تو بیشک ہمارا رب ہے بعد اس کے حق تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو تم اپنے رب کو پس جو لوگ کہ داہنی کی طرف حضرت آدم کے کھڑے تھے وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے اور جو لوگ کہ بائیں طرف تھے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا پھر دوسری دفعہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا **اَسْمِعُوا لِي** سجدہ کرو تم اپنے رب کو جو لوگ بطرف راست تھے ان میں سے سجدہ کسی نے کیا اور کسی نے نہ کیا اور جو کہ بطرف چپ تھے ان میں سے بھی بعض نے سجدہ کیا اور بعض نے نہ کیا! یہ حقیقت دیکھ کر حضرت آدم نے جناب باری میں عرض کیا اے رب اس میں عجیب و غریب جو میں نے دیکھا اس سے تو مجھے آگاہ کر کہ جو لوگ داہنی طرف کھڑے تھے پہلے حکم میں سب نے سجدہ کیا اور ثانی حکم میں ان میں سے بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا اور جو قوم کہ بائیں طرف ہے اول حکم میں سجدہ نہ کیا ثانی میں بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا اس میں کیا راز الہی مقناں آئی اے آدم جس قوم نے کہ اول دفعہ میں سجدہ کیا وہ مؤمن پیدا ہوں گے اور مؤمن

میں گے اور جنہوں نے اول و آخر میں سجدہ نہ کیا وہ کافر پیدا ہوں گے اور کافر میں گے اور جنہوں نے اول
حکم میں سجدہ کیا اور ثانی میں نہ کیا وہ مؤمن پیدا ہوں گے اور کافر میں گے نَحْوُ ذَٰلِكَ بِمَا لَدَيْهِمْ ذَٰلِكَ
اور جس نے ثانی حکم میں سجدہ کیا اور اول میں نہ کیا وہ کافر پیدا ہو گا اور مؤمن مرے گا خَالَهُ هُوَ لَا يَدْرِي
بِالْجَنَّةِ وَلَا الْجَنَّةِ وَلَا فِي السَّارِ وَلَا الْجَانِي تَرْجَمَهُ - حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم جو لوگ

تیری داہنی طرف ہیں سب ہستی ہیں اس کی مجھے کچھ پرواہ نہیں اور جو کہ بائیں طرف کھڑے ہیں وہ
دوزخ ہی مجھے کچھ پرواہ نہیں اور جو کہ بائیں طرف کھڑے ہیں وہ دوزخ ہی ہیں مجھے کچھ پرواہ نہیں اے آدم
نہ اس کی اطاعت سے مجھے کچھ فائدہ ہے اور نہ ان کی معیت سے کچھ ضرر پس ایک فرشتے کو حکم کیا کہ عہد بنا
یعنی عہد کا جو حکم فرمایا اس کے سوا اور دین قبول نہیں، اور وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے پتھر ہو گیا اور وہ پتھر
خانہ کعبہ کے داہنے میں رکھا گیا ہے اب اس کو حجر الاسود کہتے ہیں وہ دوزخ ہی میں مجھے کچھ پرواہ
نہیں اے آدم نہ ان کی اطاعت سے مجھے کچھ فائدہ ہے اور نہ ان کی معیت سے کچھ ضرر پس ایک
فرشتے کو حکم کیا کہ عہد بنا یعنی عہد کا جو حکم فرمایا اس کے سوا اور دین قبول نہیں، اور وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے
پتھر ہو گیا اور وہ پتھر خانہ کعبہ کے داہنے میں رکھا گیا ہے اب اس کو حجر الاسود کہتے ہیں اور سب حاجی اس کو
بوسہ دیتے ہیں پھر روز قیامت میں وہی پتھر فرشتہ ہو گا جس صورت پر وہ پہلے تھا اور ہر ایک کا عہد نامہ
کھولا جائے گا جو شخص اپنے عہد پر قائم ہو گا اس کو جنت ملے گی اور جو برخلاف ہو گا وہ دوزخ ہی ہو گا اور حق تعالیٰ
نے پیغمبروں کے ساتھ روز میثاق میں کہا - قَوْلَ تَعَالَى - وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ لِمَا
آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمُصَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ
بِهِ وَلَتُنصَرُنَّ لَهُ قَالُوا أَسْرَدْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَيْنَا لِمَا هُوَ قَوْلُ فِئْتَانٍ
قَالَ قَاتِلْهُمْ إِذِ اتَّخَذْتُمْ مِنَ الشَّامِ عِدَّةً - ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اقرار
کیا جو کچھ میں نے تم کو دی ہے کتاب اور حکمت پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچ بتا دے تمہارے
پاس آنے والے کو تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے حق تعالیٰ نے فرمایا اور تم نے اقرار کیا اور
اس شرط پر میرا ذمہ لیا، سب بولے ہم نے اقرار کیا، فرمایا تم شاید یہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شہد ہوں پھر
جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں بے حکم اور فرمایا تم سب گواہ رہو اے ادریس تم نوح پر اور اے نوح تم
ابراہیم پر اے ابراہیم تم اسماعیل پر اے اسماعیل تم اسحاق پر گواہ رہو اسی طرح حضرت عیسیٰ تک اور فرمایا اے
پیغمبرو تم سب رسالت پر پیغمبر آخرا الزمان کے گواہ رہو۔ اور اپنی قوم کو وصیت کی جو کہ ان کی رسالت پر
ایمان لاویں اور نصرت دیویں، اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا نبیوں کے مقدمے میں نبی اسرائیل سے

یہود مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا نبی ہم کو کہتا ہے کہ بندگی کرو اپنے رب کی۔ ہم تو پہلے نبی سے بندگی کرتے ہیں اس کی مگر وہ چاہتا ہے کہ میری بندگی کرو سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا لے اور وہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں لائے پھر کیونکر ان کو یہ بات سکھائے مگر تم کو یہ کہتا ہے کہ تم میں جو آگے دینداری تھی جیسا کہ کتاب کا پڑھنا اور سکھانا وہ نہیں ہے اب میری صحبت سے پھر وہی کمال حاصل کرو۔

حضرت شہید علیہ السلام

جب حضرت آدمؑ بابل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کے خاطر غمگین کی تسلی کے واسطے بھیجا کہ حق تعالیٰ تیرے میں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم سرور نبی آدم کا پیدا ہوگا۔ چنانچہ بابل کے مرنے سے پانچ سال بعد حضرت شہیدؑ پیدا ہوئے اور وہ جن صورت میں اور خوبی صورت میں مشابہ حضرت آدم کے تھے اور تمام اولاد سے حضرت آدم کے نزدیک محبوب تھے چنانچہ حضرت آدم کے نزدیک محبوب تھے چنانچہ حضرت آدم نے قبل وفات کے ان کو اپنا دلی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح کے زمانے میں واقع ہوا اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو شتی میں رکھو ایسے جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح عمل میں لاؤں، اور حضرت شہیدؑ اکثر اوقات حضرت آدمؑ کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے ای واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے تبحر و خلق سے اور انس حق سے خلیفہ کیا تھا۔ اور لوگوں سے تمنا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات ظائف اور طاعات میں مشغول رہتے تھے اور نفس کی ریاضت اور تہذیب اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا اور حضرت شہیدؑ کے زمانے میں ہی آدم دو قسم کے تھے بعض تبعات حضرت شہیدؑ کی کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے اور حضرت شہیدؑ کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب نوسو بارہ برس ان کی عمر کے گزرے تو روح جم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی اور حضرت شہید علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں ہوں، اول تو خدا کو پہچاننا دوسرے نیک اور بد کو جاننا تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجالانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹے غصہ کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا آٹھویں

گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نانویں شکر الہی کا ذکر کرنا۔

حضرت ادریس علیہ السلام

وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے لقب آپکا ادریس ہوا۔ اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے وہ زمین پر عبادت کرتے ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذْکُرْ بِنِي اِبْرٰهِيْمَ اذْذُرٰسِ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا ترجمہ۔ اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی۔ ہر روز نہیر بن سیتے تھے ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھتے تھے کہ اسی وقت ملک الموت بہ آرزوئے تمام امرا الہی سے آدمی کی صورت بن کر جہان کے طور پر رات کو حضرت ادریس کے دروازے پر آ پہنچے۔ آنحضرت صائم الدہر تھے جب شام ہوئی افطار کرتے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا جس قدر چاہتے کھا لیتے باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحر ایل جا کر دیکھوں تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے جاتے جاتے ایک گپھوں کے کھیت میں جا پہنچے حضرت ملک الموت نے کہا چلو اس کھیت سے چند خوشے گپھوں کے لئے کر ہم تم مل کر کھاؤں حضرت ادریس نے فرمایا کہ جب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھا یا اب حرام کھانا چاہتا ہے پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انکو دیکھ کر حضرت عزرائیل نے کھانے کا قصد کیا حضرت ادریس نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر عزرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے پس اسی طرح تین روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جبکہ ادریس نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں عزرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لئے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج تین دن سے تو میرے ساتھ

ہے اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے وہ بولے قَالَ كَلَّمَهَا بَيْنَ يَدَيْكَ كَأَنَّهَا
بِيَدَيْكَ نَيْتٌ خُبْرًا - ترجمہ - فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے
دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اسی
کی جان قبض کر لیتا ہوں، اور بولائے حضرت ادریس میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں
حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں کہ تلخی جان کی ایک بارگی
تو مجھ کو پہنکا دے تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو۔ اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں، ملک الموت
نے کہا کہ بے رضا، الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس
کی درگاہ میں عرض کی حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی
جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس
علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لنگا یا پھر ملک الموت
نے ان سے پوچھا اے بھائی تلخی جان کنی کی کسی تھی وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں
تک کھینچی جاتی ہے ملک الموت نے کہا اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان
کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق
ہے تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر
عبادت اور بندگی زیادہ کروں تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو سات طبق دوزخ کے
دکھائے پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے اے بھائی مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر
خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے
بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر کہنے لگے اے بھائی میں تمہنی جان کنی کی کچھ چکا ہوں اور دوزخ
بھی دیکھی۔ مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ بیوں تب اس نے
کہا تم وہاں سے واپس آئے کاہل کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد
کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا۔ اور حکم الہی اپنی نعلین درخت طوبی کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے۔
کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا۔ اور نعلین کو بھی درخت طوبی کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل
کر اپنی نعلین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ
اے بھائی تاخیر مت کرو اس کے جواب میں حضرت ادریس نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے۔
مَلِكُ نَفْسِي ذَا أَحْقَاكَ الْمَوْتُ - ترجمہ - ہر جی کو موت کا مزا چکھنا ہے۔ اب تو میں مزا جان کنی کا

چکھ چکا ہوں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے **ذَانِ مِنْكُمْ لَادَّوَارٌ دُحَا**۔ اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے **لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نُصَبٌ وَ مَا هُمْ مِنْهَا مُنْجَرُونَ** ترجمہ۔ نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آوے گا۔ اے بھائی میں اب ہرگز باہر نہیں آؤں گا درگاہ باری سے آواز آئی اے عزرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تب عزرائیل بولے **إِنَّ الْجَنَّةَ حَوَامٍ عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّىٰ يَدْخُلَ خَاتِمُهُمُ** اذْ نَبِيَّاءِ ترجمہ بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں بہشت میں پھر آواز آئی اے عزرائیل میں بہشت کو دیرینے نہیں رکھتا ہوں۔ لیکن اول بہشت میں محصلے اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے بعدہ سب امت ان کی اور قول دوسرا یہ ہے کہ طوان کرنے والے سب طوان کرتے رہیں بہشت میں اور حق تعالیٰ نے فرمایا **وَدَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا** اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر پس بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق سے شب دروز گریہ دزاری میں تھے ایکے وز ابلیس یعنی ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا کرو میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں تم اس کو شب روز دیکھا کرو اور پوجو۔ اس سے تمہارا بٹ کھ در واد غم جاتا رہے گا اور تم خوش رہو گے۔ ابلیس علیہ اللغۃ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا۔ صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو بوجا کرتے تھے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی، مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا۔ علم و عمل ان میں مفقود تھا۔ بعدہ خدائے تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتادیں۔ **ذَاللّٰہِ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ** ۵

بیان حضرت نوح علیہ السلام کا

حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا۔ بعدہ نوح نام ہوا۔ اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَقَدْ اَدۡرَسَلْنَا نُوۡحًا اِلٰیٰ تَوٰمِیۡمَہٗ فَاٰتٰیۡہِ فِیۡہِمْ اَلۡفَ نَسۡتَہِۡ اِلَّا حَمِیۡنَہٗنَّ عَاۡمًا**۔ ترجمہ اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس ساڑھے نو سو برس اور اس مدت میں چالیس مرد اور چالیس عورتوں کے سوا کوئی

ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز بہار کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت الٰہی دیتے اور پکار کر کہتے لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اٰخِرُ سُوْرَةِ اللّٰہِ۔ اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انکیساں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چلکے ہو رہتے۔ جب کہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے یہ ہوش کر دیتے اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکڑ کر بولتے اے لوگو! تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے ہڈے اور کلیف سے حضرت نوح علیہ السلام تین روز شدید بے قرار رہے۔ پھر بھی دعوت الٰہی اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے یہاں تک کہ لوفان کی نوبت آپہنچی اور حضرت نوح نے کہا قَالِ دَبَّ اِنِّیْ دَعْوَتِ تَوْبَتِیْ لَیْلًا وَ نَهَاذِ اَحْلَمَ یَسِرُّهُمَّ دُعَاۡیَ اِلَّا خَسْرًا اذ اذ ترجمہ: اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے میں بلاتا رہا ہوں اپنی قوم کو رات و دن مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے اور میری مذہب پر سوائے نظام تم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے نامنرا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آکر حضرت نوح کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے ہو ہمان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھیں کہنے لگیں کہ اے قوم! حضرت نوح دیوانہ ہوئے ہیں تم اس نامت مارو جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا ہے حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی نہیں تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَوْبَتِیْ لَیْلًا وَ نَهَاذِ اَحْلَمَ یَسِرُّهُمَّ دُعَاۡیَ اِلَّا خَسْرًا اذ اذ ترجمہ: پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفجر جبرائیل علیہ السلام نے آکر کہا اے نوح تو دعا کرتی رہ دعا خدا کی درگاہ میں متجاہ ہے یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاوے گی اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا جب چالیس برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ چھ سو گز لمبا اور چار سو گز موٹا چوڑا ہو گیا اور اس چالیس برس کے اندر تمام یورپا ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکے! تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو۔

اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیو کہ وہ دیوانہ ہے حضرت نوحؑ نے جب یہ وصیتیں ان سے سنیں تب ان لوگوں سے ناامید ہو کر درگاہِ الہی میں زاری کی اور کہا وَقَالَ نُوْحٌ رَبِّ لَئِن رَّعَيْتَ الْاٰدَمِيْنَ مِنْ اَنْكَابٍ يُنۡسِجُوْنَ دِيۡاۡرًا ؕ ترجمہ اور کہا نوح نے اے رب میرے اب نہ چھوڑ زمین پر ننگروں کا ایک گھر بھی بسنے والا۔ کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر تب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح اس درخت سے تو ایک کشتی بنا نوحؑ نے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاَصۡنَعِ الْفُلَکَ بِاَعۡیُنِنَا وَاَوْحٰنَا وَاَلۡمُحٰطِبِیۡنِ فِی السِّنِّیۡنِ مِنْ ظُلُمٰتِ اِلٰہِہُمۡ مَّخۡرُجُوۡنَ ؕ ترجمہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول یہ تو بیشک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوحؑ نے بموجب تعلیم حضرت جبرائیل کے ڈرودگری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے پہلے تختے پر نام آدم کا اور دوسرے تختے پر نام شیت کا اور تیسرے تختے پر نام ادریل کا اور اسی طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار بیغیروں کے نکالے یعنی ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور خاتم الانبیاء ہیں حضرت نوحؑ نے جبرائیل کی تعلیم سے کشتی بنائی طول اس کشتی کا ایک ہزار گز اور عرض اس کا چار سو گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بیت بیٹے اور افسوس کرنے لگے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَاَصۡنَعِ الْفُلَکَ وَکَلِمًا مَّا رَعٰیہٗ مَلٰٓئِکَۃٌ مِنْ قَوْمِہٖ مَّخۡرُجُوۡا مِنْہٗ ؕ قَالَ اِنَّ تَسۡخُرُوۡا اٰیٰتِنَا نَا تَسۡخُرُوۡنَ مِنْکُمْ کَمَا تَسۡخُرُوۡنَ ؕ فَسُوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ مَنۡ یَّاتِیۡنَہَا عَدَاۡیۡنَ یُحۡزِنُہَا وَیُجۡلِلُ عَلَیۡہَا عَنۡ اَبۡنِ مَقِیۡمَہٗ ترجمہ۔ اور نوح کشتی بناتے تھے اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسی کرتے اس پر نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو تم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر بنتے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے اور حضرت نوحؑ اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں، غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں چار تختے کم ہوئے۔ حضرت نوحؑ نے حضرت جبرائیل سے کہا تو جبرائیل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں چار تختے ان کے چار درست کے نام سے ان کے نام یہ ہیں یعنی ابو بکر صدیق۔ دوسرے حضرت عمر بن الخطاب تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے نام سے لگا ناچلے تو پھر کشتی تھاری اللہ تعالیٰ

کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے چار یار کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا اور فرمایا اے نوحؑ دریائے نیل میں ایک درخت ہے کسی کو بھیج کر وہاں سے ٹھوکرا کر اس سے چار تختے بنام چار یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوحؑ نے اپنے بیٹوں کو کہا انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ عوج بن عنق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوحؑ نے عوج بن عنق کو بلوایا اور کہا کہ تو فلا نے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کر دوں گا۔ عوج بن عنق نے کہا تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوحؑ نے اس سے عہد کر لیا۔ پس عوج بن عنق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لایا۔ تب حضرت نوحؑ نے تین روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں عوج بن عنق انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا اے حضرت نوحؑ میں بارہ ہزار روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں، یہ قرص جو سے مجھے کیا ہوگا۔ اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ عوج بن عنق عمر بھر اکل و شرب سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوحؑ نے کہا کہ اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے دور وئی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی اس میں اس کو شکم سیری ہو گئی۔ بعد حضرت نوحؑ نے اس درخت سے چار تختے نکال اول نام حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دوسرا تختہ حضرت عمر بن الخطابؓ کا اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنیؓ کا۔ اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے لگائے۔ اور ان چاروں تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔

بعد حضرت جبرائیلؑ نے فرمایا اے نوحؑ تو بیت المعمور کی زیارت کر لے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا جب وہ زیارت کرنے کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھالیا۔ بعد ترتیب اور نظام کثمتی کا کرنے لگے اس میں سات طبقے تھے اول طبقے میں تابوت آدم اور دوسرے میں حضرت نوحؑ مومنوں کے ساتھ تھے اور تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے اور پانچویں طبقے میں چرندے اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور ساتویں طبقے میں اور سوے سب رکھے تھے پس حضرت جبرائیلؑ نے فرمایا اے نوحؑ علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی لے گا تب ایک دزدان کی بیوی روٹی پکاتی تھی تنور سے گرم پانی ابل پڑا جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی بمصدق اس آیت کے قولہ تعالیٰ حَتَّىٰ اِذَا جَاءَهُمْ مُوْتًا وَاَنْزَلْنَا اَحْمَلًا مِنْهَا مِنْ كُلِّ ذَرْبٍ اثنین وَاَهْلِكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَاَمِنَ مَا اٰمَنَ

مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ ۝۵۔ یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش ملا تو نے کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات اور جو ایمان لایا ہو اور نہیں ایمان لائے تھے مگر ٹھوڑے سے حضرت جبرائیل نے فرمایا اسے نوح ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں، میں کیونکر ان سب کو اکٹھا کروں گا۔ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی اس جانور کا کشتی میں رکھ لیا اور گھروالوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی اور صرف تین بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے اور نور بھی حضرت نوح کے گھر میں تھا جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس نور سے گرم پانی اُبلے تب کشتی میں سوار ہو جانا اور یہ فائدہ مترجم نے بحوالہ تفسیر لکھا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں تین طبقے تھے۔ اول طبقے میں پرندے اور دوسرے طبقے میں نوح مع اپنے تمام مومنین کے اور تیسرے طبقے میں چار پائے اور فرزند ان کے نام یہ ہیں سام، حام، یافث سب کے سب کشتی میں سوار تھے اور ایک بیٹا ان کا کنعان مار غزور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور کہا میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنعان تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا بھداق اس آیت کے قولہ تَعَالَى وَخَارِي خُوْجُحٍ اَيْنَمَا وَاكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبَيِّنُ اَرْكَبْ مَعْنَا وَا لَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ ۝۶ ترجمہ اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا تَعَالَى قَالَ سَا وِى اِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ترجمہ اور کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچائے گا۔ حضرت نوح نے کہا تو تَعَالَى قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ ذَرَحَوْهُ کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو اور ماہِ رجب کی وہ تاریخ تھی کہ پانی ابنا شروع ہوا تھا وَتَمَحْنَا اَجْوَابَ السَّمَاوَاتِ بِمَاءٍ مِّنْهُمْ سِرًّا وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ مِّنْ حَيْوَاتِنَا فَانْتَبٰى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرِ قَدْ قَدِرْ ترجمہ اور پھر

ہم نے کھول دیئے دہانے پانی کے ریٹے سے اور بہادیئے زمین سے چٹے پھر مل گیا پانی ایک کا پر جو
 ٹھہرنا تھا آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سردا بلا یہاں تک کہ بہاڑوں کے اوپر چالیس گز پانی
 بلند ہوا تھا اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح کو
 شفقت پدیری دل میں عود کو آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جلٹے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا
 اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے
 اہلبیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا۔ اب یہ میرا بیٹا کتنا مارا جاتا ہے تو کہ تعالیٰ وَخَادِي خُوخِ ذَبَّةٍ
 فَصَالَ رَبِّ اِنَّ اِنْسِي مِنْ اَهْلِيْ وَوَعَدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ
 اور پکارا حضرت نوح نے اپنے رب کو۔ بولے اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے اور تیرا وعدہ
 سچ ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے فاحلہ یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک
 کرے یا اس کو نجات دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس
 کے کام بالکل ناکارہ ہیں اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے، پس کچھ دیر میں ایک
 موج پانی کی آئی اور اس نے کتناں کو پانی میں غرق دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے
 نوح تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو تو کہ تعالیٰ وَقَالَ ارْكَبْ فِيْهَا بِنَسِيْمِ اللّٰهِ
 مَخْبِيْرًا وَّمَوْسٰى اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۵ وَهِيَ تَجْرِيْ فِيْ بَحْرٍ مَّجَالٍ
 ترجمہ: اور بولا سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان
 اور وہ بہتی رہی پانی کی بہروں میں مثل پہاڑ کے، یہ آیت جب پڑھی گئی پانی پر رواں ہو گئی اور بول و
 براز سے آدمیوں کے کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہمام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر
 ہاتھ پھیرا۔ قدرت الہی سے دوخوک اسکی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاط کشتی کی صف
 کی اور اہلبیس علیہ اللعنت نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے دو جو ہے پیدا ہوئے حضرت
 نوح نے کہا کہ اے شیطان لعین تجھے اس کشتی پر کون لایا۔ شیطان ملعون بولا اس وقت کہ تو نے خنزیر
 کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھی کو ملعون کہو گے لہذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔
 چنانچہ جو ہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے۔ تب حضرت نوح نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی حضرت
 جبرائیل نے آکر حضرت نوح سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح نے شیر کی پیشانی پر
 ہاتھ پھیرا تو دو دبیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور ان دبیلوں نے سب جو ہے کشتی کے کھلے اور اسی
 دن سے بی دشمن ہوئے جو ہے کی حضرت نوح نے ماہِ رَجَبِ کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرّم

ملک تقریباً چھ ماہ آٹھ دن کشتی پر ہی رہے۔ بعدہ جناب باری سے نلا آئی کہ تباری دَقِيلُ يَادَ خُ الْمَلِجُ
 مَاءُ كَيْ وَيَا سَمَاءَ أَقْلِي وَغَيْضُ الْمَاءِ وَغَيْضُ الْمَاءِ الْمُرُومَاتُ عَلَى الْجُودِي وَتَقِيلُ
 بَعْدَ الْيَقْوَمِ الظَّمِينِ ۵ تو ہمہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اسے زمین نکل جا پنا پانی اور اسے
 آسمان ختم ہوا اور کھایا پانی اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہری جو دی بہاڑ پر اور حکم ہوا کہ وہ ہر قوم سے جو بے لاف ہے
 فاخذہ چالیس دن برابر پانی آسمان سے برتتا رہا اور اسی طرح چالیس روز تک پانی زمین
 سے ہر وقت ابتداء پھر چھ مہینے کے بعد بہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جو دی بہاڑ پر اور
 یہ بہاڑ ملک شام میں ہے پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ
 بھی پانی کا زمین پر نہ رہا اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً ستر مہینہ
 بیت اللہ کا طوائف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جو دی بہاڑ پر ساکن ہو گئی اور پھر اس کے بعد
 جہاں کہیں بہاڑ تھے۔ وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوحؑ نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ
 وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوحؑ نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانا چکنے
 میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر
 اس کے بعد حضرت نوحؑ نے کبوتر کو بھیجا وہ زمین پر جا بیٹھے اور کچھ سرخی ترانے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا
 تب حضرت نوحؑ نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے اور اسی وقت
 جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سات راہیں پانی کی بنا دیں اور سات دریا روئے زمین
 پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ نہ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا اور اس کے علاوہ جو کچھ ٹھوڑا
 بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا وہ
 زمین پر گیا وہ سبب پانی نہ ہونے کے نہ ٹھہر سکا پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح نے ان کے لئے دعا فرمائی
 اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ نوحؑ جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ
 سب زمین پر بود سے چنانچہ حضرت نوح کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے لیکن انگور کی جڑ نہ ملی تب جناب باری
 میں عرض کی۔ آواز آئی کہ اسے املیس لعین نے چرایا ہے۔ تب حضرت نوح نے اس سے کہا کہ تو نے انگور
 کی جڑ چرائی ہے اس کو لا کر وہ شیطان نے انکار کیا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر
 دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ حضرت نوح نے قبول کر لیا
 پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح کے سامنے پیش کر دی اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بود
 گئے تم اس کی جڑ میں ایک ہاتھ پانی دو گے اور میں بارہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح نے قبول کر لیا

پھر انگور کو زمین میں بودیا اور بوجہ قول کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح نے اس کی جڑیں ایک دفعہ پانی دیا اور شیطان لعین نے تین دفعہ یعنی لومڑی اور شیر اور سور ان سے نوح کو مار کر خون انکا اس کی جڑ میں دیا۔ اور جو شیرینی کہ انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح کے پانی دین سے بہت سے اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دین کی وجہ سے ہے۔ اسی واسطے کہ یوں کا علاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد شیر کا جیسا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سنا تا بھی نہیں اور یہ قاعدہ تقریباً لکھتے ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرورت ہوتی ہے بمصدق مَحَلُّ شَيْءٍ حَرَجٌ اِلٰی اَصْلِهِ اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے اور ابلیس نے کہلے شیخ الانبیاء تیرا احسان مجھ پر بہت سے مجھ سے تو کچھ مانگ لے حضرت نوح نے فرمایا۔ اے ملعون تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہو اب ہے بولا تو نے گناہ نہیں کیا تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کر دیا وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح اس بات کو سن کر ترس کھا کر سو برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح نے پوچھا کہ اے ملعون کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی وہ بولا کہ چار چیزیں ہیں اور وہ یہ ہیں حَسَدٌ و حِرْصٌ و تَكْبُرٌ و بَخْلٌ۔ حضرت نوح نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے ستر ہزار سال خدا کے عَزَّوَجَلَّ کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت میں انا رجب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لئے سب فرشتوں کو حکم دیا۔ سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تو میں نے خدا کے نہ کیا اس لئے میں سزا وار لعنت کا ہوا اور دوسری یہ ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے آدم کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا نار سے اس لئے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم کو کیوں کھانے کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں اور میں نے اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا۔ اس لئے وہ بہشت سے نکالے گئے۔ اور یہاں گرفتار ہوئے، اور بخل ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح کو سنا کر چلا گیا۔ بعد ازاں حضرت پر جناب بدی سے حکم ہوا اے نوح کشتی کی کھڑی سے تو ایک سجدہ بنا۔ تب انہوں نے جو دی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بتی بن گئی اور نام اس بتی کا ثمانین رکھا۔ یعنی اس کے معنی ہیں اتنی آدمی مومن اور مومنہ، حضرت نوح کے ساتھ وہاں رہتے تھے اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح نے وفات پائی۔ پھر اولاد ان کی۔ سام۔

حام اور یافت باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں اور اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں اور اہل ترکستان یافت کی اولاد سے ہیں اور مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے ہوا سے کپڑا عورت کی ستر کا الگ ہو گیا تھا۔ اور حام کی نظر اس پر پڑی وہ ہنس کر چپکا ہو رہا اور سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ جب نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا تو حضرت نوح نے سام کو دعائیں دیں اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی اور حام کو بد دعویٰ اسی واسطے سے ان کا منہ سیاہ ہوا اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی اور بعض نے کہا کہ حام نے سام کو دعویٰ تھی اس لئے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی اور مروی ہے کہ عمر نوح علیہ السلام کی چودہ سو برس کی تھی اور ایک دوسری روایت ہے کہ ایک ہزار بیس برس کی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ساڑھے نو سو برس کی تھی اور غالباً یہی صحیح ہے۔ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے جب نوح نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا اے شیخ الانبیاء دنیا کو کیسا دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعدہ اولاد سام میں سے بعض نے کوفے میں اور بعض نے یمن میں اور بعض حجاز و شام میں اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے اور اولاد حام نے ہندستان میں آکر شہروں کو آباد کیا اور اولاد یافت ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں بہت سے شہر آباد کئے چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان علیہ اللعنة نے ہندوستان میں آکر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی۔ پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی بت پرستی سکھائی۔ بعدہ ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک عرب میں جبرہم تھا اور وہاں قد قدامت میں چار سو گز بلند تھا۔ تمام ملک عرب اس کا مطیع و فرمانبردار۔ بعض نے کہا کہ حضر موت اسی کا نام تھا۔ اس نے وہاں مکانات و باغات اور نہروں بنائی تھیں۔ اور اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی تانی نہ تھا۔ تقریباً سات سو برس تک ان میں سے کوئی بھی نہ مرا تھا اور وہ سب موت کو بھول گئے تھے اور زمین ان سے آباد و مہمور تھی اور سب کے سب جاہل تھے کوئی بھی اہل علم نہ تھا اور تہذیب تمدن سے بالکل نا آشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم کسی کی پرستش کرتے ہو۔ ان لوگوں نے شیطان سے کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے کہ کس معبود کی پرستش کریں یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا کہ جس کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان علیہ اللعنة ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا کہ جس کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان علیہ اللعنة ان لوگوں میں سے چند کو لے کر

خط ہندوستان آیا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی پرستش کرتے ان لوگوں کو دکھانی اور ان پر پھیر اچھے طور پر بت پرستی کی تلقین کی اور پورے طریقہ سے بت پرستی کا عادی بنایا اور وہ لوگ جو شیطان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے وہاں سے ان پانچ بتوں کو اٹھا کر اپنے گھر دل میں لے گئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے قولہ تعالیٰ وَقَالُوا لَا تَدْرِينَا اَلِهَتِكُمْ وَلَا تَدْرِينَا وَذَا اَدْلَا سَوَاعَاہُ وَلَا يَعُوذُ وَلَا يَعُوذُ وَنَسُوا۔ ترجمہ! اور بولے نہ چھوڑو اپنے گھروں کو یعنی دکھ اور نہ سواخ اور نہ نیوٹ کو اور نہ بیون کو اور نہ نسر کو اور یہ سب کے سب لوگ ان کو پوچھنے لگے اور تمام عالم بت پرست ہو گیا

بیان حضرت ہود علیہ السلام کا

حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا وہ قوم وراز قد اور جوڑے جم کی اور نہایت خونخاک تھی سب سے لیما ان میں سوگز کا اور ٹھکن ساٹھ گز کا اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور ندا پرستی سے از حد بیزار تھے اور وہ سنگ کو تراش کے پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگدلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان نہیں لایا تھا اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا جب حضرت ہود کے پند و نصائح حد سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لئے آمادہ ہو گئے جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری میں ان کفاروں کے وسطے بددعا کی اس بددعا کے نتیجہ میں برسات متوڑ ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی اور تقریباً سات برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت و محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ اور یہ سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے اس سے بچو اور وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور کٹماخی سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت مہم میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ عزم میں کے جا کر البتہ کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا لہذا اس کے دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم کے میں رہتی تھی اور اپنے تئیں شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہتی تھی، جب لوگ قوم کے ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے ستر رئیسوں نے جانے کا ارادہ کیا

اور وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعا استقام باران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت منزل میں پوری کر کے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام و شراب کی فیضانیں کرنے و مجلس عیش و عشرت میں گانا سنوانے لگے۔ تو یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو بھول گئے کہاں کی دعا اور کہاں کا استقام وہ سب کے سب دن رات راگ و گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا ہے ہود ہم تیرے خدا کو برگزیدہ مانیں گے اگر تو ہم کو ڈراتا ہے غدا سے تو کم از کم ہم کو اپنے خدا کو تو دکھاؤ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا اور اگر تو نے ہم کو اپنے خدا کو نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تضرع کی اور کہا کہ خدا یا مجھے ان کے ظلم سے بچا کیوں کہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں۔ شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک سات سو برس گزرے تھے اور نوحؑ اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تھے تو اپنی زانو تک اس میں گھس جاتے لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۗ ترجمہ! یعنی کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہو۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا ایک حدیث میں ہے کہ ہود وہ ستر آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہو تب حضرت ہود ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا اے قوم اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی۔ اور تم پر غضب الہی عنقریب آئے گا وہ برے کون ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی تب خدائے تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو

قَوْلَهُ تَعَالَى دَيِّقَوْمٍ اسْتَخْفِرُوا ۗ اَدْبَاكُمْ ثُمَّ تَوَجُّوا لِيْهِ يَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ ۗ وَلَا تَتَوَكَّلُوْا مُجْرِمِيْنَ ۗ ترجمہ اے میری قوم اپنے گناہ، بخشواؤ اپنے رب سے اور اپنے کورجوع کو و اسی کی طرف تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے اور نہ بھڑکاؤ تم گنہگار ہو کر کافروں نے کہا کہ ہم تو توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ پس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں پس اس قوم میں سے چھ آدمی مکے کو گئے ان میں سے صرف دو شخص مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھے تھے اور ان دونوں کا نام مزید اور یقیم تھا اور ان کے سردار کا نام قیل تھا یہ ستر ہزار آدمی لے کر مکے کو گئے مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا اس کے بعد مزید اور یقیم نے کہا

یا الہی یہ لوگ تیری رحمت کے قابل نہیں ہیں تو ہماری حاجتیں پوری کر بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگنا ہے مانگ مزید نہ کہایا الہی میں قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں حکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی بعدہ یتیم نے کہا۔ یا الہی سات دفعہ کی عمر مجھے عطا کر جس کی عمر چاہوں بطناً بعد بطن تین ہزار برس تک زندگی کروں حکم ہوا میں نے تجھے بخش اور قبل نے کہا کہ خداوند کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہوں اور نہ کسی مشکل میں پڑا ہوں کہ تجھ سے یاری مانگوں مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے اتنے میں تین ساعت کے اندر ابرسیاہ و سفید و سرخ پیدا ہوا اور آواز آئی کہ اے قلیل ان تین میں سے جس کو چاہا اختیار کر۔ تب قلیل نے دل میں سوچا کہ ابر سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا مگر ابرسیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا لہذا اس کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابرسیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ و سب ابن مند نے روایت کی ہے کہ ساتویں زمین پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام ریح العقیم ہے اور ستر ہزار زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہو گا ہوا چھوڑ دی جائے گی اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ ابریشم کے اڈا سے گی اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ روٹی کے کالے کی مانند اڑتا پھرے گا۔ جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

فَاذْ اَنْفَعُ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَّ اَحَدَةٌ وَّ حَمَلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَاذْ كُنَّا ذَا اَحَدٍ وَّ هُوَ مَسْدٌ وَّ تَعَتِ الْوَاوِعَالُ وَالْمُسْقَاتُ السَّمَاءُ فُهِىَ يَوْمَ مَسْدٍ وَّ اِهْيَاةُ

پھر جب چھوٹکیں گے نہ ملنے میں ایک چھوٹک اور اٹھائی جاوے گی زمین اور پہاڑ ٹپکے جاویں ایک چوٹ اس دن ہو پڑے گی ہو پڑنے والی اور چھٹ جاوے گا آسمان پھر اس دن وہ سمت ہو گا حکم ہوا کہ اے فرشتو! وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم کس قدر چھوڑ دیں حکم ہوا کہ گائے کی ناک کے نتھنے کے انداز سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ یارب العالمین اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناک کے سوراخ کے برابر سے چھوڑا تو وہ ہوا مانند ابرسیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہوئے گی اور کہنے لگی قولہ

لَقَالُوا اِهَذَا عَارِضٌ مُّسْتَرْحَاہٌ تَرَجَمَہُ! بولے یہ ابر ہے ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قولہ لعل۔ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِہِمْ۔ و۔ فَوَیْہَا عَسَا اَبْ اَلِیْمٌ مَاہ۔

ترجمہ: کوئی نہیں وہ یہی ہے کہ جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے اور جب ہوانکی کافروں نے کہا اے ہود تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خشک تر ہوں گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اے کافرو! ذرا صبر کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب الیم پہنچتا ہے وہ اس

خبر کو سن کر تو تقریباً سات لاکھ مرد تین پہاڑوں کے دامن میں جا رہے جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھنٹوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے اور زن و مرد لڑکے باہے چار پاؤں کو بیچ میں اپنے لیے لیا اور یہ کہتے تھے کہ تین طرف تو ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب ہیں دیکھتے ہیں کہ کونسی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب تنگروں نے اپنی قوت کا غرور کیا کہ تو اچانک ایک آواز رعد کی آئی اور ہوانے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھوڑ کر پھینک دیئے اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگول کر کے زمین پر ڈال دیدی مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَرَأَ النَّوْمَ فِيهَا صَدْعِي كَأَنَّهَا آعْبَانُ نُحْلٍ خَادِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝ ترجمہ: یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں پھرنے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے پھر کیا دیکھا کہ ان میں کوئی بیج رہا اور پھر دھول و خاک میں ایک برس تک پڑے روتے رہے اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا نہایت ہی جیسا تک اور خواب آوازان کے رونے کی تھی اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خطا میں پرکھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا، ہونے بہت زور کیا مگر جو لوگ کہ مومن تھے ان کا سر موڑ رہا بر بھی اس ہوا سے کچھ نہ بگڑا اور وہ صبح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَاتِبًا لَسَّ جَوْشَعًا لَكَ اللَّهُ كَمَا هُوَ جَاتِبٌ تَوْجِهًا لَكَ جَاهِي اللَّهُ سَاطِحِي بُوْتَابِي بَعْدَهُ حَضْرَتُ هُوْدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَمْنُولٌ كُوْا بِنِي مِهْرَاهُ نِي كُرْجِي مِمَّ كِي پَاسِ كِنِي اُوْر كِهَا كِي عَذَابِ اِلٰهِي تُوْنِي دِي كِهَا اِسْ نِي كِهَا اِلٰهِي، تَب حَضْرَتُ هُوْدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِي فَرْمَا يَا كِه كِه رَا اِلٰهِي اِلَّا اِلٰهُهُ هُوْدٍ مَسُوْلُ اللّٰهِ وَهُ مَلْعُوْنٌ بُوْلَا كِه حَيْثُ نِي كِه تُوْر اِسْ تُوْم كُوْزَنْدِه نِي كُرِي كِه اِسْ وَتِ نِي كِه اِسْ تَجْهُ پَر اِيْمَان نِي لَادُوْل كَا اُوْر وَهُ مَرْدُوْدِي كِه بِي رِهَا تَحَا كِه اِسِي وَتِ اِسْ كِي قَدَم كِي نِيچے ہوانے اس زور کا تھپیڑا دیا اور سخت عذاب تے آکر اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا پس اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً چار سو برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دینائے فانی سے رحلت فرمائی اور ان کی دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصہ تک روتے رہے اور مومنین حضرات نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین ایک سو سال تک زندہ رہے بعد ازاں لوگوں نے بھی انتقال کیا۔ اور ان کی اولاد بھی اپنے آباء کی دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی۔ اور کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتلاتے رہے۔

اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سب کس کو پوجتے ہو۔ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا کہ کیا تم خدا کو دیکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شیطان نے یٰٰن کر ان سے کہا کہ تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لئے نسیف ہوئے ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر بنا کر میدان میں رکھ دیا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَذُكِرُوا بِاللَّيْلِ إِذْ يَنْفَخُ الْوُجُوهُ لِلْحَسِيسِ جَابُوا الصَّخْرَةَ بِالْأَيْدِيهِمْ تَرْجُمُهُمْ اور کیا کیا تیرے رب نے قوم نمود سے جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے اور ان کو دادی میں رکھ دیا۔ فَاحْكَا - دادی میدان ان کے مکان کا نام ہے اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نقرہ پلادیا تھا اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ بعدہ ابلیس نے کہا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو۔ اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے مسجد خانہ قرار دیا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا بَعْدَ كُفْرِهِ خدائے تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا۔ اس نے اس گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چبھو کر کرسی سمیت اس کو اٹھا کر دریاٹے ٹیٹ میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت متحیر و پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے۔ بعدہ خدا تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا بعد قصہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ شداد لعین کا تحریر کرتا ہوں کیونکہ شداد لعین بھی حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھا اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہی تحریر کیا گیا۔

بیان شداد لعین کا

اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا۔ اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے میں بموجب پیروی اہل تاریخ کے اس حال عجیب اور قصہ غریب کو تحریر کرتا ہوں کہ اہل ایمان کو اس احوال سے عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین واقع ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے ایک کا نام شامید اور دوسرے کا نام شداد تھا اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شامید تو تقریباً سات سو برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعدہ شداد ملعون بادشاہ ہوا اس نے تمام روئے زمین

مسخر کیا اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا اور شب دروز اس کو حکومت ہی سے کام تھا اور وہ اسی خوشی میں خوشی رہتا تھا اور اس کے ماننے والے اگر چہ کفر و شرک میں مبتلا تھے لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیرو کبریٰ ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتا ہے تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ در شخص اس کے حکم عدالت میں آئے ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے، ایک شخص بولا میں نے اس سے ایک قطعہ کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے اب میں اس خزانہ کو سرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ خریدا ہے اب یہ اس نے لینے میں بہت حیلہ دیا نہ کرتا ہے جب حاکم دقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری اولاد ہی سے برباد ہے۔ وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کے بیٹے حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو اور بموجب حصے کے ہر ایک تقسیم کرو۔ ایسے انصاف سے ان کا قضیہ طے کیا اور اس نے اپنے تئیں دنیا میں نیک نام کیا بعدہ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا ہر چند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جادوانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی مرحمت فرمائے گا حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں سنائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے اور میں نے بہشت کی ہفت سنی ہے۔ میں بھی اسی دنیا میں مثل اس کے بہشت بناؤں گا۔ اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں اس مکالمہ کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں و زریروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تاج تھے اور اس میں لکھا ہے کہ تیرے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان مسطح نشیب و فراز اس میں نہ ہو اس کی جلد ہم کو اطلاع دو۔ ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک وغیرہ اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب ہم ساتھ آویں کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم ہزار ملک

اور ایک ہزار بڑے شہر تھے اور ملک اور ہر شہر میں تقریباً ایک لاکھ آدمی موجود تھے بہت ہی شدید
 جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطعہ زمین جس کی مسافت چالیس فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً
 امیر و امراء کو حکم ہوا کہ تین ہزار استاد پیمائش کو یہ سب سے پہلے چالیس گز زمین نیچے سے کھود کر
 سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھو چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں
 چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمر دسبز سے بنائے گئے
 چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہداء معین کی بہشت کے حال سے
 اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **اَلَمْ
 تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا رَبَّكَ يَعْزَابُ ۙ اِنَّ رَاٰ ذٰلِكَ الْاَعْمٰۤى ۙ اَلَيْسَ الَّذِىۡ تُلٰمُۙ مِنْهَا
 فِيۡ الْاٰنۡبِۡۤى ۙ ۙ**۔ ترجمہ کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا۔ ب تیرے نے ملو سے جو رام کے بڑے ستون بنائے
 تھے جو کئی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ **فَاَحَدُ ۙ** یعنی ماد ایک تو م تھی اور رام اس میں ایک قبیلہ تھا اور
 ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اپنی اپنی بناتے اور صفیں اس بہشت کی یہ ہیں کہ درخت اس
 میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے اور پتیاں ان درختوں کی زمر دسبز سے جڑی
 تھیں اور ڈالیاں اس کی یا قوت سرخ سے تھیں اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے
 تھے اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پرکے تھے اور بجائے پتھر کے اس کے صحن
 میں موتی اور مولگا ڈالتے تھے اور نہروں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھیں اور بہشت کے روانے
 پر چار میدان بنائے اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے۔ اور ہر ایک میدان میں ایک ایک لاکھ
 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھی اور ہر کرسی کے سامنے ایک ایک ہزار خوان میں جملہ اقسام طرح طرح
 کی نعمتیں رکھی تھیں اور یہی خبر ہے کہ چالیس ہزار خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے
 واسطے تھے یہاں تک کہ تین سو برس میں اس کا سرا بنجام ہوا اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم
 چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو سب اس بہشت میں لاکر جمع کرو آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا
 غریب مسکین یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلو بند میں ایک درم چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا آخر
 وہ لڑکی و دپیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر فی ہوں سوائے ایک درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے
 لہذا یہ ایک درم مجھ کو بخش دو مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریب سے خدا کی درگاہ میں فریاد کی
 کہ یا اہلی تو اس کا انصاف کر اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کراؤ
 اسے دینے کہ آہ و فریاد اس کی خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی بمصلحت اس حدیث کے۔

قَالَ لَنْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاتَفَقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا مَقْبُولَةٌ - ترجمہ! پرہیز
 کرو مظلوم کی بددعا سے بیشک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں
 خوبصورت حسین دیکھ کر دشمنی میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کیں کہ مانند حور و نعمان کے بہشت میں اس کی
 خدمت میں رہیں۔ مکمل دس برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کو منظور
 نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے۔ ایک دن کمال خواہش سے دروغلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے
 گیا جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھینچا اور ایک غلام کو
 ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائیں وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا
 تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا
 مجھے بہشت دے تاکہ میں اپنی نوائی ہوئی بہشت کو دیکھوں ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی نوائی
 ہوئی بہشت میں جاوے کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں
 ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں
 بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی، وہ مردود بہشت نا دیدہ دوزخی ہوا۔ اور ایک فتنے
 نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے
 کی فرصت نہ ہوئی اس وقت نہ مال رہا نہ ملک اپنی والدیٰ فقیر و امیر سب برابر ہو گئے ملک غارت ہو گئے اور
 وہ سب دوزخی ہو گئے اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے
 بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

بیان حضرت صالح علیہ السلام

قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ وَاللّٰهُمَّ ذَرِكْهُمْ صَالِحًا
 قَالَ يَقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَيْشٌ وَكَذٰلِكَ تَجْرِمُونَ اَللّٰهُمَّ ذَرِكْهُمْ صَالِحًا
 صلح علیہ السلام کو انہوں نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ
 کے ثمود حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے جب
 قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم ثمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور
 ان کو از سر نو تعمیر کر لیا اور یہ قوم بھی کثرت مال و کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں
 رہتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام

نے قوم ثمود کو دعوت الی اللہ دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں بلکہ وہی ہے کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہو کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا اور مجھے ان کے پچھتے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم ثمود کے سردار بولے کہ اے صالح اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو تم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بناؤ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں شکر کرنے لگے پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک ذمئی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ پتھر بھیجے اور دودھ بھی دیوے۔ تب ہم جاہل گئے تم رسول خدا برحق ہو یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے صالح تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دکھو کہ میں نے تجھ سے چار ہزار برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو۔ اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی۔ مٹا ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جی سارے عالم میں دوسری نہ تھی اور بعد ایک ساعت کے اس نے ایک بچہ دیا اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی اور اس قوم میں سات قبیلے تھے اور ساتوں قبیلے اس چشمہ سے پانی پیتے تھے اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا سارے دن اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے گئے اس اونٹنی نے اس چشمہ کا سب پانی پی لیا پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو ساتوں قبیلے اس سے دودھ دوہ کر گھڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمہ کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دوھا جائے اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دوھا جائے جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا قَالَ هٰذَا نَارُهَا تَمَّاسُ وَبَدَّ لَكُمْ مِشْرَبٌ يَوْمَ مَعْلُوذٍ ۗ وَلَا تَمْسُوْهُمَا بِسُوءِ يَدَيْكُمْ اِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ عٰظِمٌ ۝ ۱۰ - ترجمہ! اور کہا یہ اونٹنی ہے اس کے پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر کی ہے اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیننا مت ورنہ تم کو ایک برسے دن کی آفت گھیرے گی فَاذْكَا اللّٰهَ تَعَالٰى كِي تَدْرُوْا سَعْيَكُمْ يَوْمَ الْاٰثَمِ ۝ ۱۱ - اور اس سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے اور جس تالاب سے وہ پانی پتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ یا سے رہ جاتے۔

ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اوٹنی جادے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جاویں اور یہ خلاصہ تفسیر سے لکھا ہے اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود سے کہا کہ خبردار یہ اوٹنی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تعلق بھی مت دینا ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اوٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے اور اسی وجہ سے وہ لوگ مالدار ہو گئے اور اسی صورت سے تقریباً چار سو سال گزر گئے ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہو گئی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔

مرضی الہی سے اسی مہینے میں جنہیں تو نوہ عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا۔ اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لئے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا۔ اور نام اس کا قرار رکھا جب وہ لڑکا بالغ ہوا شہ زور نکلا۔ اور وہ نو عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی۔ اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اوٹنی سے ہٹ گیا۔ اور ایک روز وہ قدار اور ایک شخص کہ نام اس کا مصدرع تھا اس کے ساتھ مل کر اور ہرقیبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اوٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی اور اور یہ کہا کہ پانی پینے کے لئے جب کنوئیں کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ بمصدق اس آیت کے قولہ تَعَالَىٰ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بِنْتٌ تِسْعَةَ عَشْرَةَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصِلِحُونَ ۗ ترجمہ! اور تھے اس شہر میں نو شخص خرابی کرتے ملک میں نہ سوار تے دوسرے روز اوٹنی نے پانی پینے کے لئے اپنا سر جھکایا اور قدار بن سالف مردود نے آکر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا اوٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے اور مصدرع بن دہر ملعون نے پیچھے سے آکر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اوٹنی گر پڑی اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا اور اوٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا بھی بیچھا کیا لیکن وہ اس کو کپڑوں کے اندر لپیٹ کر اپنے پاس لے گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اوٹنی کو نہ مارتی اور یہ کئلا کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا اور ایک حدیث میں آیا ہے اَلْحَصْرُ مِنْهُمُ الْجَبَانِيُّ يَعْنِي شَرَابَ تَمَامِ بَرَايُنِ كِي مَالٍ هِيَ تَفْسِيرٌ فِي لُكْحَا هِيَ كِه اِيك عَوْرَتٍ بَدَكَار كِه كُه بِنِ

گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے اور چار سے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو کھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا اور اس واقعہ کے تین دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو تو لہ تعالیٰ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ ذٰلِكُمْ ثَلٰثًا اَيّٰمًا ذٰلِكَ دَعْوٰى عِيْرٍ مَّكَذُوْبِيْنَ ترجمہ! پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں تین دن اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا حیات تمہاری تین دن سے زیادہ نہیں ہے۔ حیران ہو کر بولے اس کی کیا علامت ہے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا۔ اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب تین دن کے بعد یہ علامت مذکورہ ظاہر ہوئی تو جی لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا اور جبرائیل نے ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے اسی وقت حضرت جبرائیل نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ ان ساتوں قبیلوں نے حضرت صالح سے پوچھا کہ کس طرح ہم لوگ ہلاک ہوں گے آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے بعد اس کے اس فرشتہ نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے ساتوں قبیلوں کو فی النار والسقر کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنَّا اَدْۡسٰنَا عِيْرِيْہُمْ صٰبِحًا وَّ اَحَدًا ۗ فَكَانُوْا كَمٰثِرِيْنِ الْمِحْطٰرِ ۗ ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ بھر رہ گئے جیسے روٹی دھنی ہوئی گائے کی مانند اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد صلح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے جس کو آج کل شہرستان عوج کہتے ہیں وہاں جا کر سکونت اختیار کی بعد کئی مدت میں انتقال فرمایا اور جامع مسجد کے داہنی طرف مدفون ہوئے اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔

بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام

جب کوئی اولاد سام بن تارخ کی عرب و عجم میں نہ رہی۔ ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ یاد شاہ نمرود علیہ اللعنتہ عجم کے ملک سے نکلا وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا اور اس کی زبان اور بعض نے لکھا ہے کہ کیکاؤس بیٹا کنعبا کا تھا اور وہ بیٹا منوچہر بیٹا فریدوں بن جمشید کا تھا لیکن وہ صحیح نہیں ہے اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کا نام نمرود تھا اور اس کی بڑی قوت اور حشمت و شوکت تھی بسبب توت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی بعد اس کے ترکستان فتح کر کے اولاد یافت بن نوح کو اپنا فرمانبردار بنایا۔ بعد ہندوستان میں آکر اولاد سام بن نوح کو مطیع کیا۔ اور ملک روم کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا اور تمام جہاں مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ میں لے لیا اور تمام جہاں مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ و دخل میں لے لیا بعد اس کے کونہ میں جا کر مقام کیداب جو کوبا بل کہتے ہیں۔ وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان اور ہندوستان اور روم اور مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لئے آتا تھا ایک ہزار سات سو برس اس نے بادشاہی کی بڑا متکبر تھا کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے (لعنت اللہ علیہ) ہاں ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا۔ اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس تخت کے چاروں پاسے چار ہاتھیوں کی پیٹھ پر رکھ بیٹھتا اور تخت کے نیچے ایک قبہ دیا ہے روی سے کچھ اتار موقی اور جو ہرات سے اُسے آراستہ کرنا اور لٹنا ہیں اس میں زربفت کی لگائی جاتی دن کو اسی تخت پر بیٹھتا اور چار سو کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بکھی رہتیں۔ اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم سب بیٹھتے اور امیر و صاحب اس کے گرد رہتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہفت آئینہ کی بادشاہی صرف چار شخصوں کو ملی اور ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا و مسلمان ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر و ذوالقرنین تھے اور دو کا فر ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصر ان چاروں کو ہفت آئینہ کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا۔ اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سب اپنا جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا کہ دیکھو اور غمناک بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ خاتمہ ہاری نیر کرے ایک ستارہ عجیب نکل پر نظر آتا تھا کہ کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا آج مشرق کی طرف۔

سے نکلا ہے۔ فرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں موجود ہو گا وہ تیری بادشاہت کو تباہ کرے گا فرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آوے گا منجموں نے کہا کہ وہ تین رات و دن میں پس فرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغہ ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً فرود کا ایک چوہدراس کا نام تاریخ تھا اور اس کے بھائی کا نام آذر تھا اور بعد وفات پدر کے یہی زندہ رہا جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں موجود تھا، اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار کے ساتھ تمام رات فرود کے سر ہانے کھڑا رہتا جس دن بہ حکم فرود نے جاری کیا اسی شب کو منبت ایزوی سے آذر کو خواہش ہوئی کہ اپنی بی بی سے مباشرت کرے اور ادھر حضرت برہم کی ماں کو بھی خواہش ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگیں کہ کیونکر اپنے شوہر کے پاس بائو خوشی حاصل کروں اسی پس و پیش میں تھی کہ وہ فرخواست سے آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازہ قندریہ پر پہنچی۔ دیکھا کہ دربان و پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے فرود کی خواہگاہ خاص میں بے گھٹکے گھسیں اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرود کے سر ہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے پاسبانی کو رہا ہے جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا اس نے اپنی بیوی سے کہا اب کیا صلاح ہے دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی کی شکل میں حاضر ہوا اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا اور میاں بیوی نے فرود کے سر ہانے مباشرت سے فراغت پائی اور اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے حضرت برہم نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پکڑا۔ آذر نے اپنی بیوی سے کہا خبردار یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے کیونکہ یہ فعل اس وقت موجب شرمندگی ہے تب بیوی ان کے وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئیں اور اس آنے جانے کی بجز خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی اور جب صبح ہوئی فرود یعنی نیند سے بیدار ہوا اور آذر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی، دیکھتا کیا ہے کہ نور اس کے چہرہ پر چمک رہا ہے، فرود نے کہا آذر آج چہرہ تیرا نورانی دیکھتا ہوں بخلاف اور دونوں کے۔ آذر نے اس کی ترقی اقبال کی دعا کی۔ بعد فرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا۔ رہا ہوں اور منجموں کو بلوا کر کہا کہ اپنے علم سے دریافت کر کے کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا ابھی نہیں سمجھوں نے دریافت کر کے عرض کی کہ جہاں پناہ سلامت شب گذشتہ کو وہ لڑکا بحکم خدا باپ کے صلب سے ماں کے شکم میں آچکا ہے۔ تب فرود فرود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں وقت ولادت کے اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے بچے مار ڈالے جب ابراہیم کو اپنی ماں کے پیٹ میں نو مہینے گزرے تب انکی

ماں فرود کے خون سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر شہر کے جا کو میدان میں ایک
 غار کے اندر جا بیٹھیں اور وہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار کی پارگی روشن ہو گیا اور
 ان کی ماں رونے لگیں اس خوف سے کہ مہلادیا یہاں آکر کوئی ٹرکے کو اور نہ ڈالے آخر ٹرکے کو پٹرے میں
 پیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں
 کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیئے خدا کے فضل و کرم سے ایک سے دودھ اور دوسرے
 انگوٹھے سے شہد جاری ہوا اور حضرت ابراہیم اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے اور ہر
 ہفتے ان کی والدہ ان کے پاس جاتیں اور ان کی زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتیں اور جب وہاں سے
 یعنی غار سے باہر نکل آتیں تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آکر غار کے منہ کو بند کر دیتا اور جب ان کی
 ماں ان کے پاس آتیں تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتیں۔ اسی طرح سے سات
 برس گزر گئے ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنی ماں سے پوچھا یا اَصْحٰی مَنْ دَبَّكَ تَرْجَمہ۔
 اے میری ماں تمہارا خدا کون ہے۔ وہ بولیں تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے اس
 کا خدا کون ہے وہ بولیں کو اکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کہ کو اکب کا خدا کون ہے اس بات کو سن کر ان کی
 ماں لاجواب ہوئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں اور یہ تحقیق اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً
 ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ غزوہ کا دشمن ہے اس میں کوئی شک نہیں اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔
 ایک رات ابراہیم نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ میرے ماں باپ
 ان کو خدا کہتے ہیں بمصدق اس آیت کے **قَوْلَهُ تَعَالَى فَلَمَّا جَنَّ هَلِكُهُ اللَّيْلُ رَاكَوْ كَبَّاحٍ قَالَ
 هَذَا رَبِّيَ فَلَئِمَّا أَفَلَّ قَالَ لَا اِبْرٰهِيْمَ ۙ حَبَّ الْاٰدِیٰئِیْنَ ۙ تَرْجَمہ** پھر جب اندھیری آئی اس پر
 رات کو دیکھا کہ ایک ستارہ بولے یہ ہے میرا رب پھر جب وہ غائب ہوا بولے مجھ کو تمہاری خواہش ہے
 چھپ جانے کی۔ پھر جب چاند نکلا بولے تو کہہ تعالیٰ۔ **فَلَئِمَّا رَا الْقَمَرَ بَا زِعًا قَالَ هَذَا رَبِّيَ
 فَلَئِمَّا أَفَلَّ قَالَ لَسْتُ لَكَ يَهْدِيَنِي رَبِّيَ لَا كُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّیْنَ ۙ**
 ترجمہ: پھر دیکھا چاند کو روشن بولے یہ ہے رب میرا پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم بولے
 کہ اگر نہ زاہ سیدھی دے مجھ کو میرا رب تو بیشک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں رہوں یعنی گمراہوں میں پھر
 جب دیکھا آفتاب کو بولے یہ ہے رب میرا کہ یہ سب سے بڑا ہے، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا بولے
**قَوْلَهُ تَعَالَى فَلَمَّا أَفَلَّتْ قَالَ يُقَوْمِ رَبِّيَ بَرِيٌّ مِمَّا تَشْرِكُوْنَ اِنِّيْ دَجَّهْتُ وَجْهِيْ
 لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ**۔ ترجمہ۔ پھر جب

وہ غائب ہو گیا تو بوسے سے قوم میری میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو اور میں اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں کیونکہ اسی کے آسمان و زمین کو یکطرفہ ہو کر یعنی صرف تنہا ہو کر بنایا اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔

فائدہ کہ حضرت ابراہیمؑ جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے

اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی عورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بعض لوگ قوم میں ایسی بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے، یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہراؤں اور میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو چونکہ وہ پہلے بھی نام ہو چکے تھے اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی۔

چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارہ کو اپنا رب ٹھہرایا لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جاننا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنیٰ میں کیوں آتا۔ پھر اس کے بعد چاند و سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہیں اور وہی

سب سے بڑا رب ہے اور عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو ماننا جلے کہ جس سے سب کا کام نکل سکے اور سب پر قادر ہو اس سورت کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں، یہ فائدہ تقاضی میں مرقوم ہے آڈرنے کہا لے تھیں فرزند۔ میرا خدا تو سوائے فرد کے اور کوئی نہیں لعنت اللہ علیہ۔

حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے اچھے جان نرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین و آسمان کو اکب اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہا تو کہ تعالیٰ دَاذَقَالَ اِبْرٰهِيْمُ اِذْ رَا بٰبًا مَّسْكُوْمًا اَتَىٰ اٰتٰنَا اِلٰهًا تَاۡجِرَ اِنِّیۡ اَدٰنَاکَ وَ قَوْمَکَ فِیۡ ضَلٰلٍۭ مّبِیْنٍ ؕ

۱۰ اس مقال میں اہل تورات سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ یہ واقعہ ابتدا کا نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نرود کے سامنے گئے

تھے اس وقت ان سے بطور طنز کے کہا تھا کہ تم اس خدا کو مانتے ہو اور اسی کو اپنا معبود مانتے ہو کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے

جو سب کو پیدا کرنے والا ہے اور جن کو تم مانتے ہو وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارے خداؤں کی حالت ہر وقت بدلتی رہتی ہے کبھی

طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب اور میرے خداوند قیوم کی ذات تغیر سے پاک ہے اور نیز اسی واقعہ سے جس طرح کہ یہاں پر ہے۔

لام ۱۷ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبود میں شک تھا کہ کون ہے آخر میں معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ ہے اور حالانکہ انبیاء علیہم

السلام کو ولادت کے وقت معلوم ہوتا ہے۔ جو خالق بیل و نہار ہے اور رزاق کل کائنات ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔

اسے میرے ابا جان تم کو ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا تو وہ
 تَعَالَى قَالُوا اجْتَنِبْنَا يَا لِحَقِّ اَمْرًا نَتَّ مِنَ اللَّعِينِينَ ۝ ترجمہ! وہ بولے اے ابراہیم کیا تو ہمارے
 پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق ادا کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں۔ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا تو وہ تعالیٰ بِن رَّبِّكَ ذَبْتَ السَّمَوَاتِ
 وَالْاَرْضِ مِنَ النَّارِ نَظَرُوهُنَّ ۝ اِنَّا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ ترجمہ! ہمیں اسے
 میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان وزمین کا جس نے ان کو بنایا اور میں اس
 بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود کچھانے سے اور بتانے کے آذر نے کسی طرح بھی نہیں
 مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ میرے ابا جان
 میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا بصدق اس آیت کے قول تعالیٰ وَتَايْتُنَا لَا اَكْفِيْكَ اَمْنًا
 مَّكَرٌ بَعْدَ اَنْ تَوْتُوْا مَدِيْرِيْنَ ۝ ترجمہ! قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں تمہارے بتوں کا تمہارے
 بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔

فائدہ۔ یہ بات انہوں نے چپکے سے کہی، پھر جب وہ شہر سے باہر میہ میں گئے تب حضرت
 ابراہیم نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذًا ذٰ
 لَا يَسْبُوْنَ اَتَّهُمْ لَعْنَةُ رَبِّهِمْ يَزْجِفُوْنَ ۝ ترجمہ! پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو
 ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا اس واسطے کہ شاید اس کے پاس
 وہ میلے سے واپسی میں پھر آویں اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھیں اور انکے پوجنے سے باز آجائیں۔
 اور نصیحت و عبرت ان کو ہو کہ یہ کیوں نہ ہو ہمارے معبود ہو سکتے جو خود آپس میں لڑتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کو جس
 قوم کی طرف پنہاں بنا کر بھیجا گیا تھا، ان میں ہر سال دو مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا یعنی ایک روز عید کے
 دن اور دوسرے عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر نے کہا کہ اے بیٹے ابراہیم
 تم میرے ساتھ میلے میں چلو اور وہ عظیم الشان میدا ایک بہت بڑے میدان میں مکتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں
 جشن میلے میں شریک ہوتے ہیں اور بہت اچھی مہتماری، تفریح بھی ہو جائے گی اور اس میلے کے
 جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے عند
 کیا اور کہا بصدق اس آیت کریمہ کے قولهُ فَنَظَرُوْا نَظْرًا ۝ اِنَّا نَجُوْهُ ۝ نَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ۝
 فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ۝ فَتَوْتُوْا عَنْهُ مَدِيْرِيْنَ ۝ ترجمہ! پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے ناکاہ کی ایک بارتاروں پر پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے

وہ ناراض ہو کر چلے گئے اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کے فہم و سمجھ میں آجائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں لیکن وہ باوجود کثیر اظہار برابر نہ جانے پر غمزدگرتے رہے اور ان کا سمجھنا ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گئے۔ خلاصہ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ اکثر ان میں بچوٹی تھے اس واسطے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں یعنی میں عنقریب بیمار ہو جاؤں گا۔ چونکہ وہ لوگ روزِ عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں تہوں کی پوجا کرتے تھے یہ ان کا آبائی دستور تھا۔ جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے اور اپنے بت خانوں کے معبودان باطل کو چھوڑ جاتے تھے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک تہرے کے بت خانے میں جا کر سب تہوں کے ہاتھ پاؤں توڑتا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس تہرے کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنے جن منار ہے تھے شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑتا کر ٹکڑے کر ڈیا گیا ہے یہ سنتے ہی وہ کافر مرد و سب معنوم و متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے تب ایشیام ہو کر یا پیادہ شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے تہوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ انوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے قولہ تعالیٰ قَالُوا مَن فَعَلَ هٰذَا بِآلِهِنَا اِنَّآ لَنظَالِمِيْنَ ۝ ترجمہ! وہ سب کے سب بولے یہ کام کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم ہے اور وہ سخت مجرم و ظالم ہے ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ شور مچانے لگے قولہ تعالیٰ قَالُوا سَمِعْنَا فَتٰیٰیٰ نٰیۡنَ كُرْمٰہِمْ یُقَالُ لٰہٰ اَبْرٰہِیْمَ ۝ ترجمہ! وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہ ہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا سخت دشمن ہے اس لئے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو، اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف توجہ ہوئے اور ان سے کہا قولہ تعالیٰ قَالُوا اٰنَا نُوْبِعِ عَلٰی اَعۡیُنِنَا لَعَلَّہُمْ یَشۡہَدُوۡنَ ۝ ترجمہ! وہ سب کے سب ترش ہو کر کہنے لگے کہ اک نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس جوان کو دیکھیں اس نے یہ جرات کیے

کی، اگر فی الحقیقت یہ کام اس نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے اور ہم سب کے سب اس ظلم پر گواہی
 دیں گے۔ تاکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جاسکے تاکہ وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے
 یہ خبر بادشاہِ نمرود تک بھی پہنچ گئی اور وہ بھی یہ کیفیات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا اس نے اپنی رعایا میں
 سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں
 کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کی ہے سزا دی جائے چنانچہ بادشاہِ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں
 اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورہ سے کہنے والا آخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے اور جب
 تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مقالہ
 کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے چنانچہ بادشاہِ نمرود نے
 دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرادی گئی اور اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کو طلب کیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہِ وقت کے حکم کی تعمیل کی
 اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کو بلوایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہِ نمرود نے بہت دھمکایا اور
 ڈرایا اور کہنے لگے یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اسے ابراہیم انوس ہے تم نے سب
 کو ہی توڑ دیا کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا۔ آخر یہ کیا بات تھی۔ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے سنیں اور پھر بولے میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب سنا تو قریب سے
 ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اسے ابراہیم علیہ السلام ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں
 کی فکر کروں گا۔ شاید تمہیں نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ پھر کافروں نے بالاصرار حضرت ابراہیم
 علیہ السلام سے پوچھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کہے: **قَالَ اِنَّكَ فَعَلَمْتَ هٰذَا اَبَاالْحَمِيْمٰ**
يَا جِبْرٰ اٰهِيْمٌ ترجمہ: کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا کہ کیا تم نے
 ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور ہم لوگ زیادہ تر گمان بھی تم پر ہی کرتے ہیں حضرت ابراہیم
 علیہ السلام پر برابر یہ لوگ زور دے رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار
 کر لیں۔ لیکن یہ کام بذاتِ خود حضرت ابراہیم کا نہیں تھا بلکہ یہ کام تو اس ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف سے تھا
 جس نے حضرت ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادام و پشیمان اور شرمندہ ہوں
 چنانچہ دربارِ الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اتنے
 اتنے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اسی کے ہاتھ میں کھڑا ہے۔ ارشاد

ربانی ہے تو قرآن تعالیٰ۔ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَهُنَا نَسْتَلُوهُ هَهُنَا كَاثُو يَنْطِقُونَ
 ترجمہ حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں
 دریافت کرتے ہو تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے اگر وہ بولنے پر قدرت
 رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعہ سے مطمئن ہو جائیں انہوں
 نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم بت بھی کہیں بولتے ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ حرکت کرتے
 ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے
 اپنی ساری قوم سے کہا کہ اے میری قوم جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں پھر ان کو خدا کیوں
 کہتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو یہ کیسی عقلمندی کے خلاف ہے ذرا تو غور کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کا سن کر ساری قوم نے اپنا اپنا سر نیچا کر لیا اور آپ میں کہنے لگے یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں
 اس کی بالکل صحیح ہیں۔ تو قرآن تعالیٰ شَعْرًا فَكُفُّوا عَنِّي ذُرِّيَّتِي لَعَلَّكُمْ كَفَّارُونَ مَا هُوَ إِلَّا
 يَنْطِقُونَ ترجمہ بوجہ شرمندگی کے ساری قوم نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے اور اسی حالت
 میں کہنے لگے کہ اے ابراہیم یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے اپنی ساری قوم کا مایوسانہ جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے ہیں پھر اس
 کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا تو قرآن تعالیٰ قَالَ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ
 شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اِنَّ تَكْفُرًا لِّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
 ترجمہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے
 کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو سو اے خداوند قدوس کے جو تمہارا
 کچھ بھی بھلا برائہ کر سکے میں تو اس معبود سے بالکل بیزار ہوں اور تم سے بھی کہ تم لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے
 کیونکہ جن پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود تراشیدہ ہیں اس لحاظ سے تم
 خود ان کے خالق ہو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے قوم اگر تم کو عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت
 کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو، یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے
 اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا جب ان کا فروں سے کوئی دلیل نہ
 بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار مخروم میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاقاً وائے سے منظور ہو جائے۔
 اور چونکہ یاد شاہ مخروم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میاکی اور صحیح جواب سے عاجز آچکا تھا لہذا

اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی جس میں یہ طے پایا جائے کہ حضرت ابراہیم کو اس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو کچھ ہی دن گذرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلبی ہو گئی اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز پر جو کہ حضرت ابراہیم کے مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے ہر سردار نے اپنی اپنی رائیں دربار شاہی میں پیش کیں اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر ہمدردی غور و خوض کیا۔ لیکن اچھی صحیح نتیجہ پر پہنچ نہ سکے تھے کہ ایک بہت ہی مہرا اور ضعیف امیر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے اس نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت کر کے لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھی کی جائیں اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آجائیں تو لکڑیوں میں آگ لگادی جائے جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اس وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے اور تمام قوم کو بے ہوش حاصل ہو ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا تو لہ تعالیٰ خَالِدٌ حَرِيْرٌ قَوْرًا وَاذْصُرُوْا اِلَيْهِمْ كَمَا اِنْ كُنْتُمْ فَاٰلِیْنَہُ ترجمہ! اور ساری قوم نے یہی آواز دہرایا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے حتی المقدور لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے پھر وہ آپس میں کہنے لگے قَوْلَ تَعَالٰی قَانُرًا لِّاٰنْسَانٍ اَلْبٰیۃِ بُنِیَآتًا فَا نَا نَعُوْہُ فِی الْاَجْحِمِ ہا انہوں نے کہنا وہ اس کے واسطے ایک عمارت یعنی چار دیواری اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ پس بادشاہ نمرود نے اس چار دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والے کارگیروں کو دے دیا گیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے اور چار دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ بارہ کوس کا ہو اور اونچائی اس کی سو گز کی ہو۔ پس ایک دیوار اسی حکم کے مطابق تیار ہوئی بعدہ نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرادی جائے کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کر لیں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلہ کے مطابق لکڑیاں

لاکر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کیں۔ پھر جب اس میں آگ لگادی گئی تو شعلہ اس کا اس قدر اونچا
 ہوا کہ وہاں سے تین میل کے فاصلے پر جو جانور اڑتے تو اس کی پیش سے جل بھی کر خاک ہو جاتے اس میں
 سب کافر متردد ہوئے کہ ابراہیم کو کیونکر اس آگ میں ڈالیں اتنے میں ابلیس علیہ اللعنتہ نے آکر کافروں
 کو حکمت بتائی اور بولا ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ انہوں نے منجینق کے کاریگروں کو بلایا اور
 ان کاریگروں نے منجینق تیار کی اور اس منجینق کے معنی اردوزبان میں گوپھن بھی کہتے ہیں اور اس سے پہلے
 کبھی کسی نے منجینق نہیں بنائی تھی۔ بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہ تھی۔ اور یہ چیز ابلیس علیہ اللعنتہ نے دوزخ میں دیکھی
 تھی اور یہ خاص طریقہ دوزخ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالاجائے
 گا تو اسی منجینق میں رکھ کر ڈالاجائے گا جب ابراہیم علیہ السلام کو اس منجینق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ
 میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالایا اور اس ملعون نے منجینق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک
 کیا تو اسی وقت بارگاہ الہی سے آواز آئی اے جبرائیل آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے
 عیلیل کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں میں نے دیا ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے
 خلیل علیہ السلام کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے
 کھول دیئے تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آگئے اور کہنے لگے یا الہی اس میدان میں ایک ہی
 موجد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے اس کو دشمن کے ہاتھ
 میں تو نے ڈال ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتو تم اگر
 چاہتے ہو تو اس کو امان دو ابلیس نے گوپھن کو درست کر کے چار سو ریاں اس میں لگائیں وزیر نے فرود
 کو کہا کہ پیرا بن اپنا اس کو پہناؤ کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیرا بن کی برکت سے
 نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کہ پیرا بن نرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ
 کر گوپھن میں رکھ کر چار سو آدمیوں نے مل کر کیکارگی زور کیا مگر منجینق اپنی جگہ سے نہ ہلے اور ابراہیم علیہ
 السلام کے باپ آذر نے بھی آکر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو کہ اس کو میں بھی کھینچوں اگرچہ وہ میرا فرزند
 ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے اور وہ ایکے سی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے
 باپ کو منجینق کھینچتے دیکھا تو کہا یا الہی میرا باپ بھی میرا دشمن ہے۔ اے میرے خدا میں آج سب
 سے بیگانہ ہوں۔ سولے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ پس چار ہزار آدمی مل کر اس کو گوپھن کو
 کھینچتے تھے اس میں ابلیس مجس ایک مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمام
 آدمی مشرق و مغرب کے منجینق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجینق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے

کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتائے دیتا ہوں تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے
 تو البتہ ان کو گویں سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ چلبے کہ اڈل کچھ لوگ زناہ کریں اس کے بعد پھر
 منجینق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ پس اس قوم سے چالیس مرد و عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی
 وقت فرشتے اس حرکت قبیح سے نفرت کر کے چلے گئے۔ اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ زنا کر کے
 منجینق کو پکڑ رکھیچھا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیمؑ کو اٹھا کر معلق آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں
 کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے یارب تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت
 جبرائیلؑ ستر ہزار فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیمؑ! اگر تو چاہتا ہے تو میں
 ایک پر آگ پر ماروں اور آگ دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے حضرت جبرائیلؑ سے
 کہا کہ جبرائیلؑ یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ اور اے جبرائیلؑ جو
 خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کو جو جہنم میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے یہ بات سن
 کر حضرت جبرائیلؑ نے کہا کہ حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ تمہارا کیا مطلب ہے فرمایا کچھ مطلب ہے ضرور
 لیکن تم سے نہیں کوئی حاجت میری ہے تو اس رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیمؑ
 جب آگ میں جا کر سے اور وہ جہنم ناپاک نمرود مردود کا جو حضرت کو بنا یا تھا اسی گھڑی جل گیا اور اس آگ
 میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیمؑ کو کچھ بھی گزند نہ پہنچا سکی کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل
 کرم تھا جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے
 ہو گئی اس باغ میں بلبلیں بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت ابراہیمؑ کو نظر آئیں اور ان بلبلوں نے
 بھی اسی باغ آتش میں نشیمن بنائے اور اسی وقت نسیب سے آواز آئی قَوْلَ تَعَالَىٰ يَا خَدَّٰٓءُ كُوْنِيْ بَرَّۤءًا
 وَ سَلَامًا عَلٰٓی اِبْرٰہِیْمَ ؕ وَ اَرَادُوْۤاۤیْمَا كَيْدًا فَاَجَعَلْنٰہُمْ اِلٰہًا حَسْرَةً لِّمَنْ ہُوَ تَرَجُّمًا
 ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی ہو ابراہیمؑ پر اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہیں لوگوں
 کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے واسطے حضرت
 جبرائیلؑ علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا اور ایک حلقہ اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا اور
 اسی تخت پر حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ اور جس رسی سے ہاتھ و پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت
 ابراہیمؑ علیہ السلام کو آگ میں ڈال تھا وہ رسی اس آگ سے جل گئی۔ اور اس آگ سے حضرت ابراہیمؑ
 علیہ السلام کو ایک سر مو برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا یہ دیکھ کر حضرت جبرائیلؑ
 علیہ السلام بڑے متحرم ہوئے اور حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیمؑ کہنے لگے کہ اے خدا کیا

دیکھتے ہو وہ بولے کہ مجھے تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا لوگ اس وقت سخت پریشان
 کی وجہ سے نہ معلوم کیا کچھ کرتے ہیں لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں
 ذرا بھی لغزش نہ آنے دی اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا اور آپ کا صبر بھی عجیب
 صبر رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے خداوند کریم کے کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہیں کی اور
 نہ کچھ مدد مانگی اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے تم پر بخشا اور
 تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی تھی اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلتے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو
 کر میوے لائیں اور حضرت کے چاروں طرف زکس و بنفشہ کے پھول رہے اور فرود علیہ اللعنت نے
 ایک سینارہ پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہوا اور
 اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا۔ لیکن حضرت
 ابراہیم کو کوئی بھی آگ سے گزند نہ پہنچی اور آپ گل ریحان کے بیج میں سایہ دار درخت کے نیچے تخت
 پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ انوس میری تخت برباد ہو گئی وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ
 السلام کو پتھر پھینک پھینک مارنے لگا اور حکم خدا وہ پتھر جو مردود مردود پھینک رہا تھا ہوا پر معلق ہو
 گئے اور ایک گہرے بے آب پر سایہ بھی کر دیا اور اس ابر سے اتنا پانی برساکہ اس پانی سے آتش مردود
 بالکل بجھ گئی اور اس کا زہر با مان اس بلند مینارہ پر چڑھ کر باؤا نہ بلند کہنے لگا اے ابراہیم ذبح دے
 یعنی راست، نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ آیا۔
 مردود نے کہا اے ابراہیم! تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ
 رکھا اور یہ کہتا ہوا مردود مردود اپنے گھر چلا گیا۔ اور چند روز اسی ملک میں رہا اور کسی سے نہ بولا اور مردود بہت
 زیادہ متفکر رہتے لگا اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم پر ایمان لے
 آؤں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سے نبی ہیں اور پھر رسول معلوم ہوتے ہیں پھر اس بات سے
 بھی خوف کرتا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی
 پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ
 قربانی دینا چاہتا ہوں آپ کی یکدلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہاری قربانی منظور
 نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ مردود کہنے لگا کہ میں قربانی کو دل کا چاہے قبول ہو
 یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ چار ہزار گائیں لاؤ۔ چنانچہ وہ چار ہزار گائیں لائی
 گئیں۔ پھر اس نے ان سب کو قربان کیا۔ پھر بولاکہ دس ہزار خزانے سے زہر سرخ اور دس ہزار گنچ سیم

کے تم کو دیتا ہوں کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے اور تم کو اس نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو عنایت نہیں کی گئی۔ نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے ملعون میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے اور جو مال تیرے پاس ہے اسکا کا دیا ہوا ہے یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے پھر وزیر ہامان نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ ابراہیم نے وہ بزرگیاں بہ سبب آتش پرستی کے پائی ہیں اور اسی طرح کی چند باتیں اس نے کہیں کہ آگ ایک فرشتہ ہے جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا۔ ہامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام فَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَٰلِكْ آتش پرست ہوئے وزیر ہامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جاگرمی اسے مردہ کی ہونچھ جلی گئی اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا۔ اور وہ آنکھ اس کی بالکل روشنی سے محروم ہو گئی۔

نمرود کی بیٹی بالا خانہ پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اچھی حثمت و رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کنارے براس کے چٹے جاری ہیں اور ان کے تخت کے چاروں طرف گل و بنفشہ و زرخ و درخمان کھل رہے ہیں۔ اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر نہ ملے بلکہ ان کے ایتادہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر ہامان کو بھی دیکھا یہ بات سن کر اس نے ہامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو نے ابراہیم کو دیکھا۔ وہ بولی ہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں حیرت میں رہ گئی یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا کہ اے میرے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے پر اور ہامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان آپ کیوں چپکے بیٹھے ہیں کیوں نہیں کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے۔ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا۔ چپ رہ اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر ہامان کے پاس چلا گیا اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم سے بولی اے ابراہیم تو مجھ پر کرم کر میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَبْرًا حَيِّمًا دَسْوَلُ اللَّهُمَّ ج اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمہ کی دعوتوں

گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہت بہتر ہے وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے۔ اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ قاف کے پاس لے جا کر رکھا۔ اور دوسرا قتل یہ بھی ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی۔ ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان آتا اور مسلمان ہو جاتا تھا۔

میکان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش کدہ سے نکلنے کا

راوی کہتا ہے کہ مسلسل چالیس دن تک آتش کدہ نرو میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے اور ملک شام کی طرف چل دیے اور وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے آپ نے وہاں قیام اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا، دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف پھلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب کے سب نفیس لباس پہن کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اسی جیسا آج تک سارے عالم میں کوئی نہیں ہے۔ اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی خواستگاری کرتے ہیں اور وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً سات دن ہو رہے ہیں لوگ برابر وہاں جاتے ہیں اور اس کا طریق عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوئے اور اسی میدان کے ایک گوشہ میں جا بیٹھے جب وہ بہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ ستر خواہیں لے کر اور تاج زرین ہریہ رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہرنج زرین جو اہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی دیکھا کہ ایک نوزاد کی پیشانی پر چمکتا ہے وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہرنج زرین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود

تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے اور حقیقت وہ نورجس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر بنو وار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اے بیٹی نیک شوہر تو نے پایا۔ مگر مرد غریب ہے کچھ فائدہ نہیں (آخر الامر) سب امراؤں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کیں اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی، اور یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہِ سائِرہ خاتون اور حوا علیہما السلام کے نہ کوئی سخن و جمال میں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ **اَلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ** اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائِرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے لہذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا سائِرہ خاتون بولیں کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے اگر چھوڑے گا تو قبہا و گم نہ بنے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کیونکہ تمہارے بغیر زندگی محال اور وبال ہے، پھر سائِرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی اس نے ان کو اجازت دے دی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائِرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام مگر بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے۔ اور بالخصوص عروسوں کو کابہت زیادہ شائق ہے، اور بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے راستہ پر دس آدمی متعین رہتے ہیں جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس مال کا حصول لیتا ہے اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائِرہ خاتون کے برابر حسینہ سار سے جہان میں کوئی عورت نہ تھی اور اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی آخر الامر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سائِرہ خاتون کو اس میں چھپا کر تھیل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر بکھڑا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو حصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا حصول کیوں اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ صندوق مست کھولو اس کا حصول جو بیگ کا وہ میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا پانڈی تو تو بھی تم کو دے دی جائے گی یہی کہہ کر ادھیڑ زیادہ اشیائے ہوائیہ نہ معلوم اس میں کیا چیز ہے ضرور کھولنا چاہیے چنانچہ انہوں نے بالآخر اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال حسن سے مملو آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہے جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ پس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے چنانچہ رسول اکرم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا کہ **اَمْشَرْتُ خَلْقِي اللّٰهُ اَوْ اَصْدُقْتُ** ترجمہ! بدترین آدمیوں میں رہ کے ٹیکیاں ہوتے ہیں یعنی مراد اس سے ہے حصول لینے والے جب حصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائِرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے

تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے اور بیوی کو بہن کہتا اذرتے شریعت درست ہے یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دیدو تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے سائرہ خاتون نے کہا صَعَادَ اللّٰہِ یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نندا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے موطر کر کے میرے پاس لاؤ یہ حکم اسی ملعون کے ایسا ہی کیا گیا جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا لیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ مثل اور نیشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانو تک زہن میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی پس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادو گر ہے حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بد بخت میں جادو گر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی گہبانی کرنے والا ہے اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے یہ سنی کر اس نے توبہ کی۔ نبی انصوار ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے نبی معصوم میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لئے توبہ کرتا ہوں جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہی کہ میں حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہوں تو اسی وقت تمام بدن اس کا نیشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں پھر کہنے لگا اے نبی پاک دامن میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجئے حضرت سائرہ خاتون بولیں کہ اے بد بخت یہ دعا تو میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے اور وہ خداوند کریم کے دست میں گروہ چاہیں مجھے معاف کر دیں یا نہ کر دیں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے لئے حضرت ابراہیم وہاں شریف لے گئے وہ بادشاہ بولا اے ابراہیم علیہ السلام مجھے معاف کیجئے میں نے آپ پر برا ظلم کیا ہے اور میں اب توبہ کرتا ہوں حضرت ابراہیم

علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں ہے یہ رب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو
 تمام جہان کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے اسی کے مطابق کرنا ہوگا اسی وقت حضرت
 جبرائیل علیہ السلام نے آکر فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ خدا نے تعالےٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا ہے
 کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے نہ ہرگز اس سے راضی نہ ہونا پھر حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
 جب یہ باتیں نہیں سنی تھی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم کو دے دیا یہ کیفیت ہونے پر پھر
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی
 پائی مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ملک کے دو حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کعبہ
 کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو حصہ بچا اسی کو واپس دے دیا پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دیکھی
 نیک رو، خوبصورت صاحب جمال لاکر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ اے نیک نخت بن بن میں نے
 تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا پس تمہارے خود معاف کے
 شکرانہ میں یہ بی بی حاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں اور جو گناہ و تقصیریں مجھ سے ہوئیں معاف کیجئے بس حضرت ابراہیم
 علیہ السلام سائرہ خاتون اور بی بی حاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے راستہ میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال
 جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ خاتون
 تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے
 سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا جو جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھیں۔ اور جو
 تم کرتی اور کہتی تھیں سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے سائرہ خاتون نے بی بی حاجرہ
 کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں دے دیا یہاں ایک سوال ہے یعنی باوجود اس کے کہ جناب سرور
 عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے
 پس اس میں کیا راز ہے کہ جب منافقوں اور کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت
 لگائی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ
 کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا بلکہ حضرت عائشہ کی تہمت اور پاک دامنی کی خبر دی اس کا جواب
 یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ عزوجل مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ کی تہمت اور پاک دامنی
 کی خبر دی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ عزوجل مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ کو
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اس وقت منافق لوگ حضرت رسول خدا پر طعن کرتے اور

کہتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عصمت کے حال سے آگاہ تھے۔ لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا گیا اور خداوند قدوس کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت کو بندیدہ وحی آسمانی سے ثابت اور مستحق کر دے تاکہ ام المؤمنین پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ جھوٹے اور رو سیاہ ہوں اور منافق پھران پر کسی قسم کا کوئی ٹھٹھن نہ کر سکیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا اور کہا کہ اے ابراہیم تو اپنی بی بی کو بچشم خود دیکھ لے اور جناب رسول خدا صلعم کو فرمایا اے یہ عالم صلعم غائب میں خود عائشہ کا نگہبان ہوں۔ پس ان دونوں کے درمیان از رو سے مرتبہ اتنا فرق ہوا کہ حضرت سائڑہ خاتون کے نگہبان حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بان رب العالمین تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں سکونت اختیار کرنا

الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مذکورہ سے نکل کر بیت المقدس کی طرف چلے گئے جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آکر فرمانے لگے اے حضرت ابراہیم زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہو گا جب حضرت ابراہیم نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے اور سائڑہ خاتون نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں بی بی جاجرہ کو دیا تھا باجرہ نام بھی اسی واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سائڑہ خاتون کے ساتھ براقصہ کرتا تھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا تھا اس کے بعد اس نے توہر کی اور حضرت سائڑہ خاتون سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے آپ اس کو اپنی خدمت میں لے جائیے کہ جس وقت میں اس سے براقصہ کرتا تھا اس وقت ہی ہاتھ میرا ایسا ہی خشک ہو جاتا تھا اور نسلی اقباء سے بی بی جاجرہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی ہوتی ہیں اور ان ہی کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل منسوب ہے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مذکور میں قیام کیا اور عمارتیں بنوائیں۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک بقید حیات موجود تھا چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر مالک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ

لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم کو ایک قبلہ چاہیے۔ تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف منوجہ ہو کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور رضائے الہی سے ایک پتھر بہشت سے لاکر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا اے ابراہیم ۴

هٰذَا هِیَ قِبْلَتُكَ وَ قِبْلَةُ اٰلِیْنِیَّۃٍ مِّنْ بَعْدِکَ ۗ تَرْجَمُہَا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اے خلیل اللہ یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاء و اول کا قبلہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جالیس ہزار پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں، ان سب انبیاء میں سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس پتھر کا نام صخرۃ اللہ ہے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رب سے اور اولاد الہی ان کی وہاں پیدا ہوئی اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا اے نمرود کہہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِبْرٰہِیْمٌ مِّنْ سُوْلِ اللّٰهِ نمرود نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے تجھیں لوں گا اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ملعون تو آسمان پر کس طرح جائے گا۔ وہ بولا کہ میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم کیا کہ چار گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے بڑا ہی متردّد ہوا کہ اب کیا کروں شیطان مرود بھی اس کے ہم نشینوں میں آکر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تابوت کے چاروں کنارے چار گدھوں کو باندھو ایک رات تک ان کو بالکل جھوکا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا قصد کر رہے گئے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے آئیں گے اور تھوڑے ہی عرصہ میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کے خدا سے سلطنت فوراً تجھیں لینا اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا اور اپنے ہمراہ ایک مصاحب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا ٹیلے اوپر پہاڑوں نے زمین کے کیساں معلوم ہوں گے پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آوے گا اس وقت سمجھنا کہ میں اب آسمان پر پہنچ گیا ہوں ان ٹیلے علیہ العنتہ نے ایک کو کہا اور نمرود بادشاہ نے اس سے سنا اور پھر دیا ہی کیا

اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت میں سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر گمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگاوے اس وقت اس کے مصاحب نے کہا کہ اے مردود بادشاہ تو یہ کیا کرتا ہے۔ اس مردود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا اے مردود تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے اور وہ سچا خدا ہے کہ تیری کو حضرت ابراہیمؑ پوچتا ہے اور نام اس کا تبار و جبار بھی ہے تو سب سے بدبخت ہے۔ تب مردود پلید نے غصہ میں آکر اس کو دہاں دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آکر اس کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ پس مردود نے آسمان کی طرف تیر لگایا اس وقت جناب باری سے حکم آیا اے جبرائیل مردود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر مردود کی طرف ڈال دو تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جاوے۔ تب جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے مچھلی نے کہا اس کو کیا کر دو گے حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلود کر کے مردود کی طرف ڈال دوں تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ بجاوے یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے نہایت مودبانہ تقاس کی کہ یا اہی تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ اے مچھلی اس وقت جو رنج تیر کو ہوتا ہے دوسری بار تیر کو ہرگز نہ ہو گا اور نہ تجھ کو کوئی ٹھیک ہوگی۔ پس حضرت جبرائیل نے مردود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب مردود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا پس جو گوشت کہ اوپر کی طرف باندھا تھا اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا۔ فوراً زمین پر آب پھینچا اور جب تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ بوجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے اور بعد ایک ساعت کے ہوش میں آئے تو سب کے سب علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا جبکہ بوجہ خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے اور اصل حقیقت کو بھی پوچھتے نہ تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو دی پہاڑ پر جب کشتی پر سے اترے تو جو لوگ کہ حضرت کے ساتھ کشتی پر تھے انہوں نے ایک ایک گاؤں جہاگنا آباد کیا تھا اور علاقہ کا نام ثمانینہ تھا۔ وجہ تسمیہ اس کی حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں بیان ہو چکی ہے ان لوگوں کو حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر بسے اس بات کو کسی نے نہ مانا پس حضرت نے دعا کی تب ہر قوم کی علیحدہ علیحدہ

زبان پیدا ہوئی کوئی کسی کی بات نہ سمجھتا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اسی وجہ سے متفرق ہو کر اطراف جہان میں پھرتے آباد عمارت بنا کر بے اور درد و سزا تو لیا یہ ہے کہ کشتی نوح کے ساتھ کسی نے دشمنی پیدا کی تھی وہ بولے جب نوح کشتی سے اترے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے وہ لوگ کشتی سے باہر نکلے تب خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کی بات کوئی نہ سمجھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی نہ کر سکے اس وقت ہر شخص اپنے اپنے حال پر رہ گیا۔ قصہ جب سرد لیکن آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم سے کہا دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے اب تیرے خدا سے میں لے ملک آسمان چھین لیا یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا اے مردود میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے اور وہ سب پر قادر ہے وہ تمہارے اور سب مقہور، اور وہ رزاق ہے سب مرزوق، اور وہ خالق ہے سب مخلوق، پھر اس لعین نے کہا اے ابراہیم تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا، میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وَمَا تَخْلُقُ جُنُودًا دِيكَ اِلَّا هُوَ ترجمہ۔ اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر مردود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کرتا کہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مردود تو اپنا لشکر جمع کر میرا خدا کسٹنڈن میں جمع کر دے گا تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا تین سو فرنگ یعنی نو سو کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی اور وہ مردود تقریباً ساٹھ برس تک اسی خیال باطل اور فکر بے ہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر و فوج زمین بیل میں لاکھ جمع کرتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پلید خدا سے شرم کر کہ وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے اس سے خدا تو ڈر اور اپنا خالق جان کہ اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اسی پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں تب حضرت ابراہیم نے خدا سے دعا مانگی۔ اے باہر الہا یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہلاک کر، تب حضرت جبرائیل آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی پس مردود نے ساٹھ لاکھ سوار زندہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے مگر پہلے میری فوج سے آکر ٹوٹے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی۔ حکم آیا تو کیا مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدایا

تیری مخلوقات میں سے مجھ کو فیاضیت اور ہر جانور کی خوراک ہے میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مجھروں کو چھوڑ دیں اور اسی وقت فرشتوں پر فرماں الہی ہوا کہ تم کوہ قاف میں جا کر مجھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی یا الہی کتنے مجھ چھوڑ دیں۔ حکم ہوا کہ صرف ساٹھ لاکھ مجھ چھوڑ دو تاکہ ہر ایک سوراخ کے مقابل میں لشکر نمود کے ایک ایک ہو جائے تو نمود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں کھول دیا۔ نب مجھ ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمود کی لشکر گاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا۔ اسے مجھ رو بہ تمہاری خوراک نمود کے لشکر میں ہے تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا کہ اسے نمود! دیکھ میرے خدا کی فوج آپہنچی ہے جب نمود نے دیکھا کہ مانند ابرسیاہ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے تو اس یمن نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہاں ہوشیار ہو کہ علم کھڑا کرو اور لڑائی کا تقاریر بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور کہتے ہیں کہ شور و غل سے نمود کے لشکروں کے زمین میں نزلہ پڑ گیا۔ پس کیا تھا۔ آنا فنا فوج الہی آپہنچی۔ شور و غل آدمیوں کا جو نمود کے لشکروں میں ہو رہا تھا مجھروں کی آوازوں سے کم ہو گیا اور جہاں پر نزع پڑ گیا اور مجھروں کے غل سے جہاں پر ہو گیا اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا۔ اور ہر سوار کے سر پہ ایک ایک مجھ بیٹھ گیا اور مجھ اپنے دھمکے ان کے سروں میں چھو چھو کر مغز اور گوشت اور پوست اور رگ و آنت اور خون سمیت سب کا سب کھا گئے۔ اور خدا کے فضل و کرم سے مجھ ذرا بھی ماندے نہ ہوئے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ بڑی تنگ ان کی کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر کی لشکر گاہ میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہا۔ اور ایک مجھ کا نالکرا ٹولا غزینہ کے ہر عضو میں اس کے نقص تھا وہ مجھروں کا سردار تھا اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی نمود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے پس خدا نے اس کی معروضات قبول فرمائیں۔ جب نمود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنی لشکر گاہ سے تو بالا خانہ میں حرم بابل کے بیٹھ کر یہ تو تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مجھ کو نہ مار سکا۔ وہ سردار مجھ جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کاٹنا تھا اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسی طرح کے جانور آکر ہمارے سارے لشکر کھا گئے۔ اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے اتنے میں وہ مجھ اس پلید کی ناک میں جا گھسا اور داغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ چارہ میں دن رات اسی طرح پریشانی میں گزارے۔ جب اس کے دوست آشنا تو کر چا کر اس کے سر پہ

لکڑی یا کفش باری کرتے تو اس کے صدمے سے وہ پھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا توڑی دیر
 کے لئے دم لیتا پھر اس کو کچھ معمولی سا چین آجاتا ہے۔ بعد چالیس دن رات کے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اس کو بلاؤ اور
 اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس
 جا کر کہا کہ اے نمرود تو کہہ لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمٌ رَّسُوْلٌ اللّٰهِ ط۔ نمرود ملعون نے یہ سن
 کر کہا کہ وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی و احسانیت کی اور تیری رسالت کی حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول
 ہوں۔ تب تو ایمان لے آئے نگاہیں اتنے میں تمام فرش فروش اور چھت پردے اور آلات اور
 اثاث البیت غرض سب شے نے باواز بلند کہا لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ذٰلِکَ
 رَسُوْلٌ دَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ہ نمرود نے کہا کہ تمام اسباب و آلات گھر کا جلا کر دریا میں ڈال دو ویسا ہی
 کیا گیا تب نمرود پلید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب پھر کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور
 تو اس کا رسول برحق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام در و دیوار اور ستون اور مکانات
 اور سب چیزیں اس کی شہادت دیں گی۔ اسی وقت سب نے باواز بلند فصیح زبان سے کہا۔ کہ اِلٰہَ
 اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ وَ اِبْرٰهِيْمٌ رَّسُوْلٌ دَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ہ پھر نمرود نے
 ان سب شے کو یعنی در و دیوار و مکان و ستون سب کھد کر جلا دیا۔ پھر نمرود ملعون نے کہا اے
 ابراہیم بتاؤ اب کون تمہارے خدا کی گواہی دے گا اور تمہاری رسالت کی گواہی دے گا حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ پھر اسی وقت کپڑوں نے
 گواہی دی۔ ان کو بھی نمرود ملعون نے اتار کر جلا دیا۔ پھر پلید نابکار نے حضرت ابراہیم سے کہا
 بتاؤ اور کون بولے گا۔ پھر اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت خلیل اللہ سے کہنے
 لگے۔ اے ابراہیم علیہ السلام تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا مگر یہ نمرود
 کافر ہرگز ایمان نہ لائے اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ
 جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کو امر کا ثنا چاہا اس وقت ابو جہل نے کہلے عبداللہ تم اپنے
 محمد سے کہہ دو کہ جب سے میں اس کو دشمن جانتا ہوں تب ہی سے ہی بولتا ہوں کہ وہ رسول خدا کا
 نہیں۔ یہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی نماز کے لئے اذان دیں گے اَشْهَدُ
 اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلٌ اللّٰهِ ط۔ یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی

بولے گا محمد رسول اللہ خدا کا رسول نہیں پس یہ دونوں مردود ابو جہل اور مردود تیا میں بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ان پر ہے حضرت جبرائیل نے آکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس ملعون کی اجل آج کی ہے اور اب کچھ دن بھی باقی نہیں ہیں جس گھڑی وہ پھراس کی ناک سے نکل کر چلا گیا۔ وہ مردود میں جہاں تھا مگر گیا اور جنم واصل ہوا۔ اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مردود کے سر پر سونٹا مارنے کے لئے ایک نوکر مقرر تھا۔ جب شب روزاں کو سونٹا مارا جاتا تو اس کو کچھ قرار و آرام ہوتا اسی طرح جب رات دن سونٹے لگاتے لگاتے چالیس دن گزرے تو نوکر مقرر تھا وہ ناچار ہوا آخر غصہ ہو کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک سونٹا ایسا مارا کہ اس مردود کا سر دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بھینسا نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا اور وہ چھ مفر کی کر کافی بڑا ہو گیا تھا وہ سر کے پھٹ جانے سے باہر نکل آیا اور پھر وہ بھی چلا گیا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مراجعت

جب مردود واصل جہنم ہو گیا تو اس کی قوم میں جو لوگ موجود تھے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آکر کہنے لگے کہ آج تک یہ ملک مردود پیدا کا تھا، اب تمہارا ملک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ملک گیری سے کچھ کام نہیں اور یہ ملک ہمیشہ ملک بے زوال کا ہے اور میں بندہ بازوال اس بے زوال کا ہوں ملک مصر و عجم بادشاہوں کی جگہ ہے اور ملک شام نبیوں کی جگہ ہے میں تو شام جا رہوں گا۔ لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ شام میں جا رہے ہیں تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راہی ہوئے۔ ریحہ نامی ایک جگہ ہے وہاں آپ اپنے اس ملک اور شہر کو رونق بخشی اور وہاں سے ریائے فرات کے کنارے آئے پہنچے وہاں بھی ایک شہر آباد کیا اور اس شہر کا نام ریحہ ہے پھر وہاں سے حلب میں تشریف لائے اور وہاں تسمیہ حلب کی یہ ہے کہ سب وہاں دودھ دوہا کرتے تھے اور وہاں حلب احمر میں آئے اور پھر وہاں سے عین میں آئے کہ جہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو دیا تھا اور وہ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور دین اسلام سے مشرف ہوا۔ اور پھر جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کو آتے وہ دین اسلام سے مشرف ہوتے وہاں چند روز قیام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معواہی زور محترمہ کے دمشق میں آگئے اور وہاں اسی دین اسلام کا طریقہ و اطوار لوگوں کو بتایا اور ہمت سے لوگ مشرف یہ اسلام ہوئے اس کے بعد شہر لمب میں وارد ہوئے اور

ذہن کے اہل شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہاڑوں میں بھاگ کر چلے گئے اور جو مسلمان
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے ان لوگوں نے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے چھوڑے
 ہوئے مال و دولت سے فائدہ اٹھایا اور وہ تمام مال غنیمت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
 ساتھ کنعان میں آ پہنچے اور ان لوگوں نے وہاں ایک نہر جاری دیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
 فرمایا کہ اس کا پانی سات جگہوں میں جا کر گرتا ہے۔ ملا در قاقا و در غایم و در قوم اور ای کے مانند
 دیگر جگہ۔ لیکن یہاں کے آدمی تکب و تکبر سے بے پروا نہیں تھے۔ لہذا وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
 ساتھ عورت فعل بد کرنے میں اور نہرنی کر کے کتوں سے مال جھین لیتے ہیں اور یہ لوگ ساری عمر اسی
 فعل بد پر رہتے اور پھر مر گئے اور یہ شہر ان قوم کو حاجیوں والے سے بیت المقدس میں تشریف لائے
 تب سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے ازراہ خوشی دو سو دینار فخرار کو
 تصدق کئے اور تمام شہر کے لوگ خوش و مسرور ہو گئے تقدیر الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ نور پشانی سے
 حضرت ہاجرہ کی پیشانی پر ظاہر ہوا۔ بعد وہاں سے اٹھ کر حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف
 لے گئے۔ تب حضرت سائرہ خاتون نے اس حال سے واقف ہو کر حضرت ہاجرہ کے کان چھید دیئے
 پس حضرت ہاجرہ کے کان چھیدنے سے اور بھی زیادہ خوشی آگئی حضرت سائرہ خاتون نے کہا کہ واہ
 واہ اکیس غیب نے تو اور ہی خوبصورتی بخشی پھر غصہ ہو کر ان کا ختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا
 کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں نے تمام زن و مرد پر یہ سنت ہاجرہ کی جاری کر دی کہ ساری امت ان کی
 قیامت تک پیروی کرے۔ حضرت سائرہ خاتون کو اور بھی غیرت پیدا ہوئی اور حضرت ابراہیم سے
 بولیں کہ یہ چیز مجھ کو برداشت نہیں ہے کہ ہاجرہ کے کوئی فرزند پیدا ہوا اور مجھ کو نہ ہو اور جب نے
 جینے گذر گئے تو حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل تولد ہوئے بعد وہ سائرہ خاتون نے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ ہاجرہ یہاں رہے گی تو پھر میں یہاں نہ رہوں گی اور میں
 یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی۔ نہیں تو ان کو یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر رکھو کہ وہاں میوے
 اور آبادی اور پانی بھی نہ ہو تاکہ یہ اچھی طرح سے آرام نہ پاسکے اور میں بھی اسی کو نہ دیکھ سکوں۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت مزد و متفکر ہوئے لستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکر
 فرمایا اے ابراہیم۔ سائرہ خاتون جو کہتی ہیں سو کر دیس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور حضرت
 اسماعیل ذبیح اللہ کو ایک دنٹ پر سوار کیا اور آپ بھی ایک دنٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے
 نکل کر جبہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے تب ہاجرہ سے کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ ہاجرہ حضرت اسماعیل
 کو لیکر وہاں بیٹھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکر ہو کر اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ملک شام کا طرف تشریف لے گئے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے مال و دولت سے فائدہ اٹھایا اور وہ تمام مال غنیمت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنعان میں آ پہنچے اور ان لوگوں نے وہاں ایک نہر جاری دیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پانی سات جگہوں میں جا کر گرتا ہے۔ ملا در قاقا و در غایم و در قوم اور ای کے مانند دیگر جگہ۔ لیکن یہاں کے آدمی تکب و تکبر سے بے پروا نہیں تھے۔ لہذا وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عورت فعل بد کرنے میں اور نہرنی کر کے کتوں سے مال جھین لیتے ہیں اور یہ لوگ ساری عمر اسی فعل بد پر رہتے اور پھر مر گئے اور یہ شہر ان قوم کو حاجیوں والے سے بیت المقدس میں تشریف لائے تب سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے ازراہ خوشی دو سو دینار فخرار کو تصدق کئے اور تمام شہر کے لوگ خوش و مسرور ہو گئے تقدیر الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ نور پشانی سے حضرت ہاجرہ کی پیشانی پر ظاہر ہوا۔ بعد وہاں سے اٹھ کر حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ تب حضرت سائرہ خاتون نے اس حال سے واقف ہو کر حضرت ہاجرہ کے کان چھید دیئے پس حضرت ہاجرہ کے کان چھیدنے سے اور بھی زیادہ خوشی آگئی حضرت سائرہ خاتون نے کہا کہ واہ واہ اکیس غیب نے تو اور ہی خوبصورتی بخشی پھر غصہ ہو کر ان کا ختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں نے تمام زن و مرد پر یہ سنت ہاجرہ کی جاری کر دی کہ ساری امت ان کی قیامت تک پیروی کرے۔ حضرت سائرہ خاتون کو اور بھی غیرت پیدا ہوئی اور حضرت ابراہیم سے بولیں کہ یہ چیز مجھ کو برداشت نہیں ہے کہ ہاجرہ کے کوئی فرزند پیدا ہوا اور مجھ کو نہ ہو اور جب نے جینے گذر گئے تو حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل تولد ہوئے بعد وہ سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ ہاجرہ یہاں رہے گی تو پھر میں یہاں نہ رہوں گی اور میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی۔ نہیں تو ان کو یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر رکھو کہ وہاں میوے اور آبادی اور پانی بھی نہ ہو تاکہ یہ اچھی طرح سے آرام نہ پاسکے اور میں بھی اسی کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت مزد و متفکر ہوئے لستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکر فرمایا اے ابراہیم۔ سائرہ خاتون جو کہتی ہیں سو کر دیس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ایک دنٹ پر سوار کیا اور آپ بھی ایک دنٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکل کر جبہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے تب ہاجرہ سے کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لیکر وہاں بیٹھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکر ہو کر اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ملک شام کا طرف تشریف لے گئے

تشریف نہ لائے اور آفتاب گرم ہوا تو سر پر گرمی پہنچی تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور اس پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کو وہ صفا و مر وہ کی طرف دوڑیں وہاں بھی کہیں پانی نظر نہ آیا۔ اسی طرح پانی کے لئے صفا و مر وہ کا سات دفعہ اہل سنت والجماعت کے مذہب میں حاجیوں پر قیامت تک سنت ہاجرہ جاری رہے گی اور ہر حاجی اسی طرح سات مرتبہ دونوں بہاؤں پر دوڑتے ہیں جب حضرت اسماعیلؑ کو حضرت ہاجرہ اس میدان میں اب جس جگہ چاہ زم زم ہے لٹا کر پانی کے لئے صفا و مر وہ کی طرف دوڑیں اور پانی نہ پایا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا جب وہاں سے واپس آئیں اور حضرت اسماعیلؑ کے پاس آکر دیکھا کہ حضرت اسماعیلؑ شدت پیاس سے جس زمین پر پیر رکڑتے تھے اسی جگہ بحکم خداوند قدوس پانی کا فوارہ جاری ہوا اور بفضل خدا اب تک وہ چشمہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ انشاء اللہ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ الحمد للہ یہ مبارک فرزند اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے۔ پس وہی پانی حضرت ہاجرہ نے خوب سیر ہو کر پیا اور مٹی و پتھر لاکر چاروں طرف سے اسی پانی کو بند کر دیا تاکہ زیادہ نہ پھیلنے پائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہاجرہ وہ پانی بند نہ کرتیں تو وہ تمام مکے منقطع کی تمام حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ پس جو کھانے پیتے کا تھکا لیا۔ اتفاقاً ایک روز سودا گروں کا قافلہ پانی کی تلاش میں محلہ اپنے تمام مولیٹیوں کے بوجہ پیاس کے کوہ صفا پر آیا تو اس قافلہ نے وہاں ایک عورت کو پانی کے کنارے بیٹھے دیکھا اور اس قافلہ کا بیان ہے کہ اس جگہ سے جب ہم لوگ گزرے تھے تو کبھی بھی ان لوگوں نے اس جگہ پانی نہ دیکھا تھا یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور وہ اسی تعجب میں حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حضرت ہاجرہ نے اس قافلہ والوں سے جو حال اپنے اوپر اور حضرت اسماعیلؑ پر اور پانی کا جو ماجرا گزرا تھا وہ سب سرگزشت انہیں سنائی۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے۔ اگر اجازت ہو تو ہم لوگ تمہارے پاس اپنی بود و باش اختیار کریں اور پانی کے عوض تم کو ہر سال عشر دیویں تاکہ ہم کو یہ پانی حلال ہو۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اچھا۔ تب وہ لوگ وہاں آئے اور اپنے اپنے خیمے نصب کئے اور اور اتوں اور بکریوں کو جہرا نکاہ میں چھوڑ دیا۔ بہت دنوں تک وہ لوگ وہیں رہے۔ اس عرصہ میں حضرت اسماعیلؑ بالغ ہوئے اور حضرت ہاجرہ ابرہیم بن کراہی گزرا دقات کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی ایک روز حضرت خلیل اللہ کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیلؑ کے دیکھنے کی آرزو ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ تب حضرت سائرہ خاتون نے فوراً اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم وہاں سواری پر

سے نہ اتنا۔ اور جلدی دیکھ کر وہاں سے چلے آنا یہ عہد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس سے نکل کر بیابان کی راہ لی۔ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں قوم عرب کو دیکھا کہ اونٹ کمبری جراتے ہیں اور کسی کو بیٹھے اور کوئی چتا پھرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہ پہچانا۔ مگر حضرت ہاجرہ دور سے دیکھ کر بغرض استقبال آگے بڑھیں اور ان کو نہایت تزک و احتشام سے اپنی جلتے رہائش پر لائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عہد کا خیال کر کے اونٹ پر سے زمین پر پاؤں نہ رکھا حضرت ہاجرہ نے اسماعیلؑ کو بلا کر کہا کہ دیکھو والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیلؑ نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس وقت حضرت اسماعیلؑ کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بالاصرا کہا کہ آپ سواری سے اتر لیے تاکہ آپ کے ہاتھ پاؤں دھلو اور نیچے اور اچھی طرح سے ہاتھ پاؤں دھلا دیئے۔ اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا تھا اب وہ مقام خلائق کا مصطفیٰ ہے جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: **وَاصْبِرْ دُونًا مِنْ مَقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مَصْلٰی** پس حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بیت المقدس کو تشریف لائے۔ اور حضرت سائرہ خاتون کے پاس ہجرت سزا بنا کر خلق اللہ کی دعوت و مہمانداری کرتے تھے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھو اور قربانی کر تب حضرت نے فجر کو اٹھ کر دو سو اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیئے اسی طرح تین دن تک یہ خواب دیکھا۔ تینوں دن دو سو اونٹ قربانی کے پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر سبھاں اللہ بھیجے کہ خواب پیغمبروں کا بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دو لہذا میں اس حکم خداوندی کو بجالانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا بہت اچھا اپنے فرزند تخت جگہ کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس جا پہنچے اور اس وقت حضرت اسماعیلؑ کی عمر نو برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیلؑ سے سر میں کنگھی کر کے اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرمہ لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے

ساتھ دعوت میں بھیج دو میں اسے اپنے ساتھ دعوت الی اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نبلا دھلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے اور حضرت اسمعیل ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسمعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا لیکن اس نے ان سے بھی کہنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسمعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے شیطان نے کہا کہ افسوس! اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے کے لئے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا معاذ اللہ تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو میگناہ مارا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پس ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور اس لعین نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہے ہم اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے جھٹکا سکیں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل سے کہا تو کہاں جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے جواب میں کہا کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا۔ نہیں تمہارا باپ تو تم کو آج ذبح کرنے کے لئے جا رہا ہے آپ نے یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے۔ ابلیس نے حضرت اسمعیل سے کہا کہ اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا پھر تو ہزار جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہیں اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تب اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے نخت جگر فرزند ارحمند کے سامنے انہیں الفاظ کے ساتھ بیان کر دی تو کہہ تعالیٰ فَكَيْفًا بَلَدًا مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ يَبْنَئِي رَافِي اَرِي فِي الْبَنَاءِ اَرِي اَذْهَبُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا مَرِي۔ ترجمہ! پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے نخت جگر سے فرمایا۔ اے بیٹے میرے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں۔ پس اے بیٹے میرے مجھے بتا دو تمہاری اس میں کیا رائے ہے یہ سن کر حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کی اے میرے ابا جان یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے سعادت ہے اور آپ تو خداوند قدوس کے دست میں اور رات کو ہست کم سوتے ہیں۔ جب آپ بحکم خدا سوائے تو رحمت رب سے آپ کو یہ

خواب کی سعادت نصیب ہوئی، میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ اور کہنے لگے قال
 يَا بَيْتَ افْعَلْ مَا قَوْمٌ مَسْتَجِدُّ فِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۗ توجہ حضرت اسماعیل
 نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اے میرے باپ کو ڈالے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہو اسے اور مجھے آپ
 انشاء اللہ ما برین میں پائیں گے۔ فائدہ۔ فرمایا گیا ہے ذی الحجہ کی آٹھویں شب کو خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے
 کو ذبح کرتا ہوں جب صبح ہوئی تو بہت ہی غلامند ہوئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ پھر نویں شب میں بھی یہی
 خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر دسویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب
 کچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا اور انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا ایسے
 باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے باپ
 اللہ تعالیٰ نے حکم آپ کو دیا ہے اس میں جلدی کیجئے انشاء اللہ مجھ کو تم مبارکوں میں سے پاؤ گے اور میں خدا تعالیٰ
 کا مطیع ہوں نافرمان نہیں ہوں اس لئے آپ جلدی کیجئے ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین دوسرے
 ڈالے کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا
 کہ اس لعین پر پتھر ناروتب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے
 دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا
 پہنچے اب جس کو اس وقت منیٰ بازار کہتے ہیں اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے
 ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری کیا اصلاح ہے۔ وہ بولے کہ ہزار جان
 بھی میری خدا کی راہ میں تصدق ہیں خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں
 دیکھا۔ پس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجئے اور امر اٹھی بجالائیے کیا خوب شعر ہے۔

وہ مقید ہوئے امر سبحان کے۔ ہوئے دونوں راضی وہ قربان کے

قوله تعالى۔ اَسْلَمًا وَحَلَّةً يَلْبَسِيْنَ ۗ ترجمہ! پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نخت جگر کو زمین پر مل گھسے کے بل بچھاڑا تا کہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ
 آوے اور محبت جو ش نہ کرے اور حکم خداوندی میں کبھی کوتاہی نہ ہو جائے اور یہ بات درحقیقت بیٹے نے
 اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند قدوس کے یہاں مقبول ہو
 جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس امر کے بجالانے میں حضرت ابراہیم نے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی مگر دل
 پر جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا ہی کو خوب معلوم ہے اور حضرت اسماعیل نے بوقت ذبح اپنے ابا جان
 سے مؤذبانہ التماس کی کہ اے ابا جان میری اس وقت صرف تین گزارشیں ہیں اور میری دھیتیں سمجھ لیجئے

سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے۔ کہ جان نازک ہے۔ چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آجاؤں خدا نخواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ جاوے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف نہ لہجئے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آوے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں تاکہ آپس میں محبت جو شہ نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان تصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے اور یہ صرف اس واسطے کر رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری اور سی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوط باندھے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجیے کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی مگر حکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے ابا جان کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کھتی نہیں ہے تب حضرت ابراہیم نے پھر چھری پر زور لگایا لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل نے اپنے ابا جان سے کہا اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کر شاید یہ کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے دیا ہی کیا لیکن پھر بھی کچھ کٹ نہ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا غرض کہ وہ ذبح کرتے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصہ میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے حضرت ابراہیم خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو۔ اور مجھے کہتا ہے کہ مت، کاٹو۔ اور آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے کہ لو مجھے دس مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو اور یہ جملہ لو کہ علم الہی سب سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تلبیہ کی آئی۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ وَ اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُکَ بِالْحَمْدِ ۙ اِنَّ ہٰذَا لَہُوَ الْبَلَدُ الْعَمِیْنُ ۙ وَ ذٰلِیْہٖ ۙ آواز سے کہتے ہوئے آئے قولہ تعالیٰ وَ خٰتٰرَیْنَا اَنْ یَّاٰ بِنُرٍّ اِھْنِمۡ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْیَاہِ اِنَّا کُنَّا اِلَیْکَ نٰجِیۡنِیۡ ۙ اِنَّ هٰذَا لَہُوَ الْبَلَدُ الْعَمِیْنُ ۙ وَ ذٰلِیْہٖ ۙ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَتَرْكْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْأَخِيرِينَ
 سَدًّا مَّا عَلَا بِنْدِهِمْ هَكَذَا لَيْتَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝
 ترجمہ! اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم بیشک کچھ کیا تم نے اپنے خواب کی تحقیق اسی طرح ہم
 جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثبات قدم
 رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بیشک یہی ہے صریح آزماتا۔ اور ہم
 نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا یعنی بڑے درجے کا بہشت سے ایک
 دنبہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ
 اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلانہ کٹا حضرت جبرائیل نے حضرت اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک
 دنبہ جو بہشت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول
 کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دنبہ ذبح ہوا پڑا تھا اور یہ سنت آنے والے نسلوں کے
 واسطے قائم کر دی گئی اور دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
 ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والوں کو اور وہ ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ دیا کرتے
 ہیں اور ہم اس کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے اور ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم
 جاری رہے گا۔ فائدہ کا۔ پس معلوم ہوا کہ وہ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل کی تھی اور سارا
 واقعہ اللہ کے راستے میں ذبح کا انہیں سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو ذبح
 کیا گیا اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ کیونکہ حضرت اسحاق کی خوشخبری کے ساتھ حضرت یعقوب
 علیہ السلام کی بھی خوشخبری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں
 سے اولاد بہت جھیلی اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل میں نبی کثرت
 سے آتے رہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے تعلق رکھتے
 ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس قربانی عظیم کے بدلہ میں ایک دنبہ ابلق دفر بہ اور تندرست
 جنت سے بھیجا تھا اور جنوں نے کہ اس دنبے کو بائیل نے بھی قربان کیا تھا۔ بعد اس کے دو
 ہزار ہر کسی خدا تعالیٰ نے اسے بہشت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت
 اسماعیل کے عوض فدیہ بھیجا تھا کہ وہ بچات پاویں پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دنبے کو
 عوض اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیا اور اسی کے چمڑے سے اس کے دسترخوان بنا کر خلق اللہ

کو اس پر کھانا اٹھلایا کرتے اور اس کی پشت سے حضرت سائرہ خاتون نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینے کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ حضور نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کو عنایت فرمایا تاکہ اس کا خزانہ بنا کر پہنیں اور وہ خردہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زندگانی بھر رہا اور وہ اس کو ہمیشہ پہنتے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہو سکے چونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دسونی عنایت فرمائے۔ آمین۔

تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قرآنی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنا کر باجوہ کھولنے کے خداوند قدوس کا شکر بجالائے اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم! تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ نامہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے کہ یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم! اونٹ پر سوار ہو جاؤ تو میرے حکم سے ایک ابراہیم آوے گا تم اس کے ساتھ چلنے رہنا اور وہ جہاں پر ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دیکر وہیں کعبہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آکر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی ارازے سے جو حلقہ کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکر جہاں تک بتایا وہاں تک بنا لیا۔ **قوله تعالیٰ وَ لَ اذْ جِوْاْ اٰنۡحَالَیۡۤ اِبْرٰہِیۡمَ مَکَاتَ الْبَیۡتِ اِنَّ لَا تَشْرِکَ لَہٗۤ بِنِیۡۤ اَشۡیَآءَ وَّ طَہَّرَ بَیۡتَہٗۤ لِیَلۡطَاقَ کَہِیۡنِ وَاَلۡنَقَاطِیۡمِیۡنِ وَاَلۡرَکَّعِیۡۤ اَبۡجُوۡدَہٗ** ترجمہ! اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے ہونے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے کیونکہ اور دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا یہ خاص صفت اہمیت کو عنایت کی گئی اور یہ بھی حضرت ابراہیم کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی جب الطینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی خداوند اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع

کی جائے اور تیرے حکم کی فرمانبرداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم جس پتھر کی تم کو نودرت محسوس ہو رہی ہو وہ پتھر تم کو پانچ پہاڑوں سے مل سکیں گے یعنی کوہ لبنان اور حرہ ابو قیس اور کوہ صفا و مروہ۔ ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے اور اس نمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے خداوند قدوس کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے بموجب فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا۔ یعنی محراب مسجد میں نصب کیا اور دیکھتے کیا ہیں کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد ایک پتھر داہنی طرف کعبہ کے رکھا تو اس میں نام ابو بکر صدیق کا لکھا تھا اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پتھر پر نام حضرت عمر بن الخطاب کا ظاہر ہوا۔ اسی طرح اور دو پتھر لگانے ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام ظاہر ہوئے۔ غرضیکہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ان پانچوں حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ حج قبول ہوگا اور نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل سے دعا مانگی۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَارْحَمْنِي وَأَنْصُرْ مَن يَنْصُرُنِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَنَّانٌ

فَقَبَّلَ مِنَّا مَا أَتَيْنَاكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ تَرْجَمَهُ ۝

اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی تبنہ کرنے لگے۔ اے رب قبول کر تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَاذْ قَالُوا جِدَّهِمْ زَيْتٌ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِمَّنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝ تَرْجَمَهُ ۝

اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب کہ اس شہر کو امن و امان والا اور درازی دے اس کے لوگوں کو میووں سے جو کوئی ان میں سے یقین لادے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَوْتِعْهَا قَلِيلًا ۝ ثُمَّ أَضْرِبُ إِلَىٰ حَدِّ آبِ ابْتَارٍ وَبَيْنَ الْمَصِيوٰۃِ۔

ترجمہ: فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑے دنوں پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب و دوزخ کے اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجالائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا بعدہ جبرائیل علیہ السلام نے آکر فرمایا اے ابراہیم خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا

فدوس سے عرض کیا کہ یا الہی تو نے فرمایا ہے۔ بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہننا تا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے اور ایک ہزار رکعت نماز ہر برہمن پر تو نے اس کی ادا کی، پھر ارشاد ہوا اے ابراہیم لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو تو لہ تعالیٰ وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۗ ترجمہ! اور اعلان کرو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ خانہ کعبہ کے واسطے پیادے اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر اگرچہ ان کے اونٹ و بٹے ہی کہیں نہ ہوں۔ کیونکہ یہ حکم درمی مسافت کے واسطے ہے بہر حال ہر ممکن طریقہ پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا۔ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکارو وہیں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں یہاں تک کہ جو رو ہیں باپ کے صلب میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں سب کو سنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر باواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا کہ اے لوگو! تم پر اللہ تعالیٰ نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر باواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا کہ اے لوگو! تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ ہذا ہر شخص کو اس حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا۔ ایک باریادو باریادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لپیٹ کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی۔ لَبَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَبَيْتِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْتِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی دیکھا کہ نہ پانی ہے نہ گھاس ہے اور نہ زراعت غرض کہ کچھ بھی نہ تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی تو لہ تعالیٰ دَبْنَا لِي اسْمُكَتْ مِنْ ذُرِّيَّتِي مَوْادٍ غَيْرِ ذِي ذُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمَحْرُومَةَ دَبْنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَذَرِّفْهُمْ مِنَ الشَّمْرِاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۗ ترجمہ! بارب میں نے بسائی ہے ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں۔ تیرے ادب و اسے گھر کے پاس۔ اے رب ہمارے ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ کریں۔

فائدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا۔ بعد تو لہ حضرت اسماعیل علیہ السلام

کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی مال کے ساتھ اس جنگل میں لا کر جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے بٹھا کر چلے گئے پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زم زم کا چشمہ نکالا اور اس وجہ سے اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے، کیونکہ یہ زم زم کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی اسی کے نزدیک ایک زمین طائف تھی اس زمین کو زرخیز و سرسبز و شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہاں پر ہوں اور شہر مکہ میں وہاں سے پہنچیں بعد اس کے خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھتیس کوں تک زمین کے کی جو کہ سنگہ یز سے سے بھری تھی اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی۔ اور اس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین کے میں لا کر رکھ دی اور فرشتے سب اس زمین کے گرد گئے کے سات دفعہ طواف کرتے رہے اور اس جگہ سے کہ جہاں سے حضرت جبرائیل نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی لے جا کر اس کا نام طائف رکھا اس واسطے کہ سات دفعہ گرویت اللہ کے طواف کیا تھا اب ہر طرح کے میوہ جات طائف میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ غانہ کہہ خراب نہ ہو گا آباد رہے گا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمان سرانے نانی اور عہد کیا کہ بغیر ہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ مدینہ تک وہیں عبادت کرتے رہے اور سفر ذوالحجہ کی ہمان برداری کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گذر جانے کے بعد ایک دن حضرت عزرائیل آدمی کی صورت بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں عزرائیل ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر عزرائیل سے کہا تم میری ملاقات کو آئے ہو یا کہ جان قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو درست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے حضرت ملک الموت نے کہا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ درستی کرتا۔ اس کے بعد عزرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں ایک دن آپ نے تمنا کی اے خداوند تو مرے کو کس طرح زندہ کرتا ہے اگر یہ چیز تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہو۔ پس خدا کی درگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ وَاذْ قَالَ رَبُّوْا اٰهِيْمٌ رَبِّتْ اٰرِنِي كَيْفَ تَخِي السُّوْتِي ۝ اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے رب دکھا مجھ کو کیونکر جلاتا ہے تو مردے کو

میں حالانکہ وہ فرشتے تھے ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لے گئے کہ وہ تعالیٰ دَلَّوْا
 جَاءَتْ رُسُلَنَا بِنَبَرَاهِيمَ يَا بَشْرَی قَالُوْا سَلِّمْاَ مَا هَآ قَالِ سَلِّمْاَ فَرَّهَ فَمَا لِيْكَ اَنْ جَاءَ
 بِعِبْرٰی حَنِیْظًا ۝ تَرْجَمَہ! اور آپ کے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر بولے
 سلام ہو تم پر اور وہ بولے سلام ہو تم پر پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا۔ اور حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے فرمایا اے ساڑھ سات دن بعد آج ہمان عزیز و مکرم آئے ہیں جو چیز تم عزیز رکھتی ہو
 ان کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت ساڑھ بولیں کہ اے حضرت میں اس بچھڑے سے زیادہ
 عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی ہوں اور اسے بمنزلہ فرزند کے میں نے پالا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اس
 کو قربانی کر کے اور تل کر آپ کے ہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دوں۔ چنانچہ حضرت نے اسے اسی وقت
 ذبح کیا اور اس کو بھون کر ہمانوں کے سامنے لا کر رکھا۔ اور آپ خود بھی ان ہمانوں کے ساتھ سر نہچا کے
 با ادب کھانے لگے۔ حضرت ساڑھ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگیں اے حضرت آپ تو
 کھاتے ہیں لیکن آپ کے ہمان نہیں کھاتے ہیں۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر
 ہمانوں کی طرف دیکھا کہ ہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہمانوں سے پوچھا
 آپ کیوں نہیں کھاتے ان ہمانوں نے حضرت ابراہیم کے پلوچھنے پر جواب دیا کہ ہم کو اس کی قیمت
 دیئے بغیر کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ہمانوں سے کہا کہ اچھا آپ لوگ اس کی
 قیمت ادا کر دیجئے ہمانوں نے عرض کی کہ آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں۔ تب آپ نے ان ہمانوں سے
 فرمایا کہ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ بِسْمِ اللّٰہِ السَّحْمٰنِ السَّرْحٰمِیْمِ ۝ کہہ کر کھانا شروع
 کر دیں اس کی قیمت ادا ہو جائے گی اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمد للہ کہنا یہی اس
 کی قیمت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باواز بند کہا اے ابراہیم اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے
 بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجئے ہم لوگ اللہ
 تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہم میں جبرائیل اور اسرافیل، دروائیل اور عقوایل اور کئی دیگر فرشتے شامل ہیں
 اور ہم کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جاویں کیونکہ آپ نے تمہیں کیا ہوا ہے کہ
 کھانا ہمان کے ساتھ کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے اور آج تقریباً سات دن ہوئے کچھ نہیں کھا یاؤ
 بطور روزہ رکھنے کے ہیں اور ہم لوگ محض اسی مقصد کی وجہ سے بصورت انسان بھیجے گئے آپ ہمان نوازی
 کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کا روزہ کھل جائے گا اور جو بوجہ بھوک اور فاقہ کونے
 سے پریشانی لاحق ہوئی جاتی رہے گی اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ شہرستان میں

حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جاویں اور وہ بھی پیغمبر مرسل ہے ان کو وہاں کی بلا سے نجات دیوں گے اور آپ کو ایک بشارت بھی دیتے ہیں کہ منہ مستقبل قریب میں آپ کے یہاں ایک فرزند مبارک تولد ہوگا اور نام اس کا اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب ہوں گے اس وقت حضرت سائرہ خاتون کھڑی تھیں اس بات کے سنتے ہی منس پڑیں قولہ تعالیٰ وَ اَمْرًا تَهُ تَاثِمَةً فَضَحِكْتَ فَبَشِّرْ نَهَابًا سَحَقًا وَ مِثْرًا سَحَقًا يَحْقُوبُ ترجمہ اور ان کی عورت کھڑی تھیں اور یہ باتیں سن کر منس پڑی۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحق کی اور اسحق کے بیچے یعقوب کی تب حضرت سائرہ بولیں قولہ تعالیٰ يَا لَيْتَ يُوَدِّعِي لِسِدِّ وَاَنَا عَجُوزٌ وَ هَذَا اَبْعَلِي شَيْخَاهُ اِنَّ هَذَا اَلشَّيْءُ عَجِيبٌ قَالُوْا تَعْجِبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةً اللّٰهِ وَ بَرَكَاتًا عَلَيْنَكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ هَ اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ ترجمہ بولنی اے خرابی، کیا میں جنوں کی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور خاوند بھی میرا بڑھا ہے یہ تو عجیب بات ہے وہ فرشتے بولے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم میں یہ نوازد قدوس کی حکمت اور مہر ہے اور اسی کی تمام برکتیں ہیں تم پر اور تمہارے تمام گھر پر کہنے لگے اے سائرہ خاتون تم اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں تعجب مت کرو اور ہم مزید خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسحق کی پشت سے ستر ہزار پیغمبر اور پیدا ہوں گے یہ سن کر حضرت سائرہ خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس کے کیا آثار ہیں۔ وہ بولے کہ تم کو معلوم نہیں آج تم خدا کی قدرت کا ادنیٰ لڑشم بھی دیکھ لو کہنے لگے یہ بڑیاں بچھڑے کی جو کہ بڑے طباق میں رکھی ہیں تم اس کی طرف منہ کر کے کہو کہ تم باذن اللہ اسی وقت یہ بچھڑے کا بچھڑجی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی ٹیم سوختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ حضرت جبرائیل نے اپنا پداس پر ملانی الفود وہ سوکھی ہوئی درخت کی شاخ سبز ہو گئی اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئیں اور میوہ پھلا اور پھر بخت ہوا تب حضرت سائرہ کو دیا انہوں نے اس کو کھایا۔ بعد ازاں حضرت سائرہ خاتون سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تم نے خداوند قدوس کی قدرت کا ملہ دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی کھڑی سبز ہو گئی اور اس کے میوے پھلے اور تم نے اس کو کھابھی لیا تو کیا یہ رب العزت کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک نیک فرزند ارجمند نیک صالح اور پیغمبر عطا فرمائے گا جس کا نام حضرت اسحق ہو گا اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے اور رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت کا چہرہ چارہ دانگ عالم میں تسلیم کیا جائے تاکہ مخلوق خدا اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکے اور دنیا کے مبود ان ہا ظل سے منہ موڑے سب میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔

حضرت لوط علیہ السلام

اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امور سے فارغ ہوئے تو ان فرشتوں نے شہرستان لوط کا قصد دار ارادہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں وہ فرشتے بولے اے ابراہیم خلیل اللہ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لئے جاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کے دیکھنے کی طاقت تمہیں نہ ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا حافظ ہے میں تو تمہارے ساتھ عذاب الہی کو دیکھنے چلوں گا جو قوم لوط پر بھیجا گیا ہے یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان فرشتوں کے ہمراہ چل دیئے جب تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کوس کے فاصلہ پر جا پہنچے تو فرشتوں نے باادب عرض کی کہ ابراہیم خلیل اللہ آپ ہمیں ٹھہریں آپ کے واسطے آگے جانے کا حکم قطعاً نہیں ہے پس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے اونٹ پر سے نیچے اتر پڑے اور خدا کی عبودت میں مشغول ہو گئے اور فرشتے اس شہرستان میں قوم لوط کی اس جگہ پر جا پہنچے کہ جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعل ہیں کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعل بد کی مرتکب ہوتی ہیں اور مردیوں سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں اور اسی وقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیئے جائیں گے۔ اور یہ چیز خداوند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی ظلم و تعدی کرے گی اور خدا تعالیٰ کے احکاموں سے روگردانی کرے گی اس پر خود غضب الہی نازل ہوگا اور اسی دنیا میں ہلاک کر دیئے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خداوند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائیگاں اور مسترد نہیں کرتا چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم کو دی تھی۔ وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لئے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیئے گئے۔ چونکہ وہ فرشتے خدا کا حکم لے کر اس قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کو سوائے ایک شہر جس کو سدوم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا اور باقی تمام شہرستان کو الٹ دیا۔ چونکہ سدوم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے اور جب انہوں نے ان چھ شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بد کرداریوں اور بد فعلیوں میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادی بیاہ وغیرہ بھی موقوف کر دیا۔ اس

واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل سدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی اور اس شہرستان کے باشندوں
 میں لاکھوں آدمی بڑے پھیلے اور جنگی تھے سب کے سب ہلاک کر دیئے گئے الغرض وہ فرشتے جو اللہ
 تعالیٰ کی طرف سے عذاب لہیے کر آئے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی
 بیٹیوں کو سلام کیا اور ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ بعدہ حضرت جبرائیلؑ نے ان سے کہا
 کہ کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی رات مہمان رکھے اور کھانا کھلائے۔
 انہوں نے جواب دیا کہ سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں کو کوئی نہیں آپ لوگ ذرا صبر کیجئے وہ
 خدا کی عبادت سے فراغت پالیں تو البتہ وہ تمہاری کچھ خدمت ضرور کریں گے جب حضرت لوط علیہ
 السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ بارہ شخص صاحب جمال
 اور کمسن بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر بنے ہوئے آئے ہیں آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے
 لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال و کمسن ہیں خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے
 ساتھ بد فعلی نہ کرنے لگے تو ہمارے لئے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی اور میں اس سے بہت
 زیادہ رسوا ہو جاؤں گا۔ اور بھی کہیں بھی اپنا منہ نہ دکھا سکوں گا۔ لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَكَمَا جَاءَتْكُمْ دُسُكُنَا لُوطًا سِجِّيًا يَهُودِيًّا رَمَاهُ دُجَانًا وَكَمَا
 هُنَّ آيَاتٌ عَصِيْبَةٌ وَجَاءَتْ قَوْمَهُ يَهُودَ عُونَ اَلَيْسَ لَهُ دِينٌ تَبَلَّ قَانُورًا يَعْمَلُونَ
 السَّيِّئَاتِ ترجمہ! اور پہنچے میرے بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے تو وہ ان کے
 آنے سے اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے اور اپنے جی میں کہنے لگے کہ ہمارے لئے آج کلادن بڑا سخت
 دن ہے اور آئی اس کے پاس قوم دوڑتی ہوئی اور وہ سب بے اختیار تھے اور وہ بہت زیادہ منتظر
 تھے اس فعل بد کے کرنے کے فائدہ درحقیقت وہ فرشتے لڑکے کم سن بن کر گئے تھے حضرت
 لوط کے گھر میں۔ چونکہ حضرت کو اس قوم کی بد افغالیوں اور بد خویاں اچھی طرح معلوم تھیں اسی وجہ سے
 وہ اپنے دل میں سخت خفا تھے اور اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی آخر
 مجبوری و ناچار ہی ان مہمانوں کو حضرت علیہ السلام اپنے گھر لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی
 کافرہ تھی۔ اسی وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم سے ان مہمانوں کی خبر کر دی اور وہ قوم لوطی تھے۔
 پس ناکہاں قوم کے لوگ حضرت لوط کی حویلی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط تم وہ بارہ
 اشخاص کو جو غیر و اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کم سن بھی ہیں اور وہ آج سب تیرے گھر میں مہمان
 ہوئے ہیں تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو حضرت لوط علیہ السلام نے جوہ خوف کے ان لوگوں سے

کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَالْیَقَوْمِ هُوَ لَدَءِ بَنَاتِنِ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا
 تُخْزَوْنِ فِیْ ضَرْبِنِ الْاَيْسَنِ مِنْكُمْ وَجَلَّ ذِكْرُ شَيْدَا ترجمہ: حضرت لوط علیہ السلام علیہ السلام نے
 کہا اے قوم یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا پس تم لوگ اللہ تعالیٰ
 سے ڈرتے رہو۔ اور مجھ کو رسوا مت کرو یہ لوگ ہمارے جہان ہیں۔ کیا اے قوم میری تم میں سے ایک آدمی
 بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے راستے پر گامزن ہو۔ اور وہ ایک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
 خاتمہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے جہان بن کر اترے تھے اور قوم ان نوجوانوں
 اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی اور حضرت لوط علیہ السلام
 نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لئے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینا اپنی قوم کے ساتھ قبول کر لیا۔
 لیکن قوم نے اس پر بھی نہ مانا اور اس وقت شریعت میں زنا مومنہ کو کافر سے بیاہ دینا منع نہ تھا۔ پس
 اس پر بھی اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے
 توڑ ڈالے اور پھر کہا تو لہ تعالیٰ خَالُو لَقَدْ عَلِمْت مَا لَنَا بِبَنَاتِنَا مِنْ الْحَيِّ وَ اِنَّكَ لَنَعْلَمُ
 مَا تُرِيدُ ترجمہ: وہ قوم کے لوگ بولے تو بھان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں اور
 تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ
 السلام نے فرمایا تو لہ تعالیٰ قَالَ كُوَاْنَتْ بِكُمْ قُوَّةٌ اَدَاوِیْ اِلٰی رُكْنٍ شَدِيْدٍ ہ۔
 حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا بیٹھا کسی حکم آہرے میں۔ یعنی اے
 قوم مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے میرے
 مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے
 پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں تین دفعہ نہ لادیں۔ اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام
 بھی اپنا مت بتانا جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر واپس گئے تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا
 اور شدید رنج پہنچایا پھر حضرت لوط نے اپنے آئے مہمانوں سے کہا کہ میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا
 کہ ان کا قاعدہ مقابلہ کر دوں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے
 سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ پھر اس
 قوم کے لوگوں نے آکر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ
 السلام ان مہمانوں کے پاس نا طاقی کی صورت میں آئے۔ جب تین مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے
 مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کیں اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا تو لہ تعالیٰ

قَالُوا لَوْ طَإِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَاصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبْنَا هَكَذَا بِقَطْعِ مِنَ اللَّيْلِ
 ذَلِكُمْ يَلْقَفْتُمْ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا أَمْرًا تَكْذِبًا إِنَّهُمْ هَذَا إِنَّ مَوْعِدُ
 هَذَا الصَّبْحِ تَرْجَمَهُ! مہمان بولے اے لوط ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ
 سکیں گے تجھ تک سونگل اپنے گھر سے کچھ رات رہے اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے
 مگر تیری عورت تو ان ہی میں سے ہے اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا
 اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ علی الصبح ہے، پھر ہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اچھی طرح
 ظہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں اور
 ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج کی شب اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ
 کا حکم ہو کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔

حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی اول
 شب آئے گا یا آخر شب اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے قولہ
 تَعَالَىٰ أَلَيْسَ الصَّبْحُ تَقَرِّبًا تَرْجَمَهُ! اے لوط ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی یعنی اے لوط صبح ہو رہی
 ہے۔ گزرتی ہے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست
 ہو دیں یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سے حرکت کی اور بحکم خدا وہ فی الفور طس ہو گئے
 یعنی آنکھ ناک منہ ان کے یکساں ہو گئے جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْقَدَّارَ الَّذِي دُوِّنَا
 صَنِيفًا فَمَخَّنَا اَعْيُنَهُمْ فَذُوْعَدَّ اَبْنِي وَنُدُّرُهُ تَرْجَمَهُ! اور تحقیق ارادہ کیا حضرت لوط
 کے ہمانوں پر دست درازی کا تو کھودیں ہم نے ان کی آنکھیں اب چکھو عذاب میرے کو اور پہنچو اس
 مصیبت کو جو تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے، پھر اس کے بعد فوراً ہی ان پر شدید عذاب الہی نازل کیا گیا
 اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور مجرموں کے کردار کی سزا دے تو لہ تعالیٰ
 ذَلْقَدَّ صَبَّحَهُمْ مُّبَكَّرَةً عَدَّ اَبْنُ مُسْتَقَرَّةً فَذُوْعَدَّ اَبْنِي وَنُدُّرُهُ تَرْجَمَهُ!
 بیشک نازل ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت سو وہ بہت بڑا عذاب تھا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب
 اور مصیبت چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ لگے واویلا کرنے
 اور اسی غصہ میں بولے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادو گروں کو بلا رکھا ہے پھر کہنے لگے اے لوط تو اپنے
 آئے ہوئے ہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری آنکھیں ابھی کر دیں تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں
 گے۔ یہ سنی کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پرائے جہروں پر مل دیا۔ اسی وقت ان کی آنکھیں ناک

اور نہ بالکل درست ہو گئے پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر ان فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور نکل ہو گیا۔ پھر توبہ کی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پران کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا وہ سب اچھے ہو گئے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیئے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط کے ہمانوں سے اس کا بدلہ لیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ تم اپنے اہل و عیال و اطفال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ کیونکہ ان مردوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیئے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو معہ اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم غلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا چونکہ حضرت لوط کی بیوی کا فوج تھی اس لئے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم غلیل اللہ کے گھر داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پرتزین کے نیچے دے کر شہر تان لوط کو اس طرح سے پلٹ دیا کہ ایک پتہ درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا نہ ہلا اور گہوارے بھی بچوں کے لغزش میں نہ آئے بس اسی طرح ہوا پڑا دیا۔ اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بیعت سے بے ہوش ہو گئے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا کہ لیا قَوْلَهُ تَعَالَى فَمَلَأْنَا بِحَبْلِنَا آلَ لُوطٍ نَجَاةً وَمَا هُمْ بِبَارِقِينَ

ہمارا گہروالی وہ بستی نیچے اوپر اور برسائیں ہم نے ان پر کنگھیاں پتھر کی تہہ۔ حضرت لوط یہ حال دیکھ کر ماسف و زاری کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت غراب ہو چکا ہے اور ہر شخص کے گلے میں لنت کا طوق پڑا ہوا ہے اور اس طوق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے قولہ تَعَالَى مَسْمُومًا عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَغْيٍ ۗ توجہ! نشان کئے ہوئے نزدیک پروردگار تیرے کے اور نہیں ہے وہ ظالموں سے دور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کونسی جگہ ٹھکانہ ہے۔ وہ بولے کہ ان لوگوں کا سات طبع نیچے دوزخ باد یہ میں ٹھکانہ ہو گا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ کر کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم غلیل اللہ پھر اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چار بیٹے تھے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بنی بنی ہاجرہ کے بطن سے اور حضرت اسحاق

علیہ السلام اور مدین اور مدائن بنی سائرہ خاتون کے بطن سے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے
 صرف ایک بیٹے تھے لیکن تواریت میں لکھا ہے کہ بارہ بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کی روایت زیادہ صحیح
 معلوم ہوتی ہے ان کا نام قیدار تھا اور ان کے جسم کی قدامت چالیس گز لمبے سات گز موٹے اور
 چوٹے عرب کے سلطان تھے اور تمام عرب ان کا مطیع اور فرمانبردار تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام
 کے دو بیٹے تھے ایک کا نام عیص اور دوسرے کا نام یعقوب اور مدین کے ایک بیٹے کا نام شعیب
 تھا اور وہ مدین کے بیٹے عجم کے بادشاہ تھے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس برس
 کی ہوئی تو آپ کو موت آئی اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موت سے ہر وقت ڈرتے تھے اس لیے
 حق تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت ان کی مرضی کے موافق کی جائے نا کہاں ایک بوڑھا مہمان حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھانا کھلا دیا مارے ضعف کے وہ کھانا نہ
 کھا کا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہوگی اس نے جواب میں حضرت
 ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری عمر اس وقت تقریباً ایک سو بیس سال کی ہے یہ سن کر حضرت ابراہیم
 علیہ السلام بہت انوس کرنے لگے کہ مجھ کو کبھی شاید اسی سن و سال میں یہ حال گزرے ابھی تو میری عمر
 اس سے دس سال کم ہے تب آپ نے کہا یا اہلی میں اپنی عمر اس سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں۔ اس
 کے بعد چاروں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَصَّيْهِمَا اَبْرٰهِيْمَ
 بَيْنِيْهِ وَيَعْقُوْبَ ؕ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓكَ نَكَحْنَاكِ وَاٰتٰنَاكِ مِنْۢ بَيْنِنَا مَالًا كَثِيْرًا وَاٰتٰنَاكِ
 وَآخِرَتًا مَّسْئُوْمًا ؕ اور یہی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب
 نے بھی کہ اے بیٹو! اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے تم کو چن کر اپنا دین دیا اور تم کو بھی بھی غیر مسلم
 ہو کر مرنے والا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین اسلام فرمایا اور یہ چیز میں نے تم کو سادی اور بتادی ہے
 حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے عرض کی کہ آپ کو خدا تعالیٰ
 نے کسی کام کے سبب سے نبوت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تین
 سبب سے مجھے نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اول میں نے کبھی بھی روزی کا غم نہیں کیا کہ میں
 کل کیا کھاؤں گا۔ اور دوسرا بغیر مہمان کے کھانے کو نہیں کھایا۔ اور تیسرا یہ کہ جب کوئی کام دنیا و
 آخرت کا آپر تا تو پہلے آخرت کا کام کرتا پیچھے دنیا کا۔ یہ تین کام کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو
 خلافت و نبوت و کرامت بخشی بمصداق اس آیت کو میرے قولہ تعالیٰ وَآتٰنَاكِ مِّنۢ بَيْنِنَا مَالًا كَثِيْرًا
 وَآخِرَتًا مَّسْئُوْمًا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ وصیت کو کے

اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے بعد انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب بیٹے اپنے اپنے مقام پر چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کچھ باپ کی شے سے حصہ دو تاکہ باپ کا شان و تبرک ہمارے پاس بھی رہے اسی کے جواب میں حضرت اسحق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو اس لئے محروم المیراث ہو اور تمہیں باپ کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکر حضرت اسحق علیہ السلام کو کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فوقیت مت کر کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوید النبیاء ہیں اور پھر تمام مومن انکی پشت سے ہوں گے اور تمہاری پشت سے تمام جہود اور گمراہ پیدا ہوں گے اور تمہاری اولاد کو ان کی اولاد ہمیشہ خوار رکھیں گے اور بے نطاح لونڈیاں ان پر حلال ہوں گی اور ان کی امت بہت کثیر تعداد میں ہوگی۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں میں چھالے پڑ گئے اور وہ اس رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے اس بات کو دو برس گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکر کہا کہ اے اسحاق علیہ السلام میں تم کو خدا کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تیری پشت سے چار ہزار پیغمبر ہوں گے اور ایک پیغمبر ان میں حضرت موسیٰ ہوگا جو خداوند کریم سے باتیں کریگا اور ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہوگا اور خدا چاہے تو تمہیں بینا کرے یا ویسا ہی رکھے اگر تم کو خداوند کریم نے نابینا رکھا تو قیامت میں آنکھیں کھلیں گی اور خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اپنی آنکھیں جنس مانگتا اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے عوض خداوند قدوس مجھ کو اپنا دیدار دکھائے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ان کا نام عیص اور یعقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق نے انتقال فرمایا اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔

بیان حضرت اسماعیل علیہ السلام

تواریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر سال کے شریف سے اپنے والد بزرگوار کی زیارت کو ملک شام جاتے تھے اور وہاں حضرت اسحاق اور دوسرے بھائیوں

کو دیکھ کر پھر مکہ شریف تشریف لے آتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی مکے کے شریفوں میں سے تھیں اور ان سے بارہ بیٹے تولد ہوئے ایک روز اچانک حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے اسمعیل تم مغرب کی زمین میں جاؤ اور وہاں کے بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور دعوت الی الحق دو۔ چنانچہ یہ حکم خداوندی پاتے ہی فوراً وہاں گئے اور تقریباً پچاس برس تک خلق اللہ کو ہدایت کی یہاں تک کہ تمام بت پرست مومن ہو گئے (ارشادِ ربانی ہے)۔

وَ اذْكَرْنِي اَلْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَادَ كَسُوْلًا نَبِيًّا وَ كَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا

ترجمہ! اور یاد کر کتاب میں اسمعیل علیہ السلام کو کہ وہ اپنے وعدے میں سچا تھا اور اپنے رب کے پاس پسندیدہ۔ یعنی حضرت اسمعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ جب تو واپس نہ آدے گا میں اسی جگہ ٹھہرا رہوں گا اور وہ شخص تقریباً ایک سال تک نہ آیا حضرت اسمعیل علیہ السلام ایک برس تک اسی جگہ پر اس کے منتظر رہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق الوعد فرمایا اور عمر شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک سو تیس برس کی ہوئی تھی آخر عمر تک کے ہی میں رہے اور بعض راویوں نے کہا ہے کہ آخر عمر کے سے ملک شام میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت اسحاق نابینا ہو گئے اور ان سے دو بیٹے تولد ہوئے ہیں جن کے نام عیصٰ اور یعقوب ہیں اور آپ کی ایک بیٹی بھی تھی اس کا نام تہ تھا۔ حضرت عیصٰ کے ساتھ اس کا بیاہ کر دیا تھا اور حضرت اسحق کو وصیت کر کے پھر مکے میں تشریف لے گئے اور اس واقعہ کے ایک برس بعد انتقال فرمایا اور حضرت کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ بعد اس کے ان کے بیٹے ہر ایک ملک میں متفرق ہو گئے۔ مگر دو بیٹے ایک ثابت دوسرے قیدار دونوں مکے ہی میں رہ گئے اور ہیشتر اہل عرب اور حجاز انہیں کی نسل سے ہیں۔

حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہما السلام

روایت کی گئی ہے کہ حضرت اسحاق نے حضرت اسماعیل السلام کے بعد وفات پائی اور حضرت اسحاق کی عمر ایک سو ساٹھ برس کی ہوئی اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کنعان میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اور حضرت اسحاق کی بیوی ہاجر اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھیں اور ان سے دو بیٹے ہوئے عیصٰ اور یعقوب و ہر تہیمہ یعقوب کی یہ ہے کہ عیصٰ کے عقب یعنی چھپے تولد ہوئے جب

دونوں حضرات بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیص کو حضرت اسماعیل کی بیٹی سے بیاہ دیا اور حضرت یعقوب کو کہا کہ تم کو کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا اور ان کی ماں نے کہا کہ تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی کہ وہ بڑا مالدار ہے ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں حضرت یعقوب اس بات کو سن کر تعلق کرتے تھے کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اور حضرت عیص کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چاہتے تھے اور وہ اکثر اوقات شکار کیا کرتے تھے لیکن حضرت یعقوب نہیں کرتے تھے۔ ایک روز حالت صغینہ میں حضرت اسحاق نے عیص سے کہا کہ آج ایک بکری جنگلی یاہرن شکار کر کے لاؤ اور اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو پیغمبری عنایت فرمائے۔ یہ سن کر عیص اپنا تیر و کمان لے کر باپ کے واسطے شکار کے لئے باہر نکلے اور ان کی ماں حضرت یعقوب کو زیادہ پیار کرتی تھیں انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ اپنی بکری جو موٹی تازی اور فربہ ہے اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلاؤ وہ تم کو دعا دیں گے۔ حضرت یعقوب نے اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کے جلدی جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو آنکھوں سے معذور تھے ہوئے کباب پا کر کہنے لگے کہ یہ کباب کون لایا ہے حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا کہ عیص لایا ہے فرمانے لگے کہ ان کبابوں کو سامنے لاؤ حضرت یعقوب نے سامنے لا کر رکھ دیئے جب حضرت اسحاق ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا کہ یا حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجئے ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا کہ یارب مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجئے اس کے بعد حضرت عیص شکار سے واپس آئے کباب بنا کر حضرت اسحاق کے سامنے رکھ دیا پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے جلد بنا کر یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق سے دعا کروائی تھی کیونکہ وہ حضرت یعقوب کو بہت چاہتی تھیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیص سے کہا کہ اے عیص تیری دعا تیرے بھائی یعقوب نے لے لی عیص نے اس بات کو سن کر طیش میں آکر کہا کہ میں یعقوب کو مار ڈالوں گا تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب کو مت مار اور میں تیرے لئے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیص کو دعا دی تو اس کی برکت سے حضرت عیص کی اولاد بہت بڑھی۔ مغرب اور اسکندریہ اور دریائے کنارسے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا۔ اب جس شہر کا نام روم ہے اور اسی کو استنبول بھی کہتے ہیں چہرہ مکہ یہ شہر انہوں ہی نے بسایا تھا اس لئے اس

شہر کی نسبت بھی انہیں کی طرف ہے اور ان کی اولاد بہت ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً ایک سو ساٹھ برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سائرہ خاتون کی قبر کے پاس مدخون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب ڈر گئے کہ مبادا عیض مجھے مار نہ ڈالے اسی خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے تھے اور رات میں نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً ایک سال گذر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام چلے جاؤ اور وہیں رہا کرو کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑا رئیس اور مالدار ہے اور اسی کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی اور تم اپنے باپ کی وصیت بجالاؤ اور یہاں مت رہو اور اس طرح تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے گی اور یہ الفاظ اپنے والدہ کے سن کر حضرت یعقوب کنعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دو سرا نام اسرائیل رکھا گیا کیونکہ انہوں نے رات ہی رات سفر طے کیا۔ اور توجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی اور یعقوب کا نام بسبب عقب ہونے اپنے بھائی عیض کے ہوا اور یہ پورا حال تو ریت میں بھی مرقوم ہے۔ پس دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب کو بہت تسلی و تشفی بھی دی اور کہا کہ تم یہاں رہو، اور ان کے ماموں ان سے بہت پیار و محبت بھی کرنے لگے۔ حضرت یعقوب کے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں ایک کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا۔ لیکن راحیل نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دو اور نہی وصیت بھی میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب کی سن کر ان کے ماموں نے کہا کہ تمہارے باپ کی کوئی بیٹی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے میں اپنی بیٹی کی کیونکہ شادی کر دوں۔ دین ہر کہاں سے دو گے۔ جب کہ مجھے دولت چاہیے حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہرا کر دوں گا۔ یہ بات سن کر ماموں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کو کونسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو مناسب راحیل کو سمجھتا ہوں حضرت یعقوب کی فرمائش کو ان کے ماموں جان نے منظور کر لیا اور مابین یہ شرط قائم ہوئی کہ یعقوب سات برس میری بکریاں چرا کر راحیل سے شادی کرے گی۔ جب سات برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب سات برس پورے ہو

چلے ہیں اب آپ میرے ساتھ راحیل کی شادی کر دیجئے یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی کوچی کا نام لیا تھا اس کو خلوت میں حضرت یعقوب کے سپرد کر دیا حالانکہ شرط شادی کی راحیل سے تھی یعقوب کے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا کہ میں لیا کو نہیں چاہتا آپ سے تو میں نے راحیل کی درخواست کی تھی ان کے ماموں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ہماری قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی سے شادی کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اگر ایسا ہم نہ کریں گے تو لوگ ہم پر طعنہ کیسے گے کہ کہ دیکھو فلاں نہیں قوم نے اپنی بڑی کوچی کو تو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا ہے یہ بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راحیل سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو سات برس تک بکریاں چرانا ہوں گی اور سات برس تک تم اپنے ساتھ لیا کو نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہو گا چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو اور یہ حکم اس زمانہ میں جائز تھا کہ ایک شخص دو بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا اور اب شریعت محمدیہ میں بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ چونکہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کے قوانین قیامت تک کے واسطے کارآمد ہوں گے اور اس میں کسی وقت بھی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی اور دو بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ابراہیم سے لے کر تانزدل تو ریت تک تھا اور قرآن مجید میں دو بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ہے جیسا کہ حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے۔

وَاَنْ تَاْتُوْا نِسَاءَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ اَلَا مَحْتَسِبِيْنَ
 اَلَا مَّا كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اَنْ تَاْتُوْا نِسَاءَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ اَلَا تَرْضَوْنَ
 اَنْ يَّكُوْنَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ حُجُوْرٌ مِّمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ سَمِعْتُمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ

باتیں سن کر حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان کی سات برس اور بکریاں چرائیں، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی شادی راحیل سے ہوئی اور ان کے ماموں نے بہت کثیر تعداد میں مال و اسباب دے کر دونوں بیٹیوں اور داماد کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ بی بی لیا کے بطن سے چھ بیٹے تولد ہوئے ان کے نام یہ ہیں۔ روئیں، شمنوں، لیوی، یہودا، اسخارا، زبولوں اور یہ نام تو ریت میں مذکور ہیں راور ایک مدت تک بی بی راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفی تھا اسے حضرت یعقوب کی خدمت میں دیا اس سے دو بیٹے پیدا ہوئے وان اور نقتان پھر بی بی لیا نے بھی اس سے رشک کر کے حضرت یعقوب کو ایک لونڈی دی اور اس سے بھی دو بیٹے پیدا ہوئے اور نام ان کا رکھا کا داد اور بشری۔ پھر کچھ روز بعد بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے

قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے پس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت کل گیارہ بیٹے تولد ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے اور اپنی سے بہت زیادہ محبت و انیت تھی۔ یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً ایکس یا بائیس سال ہو گئے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد بہت عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی محترمہ والدہ صاحبہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت سے مشروب ہوویں۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اجازت مانگی انہوں نے خوشی اجازت دے دی اور مال اسباب بھی بہت سارے کر دونوں بیٹیوں کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور بہت مال و اسباب اور بہت سے مویشی لے کر کنعان کو چل دیئے اور راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ ہنوز عداوت و غصہ عیص کے دل سے نہ گیا ہو۔ شائد مجھ کو مار ڈالے اسی تفکرات میں پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت عیص میدان کی طرف نکلا کہ کونکے تھے راستے ہی میں ملاقات ہو گئی، ان کو حضرت یعقوب نے دور سے ہی پہچان لیا اور حضرت یعقوب نے اپنے قافلہ والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ عیص کا ایک غلام تھا اس کا نام یعقوب تھا وہ ملک شام میں چلا گیا تھا یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے آئے تھے۔ جب بکریوں کے ساٹھان حضرت عیص کے پاس پہنچے تو عیص نے ان سے دریافت کیا کہ یہ بکری خانہ کس کا ہے سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ عیص کا غلام یعقوب جو ملک شام میں کچھ روز قبل چلا گیا تھا اسی کا ہے جب عیص نے یعقوب کا نام سنا تو آبدیدہ ہو کر کہنے لگے کہ عیص کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب ملک شام میں بھی بہی جتے تھے میں عیص کا غلام ہوں جب حضرت یعقوب نے دور سے دیکھا کہ عیص بہت ہی آبدیدہ ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب اپنے قافلے سے الٹ ہو کر عیص سے بفریگ ہوئے اور گود میں لے لیا اور دونوں بھائی زار زار خوب روئے۔ ان وجوہات کے سبب آج ہمیں منزل کوئی اور پھر دوسرے دن گھر میں تشریف لائے اور تقریباً ایک سال گزرنے کے بعد بنی راحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بنیامین رکھا بعد تولد ہونے ان کی ماں نے انتقال

فرمایا اور نبی بیٹا نے بنیامین کی پرورش کی۔ کیا اپنے بیٹوں اور یوسف سے زیادہ پیار کرتی تھیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے پیدا ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے پیغمبری عنایت فرمائی تب کنعان میں بہت مخلوق خدا پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی اور جب عیص کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو بھی یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور عیص نے کہا کہ بھائی میں نے یہاں ایک مدت گزار لی اور بنو زنبیہ ہی رہا ہوں۔ اور تم بھی کچھ روز میرے ساتھ اسی جگہ رہے ہو، اور اب تم یہاں بود و باش اختیار کرو اور تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو اور میں کسی دوسری جگہ پر جا کر رہوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیص یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا اور بستی بھی اسی کے نام سے آباد ہوئی تھی اسی واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا اور جنہیں اولادیں ان کی تھیں وہ سب کی سب وہیں رہیں اور ان کی اولاد کی بہت کثرت ہو گئی اور ایک روایت میں آیا ہے کہ عیص کی اولادوں میں سے سولہ حضرت ایوب علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں ہوا اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام

در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت اور طبیعت کو فرحت حاصل ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو جس کو خدا تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے اور علمائے متقدمین اور فضلا متاخرین کے کتابوں میں یہ ذکر آیا ہے کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا ہے اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم الشان واقعہ سے خوب واقف فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ** **بِمَا آدُو حِينَا لَا يَلِيكَ هَذَا الْقُرْآنُ ۚ وَلَا نُنْتِ مِنْ قَبْلِهِ لَمِيسَ الْغَافِلِينَ ۝** ترجمہ ہم آپ سے بہتر قصوں میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن اور تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں سے بعض علماء کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے اس قصے کو سب قصوں قرآن مجید کا بہتر قصہ کیوں فرمایا، اور بعضوں نے یہ کہا کہ یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصے سے احسن ہے، اور بعضوں نے کہا کہ صبر جمیل یعقوب علیہ السلام

کا قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اور صبر سب سے بہتر چیز ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کو احسن کہا اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی باتیں خواب کی تھیں اور تمام حقیقتیں اس قصہ میں بیان ہوئی ہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہو، بہر حال یہ قصہ عجیب و غریب اور نہایت موثر ہے اس کے پڑھنے سے ہر انسان نیک بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز سات یہودیوں نے آکر حضرت عمر ابن الخطاب سے مباحثہ کیا یعنی یہودیوں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ ہماری تورات بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری تورات سے اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تورات میں مذکور ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں درآنا لیکہ وہ بہتر نسلوں میں سے ہے حضرت عمرؓ اس بات کو کہہ کر ہمت ہی زیادہ رنجیدہ و غمگین ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مناظرہ کا حال بیان کیا۔ رسول خدا یہ سن کر اور حضرت عمرؓ کو غمگین دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیلؑ امین تشریف لے آئے بحکم رب العالمین اور پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اور قصہ کا شروع یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہوئے۔ اور بی بی راحیل بیٹی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف پانچ برس کی تھی اور اپنے گیارہ بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور دنیا میں اس وقت شیر خوار بچے تھے اور ان کی خالہ لیا نے ان کی پرورش کی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئیں یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب سے عرض کی کہ آپ کشمیر والا لادیں اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی لہذا اگر آپ چاہیں تو یوسف کو مجھے دے دیں ہم اس کی بوری خدمت اور پرورش کر لیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت کو ان کے سپرد کیا اور وہ حضرت یوسف کو اپنے گھر لے گئیں۔ اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگیں۔ اور حضرت یعقوب

علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا تھا اور وہ فرط محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب کی محبت یوسف سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک ساعت بھی نہیں رہ سکتا ہوں میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کی ہمیشہ نے کہا کہ میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کر دو کہ یوسف ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے اور ایک ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا، حضرت یعقوب نے یہ بھی منظور کر لیا اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ایک قریب تھا۔ حضرت یعقوب کی بڑی بہن کو وہ مکر بند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا اور اسی قریب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بھوپھی کے گھر میں سات دن رہے اس کے بعد حضرت یعقوب نے ان کو طلب کیا۔ تب ان کی بہن نے حیلہ سازی کی تاکہ یوسف کو ان کے باپ نہ لے جا سکیں۔ وہی مکر بند حضرت یوسف کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا تھا کہ یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت ایسی تھی یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ پس بعد سات دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوا لیا، پھر ان کی بہن نے حیلہ کر کے یعقوب علیہ السلام سے آکر کہا کہ میرے باپ کا مکر بند مگ ہو گیا ہے اور یہ یقین ہے کہ یوسف کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چر لیا ہے۔ لہذا آپ سب کو حاضر کیجئے ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف کے پاس جا کر ان کی کمر سے مکر بند جھٹ کھول ڈالا اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہوا اور اب وہ دل بریں میرے پاس رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جنات کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف کے لے جانے کی اجازت دے دی بعد دو برس کے ان کی خواہر نے وفات کی پھر بعد وفات اپنی بہن سے یوسف کو اپنے گھر واپس لے آئے اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے شب گذشتہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور کیارہ ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأُمِّهِ يَا أَبَتِ

اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدًا عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مَا يَهْرَبَانِي سَجِدًا مِنْهُ تَرْجَمَهُ
 جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے شب کے
 گیارہ ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا یعقوب نے جب معلوم کیا کہ بھائی سب ان
 کو ذیل کریں گے تب کہا ان سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ يَبْنَئِي لَكَ تَقْصُصُ دَعْوَاكَ
 عَلَىٰ ذِيكَ ذُو الْكَيْدِ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَدُ لِنَاسٍ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ اور کہا یعقوب
 علیہ السلام نے اے بیٹے میرے مت بیان کر خواب اپنا بھائیوں سے کیونکہ اس خواب کو سن کر
 وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے
 ہی وہ سمجھ لیں گے، بارہ بھائی اور ایک باپ اور چار ماؤں سے اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری
 طرف محتاج ہوئے ہیں۔ اور شیطان یعنی ان کے دل میں حسد ڈالے گا اور حضرت یعقوب علیہ السلام
 نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے
 کلام پاک میں ذَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَارِيهِ الْأَحَادِيثِ
 وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا اتَمَمَهَا عَلَىٰ آبَائِكَ
 مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّ سِحْقَ طَارِئِ رَبِّكَ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ ۝ ترجمہ اور
 اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور بتاؤں گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات یعنی تعبیر خوابوں کی اور
 پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور حضرت یعقوب کے جیسا کہ پورا کیا تیرے دو باپوں پر جو تجھ سے
 پہلے تھے یعنی دو دادے ابراہیم واسحق علیہما السلام پر اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور
 حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت
 ہی حسد کرنے لگے اور بولے قَوْلِي تَمَّأَنَّ ۚ اِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَآخُوهُ أَهْبُتَ لِمَا آيَلَنَا
 وَنَحْنُ عُصْبَتٌ ۚ اِنَّ اَبَانَا كَيْفِي ضَلِيلٌ مُّبِينٌ ۝ ترجمہ اور جب کہنے لگے ان کے بھائی البتہ
 یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قوت والے ہیں
 اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں صریح غلطی پر ہے اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کا آنے
 والے ہیں اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ ابھی
 چھوٹا ہے اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ اور یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی بالغانی میں کئی تھیں حالانکہ
 یہ باتیں طعن زنی پر معمول ہوتی ہیں۔ لہذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کسی طرح درست نہ تھا حالانکہ حضرت
 یوسف کے سب بھائی بنے ہوئے اور ایک نے اللہ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا۔ لیکن ابتداء

میں سب نے رنج اٹھائے اپنے باپ کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی اور وہ سب کہتے لگے
 قَوْلَهُ تَعَالَىٰ إِنَّمَا تَتَكَلَّمُونَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ لِيُؤَسِّفَٰكُمْ أَصْحَابُ الْأَرْضِ بِمَا كَفَرْتُمْ وَتَكُونُوا لَهُمْ
 نَكِيرًا ۚ تَعَالَىٰ بَعْدَ مَا صَالِحِينَ ۗ ترجمہ: بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ پس
 اب یوسف کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک دو جہاں سے وہ نہ آسکے اور وہ کسی دوسرے
 ملک میں اکیلارہتا ہے تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب
 خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کو نہیں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ
 کو دکھائی دے، اور پھر تو بہ کر لو اور اپنے باپ کے ہمیشہ مطیع اور فرمانبردار ہوتا کہ یہ حالت دیکھ کر اللہ
 تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے
 ایک بھائی کا نام یہود تھا اور تمام بھائی اس کے فرمانبردار تھے اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ
 مت مارو یہ ہمارے بھائی ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ قَاتِلْ فِي سَبِيلِنَا لَا تَقْتُلُوا
 يُدُسُّهُمُ وَالْقَوْلُ بَرِيٌّ غَيَّبَتِ الْجَبْتُ يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۗ
 ترجمہ: ایک بولا بولنے والا کہ مت مارو یوسف کو اور پھینک دو اس کو ایک گمنام کنوئیں میں کہ
 اٹھالے جاوئے اس کو کوئی مسافر اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کیں کہ اگر تم کو اپنے بھائی
 یوسف کے ساتھ کرنا ہے تو پس یہی کرو اتنا ہی کافی ہے کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا
 گناہ ہے اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنوئیں میں جو میدان میں واقع
 ہو اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنوئیں پر
 آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہی ملک میں لے جائے گا اور اس طرح یوسف اپنے باپ کی
 نظروں سے دور ہو جائے گا اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون ناحق سے بھی ہمارا
 چھٹکا راہ ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر
 صلاح و مشورہ کیا کہ یوسف کو ان کے باپ سے کسی طرح اور کیونکر لیا جائے اور کب اور کس وقت
 دور میدان میں لے جایا جائے جو ہمارے دلوں کی غرض و غلیت اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت
 یوسف کے اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور طمینان دلاتے یہاں تک کہ ان کے بھائیوں
 نے کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجئے تاکہ کسی بڑے میدان میں
 جا کر ان کو کچھ کھیل دکھائیں لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح سے قبول نہ کرتے تھے پھر سب
 بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف ہی کو فریب دینا چاہئے تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے

کے واسطے اصرار کریں گے، مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ اے ہمارے بھائی تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشہ میدان کا دیکھنے چلو ہم لوگ تم کو خوب تماشہ اور کھیل میدان میں دکھادیں گے اور وہاں بکری کا دو دھبھی خوب پلائیں گے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بیشک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے اس لئے میں کیونکر جاؤں۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ تم خود ہی اپنے والد صاحب کے پاس جا کر بولو تو البتہ وہ تم کو حکم دے دیں گے پھر ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا، حضرت یعقوب نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھالیا۔ اور ان کے سر و چشم پر بوسہ دیا اور حضرت یوسف بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ سیر میدان کی کر لوں اور وہاں تماشہ بھی دیکھوں اور وہیں بکری کا دو دھبھی یوں گا اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان کے ہمراہ جاؤں اور اپنا دل خوش کر آؤں۔ حضرت یعقوب نے اپنے تختِ جگر کی ٹیٹھی ٹیٹھی باتیں سن کر فرمایا نعم یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف کے جواب میں والد صاحب نے نعم کہا ہے اور ان دن سے دیا ہے یہ سن کر بڑے بھائی یہودانے کہا کہ اب تم لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کر لو اور تم لوگ ہمارے ساتھ عہدِ پیمانہ کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کس طرح کوئی گزند نہ پہنچے گی اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَنَصِحُونَ ۗ اذِمْ لَهٗ مَعَنَا عِنْدَ آيَاتِنَا وَ يَلْعَبُ وَاِنَّا لَكٰفِيُونَ ترجمہ بولے اے باپ کہ اعتبار نہیں کرتے ہو ہمارا یوسف پر اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں بھیج دیجئے ان کو ہمارے ساتھ کل کو کیونکہ ہم لوگ یوسف کی ہر طرح نگہبانی کرنے والے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹوں میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا کھر میں رہ جاؤں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ قَالَ إِنِّي لَخِزْنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهَا وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ السَّبَبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُمْ غٰفِلُونَ ۗ ترجمہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھڑیا

کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو۔ یعنی ان کو بھی بھڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا سو
 وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے
 بھڑیے کا تذکرہ اکل دوجہ سے ان کے سامنے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بھڑیے
 نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈر کرتے تھے۔ کیونکہ
 انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں جھوٹے نہیں ہوتے۔ بہر حال یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام
 کی سن کر حضرت یوسف کے بھائی بولے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ **قَالَ الْاَبْنُ
 اَكَلَهُ الشَّيْطَانُ وَنَحْنُ عُصْبَتَا اِنَّا اِذَا الْخِصْرُ دُونَهُ تَرَجَّمْنَاهُ** ترجمہ وہ سب لوگ
 کہ اگر کھا گیا اس کو بھڑیا اور ہم تو سب بوری جماعت ہیں ایسا نہ ہو گا اور ہم سب صاحب
 قوت ہیں، اگر بھڑیے بھی وہ کھا گیا تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ یعنی اگر بھڑیا اس کو کھائے گا تو کیا ہم لوگوں
 سے اتنا بھی نہ ہو گا کہ ہم دس بھائی ہیں اس کو اپنے بھائی کے کھانے سے روک سکیں اگر ہم نے ایسا
 نہ کیا تو ہم سب سخت گنہگار ہوں گے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان باتوں کا فریب کھا کر یوسف
 کو ایک روز کی اجازت دے دی اور رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا اے
 میری جان میرے دیدے سے اپنا دیدہ ملا کر جاؤ اور ذرا میرے پاس آؤ تو میں تمہیں گود میں
 لے لوں کیا پتہ پھر تمہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ بعد اس کے اپنے دیگر بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو
 تمہیں سوچنا اب جاؤ پھر اسی پاؤں سے سلامت آؤ میرے پاس یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ
 السلام نے ان کو رخصت کیا اور وہ سب کے سب ان سے اجازت لے کر چل دیئے قولہ تانی
فَلَمَّا ذَهَبُوا اِيَّاهُ وَاجْتَمَعُوا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِى غَيْبَتِ الْجُبِّ پھر جب لے کر
 چلے اور آپس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گنہ گنوں میں پس جاتے جاتے کنعان سے چھ
 کوس کے فاصلہ پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں جا پہنچے حضرت یوسف کھیل کود کے ساتھ خوشحال
 کرتے ہوئے چلے۔ بھائیوں نے ان پر ظلم اور دست درازی اور طمانچہ لگانا شروع کر دیئے
 حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے فریاد و زاری کی اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا کون سا
 گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سوچا ہے، یا تم میرے
 بھائی نہیں ہو۔ تم لوگ اپنے باپ کی وصیتیں اور نعمتیں مت بھولو اور میری بے ماری اور پسری
 پر رحم کرو۔ ہر چند کہ یوسف نے کہا۔ لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنا اور برابر مارتے ہی رہے پھر وہ
 سب کہنے لگے کہ تو نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا

ہے کہ آفتاب اور جنتاب اور گیارہ ستاروں نے اکر مجھے بچدہ کیا ہے شاید تیری ہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیرِ حکم رہیں۔ اور اب تو تیری موت آچکی ہے اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشت پناہی کر سکے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے، تب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنیں تو وہ اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے ان سے یہ ماجرا بیان کیا انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہو اور انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گناہ میں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کو سب بھائی مل کر ایک گناہ کنویں کے کنارے پر لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار لے کر اوزن کا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف بہت فریاد و زاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آکر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گناہ کنویں میں مجھے بے گناہ کر دیا ہے اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ میں جا پہنچے اور سی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی۔ تو دوسرے بڑے بھائی شعون نے آکر سی کاٹ دی اور اس کا دی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا کرے اور پھر وہیں مرجائے۔ قضا الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اگر ان کو کنویں کے اندر پانی کے ادب پر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف کو پانی کے اندر جانے نہ دیا کہ ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ محققین نے اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف کنویں میں کئی دن رہے۔ بعضوں نے کہا کہ صرف ایک دن رات جب بھائیوں نے آکر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے اور ہم لوگوں نے نجات پائی، آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب تو بہ کر دیں۔ اور ہماری تو بہ خدا قبول کرے اور اس چیز کا عزم صمیم کریں کہ شب دروز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں تاکہ وہ ہم سب سے راضی و خوش رہیں۔ ادھر حضرت یوسف کنویں کے اندر روتے روتے اذ حد ڈھال ہو گئے تو روتے روتے، دَاٰدِحِنَا اِیْنَہَا لَتَبْتَیْتُنَّہُمْ بِمَا مَرِیْہُمْ ہَذَا وَاھُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۵۔ اور ہم نے وحی کی اس کو کہ جنادے گا ان کو ان کا یہ کام اور وہ نہ جانیں گے فائدہ پھر جب لے کر چلے اور آگے نہ فرمایا کہ کیا ہوا اس واسطے کہ لائق بیان کے نہیں جو کچھ ان کے بھائیوں نے سلوک کیا اور راستے میں بری طرح مارتے اور ہرا بھلا کہتے ہوئے لے گئے تھے نہ انہوں نے حضرت یوسف کے رونے پر رحم کھایا نہ فریاد پر پھر کنویں میں ڈالا تو وہ کنویں کے کنارے کو پکڑ کر رہ گئے اور بہت روتے مگر

بجائے رحم کھانے کے رسی میں باندھ کر اس کنویں میں لٹکا دیا۔ اور جب آدمی دور پہنچے تھے تو رسی کو کاٹ دیا اور سب بھائیوں نے مل کر ان کے کپڑے اتار لئے تھے بالکل ننگا کر دیا تھا جس آنہ انہوں نے رسی کاٹی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے کہ اے یوسف خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی اور خداوند قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت عنقریب آئے گا کہ وہ تیرے سب کے سب مطیع اور فرمانبردار ہوں گے اور حضرت یوسف کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر دیا۔ اب کیا کرنا ہے اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہو گئی۔ آپس میں مشورے ہوتے رہے لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آتا تھا۔ آخر ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان ہم سب کو یہی کہنا ہو گا کہ یوسف کو تو بھڑیئے نے کھا لیا اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پیرا بن یوسف کا جو کہ انہوں نے برقت کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا آلودہ کر لیا اور یہی یوسف کا کرتہ حضرت یعقوب کے پاس یعنی حضرت یوسف کے والد بزرگوار کے سامنے لے جا کر رکھا تاکہ ایک حد تک ان کو یقین و اطمینان ہو جائے اور ان سب بھائیوں نے کچھ مکر بھی کیا۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَجَاءَهُمْ عِشَاءٌ يَكُونُونَ ۙ قَالُوا يَا بَنِي آدَمَ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا كَلِّكُمْ الِذِّئْبُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ لَنَا وَكَوْكَبْنَا صَالِحِينَ۔ ترجمہ۔ اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر اور بہت ہی روتے ہوئے سب کے سب اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے اے ہمارے باپ ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے اور چھوٹے بھائی یوسف کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں بڑگئے اتنے میں کوئی بھڑیا یا ان کی طرف آنکا اور یوسف کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کئے ہوئے کو باور نہیں کریں گے۔ اگرچہ ہم سب سچ کہہ رہے ہیں اسی رات کو وہ کمرتا بھی جو بکری کے خون سے آلودہ کیا تھا حضرت یعقوب کو پیش کر دیا اور پھر کہنے لگے بعض ان میں سے کہ لے باپ ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف کو اسباب کے

پاس چھوڑ دیا تھا ناگہان بھڑیا اس طرف آگیا اور یوسف کو دکھا گیا اور ہمارے باپ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بات کو نہیں مانتیں گے بلکہ تکذیب کریں گے اگرچہ ہم ہزاروں طریقوں پر توجہ نہیں دیکھیں لیکن پھر بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے پھر ان لوگوں نے یوسف کا کرتہ جو خون آلود تھا نکال کر دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر قطعاً یقین نہیں کیا اور متفکر ہو گئے تو لہ تعالیٰ دَجَّاءُ ذَا عَلٰی قَمِيصِهِ يَدَّيْهِمْ كَذِبٌ ۝ ترجمہ اور حضرت یوسف کے کرتے پر ہولنگا کر چھوٹا مرث لائے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس

خون آلود کرتے کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ کرتا خون آلود تو بے شک ہے لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے آخر یہ کیا بات ہے۔ بیٹوں سے فرمایا کہ اس پیرا ہن میں یوسف کے خون کی بو نہیں آتی ہے اور اس بھڑیے نے کھاتے وقت کرتے کو پھاڑا بھی نہیں بالکل ثابت اتار دیا جو تم لوگ میرے پاس لائے ہو شاید بھڑیے یا یوسف پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا کیونکہ یوسف تو کھالیا اور اس کے پیرا ہن کو نہیں پھاڑا۔ اگر تم لوگ اپنے کہنے میں سچے ہو تو اس بھڑیے کو میرے پاس حاضر کرو اس بات کو سن کر اپنے باپ کے حکم کے واسطے ایک بھڑیے کو پکڑو اور اس کے منہ میں ہولنگا کر باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب نے اس بھڑیے سے پوچھا کہ تو نے میرے فرزند جگر بند یوسف کو کھایا ہے اور تو نے اس نازک بدن پر کچھ بھی رحم نہیں کیا اور میری ضعیفی پر تجھ کو کچھ انوس نہ ہوا۔ بھڑیے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے تیرے یوسف کو نہیں کھایا کیونکہ گوشت پوست انبیاء صلحاء کا ہم پر حرام ہے، اور یا حضرت میں تو ایک بہت بڑی بلا درنج میں مبتلا ہوں۔ قابل عرض یہ ہے کہ بعض انبیاء کرام کو اللہ رب العزت معجزات عطا فرمائیں گے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بطور معجزات کے اس بھڑیے سے گفتگو کرنے کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اس بھڑیے نے جو کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس ہولنگا کر حاضر کیا تھا وہ کہنے لگا کہ میرا ایک بھائی تھا چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا۔ میں اس کی تلاش کے واسطے نکلا ہوں اور بوجہ گردش کے جس کو آج تقریباً تین دن ہو رہے ہیں کھانا پینا بھی نہیں کھایا پیاجھو کا بیسا دوڑتا ہوا تین فرسنگ کی راہ سے شب گذشتہ کو اس صحرائیل آپہنچا ہوں، آج اب صبح صابزادوں نے مجھے پکڑ کر میرے منہ میں بکری کا ہولنگا کر آپ کے حضور پیش کر دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ جفلی درت نہیں مگر بسبب بے گناہی کے حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو جو باتیں کہیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں، پس آپ مالک ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ باتیں اس سے سنیں تو فرمانے لگے کہ بھیڑ یا بیچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب نے اس بھیڑیے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کر دیا اور اپنے بیٹوں کو فرمایا دیکھ میں نے یوسف کو خدا پر سوچا اور اپنے رب العالمین سے صبر مانگتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **إِن تَلْمِزْنَاكَ مَلَأْنَا بَدَنًا لَّكَ مِنَ الْغَنَاءِ فَتُكْرَمُ بِهَا وَتَلْمِزْنَاكَ مَلَأْنَا بَدَنًا لَّكَ مِنَ الْغَنَاءِ فَتُكْرَمُ بِهَا**۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَمَا تَصِفُونَ** اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ کوئی بھی ٹھیک بات تم نے ہم کو نہیں بتائی۔ جس پر تمہارے دل خود گواہ ہیں لہذا میں صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں، اس بات پر جو تم مجھ سے اُکرتے ہو یعنی کہ تم پر لہو کا لگانا ان کا بالکل جھوٹ ہے اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الاحزان بنایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے جا بیٹھے اور شب و روز فراق یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں یعنی وہ اس قدر یوسف کے واسطے روئے کہ نابینا ہو گئے اسی جگہ حضرت یعقوب کے پاس ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا یا نبی، ہمارا یوسف کہاں ملے گا میں کہہ کر جاؤں، میرے یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے، اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے اہام ہوا ہے یعقوب تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سوچا اور تم ان سے معلوم کرو کہ کہا الہی میں تصور وار ہوں میں نے خطا کی ہے مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ملک الموت کو جانتے ہو وہ ہر شخص کی جان کو قبض کرتے ہیں تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ملک الموت سے جا کر پوچھا کہ یوسف سلامت ہیں یا نہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ یوسف سلامت ہیں اور ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے یہ بات سن کر حضرت یعقوب کو تسلی اور بھرپور ہوا لیکن بوجہ فراق کے آہ و زاری کرتے رہے۔ روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف کے گم ہونے کا سبب یوں تھا کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی کی ضیافت کی تھی۔ اسی آشنا میں ایک فقیر محتاج ان کے در پر حاضر ہوا اور اس محتاج نے کھانے کا سوال کیا حضرت نے فرمایا کہ شاہ جی بیٹھو کھانا حاضر ہے اتنا بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہو گئے اور اس آنے والے محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے، وہ فقیر محروم بھوکا یہ دعا کر کے چلا گیا۔ الہی تو اس کی آرزوں کو اس سے دور رکھیو یہ دعا خدا کے دربار میں قبول ہو گئی۔ پس اگر فقیر کو کھانا کھاتے تو اس کی قوت چالیس دن تک رہتی اب اس کے عوض تو چالیس برس تک یوسف کے غم میں رہے گا، یہ ہذر یہ اہام سطلغ کیا گیا۔ یہ اہام سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں التجا کی تو رحیم و

کریم عالم الغیب ہے جو خطا مجھ سے ہوئی وہ قصداً نہیں ہوئی غفلت سے ہوئی ہے۔ یہ التجا دربارِ
 الہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو رہی رہے تھے کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے
 یعقوب تم پر جو رنج گزرا ہے اس سے اس بات کو سوچنا چاہیے تاکہ بندوں کو علم ہو کہ خدا جو چاہتا
 ہے وہ کرتا ہے اس کے کام میں کسی کو دخل نہیں۔ مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں
 نے ان کے بدن سے کپڑے اتار کر نینکا کر کے انہیں کنویں میں ڈالا۔ اسی وقت امراہلی سے حضرت
 جبرائیل علیہ السلام نے پیراہن حمیرہ برکاہشت سے لاکر انہیں پہنا دیا اور وہ پیراہن خلیل اللہ کا تھا
 جس کی برکت سے آتش فرودان پر گھزرا ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نجات پائی تھی
 مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سن مبارک اس وقت بارہ برس کا تھا اور بعضوں
 نے لکھا تھا کہ تیرہویں برس کا تھا اور بعضوں نے لکھا ہے کہ سترہ برس کا تھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس
 اندھیرے کنویں میں یوسف تین دن رات رہے۔ اتفاقاً مرضی الہی سے ایک قافلہ سوداگروں کا
 مدین سے اسباب تجارت کامصر کو لے جا رہا تھا۔ ماندگی کے سبب سے راہ بھول کر اس کنویں
 کے پاس آ پہنچا۔ اس جگہ کی آب و ہوا خوشگوار پاکر منزل کی۔ لیکن وہ کنواں سانپ بچھوڑنے سے
 پر اور شہر کی آبادی سے دور تھا اور پانی بھی اس کا تلخ اور شور تھا مگر حضرت کے گرنے سے اس کا
 پانی شیریں ہو گیا اور سوداگروں کے سردار کا نام مالک زغر تھا اور بشیرا نام کا ایک غلام تھا وہ
 بغرض پانی اس کنویں پر آیا اور پانی کے واسطے اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب حضرت جبرائیل
 علیہ السلام نے خدا کے حکم سے آکر کہا کہ اے یوسف تم اس ڈول میں بیٹھ جاؤ جب اس غلام نے ڈول
 کھینچ کر اٹھایا دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت حسین خوبصورت اس میں بیٹھا ہے اس نے دیکھ کر کہا کہ تم
 نے تو ہمارا اور اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا اور نہ اس وقت اس کا کوئی ثانی ہے۔ حدیث
 شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے جملہ حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ حضرت یوسف
 علیہ السلام کو بخشا اور دوسرا حصہ سارے جہان کو دیا۔ سوداگروں نے جب اس کی صاحب جمال
 کمال صورت دیکھی تو وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو بنی آدم ہو یا فرشتے، وہ بولے میں نسل آدم سے
 ہوں اور ان کے بھائی بھی اس وقت سب کے سب کنویں کے کنارے پر تھے یہ شور و غل سن کر
 ان کے پاس آئے یوسف کو انہوں نے دیکھا تب وہ بولے کہ یہ غلام ہمارے گھر کا ہے مارے
 ڈر کے گھر سے بھاگ کر اس کنویں میں آگرا ہے۔ حضرت یوسف نے جب جھوٹی بکو اس سنی تو چاہا
 کہ کچھ بولیں۔ ان کے بھائی شمعون نے عربی زبان میں کہا تم ان سے کچھ کہو گے تو جان سے مار ڈالیں

گا۔ پھر حضرت یوسف نے خوف کی وجہ سے ان سے کچھ نہ کہا، مالک بن زغرنے ان کو سوداگروں کے قافلے میں لے جا کر چھپا دیا۔ لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ پھر لوگوں نے حضرت یوسف سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کہ تم کون شخص ہو اور کہاں سے آئے ہو سردار نے سوداگروں کو جواب دیا کہ بہت قیمتی متاع ہے دوسرے دن ان کے بھائیوں نے ان سوداگروں سے جا کر کہا کہ اس غلام کو ہم بیچیں گے مالک بن زغرنے کہا اس کو خرید لوں گا لیکن اس وقت صرف میرے پاس اٹھارہ درہم مصر کے ہیں اور وہ درہم خرید و فروخت میں چلتے بھی نہیں ہیں تم اگر چاہو تو لے لو۔ پس اس قافلے کے سردار نے وہ درہم ان کے حوالے کئے اور ایک لطف یہ ہے کہ مصر کے دو درہم کنعان کے ایک درہم کے برابر ہیں اور اس حساب سے کنعان کے صرف نو درہم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کو اسی قیمت پر بیچا اور ان کے بھائیوں کی غرض یہ تھی کہ کس طرح سے باپ کی نظروں سے دور کر ڈالیں ورنہ وہ محتاج نہ تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا۔ **وَشَرَّوْهُ يَشْتَرُونَ بِحَيْثُ ذَمَّ اِهْرَامَ مَعْدُو ذَكَرَ ج وَ كَانُوا فِيهَا مِن**
السَّاهِلِينَ ط ترجمہ۔ اور بیچ آئے اس کو ناقص مول میں یعنی گنتی کے چونیوں میں اور وہ یوسف سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی اس کنویں پر گئے اور حضرت یوسف کو قافلے میں پایا تو یہ سب بھائی کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہم سے بھاگتا رہتا ہے اگر تم اسے خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم تو اس کو اٹھارہ درہم میں خرید سکتے ہیں اگر تم کو منظور ہو تو ہمارے ہاتھ بیچ دو اور یہ اٹھارہ درہم لے لو۔ چنانچہ سب بھائیوں نے مشورہ کر کے یوسف کو قافلے والوں کو اٹھارہ درہم میں دے دیا، پھر وہ درہم انہوں نے آپس میں بانٹ لئے اور ایک بھائی نے اپنا حصہ نہ لیا۔ پھر یوسف کو آگے جا کر مصر میں قافلے والوں نے بیچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مرتبہ بیچنا صریحاً بیان فرمایا اور پھر پر وہ پوشی کے لئے دوسری مرتبہ نہیں فرمایا لیکن اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ سستے مول تو پہلی مرتبہ ہی بیچا گیا اور روایت کی گئی ہے کہ مملوک ہونے کا یوسف کے یہ سبب تھا کہ ایک دن حضرت یوسف نے آئینے میں اپنے جمال کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت یوسف کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ بوجہ لطافت و نزاکت جو چیز بھی وہ کھاتے گلے سے اترتی ہوئی نظر آتی تھی جب یہ حسن و جمال اپنا دیکھا تو فخر سے کہا اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا۔ جب اپنے دل میں

یہ تصور کیا تو باری تعالیٰ کو ناپسند ہوا اسی کی پاداش میں ان پر عتاب آیا۔ اور ان کو بتایا گیا کہ اے یوسف تم نے بڑی شیخی کی بات کی ایسی بات کہنا نبی کی شان سے بعید ہے۔ نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا وہ تو اپنے فرض منصبی کے بجالانے میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے تاکہ مخلوق خدا کو ہدایت ہو اور اے یوسف تم نے تو فخر یہاں تک کیا کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی اور تم نے اپنے حقیقی مصور کی طرف کچھ بھی خیال نہ کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تو نے فرمایا کہ دیکھ اب تجھ کو کیسا غلام بناتا ہوں اور کتنی معمولی قیمت پر فروخت کراتا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسی صورت اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سلطنت مصر کی ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی اور یہ دنیا کا دستوری اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت نہ کرے اس وقت تک خادموں کی قدر وہ کیا جانے اور بچھرو، ہی خادم کسی وقت مخدوم کہلاتا ہے۔ الغرض مالک بن زغر نے یوسف کو بشرط خدمت مول لیا تھا اور ایک قبائلہ اس مضمون کا ان کھائیوں سے نکھوایا تھا اور وہ یہ ہے کہ مالک ابن زغر نے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹوں سے ایک غلام نے اٹھارہ درہم سے لیا ہے یہ گواہی گواہان معتبرین کے مالک بن زغر کے ہاتھوں میں اسے سپرد کیا اس کے بعد مالک بن زغر نے حضرت یوسف کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر اونٹ پر سوار کیا اور ایک موٹا پشمینہ اڑھا کر چل دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد جب راستے میں حضرت یوسف کی والدہ مخبر کی قبر آئی تو وہ اونٹ کو روک کر اتر پڑے اور اپنی مال کی قبر کی زیارت کی اور قبر سے چپٹ کر رونے لگے اور کہتے رہے کہ یا امی بھائیوں نے مجھ پر بوجھ حسد کے بہت ظلم کیا ہے اور اس قافلے والوں کے ہاتھ نہ بچ دیا ہے اور مجھے ان قافلے والوں نے زنجیروں بیڑیوں سے جکڑ دیا ہے اور باپ کی خدمت، وطن اور تمہاری زیارت سے مجھے محروم کر دیا ہے اتنے عرصہ میں قافلہ بولا گیا اور وہ کچھ دور وہاں سے نکل چکا تھا۔ ایک شخص اسی قافلے سے پیچھے دوڑا ہوا آیا اور وہ آکر بولا اے تو اب تک یہاں ہے سچ ہے تو واقعی جھگڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسا ٹماچہ مارا کہ اس وقت حضرت یوسف کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا ہو گیا۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت یوسف نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رورور کہنے لگے کہ خدایا ان ظالموں کے شر سے مجھے بچا یہ تکالیف میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہیں اور اے میرے خدا یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف اسی قافلے میں جا ملے، یہ الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت

یوسف علیہ السلام کے قبول فرمائے اور فوراً ایک ابرمہیب جس میں ہوا بھی سخت تیز تھی، وہ ان پر برسنے لگا اور اس ابر میں بجلی کی لکڑک ددک بہت تیز تھی اور ابر ان پر اتنا شدید برساکہ وہ سارا کارواں ہلاک ہو گیا اور جو کچھ ان میں سے بچے وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تو کس کے گناہ سے ہم اس آفت ناکہانی میں مبتلا ہوئے، وہ جس نے حضرت کو طمانچہ مارا تھا ابھی مرانہ تھا وہ بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے جس گھڑی میں نے اس غلام کو طمانچہ مارا تھا تو یہ غلام آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا اور بعد اس کے فوراً ہی یہ بلاٹے ہلکے و ناکہانی آ پہنچی۔ یہ سنتے ہی سب نے جو باقی بچے تھے حضرت یوسف کے پاس جا کر اپنی تقصیر کے معافی مانگی، حضرت یوسف نے ترس کھا کہ ان کو معاف کر دیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تب وہ فوراً ہی ابر کھلا اور ہوا بھی کم ہو گئی اور حالات معمول پر آ گئے باقی ماندہ جب وہ وہاں سے چلے تو قبل اس کے کہ وہ قافلہ مصر پہنچے وہاں یہ خبر ہو گئی کہ آج جو قافلہ مالک بن زغر کا آ رہا ہے اس میں مالک بن زغر ایک ایسا غلام عبرانی لا رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال لاثانی ہے اور پر وہ زمین پر نہ ایسا آج تک ہوا ہے اور نہ ہوگا یہ سن کر تمام اہل مصر سو داگر کے استقبال کو آئے تو تمام اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور جو صفیں کہ سنی تھیں اس سے بھی کہیں زیادہ ان میں پائیں۔ مالک ابن زغر نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوارا اور باقاعدہ اپنے گھر میں فرش و فرش دیہائے رومی کے بچھائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر تاج زرین سر پر رکھا۔ اس کے بعد مالک ابن زغر نے پورے شہر میں منادی کرادی کہ میں غلام ہنایت خوبصورت خوش خلق، عقلمند، دانا، چالاک، فرمانبردار حیدار بیچتا ہوں جس کی خواہش اس کے خریدنے کی ہو وہ وقت مقررہ پر حاضر ہوئے۔ یہ منادی سن کر اہل مصر ادنیٰ و اعلیٰ مالک ابن زغر کے گھر آ کر سب جمع ہو گئے۔ اتفاقاً حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ میری قیمت میں یہ لوگ بہت ہی پس و پیش کر رہے اور حضرت یوسف نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ مالک میرے بیچنے میں عجب خطا میں پڑا ہے کہ اس دن میرے بھائیوں کے ہاتھ سے جو اصل قیمت میری ان سب کو معلوم تھی اور ہم کو مول خریدا تھا اور آج مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے کیوں نہیں یہ مجھ کو بچا کر رہم میں بیچتا اور یہ قیمت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی انکساری سے ٹھہرائی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہام ہوا کہ اے یوسف تو نے ایک روز آئینہ میں اپنی شکل و صورت دیکھ کر فخر سے اپنی قیمت کا آپ ہی مول زیادہ خیال کیا تھا اور آج ہنایت عجز و انکساری سے اپنی قیمت کم کہی اور اسی وجہ سے اب تجھ پر فضل خدا ہوتا ہے اور اب تو دیکھ کہ تیری قیمت کس قدر زیادہ ہوئی ہے اور تجھ پر کتنا فضل خدا ہوتا ہے۔ مالک ابن زغر نے حضرت یوسف کو لباس فاخرہ پہنا

کہ کرکھی پر بٹھایا اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر بولا مَنْ يَشْتَرِي غَلَامًا حَسِينًا لَطِيفًا ظَرِيفًا
 لَيْسَ مِثْلَهُ فِي الدُّنْيَا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے کہا کہ لے مالک ابن زغریوں مت کہو اور
 یوں کہو مَنْ يَشْتَرِي غَلَامًا ضَعِيفًا غَرِيبًا مَظْلُومًا لَيْسَ مِثْلَهُ فِي الدُّنْيَا۔
 یہ سن کر دلال بولے کہ ایسا دستور نہیں ہے کہنے کا۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ اگر یہاں کہنے کا
 دستور نہیں ہے کہنے کا۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ اگر یہاں کہنے دستور نہیں ہے تو پھر یوں کہو
 مَنْ يَشْتَرِي يَوْمَئِذٍ صَدَقَ اللَّهُ ابْنُ اللَّهِ ابْنُ يَعْقُوبَ! سَرَّاءِ يَلِ اللَّهُ ابْنِ اسْحَقَ
 صَفِيَّ اللَّهُ آخِي! سَمِجِيلَ ذِي بَيْحِ اللَّهِ ابْنِ! بَدْهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ!۔ یہ سن کر تمام
 دلالوں نے کہا چپ رہئے ایسا مت کہو اگر لوگ سنیں گے تو خریدنے سے انکار کر دیں گے پھر اس
 کے بعد پکار لگائی گئی کہ ایک ہزار بدرہ سے اشرفی اس غلام کی قیمت ہے کیا کوئی ہے اس کو خریدنے کے
 واسطے تیار اور لذت میں بدرہ کہتے ہیں ایک تحصیل کو جس میں ایک ہزار درہم بھی ہوتے ہیں اور دس
 ہزار درہم بھی ہوتے ہیں اور سات ہزار دینار کو بھی کہتے ہیں اور اب آپ حضرات خود ہی گن لیجئے کہ کتنی
 قیمت ہوئی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ سات ہزار عقد مر وارید اور ہزار جامہ اطلس رومی اور ہزار قصب
 یعنی مہری جامعہ اور ایک ہزار اونٹ بغدادی اور ایک ہزار گھوڑے عربی معہ زین و لکام زرین کے
 اور ایک ہزار لونڈیاں رومی اور ایک ہزار غلام خطامی اور ایک ہزار شمشیر چاہئے، جب یہ قیمت
 ٹھہری تو جتنے خریدار تھے سب کے سب چپ رہے۔ عزیز مہر نے جو بادشاہ مصر کا مختار کل تھا اس
 نے دو فی قیمت ادا کر کے حضرت یوسف کو لے لیا اور اپنے محل میں لے جا کر زینخانہ کے حوالے کر دیا۔
 اور اس نے زینخانہ سے کہا کہ میں نے یوسف کو بڑی قیمت دے کر خرید لیا ہے تم اس کو اچھی طرح رکھنا
 اور بطور فرزند کے پیار و خدمت کیجیو، غلام کے طور پر نہ رکھنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَقَالَ
 السُّبْحٰنُ الَّذِي اَسْتَرْهٖ مِنْ قِصْرِ لَآسَرَاتِهَا اَكْبَرُ هٰٓيَ مَتَّوٰهٖ حَسْبٰى اَنْ يَنْفَعَنَا وَاَوْ
 تَشْتَدَّ ذٰلِكَ ۗ اَوْ تَوَجَّهٖ۔ اور کہا جس نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ
 اس کو شامد یہ ہمارے کام آوے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیں۔ جب یوسف کو زینخانہ دیکھا تو ایسی
 فریفتہ ہو گئیں کہ ایک دم آنکھوں سے جلد نہ کرتیں اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتیں اور
 ہر چیز ان پر تصدق و نثار کرتی تھیں اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لالا کر کھلایا کرتی تھیں اور
 نئے نئے لباس فاخرہ ہر روز ان کو پہناتی تھیں اور ایک تاج مرصع بھی ان کے سر پر کھواتی تھیں
 اور ان کو اعلیٰ مسند پر بٹھا کر اپنی آرزو مٹاتیں اور ان کی ہر طرح سے دلوری کرتی تھیں، اسی طرح

سے تقریباً سات سال گذرے، اور حضرت یوسف کا شغل اکثر یہ تھا کہ اپنے ہاتھ میں ایک مہانے مرصع لے کر ہمیشہ بزغالہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنے عرصہ میں زینحہ کے ہوش و صبر کی طاقت جاتی رہی اور نوبت یہاں تک پہنچی اور اپنا بھید بھی کسی پر ظاہر نہ کرتی تھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ جتنی دلدری زینحہ حضرت یوسف کی کرتی تھیں وہ زینحہ کی طرف کچھ بھی التفانہ کرتے تھے۔ جب کبھی زینحہ اپنی غرض کی باتیں حضرت یوسف سے کرتی تھیں تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دیتے تھے اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام زینحہ کے پاس تقریباً سات برس رہے لیکن باوجود اتنی قربت کے انہوں نے کسی وقت بھی فعل شیعہ کا خیال نہ کیا اور ہمیشہ اس سے باز رہے۔ زینحہ اپنی پوری کوشش برابر کرتی رہی لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکی، زینحہ ہر تدبیر سے تنگ آگئی اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور اسی فکر میں رات دن ٹڈھال رہنے لگی۔ اتفاقاً ایک بوڑھی عورت ہسائی نے زینحہ سے کہا کہ اے زینحہ خیر تو ہے پہلے تو میں تجھ کو بہت نرخی و حزم دیکھتی تھی لیکن اب چند روز سے تم کو بہت فکر مند دیکھتی ہوں ایسی کون سی خطرناک بات سامنے آگئی ہے جس کی فکر تم کو غمزہ کئے ہوئے اور تم کو بہت ہی بے قرار دیکھ رہی ہوں۔ اسی غم و فکر میں تیری صورت بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ آخر اس میں کیا ماجرا ہے، ہنایت دبی ہوئی آواز میں زینحہ اس بوڑھی عورت سے بولی کہ ایک غلام عبرانی کے عشق نے مجھ کو رنج و غم میں ڈال دیا ہے اور اس نے اپنے عشق میں ایسا پھنسا رہا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں لیکن فی الحقیقت وہ ایسا سنگدل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں اے میری خالہ اس کا کیا علاج کرنا چاہیے۔ زینحہ کے اسرار پر وہ بوڑھی بولی کہ اے زینحہ میں تجھ کو ایک صورت بتاتی ہوں۔ اگر اس کو عمل میں لاؤ گی تو تہارا مقصد پورا ہوگا اور تمہاری جو دلی تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی مگر اسی میں خرچ ہوگا۔ اسی بات کو سن کر زینحہ نے کبھی خزانے کی قفل خزانے کا اس کے حوالے کر دیا پس اس خزانے سے رقم خرید لے کر ایک ہفت خانہ منقش طلا قاری کا خوشنما اور دلچسپ بنایا گیا اور اس کے در و دیوار چھت پر وہ فرش فرودش تک طلا قاری کے اور صورت یوسف زینحہ کی ایک جگہ ہم تصویر کھینچی اور وہ ہفت خانہ ایسا بنایا گیا کہ اس میں کوئی جگہ ان دونوں کی تصویر سے خالی نہ تھی اور زرہفت مشجر کپڑے سے تمام گھر آراستہ کیا گیا اور اس میں تخت زریں بھاری مٹکل جو امبر کا اس مکان میں رکھ دیا گیا اور فرش بھی گونا گوں پچھوئے اور غنبر کی خوشبو ڈول سے بسایا گیا الغرض بسبب بادشاہی ہفت خانہ میں سب موجود تھے بالآخر زینحہ مباشرت کے ارادے

سے حضرت یوسف کو اس کے اندر لے گئی اور ان کی منصبت پر کمر باندھی تمام مکان کے دروازے مقفل کر دیئے گئے اور پھر حضرت یوسف کو ساتھ لے کر بیٹھی، حضرت یوسف نے نظر کر کے دیکھا کہ ہفت خانے کے در و دیوار و چھت و پردے و فرش و فرش پر تمام تصویریں دونوں کی آویزاں ہیں اور تمام مکان بھی خوشبو سے معطر ہو رہا ہے جس طرف نظر کرتے تو دیکھتے کہ صورت اپنی اور زینخا کی آویزاں ہے یہ دیکھ کر حضرت یوسف نے سوچا کہ شاید یہ کچھ راز ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے معلوم کیا کہ میرے لئے کچھ فریب کیا گیا ہے اور اپنے دل میں بختہ خیال کیا کہ اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی میں اس کے قبضہ میں نہ آؤں گا اور میں اپنی پاک دامنی پر ہی رہوں گا کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف کے خدا کو یاد نہ کیا اس لئے شیطان لعین نے ان کے دل میں زینخا کے واسطے کچھ وسوسا ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معصیت سے باز رکھا اور زینخا اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَادَاذَكَ السَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَتْ بِهَا هَا - ترجمہ:- اور بھلا دیا اس کو عورت نے اور وہ اس کے گھر میں تھا اپنے جی تھا منے سے اور بند کے دروازے اور بولی زینخا حضرت یوسف سے شتاب کر۔ حضرت یوسف نے فوراً کہا کہ خدا کی پناہ وہ عزیز مالک ہے میرا اور میں اس میں البتہ بھلائی نہیں پاتا اور جو لوگ بے انصاف ہیں وہ ایسا کرتے ہیں اور البتہ عورت نے خواہش کی اور پھر اس نے بھی خواہش کی تھی جب یوسف علیہ السلام ہفت خانے میں کٹے زینخا کی طرف نظر نہ کی اور آسمان کی طرف دیکھا کہ بخت پر اپنی صورت زینخا کے ساتھ مصور ہے پھر دائیں بائیں نظر کی پھر وہی تصویر دونوں کی بہم دیکھی الغرض تمام گھر میں نقطہ تصویریں نظر آئیں۔ پھر ناچار ہو کر حضرت یوسف نے زینخا کی طرف نظر کی اور زینخا کو بغور دیکھا اور اپنے دل میں یقین کرنے لگے کہ انفس کو گری نے میرے کام کیا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر زینخا بولی کہ اے

اے انبیاء کا لکھنا غلط ہے اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء کے قلب میں ایسے خطرات کبھی موجزن نہیں ہوتے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ترجمہ غلط ہے اہل آیت یوں ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهَا یعنی یوسف ہی اس کے قصد کرتا اگر نہ دیکھتا دلیل اپنے رب کی، لہٰذا یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قصد نہیں کیا اور نہ آیت پوری کے معنی نہیں ہوئے اور پھر ان کو تو نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے اور جو مخلص بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چل سکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ۱۷ عبدہ

یوسف مجھ پر ایک نظر کر کہ میں مستغنی ہوں اور غموں سے خلاصی پاؤں حضرت یوسف نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا خدا مجھے زنا کاروں میں کھڑا کرے گا۔ حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا نہ کرے جو میں ایسے فعل میں گرفتار ہوں کیونکہ میں نے خداوند قدوس کو منہ دکھانا ہے، پھر زلیخا بولی اے یوسف ذرا مجھ پر نظر کر۔ ذرا آتجھے گو میں لوں اور اپنی چھاتی سے لگاؤں، ماہر و کا کل کو میرے ساتھ بلا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مصوٰر کی طرف دیکھ یہ بال خاک میں پھینکے۔ پھر زلیخا بولی کیوں مجھے ستاتا ہے آرام جان دے۔ آپ نے کہا کہ مجھے دو باتوں کا غم ہے ایک تو مجھے خدا کا ڈر ہے اور یہ سب سے بڑا ڈر ہے اور دوسرے یہ حق عزیز کا ہے میں کیسے استعمال کروں اور اسی نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا ہے میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں ایسی حرکت کروں اسی بات کو سن کر زلیخا بولی کہ عزیزہ زہر سے مت ڈر میں اس کو زہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی اور پھر سارے گھر کی سلطنت بھی تم کو دے دوں گی۔ اور تم تو مجھ کو یہ کہتے ہو کہ میرا خدا بڑا رحیم و کریم ہے اور کنہکاروں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے اور میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو نے میری خواہش پوری کر دی تو جو کچھ کہ گنج و خزانہ میرا ہے سب تیرے خدا کے نام پر صدقہ و کفارہ دوں گی تب تو تیرا خدا خوش ہو جائے گا اور اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف نے فرمایا اے زلیخا میرا خدا شہوت نہیں لیتا جو تو ارادہ رکھتی ہے، اے زلیخا یہ تمام خرافات کہلاتے ہیں مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتے یہ سن کر زلیخا بالکل مایوس ہو گئی اور زہمت ہی بے تابی کے ساتھ رونے لگی اور حضرت یوسف برابر اس فعل بد سے انکار ہی کرتے رہے اور کسی لمحہ بھی آپ نے اس فعل بد کا ارادہ یا قصد نہ فرمایا اور یہی شان نبی کی ہوتی ہے۔ پس بار بار اصرار پر حضرت یوسف کچھ مائل ہوئے لیکن پھر دل میں سخت اندیشہ کرنے لگے (یہاں پر کچھ اعتراض ہے) حضرت یوسف پیغمبر تھے اور پھر اس فعل قبیح پر قصد کیا۔ جواب اس کا بعض علماء محققین نے یہ دیا ہے کہ حضرت یوسف اس طرف مائل ہونے کے وقت پیغمبر نہ تھے اور حالت شباب میں قصد قبیح کرنا مقصداً بے بشریت سے بعید نہیں اور دوسرے یہ کہ جو فعل نہیں کیا ہو اس میں اندیشہ کرنا مواخذہ نہیں ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ شاید یوسف اس لئے اندیشہ کرتے تھے کہ اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا اور مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے جب زلیخا کو حد درجہ مضطرب دیکھا اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی تب آپ نے ارادہ کیا کہ میں زلیخا سے رہائی پاؤں اور بعضوں نے کہا کہ دلیل سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے ہفت خانے کے دروازے بند کر دیئے

اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی تب ناچار اس کے سوا کوئی رہائی نہ دیکھی اور پھر اس کی طرف مخاطب ہوئے اور رضادہ کی اور ازار بند میں اپنے سات سات گره دے رکھی تھیں تاکہ اس کے کھولنے میں تاخیر ہووے اور یوسف اللہ کی طرف نظر کئے تھے کہ اتنے میں زلیخا نے خوش و محفوظ ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ متقاضی مباشرت کی ہوئی، پس یوسف کے ازار بند کی ایک گره کھولنے میں لگتی اور دوسری گره ازار بند کی لگ جاتی اور حضرت یوسف کا دھیان بھی اس وقت خدا ہی پر تھا۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی کہ اے یوسف مت اس کے فریب میں آ اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کر، اے تو نے اس کی طرف توجہ کی تو تو فعل بد کا مرتکب ہو جائے گا اور تیرا نام بھی خدا کے ہاں اس جرم کی پاداش میں انبیاءوں کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا اور نہ معلوم خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **يَا يُوسُفُ كَوِّدَا فَنَقَتِ الْخَطِيئَةَ يَبْنَحُوَ اللّٰهُ اِسْمَكَ مِنْ دِيْوَانِ الْاَنْبِيَاءِ** ترجمہ۔ اے یوسف اگر موافقت کی تم نے گناہ کی تو خدا سے گا اللہ تعالیٰ تیرا نام انبیاءوں کے دفتر سے تب سنتے ہی یہ الفاظ غیبی حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑے باہر نکل جانے کے واسطے اور پیچھے زلیخا دوڑی ان کے پکڑنے کو، خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے اور بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل نے آکر یوسف کی پشت پر ایک خط کھینچا خدا کے حکم سے صاف اس فعل سے بچ گئے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ لڑکا دودھ پیتا عزیز مضر رکھتا اور وہ تقریباً چھ ماہ کا تھا وہ اپنے گوارے پر ہی سے بولا **يَا أَيُّهَا الصِّدِّيقُ اسْتَرْنِي** ترجمہ۔ اے یوسف صدیق تم زنا کرنا چاہتے تھے۔ اور بعض کا قول ہے کہ زلیخا نے ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ پوجتی تھی اور وہ بھی اسی جگہ رکھا تھا اس کو زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگی۔ اتنے میں حضرت یوسف کی نظر اس پر جا پڑی، پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جو تو نے پردے کے اندر رکھی ہے وہ فوراً بولی کہ یہ میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں اور اسی واسطے میں نے اس کو پردے میں رکھا ہے کہ وہ مجھ کو دیکھنے نہ پائے اور میں اس کے نزدیک شرمندہ و گنہگار نہ بنوں یہ سن کر حضرت یوسف نے کہا اے زلیخا **أَنْتَ تَسْتَحْيِي مِنَ الصَّمِّ وَأَنَا لَا أَسْتَحْيِي مِنَ الصَّمِّ** ترجمہ۔ اے زلیخا تو شرم کرتی ہے اپنے بت سے کہ جس میں کوئی حس و حرکت نہیں ہے اور میں کیونکر شرم نہ کر دوں اپنے اللہ تعالیٰ سے جو بے نیاز خیر و بصیر و رب العالمین ہے پھر حضرت یوسف گھر آکر وہاں سے اٹھ بھاگے اور فوراً دروازے پر آگئے اور ادھر زلیخا نے

اپنے بال و منہ کو پریشان حال بنا کر ان کے پیچھے سے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر چیر بھاڑ ڈالا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساتوں دروازوں کے قفل کھل گئے اور حضرت یوسف کی لٹی میں سے رگڑ پڑی تھی اور سر کے بال پراگندہ ہو گئے تھے اور زلیخا کے سر کے بال بھی الجھ کر رہ گئے تھے اور خود زلیخا تنگی تھی اور عزیز مصر نے دروازے پر دونوں کو اسی حالت میں نبھا گئے ہوئے پایا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز مصر سے کہا کہ تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے کہ وہ مجھ سے بد فعلی کرنا چاہتا ہے یہ دیکھو میرا حال کیسا ہو رہا ہے۔ قوله تعالیٰ: وَاسْتَبَقْنَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصًا مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيْتَا سَيْدَهَا لِدَابَّ الْبَابِ مَا كُنْتَ مَا جِذَاءَ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يَسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ آلَيْمٌ ۚ اور دونوں دروازے کی طرف بڑھے اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتہ پیچھے سے اور دونوں کے دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے میں، زلیخا بولی اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی مگر یہی کہ قید میں پڑے یاد رکھ کی ماری سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا اب مکافات اس کی یہی ٹھہری کہ تم میری عورت پر نظر بد رکھتے ہو۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر سے کہا کہ زلیخا مجھ پر ناحق افترا دہمت رکھتی ہے اور میری صداقت و دیانت پر جھوٹ بہتان بناتی ہے اور مجھ کو گنہگار بتاتی ہے اور میں اس سے مبتلا ہوں، کیفیت حال یہ ہے کہ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا تو میں دروازے کی طرف بھاگا پھر پیچھے سے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر چھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنیں تو اپنے جی میں سوچا کہ یہ غلام جب سے میرے گھر میں ہے کبھی اس سے میں نے خیانت نہیں پائی اور نہ جھوٹ بات کبھی اس نے کہی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ میں تیرے قول کو جب سچ جانوں گا کہ تو بہت سچا ہے اور ہر سچ حق کے اور زلیخا جھوٹی برسرِ باطل ہے کہ اس بات پر تو گواہ لا تو اس وقت حضرت نے ایک بچے کو کھوارے پر اشارہ کیا کہ تم اس لڑکے سے پوچھ لو عزیز مصر نے مسکرا کر کہا کہ تو نے جو کیا اب مجھ کو معلوم ہوا گناہ تیری طرف سے ہے تو مجھ کو منالہ ہے کیونکہ چھ مہینے کے لڑکے سے پوچھوں چھ مہینے کے لڑکے نے بھی کبھی سوال جواب کیا ہے، جو مجھ کو بتا لے۔ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ لڑکا اپنے پالنے میں سے بول اٹھا کہ اے عزیز مصر یوسف علیہ السلام صدیق اس بات پر سچے ہیں اور تم میری بات کو جھوٹ نہ جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانی یہ بات سنی تو بڑا ہی متعجب ہوا اور اس نے اس کے پالنے کے قریب جا کر اس سے دریافت کیا کہ اے لڑکے تو نے کیا دیکھا ہے تب وہ بولا قوله تعالیٰ: وَشَهِدَ شَاحِدٌ

مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَيْصًا قَدْ مَن قَبْلُ فَصَلَّاتٌ وَهُوَ مِنَ الْكَلْبِ بَيْنَ دِيَارِ
 كَانَ قَيْصًا قَدْ مَن دُبْرَكَ بَثَّ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۵ اور گواہی دی ایک
 گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے الگ ہے کہ تم اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے
 اور اگر کرتہ پھٹا ہے اس کے پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے تب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتہ پھٹ
 کا پیچھے سے پھٹا ہے قولہ تَعَالَى فَلَمَّا سَأَلْتَهُ مَا الْقَيْصُ قَالَتْ إِنَّهُ مَن كَيْسَ
 كَيْسٌ ۵ إِنَّ كَيْسًا كُنْتُ عَظِيمًا، ترجمہ۔ پھر جب دیکھا عزیز مصر نے دیکھا کرتہ پھٹا پیچھے سے کہا
 بیشک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا اور البتہ عورتوں کا بڑا فریب ہوتا ہے۔ بعد اس کے عزیز مصر نے
 زینجا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف کو قید کرنا چاہا۔ اس کے لڑکے نے کہا اے عزیز مصر تم نے
 جو کچھ خیال کیا ہے وہ عقلمند لوگوں کے خیال سے بعید ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک
 آپ ہی رسوا ہو جاؤ گے یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف کو کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زینجا سے
 کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے يُؤْتِيكَ مِنْ غَيْرِ مَن
 هَذَا ۱۱ (سکتہ) اور زینجا کو کہا وَاسْتَغْفِرْ لِي لِيُنِيكَ ۷ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۵
 اے یوسف جانے دو اس بات کو اور اپنی عورت سے کہا یعنی زینجا کو کہا کہ تو بخشو! اپنے گناہ یقین
 ہے تو ہی گنہگار تھی، کہتے ہیں اس وقت یہ باتیں ہونی چاہئیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں حاضر
 تھے جو کہتے تھے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو قولہ تعالیٰ قَالَ هِيَ سَأَوْذٌ نَّبِيٌّ عَنْ نَفْسِي
 تو ترجمہ: حضرت یوسف بولے کہ اس نے خواہش کی مجھ سے اور میں اپنے دل کو قابو میں کئے ہوئے
 تھا اس وقت حضرت جبرائیل بولے کہ اے حضرت یوسف کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو۔ حالانکہ اس
 نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے عقلمند اور بزرگوں کا یہ مشورہ نہیں ہوا کہ تاکہ وہ اپنے محب کا
 عقد کھولے پھر حضرت بولے یا الہی تو نے ناحق مجھے عزیز مصر کے سپرد کیا کہ یہ مجھ کو بے گناہ عذاب
 میں مبتلا کرتا ہے، حضرت جبرائیل نے کہا، اے حضرت یوسف تم نہیں جانتے کہ دوست کی دوستی
 میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے اور محققوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو
 منع فرمایا تھا کہ حضرت یوسف زینجا کا عیب ظاہر نہ کرو۔ اگرچہ زینجا اس وقت کافر ہی تھی لیکن خدا
 کو یہ منظور نہ تھا کہ یوسف زینجا کی پردہ دری کریں کیونکہ خداوند قدوس کی صفتوں میں سے ایک صفت
 ستار العیوب بھی ہے اور دوسری صفت غافر الذنوب ہے اس لئے عیب کی پردہ پوشی زیادہ بہتر
 ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو پسند نہیں ہے تم کو رنج و غم دینا۔ اگر کوئی شخص جفا کرے

تو میں اس کے عوض میں بھی وفا کرتا ہوں۔ بعض محققوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے جی میں کہا کہ میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوتی اور مجھ کو سچا نہیں جانتا حالانکہ اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ بات نہیں سنی اور نہ مجھ سے کبھی خیانت پائی ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جو انردی اس چھ مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو اس نے جو گواہی دی ساتھ دلیل کے وہ تمہارے جیسا نہیں کہ بے تامل کہہ بیٹے کہ گناہ زلیخا نے کیا ہے۔ لیکن لڑکے نے یہ ظاہر نہ کیا اور گواہی دے دی۔ اور خدا کو بھی یہ کب منظور ہے کہ بندہ مؤمن کا عیب ظاہر ہو اور تمام مخلوق کے سامنے رسوا ہو دے اگرچہ اس سے گناہ ہی صادر کیوں نہ ہو ہو تب بھی اپنے حکم سے پردہ پوشی کیا چاہے۔ اس بات میں بعضوں نے اختلاف بھی کیا ہے کہ کسی نے تین مہینے اور کسی نے سات مہینے بعد اس کے یہ ظاہر ہوا کہ یہ بات خلق اللہ کے کان پہنچی کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت یوسف کی زبان سے پانچ عورتوں نے سنی تھی جو کہ زلیخا کی بہن ازتھیس وہ سب کی سب زلیخا کو ملامت کرنے لگیں۔ ایک تو ان میں ساتی ملکہ تھیں اور دوسری باورچن اور تیسری عورت خوان برد تھی اور چوتھی بلانے والی اور پانچویں جامنی تھی یہ سب ملکہ زلیخا کو ملامت کرنے لگیں ایک روز زلیخا نے دعوت طعام دے کر ان سب کو بیک وقت بلایا ایک جگہ مجلس کی مقرر کی۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَمَلَتْهَا سِمْعَةَ بِمَكْرِهِمْ أَزْسَكَتْ لِيَكْفِهَنَّ وَاعْتَشَتْ لَهِنَّ مَتَكًا ذَاتًا مَلَّ وَاحِدَةً مِّنْهُنَّ سَيَكِينًا وَقَالَتْ اخْرِجْ عَلَيْهِنَّ

ترجمہ۔ جب سنا تو قریب بلوایا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور ایک لیوں اور ادھر حضرت یوسف سے بولی کہ اب نکلوان کے سامنے سے اور چھری کاٹنے کو دے دی گئی اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو زبردستی کے پٹھرے سے قریب مکمل زردیا قوت سے سجا کر اس مجلس میں لاکر بٹھایا گیا جب عورتوں نے ایک بارگی ان کی طرف نظر کی سب کی سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں اور بجائے لیوں تراشنے کی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور حضرت یوسف کی شکل و صورت پر سب کی سب عاشق ہو گئیں اور جب مجلس پر خامت ہوئی تو بعد اس کے وہ عورتیں اپنے اپنے ہوش میں آئیں اور ہر عورت نے اپنے اپنے ہاتھوں کی انگلی کٹی ہوئی دکھیں اور اپنے پٹھرے بھی خون سے آلودہ دیکھے تو یہ کیفیت دیکھ کر بعض ان میں سے کہنے لگیں کہ حضرت یوسف تو بشر نہیں ہیں کوئی فرشتہ معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ فَحَمَلَتْهَا أَيُّدُهُمْ وَأَكْبَرْنَا وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ هَذَا شَيْءٌ لَّيْسَ

مَا هَذَا بَشَرًا ۚ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ترجمہ ۱۔ پھر جب دیکھا حضرت
 یوسف کو دیکھا تو دہشت میں آئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور کہنے لگیں حاشا للہ یہ شخص تو
 آدمی معلوم نہیں ہوتا شاید یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے یہ دیکھ کر زینبا بولی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے
 لئے تم مجھے طعن اور ملامت کرتی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگیں کہ اے زینبا ہم پر ملامت ہے تجھ پر نہیں
 بلکہ تجھ پر رحمت ہو کہ تو نے ایسا معشوق پایا۔ اور پھر وہی عورتیں کہنے لگیں کہ تو نے ہمیشہ اپنے گھر
 میں رکھا اور تو اس کو فریب نہ دے سکی۔ اس کے جواب میں زینبا نے کہا میں نے بہت کوشش کی
 اور ابھی تک کو رہی ہوں لیکن وہ شخص میرے ہاتھ نہ آتا۔ اور اس معاملہ میں وہ میرا کہنا قطعاً نہیں
 سنتا بمصدق اس آیت مذکورہ کے قول تعالیٰ وَ لَقَدْ دَاوُدُ إِنَّا عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصِمُ
 وَ كَيْنَ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ كَيْسَ جَنَّتٍ وَ لِيَكُونَ مِنَ الصَّغِيرِينَ۔ ترجمہ۔
 اور میں نے اس سے چاہا کہ جی بھریوں مگر وہ اپنی جگہ اپنے ارادہ پر برابر قائم رہا اور اگر اب
 بھی نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں تو البتہ قید خانے میں پڑے گا اور ہو گا وہ بڑا بے عزت عورتوں
 نے زینبا کو صلاح دی کہ دوسری مرتبہ پھر یوسف کو بلا کہ ہم اس کو ملامت کریں اور نصیحت کریں
 ممکن ہے کہ تیرے کام میں آسانی ہو حالانکہ ان عورتوں کی غرض یہ تھی کہ اس جیلے پھر یوسف کو دکھیں
 چنانچہ زینبا نے پھر یوسف کو بلایا اور سب کے سامنے بٹھا کر ان عورتوں نے حضرت یوسف سے
 کہا کہ اے صاحب آپ کس واسطے اس بیچاری سیدہ پر بے رحم ہیں اس کے ساتھ کیوں نہیں شوق
 فرماتے اور ہم لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ اس کے عتاب میں آکر قید خانہ میں پڑیں۔ اس بات
 کو سن کر حضرت یوسف نے کہا میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ قید خانہ میں پڑوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا۔ قَالَ سَرَبْتَ السَّبْحُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي ۚ أَلَا تَصْرَفُ
 عَيْتِي كَيْدَهُنَّ أَضْبُ ۚ كَيْنَهُنَّ وَ أَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ۔ حضرت
 یوسف بولے کہ اے رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے اور
 اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید میں کبھی مائل نہ ہو جاؤں ان کی طرف اور میں
 ہو جاؤں بے عقل، یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کا دیکھ کر
 بے ہوش ہو کر لیموں تراشنے کے عوض انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن باوجود زینبا کے
 عاشق ہونے کے اس کا کوئی ہاتھ نہ کٹایا کیا مگر ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص کا کسی چیز
 میں دل لگا ہو اور ہمیشہ اسے دیکھتا ہو تو اسے کچھ خوف و خطر نہیں رہتا اور جس شخص نے کہ وہ

چیز نہ دیکھی ہو تو اس پر دہشت ہوتی ہے۔ چونکہ یوسف پر زینا عاشق تھی اور ان کے واسطے بہت محنت اٹھاتی تھی اور ان کے ساتھ مدتوں رہی تھی اس لئے زینا اپنے حال بہرہ برقرار تھی اور ان عورتوں نے اس سے قبل حضرت یوسف کو نہ دیکھا تھا۔ اس لئے صورت ان کی اچانک دیکھ کر بے ہوش ہو کر لمبوں تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے کیونکہ ان عورتوں نے ایسا خوبصورت صاحب جمال شخص کبھی نہ دیکھا تھا اور بعضوں کے اشارے سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو عند الموت فرشتوں کے ہاتھ سے تکلیف دلو اورے گا اور پھر ملک الموت سے بھی ڈراوے گا اور قبر کے اندر منکر نکیر سوال کرے گا اور قیامت کے دن دوزخ کو بھی دکھاوے گا لیکن مومن اس سے نہیں ڈرے گا جب مومن ایک بار دیکھے گا تو جان لے گا کیونکہ اسی لئے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تمام احوال عالم ارجح اور بہشت اور دوزخ کو دکھایا تاکہ وہ احوال قیامت کا دیکھ کر حشر کے دن قلب ان کا دوسری طرف مائل و مشغول نہ ہو اور اپنی امت کی شفاعت کرنے سے باز نہ رہیں۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھتے ہی عاشق ہو کر لمبوں تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے یہ دیکھ کر آتش غیرت نے گریبان عاشق سے زینا کے سر مارا وہ مانند سرغ نیم لیل کے تڑپنے لگیں اور رو رو کر کہنے لگیں کہ میں نے ہے ہے کیا برا کام کیا خدا فسوس ہے کہ یہ توفی سے میں معشوق کے لئے پیچ دریا ٹے رنج و بلا کے غوطے کھاتی ہوں کہ ہنوز کشتی مراد کنارے میں مقصود کے نہ پہنچی اور غیروں کو یہ متاع دکھانا محض بے جبری ہے اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہ ہو گا اور اب میری صلاح یہ ہے کہ یوسف کو ان سے چھپایا جائے اور بہتر یہی ہے کہ ان کو جیل خانے میں بھیج دیا جائے یہ سب حقیقتیں جب سز، یز مصر کو معلوم ہوئیں کہ مصر کے لوگ اس وقوع ماجرے سے آگاہ ہوئے۔ تب نام ہو کر باتفاق زینا کے حضرت یوسف کو قید خانے میں بھیجا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

ثُمَّ بَدَأْنَا مِنْ بَعْدِ مَا سَأَلُوا أَن يُبَادِلُوا بِهِ سَبْعَ حَبَنَاتٍ لَعَلَّ يَكْفُرُونَ بِحَبْنِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۗ

پھر یہ سوچا لوگوں کو ان نشانیوں کے دیکھنے پر قید رکھیں اس کو ایک مدت تک فائدہ اگرچہ نشان سب دیکھ چکے کہ گناہ سب عودت کا ہے تو بھی ان کو ہی قید کیا تاکہ خلق میں بدنامی عورت کی نہ ہو اور یوسف بھی زینا کی نظر سے دور رہے پھر حضرت یوسف کو تاج مکمل سر پر رکھ کر اور لباس فاخرہ پہنا کر کمر بند زری کا کمر میں باندھ کر بہت اچھا سجا کر قید خانے میں بھیجا۔ قید خانے کے نگہبان و نگران لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا اور پھر زینا کے پاس آدمی بھیجا کہ قید کو اس قدر شان و شوکت سے قید خانے میں نہ بھیجا جائے حکم ہوا کہ سب پوشاک اس کے بدن سے اتروا ڈالیں اور ساتھ ہی

یہ حکم بھی دیا کہ یوسف قیدی نہیں ہیں بلکہ حصار ہی ہیں۔ اور میں نے اس لئے وہاں بھیجا ہے کہ کوئی اس کو نہ دیکھے اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے اس اشارے سے ایک اور فائدہ محققوں نے لکھا ہے کہ ہر مومن کے وقت عمامہ شہادت کا سر پر اور لباس معرفت کا بدن پر اور کمر بند خدمت کا کمر میں اور موزہ اسلام کا پاؤں میں پہنایا جائے گا پھر فرشتے کہیں گے کہ یا حق تعالیٰ اس کی اس لباس عمدہ اور خصائل حمیدہ کے ساتھ کیونکہ جان قبض کی جائے گی۔ اگر حکم ہو تو سب آنا ریویں تب حکم ہو گا یہ حصار ہی ہیں زندانی نہیں ہیں اور لباس اس کا دلہا ہی رہنے دو اور تم جان لو کہ وہ میرے بندے ہیں بدنہیں ہیں اور اس قصے میں آیا ہے کہ زلیخا نے حکم کیا تھا کہ اس بندی خانے کو اچھی طرح سے پاک و صاف اور درست کمر کے ایک عمارت عالی شان پر تکلف بنا کر اور اس میں ایک تخت جڑاؤ مرصع کار وہاں رکھو اور اور دیباے نفیس اس پر بچھو اور اور عنبر و عود کو ناگوں خوشبو کے لئے جلا دو پھر اس کے بعد حضرت یوسف کو اس تخت پر بٹھا دو اس زمانے میں بادشاہ مصر کا ملک ایان تھا۔ اس کے دو غلام عقلمند صاحب ہوش تھے اور کسی خطا میں بادشاہ نے ان کو قید خانے میں بھیجا تھا، دونوں کے نام یہ تھے ایک کا نام ساقی اور دوسرے کا نام طباح تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَيْنِ ۗ تَرْجُمَهُ اور داخل ہوئے اس کے ساتھ بندی خانے میں دو نوجوان تو وہ دونوں یوسف کا حال دیکھ کر ان کے جمال پر متحیر ہو گئے اور سیرت امد عبادت ان کی دیکھ کر ان کے پاس جایٹھے اور باتیں کرنے لگے اور ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے قصے بیان کرنے لگے اور جب تین دن گزرے تو ساقی نے خواب میں دیکھا کہ خوشہ انگور کا پھوٹتے ہیں اور طباح نے دیکھا تھا کہ روٹی نہ رہے اس کے رکھی ہے اور ہر بند سب ہو اپنے آپ سے آگے لجا کے کھاتے ہیں دوسرے دن اس خواب کو آپس میں قیل و قال کرنے لگے۔ تعبیر اس خواب کی یوسف سے پوچھنا چاہیے دیکھیں وہ اس خواب کی کیا تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ خیال کر کے وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس گئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے رات کو خواب دیکھے ہیں اور ہم لوگ اس وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہم کو اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ کیا ہے۔ حضرت یوسف نے ان کے خواب سنے اور سننے کے بعد ان سے فرمایا کہ تم دونوں صاحب ذرا اٹھو تب میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قَالَ أَحِلُّهُمَا لِي أَرْبَايَ ۖ وَأَقَالُ الْآخِرَ لِي ۚ أَرَأَيْتَ فُوتَىٰ رَايَتِي خَبْرًا ۚ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْنَاءً ۚ وَمَا وِجِلَّهُ ۗ إِن تَأْتُرْكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

ذَقَالَ لَا يَا تَيْكَمَا طَعَامٌ تُزِدُّ قَيْنَهُ إِلَّا نَبَاتٌ تُكْمَلُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ أَنْ
يَأْتِيَكُمَا هُذَيْلٌ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي هُوَ إِيَّاكَ تَرَكَتُ مَلَكَةً تَوَدُّ لَدَى يَوْمِئِذٍ
بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ ترجمہ۔ کہنے لگا ایک ان میں سے کہ میں
دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اٹھارہ ہوں
اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے، لہذا آپ ہم دونوں کی تعبیر بتائیں کیونکہ ہم
آپ کو نیکی والا دیکھتے ہیں حضرت یوسف نے کہا کہ نہ آنے پاوے گا تم کو کھانا جو ہر روز کو ملتا
ہے مگر بتا چکوں گا تم کو تعبیر اس کے آنے سے پہلے یہ علم ہے کہ مجھ کو سکھایا میرے رب نے
اور میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت سے بھی وہ منکر ہیں
جس نے شراب دیکھی تھی وہ بادشاہ کا شراب ساز تھا اور دوسرا نابنائی تھا لیکن خلاف عادت دیکھا
کہ سر پر سے جانور نوچتے ہیں۔ زہر کی تہمت میں دونوں قیدی تھے آخر نابنائی پر جرم ثابت ہوا۔

فَاعْتَدَا دوسری قید میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ ان کا دل کافروں کی محبت سے
ٹوٹا تو دل پر اللہ کا علم روشن ہوا اور چاہا کہ اول ان کو دین کی بات سنا دوں اور اس کے بعد خواب
کی تعبیر بتاؤں گا۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے جب ان دونوں جانوروں کو دیکھا کہ بہت
دانا اور عقلمند ہیں تو انہوں نے چاہا کہ اول ان کو اسلام کی دعوت دی اور اسی لئے ان کے خواب
کی تعبیر میں تامل کیا اور ان سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چیز جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ وہ خدا نے
ہی مجھے سکھائی ہے اس بات پر وہ دونوں بولے کہ ہمیں بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے حضرت یوسف
علیہ السلام بولے کہ خدا میرا وہی ہے جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہی ہر شخص کو روزی
دیتا ہے اور وہی مارتا اور جلاتا ہے پھر وہ دونوں بولے کہ آپ ہم کو بتائیں کہ آپ کا کون سا دین ہے۔
جو تم ہمارے بتوں سے بیزار ہو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں موافق ہوں اپنے باپ دادا کے
راہ کے پھر وہ بولے تمہارے باپ دادا کون ہیں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت
یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ وَاتَّبَعَتْ مَلَكَةً
اِبْرَائِيْلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ هُوَ مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ اور پھر میں نے دین اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم
السلام کا اور ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر

اور سب لوگوں پر لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے ہمارا اس دین پر رہنا سب خلق پر فضل ہے اور ہم سے راہ سیکھیں۔ وہ بولے کہ ہم کس چیز کو پوجتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ تم ایسی چیز کو پوجتے ہو جو خدا کی کے لائق نہیں۔ انہوں نے اس بات کو سن کر کہا کہ تم پیغمبر زادے کہلاتے ہو اور تم غلام کس طرح ہوئے، تو پھر حضرت یوسف نے ان دونوں سے کہا کہ میرے بھائیوں نے مجھ سے حد کر کے مجھے بیچ ڈالیا ہے اور بالتفصیل ان کو اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو کیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں۔ یا اپنے دین سے پھر جاویں۔ حضرت یوسف نے ان لوگوں سے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنے دل میں تصور کر کے دیکھو کہ کس کا دین بہتر ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ **فِيصَاحِبِي السَّجْنِ ؕ اِذْ جَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا ؕ اَمْرًا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّاتِ ؕ** ترجمہ۔ اے رفیقو بندی خانے کے بھلا سوچو تو کہ کئی مہود جدا بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے پس حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے دوستو! بندی خانے کے تمہارے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا بھلا دیکھو تو تمہارے کتے خدا میں اور تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر پوجتے ہو اور انہیں خدا بھی کہتے ہو ان سے نہ کچھ نفع ہو سکتا ہے اور نہ ضرر، ان بتوں کو جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہو پوجنا تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا بالکل ہی عبث ہے اور پوجنا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو روا نہیں ہے اور وہ واحد مطلق ہے بمصدق اس آیت کہ میرے ارشاد ربانی ہے۔ **مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ اَمْرًا اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ السَّبِيْحُ الْعَلِيْمُ ؕ وَ لٰكِنَّا كُنَّا نَسِيْبُ لَهٗ يَسْعٰمُونَ ؕ** ترجمہ۔ تم نہیں پوجتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہی رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے اور نہیں اتنا ہی اللہ نے ان کی کوئی سند حکومت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی اس نے فرمایا کہ نہ پوجو مگر اس کو یہی ہے راہ سیدھی لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تب وہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے دین پر ایمان لائے اور پھر بولے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے اباؤ اجداد کے دین پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے ہیں اب تو تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے تب حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے رفیقو! بندی خانے کے تم دونوں میں سے ایک نے جو دیکھا ہے شراب بھرتے خواب میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل بادشاہ اس کو قید خانے سے خلاص کرے گا اور خوشی بھی کرے گا خلعت دے کر اور وہ اپنے خداوند کو بھی پلائے گا۔ شراب اور دوسرے نے جو دیکھا ہے کہ سر چہرا اپنے روٹی رکھی ہے اور

اڑتے جانور اس کو کھا جاتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل وہ سوئی پر چڑھے گا اور اڑتے جانور اس کے مغز کو کھا جاویں گے بمصداق اس آیت شریفہ کے **يَصَا حَبِي السَّجْنِ اَمَّا اَحَدٌ كَمَا فَيَسْقِي رَبِّهَا خُمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُضَلَّبُ فَتَا كُلُّ الظَّنِّ مِّنْ ذَا سِمَةِ فَيَفِي الْاَمْرَ السَّيِّئِ فِيهَا تَسْتَفْتِي ۝** اسے رفیقہ بندی خانے کے ایک جو ہے تم دونوں میں سے سو بلا دے گا اپنے خداوند کو شراب اور دوسرا جو ہے سو وہ سوئی پر چڑھے گا، پھر کھا دیں گے جانور اس کے سر سے مغز کو۔ اب فیصل ہو گیا وہ کام جس کی تم تحقیق چاہتے تھے اور حضرت یوسف نے کہہ دیا تھا جس کو خواب کی تعبیر بھی تھی کہ کل قید سے خلاصی پاؤ گے اور اپنے خداوند کو شراب پلاؤ گے اور ہماری بات بھی تم اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایک نوجوان بے گناہ قید میں پڑا ہے پس اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اور بیزار ہوا کہ ہم کو بھول کر یوسف نے غیر سے نجات مانگی۔ تب ساتی کے ذہن سے اس بات کو بھلا دیا کہ یوسف کی بات اپنے بادشاہ سے کہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَقَالَ لٰكِنِّ حٰى ظَنُّنَا اَنْتَا نَزَّاجٌ وَتَنْهَمٰ اذْ كُرْنِي عِنْدَ ذٰلِكَ فَاَنْسَهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهَا قَلِيَّتْ فِي السَّجْنِ بِضَعْ سِنِي ۝** اور کہہ دیا حضرت یوسف نے اس کو جو کہ بچے گا ان دونوں میں سے میرا ذکر کرنا اپنے خداوند کے پاس سو بھلا دیا شیطان نے ذکر کرنا اپنے خداوند سے پھر رہ گیا یوسف قید میں کئی برس اکثر مورخ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف اس قید میں تقریباً سات برس رہے مروی ہے کہ جبرائیل نے کئی دفعہ قید خانے میں آکر دیکھا حضرت یوسف کو عبادت کرتے اور دعا مانگتے تب ان سے کہا کہ حضرت یوسف تم نے کیوں نہیں نجات مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے اور تم نے مخلوق سے اپنی نجات چاہی کہ میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ سے اور یہ اور گزر چکا ہے۔ اب اس کے بدلے سات برس تک قید خانے میں رہو گے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرا خدا جس پر راضی ہے اسی پر میں بھی شاکر ہوں اور بولے اے حضرت آپ تو سب مخلوق سے برتر ہیں۔ اور آپ کیونکر قید خانے کی شف میں تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا۔ اے حضرت جبرائیل کس گناہ سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قید خانے میں ڈالا اور اپنی شفقت اور رحمت سے اس ذلت و خرابی میں رکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شوق سے ذلت کو اختیار کیا ہے اور اپنے کام کو خدا کے توکل پر نہ چھوڑا حالانکہ وہی قاضی الحاجات ہے جو اس سے مانگو گے سو پاؤ گے اور درحقیقت تم نے قید ہی مانگی تھی وہی تم کو مل گئی۔ قولہ **تَعَالَىٰ قَالَ رَبِّ السَّجْنِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنِي اِلَيْهِ وَاَلَا تَتَّقُوْنَ**

عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْنِمْ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ
فَصَرَخَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ترجمہ۔ بولے یوسف اے رب
ہمارے مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے کہ مجھ کو بلاتی ہیں طرف ان کے اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ
سے ان کا فریب تو خدا میں مائل ہو جاؤں ان کی طرف اور ہو جاؤں میں بے عقل، یہ دعا اس کے
رب نے قبول کر لی۔ پھر دفع کیا ان سے ان کا فریب وہی ہے سننے والا خبردار پس ظاہر ہوتا ہے
کہ اپنے مانگنے سے قید میں پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا فریب جو وہ حضرت یوسف پر چلانا
چاہتی تھی چل نہ سکا اور حضرت یوسف کی دعا کو رب العزت نے قبول فرمایا اور ان کا فریب حضرت
یوسف سے دفع کر دیا اور قید ہونا ان کی قسمت میں تھا وہی ہوا یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ آدمی کو گھبرا کر اپنے حق میں برائی نہ مانگنی چاہیے بلکہ اس کو لازم ہے کہ ہر وقت بھلائی طلب کرتا رہے
پھر جبرائیل نے حضرت یوسف نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام هَلْ عِنْدَكَ خَبْرٌ وَ
الَّتِي جِي اے جبرائیل میرے والد بزرگوار کی خبر تم کو کچھ معلوم ہے حضرت جبرائیل نے کہا
دَخَلَ بَيْتَ الْأَخْرَانِ وَهُوَ كَظِيمٌ وَعَسَىٰ كَمَا جَرَّائِيلُ نَعَىٰ دَهَ اِسْمَهُ كَهْرٍ يَتَّخِذُ
غم کرتے ہیں اور روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہی ہیں۔ اور شغلہ ان کا رات دن عبادت
کرنا ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ میرے باپ کو حق تعالیٰ نے اس
میں کیوں مبتلا کیا ہے۔ کہا کہ تمہاری محبت نے ایسا کیا ہے اور یہ چیز خدا کو پسند نہیں کہ خالص کو چھوڑ
کر مخلوق سے یاری و مدد طلب کرے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اس قدر رنج اٹھاتے ہیں آخر ان
کو کچھ فلاح ہوگی یا نہیں تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کو ہر روز ایک شہید کا درجہ ملے گا یہ سن کر
حضرت یوسف نے کہا کہ پھر کوئی مضائقہ نہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت یوسف نے جب تعبیر
خواب کی ان دونوں نوجوانوں کو بتادی اس کے ایک دن بعد ملک ریان نے ان دونوں نوجوانوں
کو قید سے خلاص کیا تو ساقی کو قید سے نوازش فرمائی اور خلعت بخشا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا۔ تمام
جانوروں نے آکر اس کا مغز اور گوشت اور آنکھیں اس کی کھالیں اور ساقی کے دل سے وہ بات جو
حضرت یوسف نے کہی تھی شیطان نے بھلا دی اور وہ بات حضرت یوسف کی اپنے بادشاہ سے
نہ کہہ سکا اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تقریباً سات برس تک رہے اور بعضوں
نے کہا ہے کہ حضرت یوسف قید خانے میں نو برس تک رہے اسی قید بند کی حالت میں بھی
شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے اور ہر وقت درس

دیتے رہتے تھے اور ادھر زلیخا ان کے لئے غم داندوہ میں رات دن تپتی رہتی اور وہ
 پانچ سو تیر میں جو حضرت یوسف پر عاشق تھیں وہ حضرت یوسف کے لئے کھانا دونوں وقت قید خانے
 میں پہنچا کرتی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام اس کھانے میں سے کچھ تو کھا لیتے اور جو باقی بچتا وہ
 قید خانے کے قیدیوں کو دے دیتے، قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایک شب ملک ریحان نے خواب
 میں دیکھا کہ سات کائیں فر بوٹی ان کو سات کائیں دہلی کھا گئیں پھر اس کے ساتھ ہی سات باہیاں غلے
 کی ہری تازی دیکھیں کہ ان کو سات باہیاں سوکھی آکر کھا گئیں۔ صبح کو بادشاہ بہت ہی متحیر ہوا اور اپنے
 ملک کے تمام بخومیوں کو طلب کیا جب تمام بخومی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے بہت
 زیادہ متحیر ہو کر اپنے خواب کا پورا ماجرا ان بخومیوں کے سامنے پیش کر دیا اور تمام بخومی اس خواب
 کی تعبیر بتانے سے حیران ہو گئے۔ آخر کار کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت یہ تو اڑتے اچھنبھے کا خواب ہے
 اور ہم لوگ اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے اس بدلت کو سن کر بادشاہ اور بھی حیران ہو گیا کہ آخر کار اس
 خواب کی تعبیر کون بتائے گا۔ ہم کس سے پوچھیں وہی ساقی جو دو نوجوانوں میں ایک بچا تھا وہ بادشاہ
 کے پاس اس وقت حاضر تھا۔ اس وقت اس کو وہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی
 خواب کی تعبیر بتانے کے وقت کہی تھی وہ اتنی مدت کے بعد اس کو یاد آگئی پھر اس نے اس وقت
 اپنے بادشاہ سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر ایک شخص بتا سکتا ہے اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ دن ہم
 دونوں نے خواب دیکھا کہ میں تو جام شراب کا بھرتا ہوں تم سے پیالے میں اور باورچی نے دیکھا تھا
 سر پر اپنے روٹی کا خون اور اڑتے جانور آکر اسے کھاتے ہیں، چنانچہ بیان اس کا اوپر بگڑ چکا ہے
 بادشاہ سلامت یوسف نامی ایک شخص ہے اس کے پاس ہم نے یہ بیان کیا۔ چنانچہ اس نے خواب کی
 جو تعبیر کہی تھی وہ تو ہاتھوں ہاتھ بالکل سچ پائی، اگر حکم عالی ہو تو اسے بلا دیں، وہ خواب کی تعبیر بتا
 سکتے ہیں پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا اس خواب کی تعبیر معلوم کی جائے ساقی نے حضرت یوسف کے
 پاس جا کر بہت عذر خواہی کی کہ میں آپ کی بات بادشاہ کو کہنا بھول گیا تھا یہ سن کر حضرت یوسف نے
 اس ساقی سے کہا کہ یہ بھول چوک ہونا تمہارا ہمارے لئے باعث گروہی تھی اور میرے لئے ابھی قید خانے
 میں رہنا تھا اس نے کہا کہ بعد مدت کے تمہاری مجھ کو یاد آئی۔ حضرت جی بزرگیاں آپ کی میں نے
 اپنے بادشاہ سے بیان کیں تو بادشاہ نے خوش ہو کر مجھے تمہارے پاس بھیجا اور کہا ہے کہ اس خواب
 کی تعبیر معلوم کر لیجئے۔ قَوْلَا تَعَالَى۔ وَتَالِ الْمَلِکِ اِنِّیْ اُرِیْ مَسْبَعًا بِقَدَرَةِ نِسْمَانِ یَا کُلْمُنَّ
 سَبْعٌ عِجَابٌ وَ سَبْعٌ سُبُلَاتٍ خُضِرٌ وَ اُخْرٌ یَسْبِطُ ۙ یَا نَبِیُّهَا لَمَّا اُنْتَوٰی

فِي رُءُوسِ يَأْتِيَانِ اِنْ كُنْتُمْ يَلْتَمِزْهُمَا تَعْبُرُونَ هَ قَالُوا اَضْعَافُ اَحَدِهِمْ هَ وَمَا
 نَحْنُ بِبَنِي اِسْرَائِيلَ اِنَّ اَحَدَهُمْ يَخْلُمُ سِنِّي هَ - ترجمہ اور کہا بادشاہ نے میں نے خواب دیکھا ست
 گائیں موٹی کو سات گائیں دہلی کھاتی ہیں۔ اور اسی طرح دیکھا کہ سات بالی ہری تازی کو سات بالیں موٹی
 کھاتی ہیں۔ اسے میرے درباریوں اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر ہو تم تعبیر بتانے والے وہ کہنے لگے کہ یہ تو
 اڑتے ہوئے خواب ہیں ہم لوگوں کو ان خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم ہے۔ پھر یہ سن کر حضرت یوسف نے
 اس آنے والے ساتی سے کہا کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا وہ تم اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا
 اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک میں سات برس تک ارزانی رہے گی اور کھیتی خوب ہوگی پھر
 اس کے بعد بڑا زبردست قحط ہوگا اور زراعت بہت ہی کم ہوگی اور لوگ شدید تکالیف میں مبتلا ہوں
 گے اور دکھ اذیت اٹھائیں گے۔ سارے لوگ جو بادشاہ کے دربار میں حاضر تھے یہ سن کر حیرت
 میں آگئے۔ پس ملک ریان نے کہا کہ پھر اس کی کیا تدبیر کرنی چاہیئے اسے ساتی تم بتاؤ بلکہ میری رائے
 تو یہ ہے کہ اس شخص کے پاس پھر جاؤ اور اس سے پھر اچھی طرح سے پوچھ آؤ۔ بادشاہ کے کہنے
 سے ساتی پھر حضرت یوسف کے پاس گیا اور جا کر پوچھا تو لہ تعالیٰ - **يُوسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيقُ
 اَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَ سَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ
 وَ اَخْرَجِي لِعَلِّيْ اُذْجَعُ لِي النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ هَ** ترجمہ۔ ساتی نے
 جا کر کہا کہ اسے یوسف سچی بات مجھ کو بتا دو اس خواب کی سات گائیں موٹی کو سات گائیں دہلی کھاتی
 ہیں اور سات بالی ہری تازہ کو سات بالیں موٹی کھاتی ہیں۔ پھر ساتی نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم
 تم کو لوگوں کے پاس لے چلیں تاکہ تمہاری ان کو قدر معلوم ہو، لیکن حضرت یوسف نے اس بات کی
 کوئی پروا نہ کی اور اس ساتی سے فرمایا کہ جا کر کہہ دو کہ سات برس کھیتی کرو گے خوب غلہ ہوگا۔
 پھر اس کے بعد سات برس تک اس ملک میں قحط رہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
**قَالَ تَذَرُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَاَبَا هَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلَيْهِ
 اِنَّ قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ هَ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ مِّثْلُ ادْنٰ يَأْكُلْنَ
 مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَحْصِلُوْنَ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ
 فِيْهِ يَأْتِيْنَ السَّمٰنُ وَ فِيْهِ يَعْصُرُوْنَ هَ** کہا یوسف نے تم کھیتی کرو گے سات برس محنت
 سے پس چھوڑ دو اس کو بیج بالیوں اس کی کہ مگر تھوڑا سا اس میں سے جو کھا تم آویں گے اس کے پیچھے
 سات برس سختی کے پھر کھاؤ گے جو کھا تم نے ان کے واسطے مگر تھوڑا جو روک رکھو گے پھر آئے

گا اس کے پیچھے ایک برس اس میں بارش پادیں گے لوگ اور اس خوشی میں وہ شرابیں بنائیں گے
 اور یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سات برس کا غلہ رکھنا ذخیرہ جمع کر کے اور بہتر یہ ہے
 کہ ذخیرہ بایلوں میں ہی لگا رہنے دینا تاکہ زمین ہی گل نہ جائے اور کھڑا نہ لگے سات برس تک کیونکہ
 وہ قحط پورے سات برس تک رہے گا۔ پس ساتی نے جو جو تعبیر سنی حضرت یوسف علیہ السلام سے
 وہ سب اپنے بادشاہ ملک ریان کو جاکر سنادی اور باقی جو لوگ وہاں مصری باشندے موجود تھے
 سب کے سب یہ تعبیر خواب سن کر حیرت میں آگئے اور اس بات کی بادشاہ نے بھی تصدیق کر دی
 اور بادشاہ نے کہا کہ یہ شخص تو بڑا عقلمند اور دانایا ہے اور قابل وزارت ہے اس کے بعد اسی ساتی
 سے پوچھا کہ وہ شخص کیسا ہے اور اطوار اس کے کیسے ہیں ساتی بولا وہ عقلمند صالح ہے اور بہت سی
 صفیتیں اس کے بیان سے باہر ہیں۔ عزیز مصر نے اس کو مالک بن زغر سوداگر سے مولیٰ کو بطور غلام
 کے اپنے گھر رکھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کو قید میں کیوں رکھا ہے۔ ساتی بولا کہ وہ شخص یہ کہتا
 ہے کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں میرے بھائیوں نے مجھے حمد اور دشمنی سے بیگناہ مالک ابن زغر سوداگر
 کے پاس لاکر بیچ ڈالا ہے یہ حال ساتی نے جب بادشاہ سے بیان کیا تو بادشاہ نے یہ حال سن کر
 بہت افسوس کیا اور قید خانے کے امین اور داروغہ کو بلا کر پوچھا کہ یوسف جو تمہارے قید خانے
 میں ہے وہ کیسا آدمی ہے اور عادت و خصیت اس کی کیسی ہیں کیا تم لوگ اس کی عادت وغیرہ سے
 واقفیت رکھتے ہو اور رکھتے ہو تو صاف صاف بتاؤ۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ ایسا لوجوان آدمی
 ہے کہ اس جیسا خوبصورت آج تک پیدا نہیں ہوا بلکہ ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی دیکھا نہیں
 وہ تو مثل چہرہ آدم کے شب و روز دعا و تسبیح و تہلیل و عبادت میں مشغول رہتا ہے اور تمام قید خانے
 والوں کو درس تدریس دیتا ہے اور ہر شخص کی غمخواری کرتا ہے اور جتنی چیزیں اس کے کھانے کے
 لئے آتی ہیں وہ سب کی سب محتاج اور فقیروں کو دے ڈالتا ہے اور وہ بہت تھوڑا کھاتا ہے
 اور وہ شخص کسی کو ایذا و تکلیف بھی نہیں پہنچاتا۔ اور وہ پیغمبر زادہ کہلاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا
 کہ بتاؤ اس کو کھانا پینا کون دیتا ہے اور وہ کھانا کہاں سے آتا ہے وہ بولے کبھی کبھی تو زینچا اور
 کبھی مصرک نوابی پانچ عورتیں محبت مخفی رکھتے ہوئے بھیج دیتی ہیں لیکن وہ جوان کسی چیز کو قبول
 نہیں کرتا اور نہ اس کو صحیح طور پر کھاتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے اور بعض دفعہ تو
 دیکھا گیا ہے کہ وہ کبھی نہیں کھاتا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عزیز مصر نے اس بے گناہ کو عورت کی
 تہمت کی یا درج میں اس جوان کو قید میں ڈال رکھا ہے۔ پھر یہ سن کر بادشاہ نے کہا اچھا اب

عزیز مصر کو بلاؤ جب عزیز مصر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس صالح نیک
 مرد کو کس واسطے قید خانے میں ڈالا ہے۔ تم ناحق مرد خدا کو اذیت دیتے ہو، اور تم مجھے بتاؤ کہ اس کو تم کہاں
 سے لائے ہو۔ عزیز مصر نے باادب عرض کیا کہ حضور کو معلوم ہو گا کہ میں نے اس مرد خدا کو مالک ابن
 زغر سوداگر سے خرید لیا ہے اور اس کو توہیل نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا اور اپنے سارے گھر کا مالک و عنبر
 بنا رکھا تھا اور میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ میری خیانت کرے گا اور میرے گھر میں بد نظر رکھے گا اس لئے
 میں نے اس بارے میں پکڑ کر اسے قید کر رکھا ہے یہ ساری کیفیت بادشاہ سن چکا تو بادشاہ نے
 اسی ساقی سے کہا کہ تم عزت و اکرام کے ساتھ یوسف کو گھوڑے پر سوار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تب بادشاہ
 کے کہنے سے ساقی نے حضرت یوسف کے پاس جا کر وہ تمام باتیں بیان کر دیں جو بادشاہ اور عزیز
 مصر کے درمیان ہوئی تھیں۔ یہ باتیں حضرت یوسف نے سن کر ساقی سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جا
 کر بولو کہ بے رخصت عزیز مصر کے میں نہیں آسکتا ہوں مجھے اس کی رخصت چاہیئے اور ان عورتوں سے
 پوچھنا چاہیئے کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو کر کیوں تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے کہ
 میں گنہگار ہوں یا اور کوئی گنہگار ہے اس بات کی تحقیق کرنی چاہیئے جو جب فرمان بادشاہ کے ساقی
 نے حضرت یوسف سے کہا اور حضرت یوسف نے جو کہا وہ بادشاہ سے آکر بیان کر دیا جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا **قَالَ الْمَلِكُ اَنْتَ بِنِي بِهٖ ۗ فَلَمَّا جَاكَ الرَّسُوْلُ قَالَ**
اُدْبَحْ اِلٰى رَبِّكَ فَاَسْئَلُكَ مَا بَالُ الْيَتُوْمَةِ الَّتِي قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۗ
اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۗ ترجمہ۔ اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس پھر جب
 پہنچا اس کے پاس قاصد کہا اس نے پھر جاتو اپنے بادشاہ کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے
 ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ تحقیق میرا رب تو فریب ان کا اچھی طرح سے جانتا ہے
 اور وہ سب عورتیں اس حقیقت پر شاہد ہیں اگر بادشاہ پوچھے تو پورا قصہ کھول کر بیان کر دو تاکہ حقیقت
 واضح اور تقصیر کا بھی صحیح پتہ چل جائے کہ اصل تقصیر کس کی ہے۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف سے یہ
 ماجرا سن کر بادشاہ سے جا کر کہا بادشاہ نے زمین اور سب عورتوں کو بلا کر پوچھا، **قولهٗ تعالیٰ۔ قَالَ مَا**
خَطْبُكُنَّ۔ اِذْ سَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهٖ قُلْنَا حَاشَ لِلّٰہِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْہِ
مِنْ سُوْءٍ ۗ قَالَتْ اَمْرَاۃُ الْعَزِیْزِ الْفُرِّ حَضَحَصَ الْحَقُّ اَنَّا رَاَدُّدْنَا
عَنْ نَفْسِهٖ ۗ وَاِنَّنَا لَمِنَ الْمُصْذِقِیْنَ ۗ ترجمہ۔ پوچھا بادشاہ نے ان عورتوں سے
 کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلا یا یوسف کو اس کے جی سے۔ بولیں **حاشا للہ ہم کو**

نہیں معلوم اس پر کچھ برائی بولی عورت عزیز مصر کی کہ اب کھل گئی ہے سچی بات میں نے یوسف کو پھیلایا
 اس کے جی سے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہے۔ دیکھا حضرت یوسف نے بادشاہ کو سب کا
 فریب دکھلایا اس واسطے کہ ایک ہی مجرم تھی مگر اس کی سب مددگار تھیں اور فریب دینے والی کا نام لیا
 کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے خدمت کی فکر رکھی تھی، پھر بادشاہ نے ان تمام غورتوں کو بلوایا اور
 پوچھا کہ تم نے یوسف کی خواہش کی تھی یا اس نے تمہاری خواہش کی تھی تم سب سچ کہہ دو وہ بولیں
 کہ ہم نے کبھی ایسا حق و جمال نہ دیکھا تھا جب ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو ایک بارگی بیہوش ہو کر
 اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے اس کو طلب کیا تھا اور وہ بے گناہ قید میں پڑا تھا
 ادھر زلیخا نے جب دیکھا کہ اپنا حال سب منکشف ہوتا ہے تب بادشاہ سے کہنے لگی اے بادشاہ
 تم ان سے کیا پوچھتے ہو جو کچھ خطا ہوئی ہے مجھ سے ہوئی ہے اور جو شخص فکر مند ہوتا ہے۔ تو حاکم
 اس کو گواہ سے ثابت کرتا ہے لیکن میں تو آپ ہی اقرار کر رہی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے
 اور حضرت یوسف کو بے گناہ قید میں ڈالا اور میں اس کے عشق میں بے قرار ہو رہی ہوں اب آپ مجھے
 جو چاہیں سزا دیں میں سزاوار ہوں زلیخا کی آہ و زاری سن کر لوگ بڑے متعجب ہو رہے تھے اور سب
 کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور عزیز مصر نے یہ حال زلیخا کا دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا اور نہایت شرمندہ
 اور پشیمان ہو رہا تھا اور وہ چند روز اسی غم میں مبتلا رہا پھر اس کے بعد اس نے انتقال کیا۔ بادشاہ حضرت
 یوسف کے لئے مضطرب ہوا اور پھر فرمایا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ جب حضرت یوسف بادشاہ
 کے پاس آئے تو اس نے حضرت یوسف کو بہت عزت سے بٹھایا اور وہ سارا حال عزیز مصر کا سنا دیا۔
 حضرت یوسف نے کہا میں نے جو کہا تھا وہ عزیز مصر کو شرمندہ کرنے کے لئے نہیں کہا تھا بلکہ اس سے
 میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مجھ سے کوئی کھمی قسم کی خیانت نہیں ہوئی۔ تو تعالیٰ
 ذَالِكْ دِيْعَلَمَ اِنِّي لَمَرَاٰخُنْمَا يٰلَاغِيْبٌ وَاَنْتَ اللّٰهُ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰٓئِنِيْنَ ۝
 ترجمہ کہا یوسف نے یہ تحقیقات اس واسطے کی ہے تاکہ جانے خاوند اس کا عزیز نہ یہ کہ میں نے کوئی
 خیانت نہیں کی اور تحقیق اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کو، خبر ہے کہ جس وقت یوسف
 نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور میں نے خیانت نہیں کی اس وقت حضرت خیرائیل علیہ السلام موجود
 تھے اور کہا کہ يَا يُّوسُفُ اَوْ لَا هَمَمْتْ۔ ترجمہ۔ اے یوسف کیا تو نے قصد نہیں کیا تھا۔ حضرت
 یوسف اس بات سے بہت نادم ہوئے اور آبدیدہ ہو کر کہنے لگے قَوْلُهُ تَالِيٍّ وَاَمَّا بِيْرَتِيْ
 نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَاقْلَآءًا بِالسُّوْرِ ۙ لَا مَا دَجَمَدِيْ ۙ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ

ستر حیم و ۵۔ اور میں نہیں پاک کہتا اپنی جان کو تحقیق البتہ جی حکم کرنے والا ہے ساتھ برائی کے
 مگر جو رحم کو سے پروردگار میرا بخشے والا اور نہایت مہربان ہے۔ روایوں نے روایت کی ہے کہ ملک
 ریان نے حضرت یوسف کے ساتھ چالیس زبانون میں بائیں کی تھیں اور سب زبانون کا جواب حضرت
 یوسف نے فوری طور پر بادشاہ کو دیا تھا اور بادشاہ نے عزیز مصر کے سامنے ہی یہ کہا تھا کہ میں
 نے اس قوم کو تم سے زیادہ امین اور صاحب قوت گویا بی پایا تو کہنے لے فَلَئِمَّا كَلَّمْتُ قَالَ اِنَّكَ
 اَيُّوْمَ رَاٰنَا هٰكِيْنٌ ۵۔ ترجمہ۔ پھر بائیں کیس اس نے تحقیق تو آج نزدیک ہمارے مرتبہ
 والا ہے پس عزیز مصر کا علاقہ سرکاری موقوف ہوا اور حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ نے
 حضرت یوسف سے کہا کہ میں تم کو خدمت وزارت دوں گا آپ نے بادشاہ سے کہا کہ میں وزارت
 نہیں مانگتا ہوں کیونکہ لوگوں کی خبر گیری مجھ سے نہ ہو سکے گی، پھر بادشاہ برا اچھا میں تم کو عزیز
 مصر کا کام دوں گا۔ پھر حضرت یوسف بولے نہیں کیونکہ حق عزیز کا مجھ سے بہت ہے وہ اپنے مقام پر
 قائم رہے اس کا کام لینا مجھ سے بہت بدنامی ہے پھر بادشاہ بولا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ حضرت یوسف
 بولے کہ مجھے سارے ملک کے اناج اور غلہ کا مختار کر دو تو میں اس کام کو انجام دوں گا۔ اور پھر آپ کا
 کام بھی آسان ہو جائے گا اور تمام رعایا کا کام بھی آسانی سے ہوتا رہے گا۔ اور تمام رعایا آپ سے
 خوش رہے گی کیونکہ میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لوں گا اور اس کام سے حضرت یوسف
 کی یہ غرض تھی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ رعیت پر ظلم کرتا تو آدھا حصہ غلے کا رعیت سے لے لیتا
 اس لئے حضرت یوسف نے بادشاہ سے سارے غلے کی مختاری مانگی تاکہ رعیت پر نظر عدل کی جائے
 پھر بادشاہ نے آپ کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت یوسف کو اس کام پر مقرر فرما دیا اس
 سے تمام خلق خوش و راضی ہوئی اور پھر غلہ بھی بہت جمع کیا جب سال تمام ہوا بادشاہ ان کے نیک
 اطوار دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اور اپنی رعیت سے بھی معلومات کی تو آپ کو رعیت پر درہی پایا۔ یہ
 کیفیت معلوم ہوتے ہی بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پر رکھ دیا اور اپنی تلوار بھی اپنی کمر
 سے کھول کر ان کی کمر میں باندھی اور تخت مرصع زر و یاقوت سے جڑا ہوا کہ طول اس کا تیس گز اور
 عرض اس کا دس گز تھا۔ لباسی زرق برق بیش قیمت ان کو پہنا کر اسی تخت پر بٹھا دیا اس وقت چہرہ مبارک
 حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا تھا جیسا چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے جو شخص بھی ان کی طرف
 نظر کرتا تو مانند آئینے کے اپنا چہرہ اس میں اس کو نظر آتا تھا اور حضرت یوسف کے چہرے کی لطافت
 و صفائی اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کر آفتاب بھی شرمندہ ہوتا تھا۔ اور جملہ ارکان دولت اور

ایمان سلطنت بادشاہ کے ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور پھر تمام کاروبار بھی مصر کا ان کے سپرد ہوا اور سارے مصر میں ان کا سکہ جاری ہوا اور بعد فوت ہو جانے عزیز دھرم کے تمام خزانے اس کے حضرت یوسف کی ملک میں آگئے اور بادشاہ بھی اپنی تمام سلطنت سے ہاتھ اٹھا کر خانہ نشین ہو گیا اور بادشاہ نے انکو اپنا ولی مقرر کر دیا۔ تب حضرت یوسف نے تمام غلہ و اناج مصر میں لاکر جمع کیا الغرض اسی طرح سات برس گزر گئے اس کے بعد حضرت یوسف کو حضرت جبرائیل نے آکر خوشخبری دی کہ فلانی شب فلاں گھڑی میں قحط نازل ہوگا، حضرت یوسف یہ خبر سن کر اسی کی انتظار میں اسی شب سے رہے۔ اب وقت آ پہنچا تب سب کو فرمایا کہ اناج غلہ سب میرے پاس لاکر جمع کرو کیونکہ مخلوق خدا پر قحط نازل ہوا ہے۔ جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی تب خلائق شہروں کی بادشاہ مصر کے پاس آکر حاضر ہوئی اور اپنی زبانوں میں فریاد کرنے لگی اَلْجُوعُ اَلْجُوعُ یہ خبر حضرت یوسف کو پہنچی کہ خلائق بھوک سے سخت تکلیف میں مبتلا ہے اور بھوک سے عاجز آگئے ہیں تب وہ غلہ جو جمع کیا تھا وہ سب کو بانٹنے لگے یہ دیکھ کر لوگوں کو کچھ تسلی خاطر ہوئی اور پھر جان میں جان آئی۔ اور ادھر زلیخا جو ہر قحط کے آہ و زاری کرنے لگیں۔ جو شخص بھی یوسف کا نام زلیخا کے پاس لیتا وہ انعام و اکرام دے کر رخصت کرتی اور بہت کچھ اس کو رقم بھی دتی تھی جتنی دولت تھی سب اس نے لٹا دی یہاں تک کہ خود محتاج اور فقیر بنی ہو گئی اور شب روز حضرت یوسف کے لئے روتے بڑھیا اور ضعیف ہو گئی اور دونوں آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی آخر میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی، چند روز اسی آتش فراق میں گزرے حضرت یوسف کی حشمت و دبند بادشاہی کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت یوسف گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو چالیس ہزار جوان مسلح پوش اور چار ہزار جوان کمر بند زمین اور ایک ہزار صاحب ہوشمند ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ خبر ہے کہ ایک دن حضرت یوسف سوار ہو کر مرفی الہی سے اس راستے سے گزرے جس راستے پر زلیخا تھیں لوڈیوں نے ان کو دیکھ کر زلیخا کو جا کر خبر دی کہ اسے زلیخا آج یوسف یہاں آئے ہوئے ہیں یہ سنتے ہی زلیخا نے سحاشا دوڑی ہوئی آئیں اور حضرت یوسف کو پکارنے لگیں اے کریم ابن کریم ذرا تو ٹھہر جا اور اس ضعیفہ کچھ حال زار تو سن لے۔ حضرت یوسف نے یہ سن کر فوراً اپنا گھوڑا روک دیا اور بولے کہ اے زلیخا یہ کیا حال ہے تیرا کہاں ہے وہ جن و جمال اور خوبی تیری۔ بولی کہ تیرے عشق نے ہر باد کر دیا، اس کے جواب میں حضرت یوسف نے فرمایا کہ ابھی تک وہی تیرا عشق موجود ہے۔ وہ بولی کہ ہاتھ کا چابک میرے منہ کے پاس لاکر ذرا دیکھ حضرت یوسف نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور زلیخا نے یکایک ایک ایسی آہ آئیں دل سوزاں سے

چھوڑی کہ اس سے حضرت کا چابک جو ہاتھ میں تھا ایک دم گرم ہو گیا۔ مارے تپش کے حضرت یوسف نے اس چابک کو اپنے ہاتھ سے زمین پر چھوڑ دیا۔ زینخا بولی اے یوسف آج تقریباً چالیس برس ہوئی یہ شعلہ آتشیں میرے دل پر جلتا ہے اور میں تیرے عشق میں جل گئی ہوں۔ دیکھا ذرا شعلہ آتش میرے دل کا تجھے برداشت نہ ہوا اور فوراً ہی اپنا چابک زمین پر ڈال دیا۔ اے یوسف میں کیونکر تیرے شب و روز پر پہنچ و تاب کھاتی رہوں حضرت یوسف رحم کھا کر اور یہ حال تباہ زینخا کا دیکھ کر اپنے گھوڑے سے اتار پڑے اور وہیں زمین پر بیٹھ کر بولے اے زینخا تو میرے خدا پر ایمان لے آ، یہ کہتے ہی زینخا فوراً مشرف بہ اسلام ہوئی پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے زینخا اب بتا کہ تو کیا مانگتی ہے۔ وہ بولی اے یوسف خدا کے دربار میں میرے واسطے دعا کیجئے کہ وہی جمال و جوانی اور بینائی چشم کی پھر مجھ کو عنایت ہو تو باقی عمر اپنی تیری خدمت میں صرف کر دوں اور اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہوں یہ سن کر حضرت یوسف نے اپنے سر کو نیچا کر لیا اور کچھ دیر تاویل میں رہے اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ اے یوسف تو کیا مانگتا ہے مانگ تیری ہر دعا قبول ہوگی تب حضرت یوسف نے دو رکعت نماز شکر اندا کی اور پھر سجدے میں چلے گئے اور کافی دیر خداوند قدوس سے دعا مانگی ابھی آپ نے اپنا سر سجدے سے نہ اٹھایا تھا کہ زینخا نے آواز دی کہ اے یوسف اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے جو تم نے چاہا تھا وہ حاصل ہو گیا ہے۔ ان کے کہنے سے حضرت یوسف نے اپنا سر سجدے سے اٹھا کر زینخا کی طرف دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں کہ صورت جوانی اور بینائی چشم اے خدا نے عنایت فرمائی ہے۔ زینخا نے جب اپنی صورت کو آئینے میں دیکھا تو خدا کا شکر بجالائی اور پھر ایمان میں ترقی بھی ہو گئی اور پھر حضرت یوسف کی طرف خیال نہ کیا اور چلی گئی ان کے جانے کے بعد حضرت یوسف فرمانے لگے اے زینخا تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کر۔ وہ بولیں کہ جس نے یہ شکل و صورت و بینائی چشم کی مجھ کو بخشی ہے اس کو چھوڑ کر ناحق یوسف سے کیوں اپنے کو برباد کروں اور مجھے چاہیے کہ میں اسی پر خیال کروں۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے زینخا پر بہت خواہش کی مگر وہ بھاگتی رہی غیب سے آواز آئی کہ اے یوسف صبر کر جلدی مت کر اس کے بعد زینخا غم خانے میں جا بیٹھی اور حضرت یوسف نے خواستگاری میں اس کی لوگوں کو بھیجا لیکن وہ قبول نہیں کرتی تھیں۔ تقریباً چالیس روز اسی طرح پر گزرے کہ اس چالیس دن کے اندر حضرت یوسف نے اتنا درد زینخا کے لئے کھینچا کہ کہ زینخا نے چالیس برس میں بھی ایسا درد نہ اٹھایا تھا۔ ادھر ملک ریان نے زینخا کے پاس پیغام بھیجا تھا اور بہت سے لوگ اس کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، بعد ازاں اس نے چند روز کے

نکاح قبول کر لیا۔ جیسا کہ شب زفاف کو سلاطین اور ملوک کا رسم شرعی ہوتا ہے ذیابہی زفات کچھ اٹی ہوا اور زینا کو دوشیزہ یعنی باکرہ پایا۔ اور کچھ عرصہ بعد حضرت یوسف حضرت زینا سے گزشتہ حال معلوم کیا وہ بولیں کہ عزیز مصر ضعیف مرد تھا اور میں اس وقت جوان تھی جو کام زن و شوہر کا تخلیہ میں ہوتا ہے وہ میرے اور عزیز مصر کے بیچ نہ ہوتا تھا۔ اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت یوسف کے لئے زینا کو بچا کر رکھا تھا اس لئے ایک شیطان آکر اللہ کے حکم سے عزیز مصر اور زینا کے درمیان میں سوہا تھا اور عزیز مصر کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ زینا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ پس حضرت یوسف اور زینا نے مل کر اپنے گھر کو بنایا اور رہن سہن شروع کر دیا کچھ عرصہ کے بعد ان سے دو لڑکے پیدا ہوئے۔ ملک ریان جب بالکل بوڑھا ہو گیا تو تمام کاروبار بھی بادشاہی کا حضرت یوسف کو دے دیا اور خود گوشہ نشینی اختیار کی حضرت یوسف کو جب اپنی سلطنت کے کل اختیارات مل گئے تو وہ خلق اللہ کی پرورش کرنے لگے بقدر حاجت کے غلہ کو رعیت کے ہاتھ بیچتے اور صدقہ بکثرت فقیروں اور محتاجوں کو دیتے کچھ مدت کے بعد قحط سالی آئی یہاں تک کہ ایک سن غلہ کا نرخ دو دینار ہو گیا اور تمام گروہ نواح اطراف سے مصر کی رعیت آکر جمع ہوئی پھر تمام اہل مصر مجتمع ہو کر کہنے لگے کہ سارا غلہ غیروں کے ہاتھ نہ بیجا جائے۔ اگر ایسا کیا جاتا رہا تو وہ وقت قریب ہے کہ ہم لوگ بھوکے مریں گے، یہ سن کر حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمام خلق اللہ کا اس میں حق ہے اگر ہم نہ دیں گے تو لوگ محتاج رہیں گے لہذا ان کو دینا لازمی ہے اور غلہ سے محروم رکھنا سخت گناہ کا کام ہے اگر ان لوگوں کے ہاتھ نہ بیچوں گا تو یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے تب بقدر حاجت کے بیچتے رہے یہاں تک کہ سارے ملک میں کمی کے ہاتھ میں پیسہ و درہم و دینار نہ رہا اور سب کا سب حضرت یوسف کے خزانے میں داخل ہو گیا۔ پھر جب دو مہر سال آیا تو تمام مویشی لوگوں کے بعض لوگوں کے حضرت یوسف کے پاس بک گئے اور جو تھے سال میں تمام کپڑے وغیرہ اور جو کچھ تھا حضرت یوسف کے ہاتھ بیچ کھایا اور پانچویں سال میں جو کچھ زمینیں تھیں بیچ ڈالیں اور چھٹے سال میں لوگوں نے اپنے بیٹے بیٹی کو بعض غلے کے ہبہ کر دیا اور ساتویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت یوسف کے پاس اجرت میں دے دیا اور کوئی آدمی بھی سارے ملک میں اسیا نہ رہا کہ تمام نوکر چاکر خدمت کار لونڈی باندی حضرت یوسف کے نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حال دیکھ کر تمام خلائق تعجب میں تھی اور کہتی تھی کہ ہم نے کبھی اتنا بڑا بادشاہ نہیں دیکھا اور نہ کبھی نا۔ حضرت یوسف نے جب خلق اللہ کو

غریب و ناپچار دیکھا تو پھر بادشاہ ریان بن ولید سے کہا کہ شکر اس خدا کا ہے کہ اس نے مجھ کو کیا کیا نعمتیں بخشیں ہیں اگر ہر مال کے مندریں سو سوزیاں بھی ہوں تو شکر نعمت کا اس کا ادانہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر ریان بن ولید نے کہا کہ حتیٰ ہے جو آپ فرماتے ہیں کیلئے دستبردار ہوں اور میں حضرت یوسف کو اختیار دیتا ہوں کہ جو ان کی مرضی مبارک میں آئے وہی کام خلق اللہ میں کرے پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں نے اہل مصر کو خدا کی راہ پر آزاد کر دیا اور تمام مال و اسباب حرامی کا تحفہ اسی کو واپس دے دیا۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہرگز کھانا سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے اور تمام خلق اللہ کی موافقت کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آسودہ ہو کر کھاتے اور بھوکے رہتے ہیں اور آپ کے ملک مصر میں خزانہ و انبار اس قدر ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو باقی جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا اور ان کو نظر انداز کر دوں گا اور سیر ہو کر کھانا کھانا یہ کام ملک کے سرداروں کا نہیں ہے اور آئندہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔ جب ساتواں سال تمام ہوا اور تقریباً چالیس دن اور باقی تھے اور کچھ اناج و غلہ مصر میں باقی نہ رہا شدید بھوک کی دہر سے حضرت یوسف کے پاس آکر لمبی ہوئے حضرت یوسف لوگوں کے حال دیکھ کر متروک ہوئے اور آدھی رات کو اٹھ کر تفرغ و زاری کی کہ اے رب العالمین تیرے بندے بھوک کی دہر سے مرے جاتے ہیں اگر تو رحم نہ کرنے لگا تو تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ تب خدا کا رحم ہوا اور ایک آواز غیب سے آئی اے یوسف تو میرا پیارا ہے تو کچھ بھی غم مت کر کہ تیری صورت ہی کو لوگوں کی غذا کر دوں گا یعنی تیری صورت و جمال کو دیکھ کر لوگ آسودہ پیٹ ہو جائیں گے پس اس حکم کو پاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ایک میدان میں جا بیٹھے اور تمام لوگوں کو وبال بلیا اور اپنا چہرہ مبارک سب کو دکھاتے رہے حضرت یوسف کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بھوک پیاس جاتی رہی اور پھر ان کو کھانا کھانے کی حاجت نہ رہی چالیس دن کا قحط اسی طرح سے گزر گیا۔ اور آٹھویں سال میں اللہ کے فضل و کرم سے کھیتی بہت ہوئی اور اناج بے شمار پیدا ہوا اور تمام مخلوقات خدا نے اس قحط سے نجات پائی اور ایک روایت میں ہے کہ ایک لڑکا اندھا مادر زاد اس کو حضرت یوسف کے پاس لائے تاکہ حضرت یوسف اس کے واسطے خداوند قدوس سے دعا کرے کہ اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں تو حضرت یوسف نے اپنا چہرہ مبارک اس لڑکے کی طرف کیا اور اپنے روشن چہرہ کی شعاعیں اس پر ڈالیں تو خدا کے فضل و کرم سے اس لڑکے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اکثر روایوں نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ ملک مصر و شام میں جب قحط پھیل گیا اور کسی ملک میں اناج و غلہ نہ رہا، سو اٹھ حضرت یوسف کے

اور تمام مخلوق خدا اطراف میں غلہ حاصل کرنے کے لئے جاتی تھی اور مختلف جگہ سے معمولی غلہ لے کر آجاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی قحط سالی میں مبتلا تھے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم بھی مصر جاؤ اور وہاں کے عزیز مصر کے غلہ لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کو سن کر ان کے دس بیٹوں نے مصر جانے کا قصد کیا اور ایک چھوٹا بھائی بنیامین جس کا نام تھا۔ اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خاطر جمع کے لئے چھوڑ دیا اور حضرت یعقوب کے بیٹوں کے پاس جو کچھ مال و متاعِ پشمینہ تھا وہ اپنے اونٹ پر لاد کر مصر کو چل دیئے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔

جَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَسَخَطُوا عَلَيْهِ فَعَزَّزْنَاهُمْ رَحْمَةً لِّهِمْ لِيُؤْتُوا لَهُمْ مَكْرَهُنَّ ۗ تَرَجَّمَهُ ۗ

اور اے بھائی حضرت یوسف کے پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو انہوں نے ان کو پہچانا اور ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف جب ملک مصر کے مختار ہوئے موافق سات برس تک خود آبادی کی اور تمام ملکوں کا اناج بھرتے اور جمع کرتے گئے پھر سات برس قحط سالی میں رہے۔ اس قحط سالی میں ایک ہی بھاؤ میاں باندھ کر غلہ بکوا یا۔ اپنے ملک والوں اور غیر ملک والوں کو برابر ایک ہی بھاؤ سے فروخت کر دیا مگر پردیسوں کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے اس اصول سے تمام خلایق کو بہولت رہی اور قحط کی مصیبت سے بچتی رہی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا خزانہ مال و دولت سے بھر گیا اور ہر ملک میں یہ خبر تھی کہ مصر میں اناج و غلہ سستا ہے یہ خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے واسطے مصر میں آئے حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں کو دور سے پہچان لیا تو فرمایا ان سب کو میرے پاس لاؤ، پنا بچہ سب بھائی حضرت یوسف کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھی طرح یقین واثق سے ان کو پہچان لیا۔ اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت یوسف اس وقت بادشاہی ٹوٹی اپنے سر پر رکھ کر اور لباسِ شاہانہ پہن کر طوق زریں پہن کر تخت شاہی پر متمکن تھے اس لئے اس لئے ان کو بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اور بعض محققوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا اور ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں اس لئے حضرت یوسف کو وہ نہ پہچان سکے۔ پھر جب حضرت یوسف نے ان کی طرف دیکھا تو زبانِ عبرانی میں اپنے بھائیوں سے بات چیت کرنے لگے پھر اسی گفتگو میں حضرت یوسف نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیا کام کرتے ہو مجھے تمہاری شکل و صورت سے پیار معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ ہم کنعان سے آئے ہیں پیسہ ہمارا ثبانی ہے، چونکہ ہماری ولایت میں قحط ہوا ہے اس لئے اناج و غلہ خریدنے

کو ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ جاسوس ہو اور اس شہر میں جاسوسی کو آٹے ہو یہاں کا حال معلوم کر کے دشمنوں کو خبر دو گے یہ سن کر وہ یوں کہہ کر ہم دس بھائی ہیں ایک ہی باپ سے ہیں اور ہمارا یہ کام نہیں ہے، اور ہمارے باپ بھی بیغمباز ہیں جن کا نام حضرت یعقوب ہے۔ پھر حضرت یوسف نے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو وہ فوراً بولے کہ حضرت جی ہم اپنے باپ کے کل بارہ بھائی تھے اور ہم میں سب سے چھوٹا بھائی جو تھا وہ ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے گیا۔ ہم سب اس سے غافل ہو گئے اتنے میں اسے بھیڑ یا کھا گیا اور اس کا ایک ماں کے بطن سے ایک بھائی اور ہے۔ اسی کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہے واسطے شفقی خاطر کے کیونکہ وہ اس وقت اکیلے ہی، حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے گواہ نہیں ہیں تو جو بھائی تمہارے باپ کے پاس ہے اسے لے آؤ تو ہم جانیں گے کہ تم سچے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسے باپ نہیں چھوڑیں گے اور وہ اپنی نظر سے اس کو ایک ساعت بھی علیحدہ نہیں کریں گے۔ بہت اچھا ہم لوگ اپنے باپ سے کہیں گے اور اس کو آئندہ لانے کی کوشش کریں گے اگر ہو سکا تو اس کو ضرور آپ کے پاس لائیں گے، حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ اس وقت تم سب جاؤ صرف ایک بھائی تمہارا یہاں بطور قید کے رہے کیونکہ تم اس کو یہاں لاؤ گے۔ تب سب نے آپس میں مل کر تبارکہ خیال کیا کہ یہاں کون رہے گا پھر سب کے نام سے قرعہ اندازی کی گئی اور وہ قرعہ شمعوں کے ناپ پر نکلا وہی حضرت یوسف کے پاس بطور قید کے رہا پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ اناج ایک ایک شتر کا بوجھ دیکر رخصت کرو اور قیمت اناج کی ان کو پھیر دو، تب ملازمان بادشاہ نے ویسا ہی کیا پھر انکو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو اب کی دفعہ لاؤ گے تو اور بھی اناج تم کو ایک ایک شتر کا بوجھ زیادہ دوں گا خبر ہے جو مال حضرت یوسف کے بھائی اپنے ہمراہ لائے تھے اناج وغلہ خریدنے کو وہ مال بھی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو واپس کر دیا وہ اس واسطے کہ معلوم تھا ان کو کہ باپ کے پاس سوائے اتنے مال کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بھی مصلحت تھی تاکہ ان کو دوبارہ بھیجیں اور ایک روایت میں ہے کہ مال بھائیوں کو اس لئے پھیر دیا کہ باپ معلوم کریں کہ میرا مال پھیر دینا یہ کام کسی کا نہیں ہے سوائے یوسف کے پس شمعوں کا مقید رہنا کچھ مضائقہ نہیں ہے یہ سمجھ بوجھ کر پھر اپنے بیٹے کو بھیجیں، خبر ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا دل میں چاہا کہ ان کو کچھ سزا دیں۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ اسے یوسف اگر اپنے بھائیوں سے تم نے مکافات لیں تو ان میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا، بلکہ عفو کرنا موجب حسنات کا ہے

اور اپنے لو ان سے چھپا اور ان کو مت اپنی پہچان دے تاکہ وہ تجھ سے شرمندہ ہو کر اپنی حاجات سے محروم نہ جاویں اور صاحب استعانت کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈر سے ان کی ضروریات سے محروم رکھے، اسے یوسف ان واقعات کو جانے دو کیونکہ وہ تیرے در پر محتاج بن کر آئے ہیں خوش ہو کر ان کو اپنے سے رخصت کرو۔ حضرت یوسف نے بموجب خطاب الہی کے اپنے بھائیوں سے کچھ مواخذہ نہ کیا اور ان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کس جگہ کے رہنے والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم کنعان سے آئے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کے بیٹے ہیں پھر حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے باپ ابھی حیات ہیں، بولے ہاں ابھی حیات ہیں۔ پھر پوچھا کہ کس شغل میں ہیں وہ بولے کہ ہوائے عبادت کے اور کچھ کام نہیں کرتے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی ہے شوگر کنعان میں وہ بہت ضعیف اور اپنی آنکھوں سے مندور ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ ان کی آنکھیں کیوں جاتی رہیں وہ بولے کہ ایک بیٹا ان کا تھا اور وہ اس کو خوب چاہتے تھے اور نام اس کا یوسف تھا وہ نہایت حسین و جمیل تھا ایک لحظہ نظروں سے جدا نہ کرتے تھے اللہ کی مرضی ہوئی اس کو بھڑپا کھا گیا اس لئے اتنا روئے کہ آنکھیں ان کے جاتی رہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ اتنے بیٹے رکھتے ہو کیوں ایک کے لئے ایسا حال ہوا۔ وہ بولے ایک اور بھئی اس کا سکا بھائی ہے اس کا نام بنیامین ہے اور اس کی چھ بہنیں موجود ہیں۔ لیکن یوسف ان میں بہت ہی خوبصورت تھے انہیں کے غم میں شب و روز روتے روتے اپنی آنکھیں کھودیں اور ایک مکان شہر کے باہر بنا کر نام اس کا بیت الاحزان رکھا اسی مکان میں عبادت کرتے ہیں اور وہیں یوسف کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے ہیں پھر حضرت یوسف نے پوچھا کہ شاید وہ ہنر میں تم سے زیادہ تھا۔ وہ بولے نہیں ہاں البتہ وہ اپنے حسن اور خوبصورتی میں زیادہ تھا۔ دائائی اور عقلمندی میں بھی ہم سب سے تیز تھا الغرض اس کی صفیتیں بیان سے باہر ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اس وقت معاف کیا جائے اگرچہ ان لوگوں نے مجھ کو بہت ستایا اور مجھ پر ظلم بھی کیا ہے۔ مگر یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں حضرت یوسف نے اپنے خدمتگاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ بیچارے مسافر بعید از وطن غریب اس ملک میں کبھی نہیں آئے ان کو کوئی جگہ دو اور ان کو کھانا بھی اچھی طرح لطیف و پاکیزہ کھلایا کرو اور جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں اس وقت تک ان کو لباس بھی اچھا اور اعلیٰ قسم کا پہننے کو دو اور جب زہرا دن ہو تو حضرت یوسف نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تم اس شہر میں کیوں آئے ہو انہوں

فے کہا کہ ہمارے شہر میں قحط پڑا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کی سرکار میں اناج سستا بلتا ہے
 اس کو خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ تم لوگ کیا مال لاٹے ہو اناج لینے کے واسطے
 اس مال کو حاضر کرو، تب وہ اپنا لایا ہوا مال پیش کرنے لگے وہ مال تم پینہ وغیرہ کا تھا اور اس کی
 قیمت دو سو دینار تھی لیکن وہ مال قابل خرید نہ تھا کہ اس کو خرید کیا جائے۔ حضرت یوسف نے ان
 سے کہا اگر یہ مال تمہارا ہمارے لینے کے لائق نہیں ہے پھر بھی ہم نے تم کو اس کے عوض مال دے
 دیا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے **كَلَّمَا وَدَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ
 مَسْنَدًا أَهْلَنَا الْقَطْرُ وَجُنَّتْ بِضَاعَتُنَا مُرْجَبًا وَآؤُنَا إِلَى الْكَيْلِ وَ
 قَصَدْنَا عَلَيْكَ إِنَّا لِلَّهِ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ**۔ ترجمہ۔ پھر جب داخل
 ہوئے اس کے پاس بولے اے عزیز! پڑھی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی اور لائے ہیں ہم
 پونجی ناقص سو پوری دے ہم کو پورا پورا دینا یعنی تم خیرات کرو ہم پر کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات
 کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے پس حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کئی دن کھلا پلا کر ایک
 شتر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا اور فرمایا کہ تمہارا مال اگر چہ دو سو دینار کے قابل نہ تھا تو بھی میں
 نے تم کو گندم دے دیا۔ اگر اب کی دفعہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور آنا اور بھی ہم ایک
 ایک شتر کا بوجھ دے کر تم کو خوش کریں گے۔ اور مصر والوں کو کسی کو بھی ہم نے اس قدر گندم نہیں دیا
 سوائے تمہارے مصدق اس آیت شریفہ کے **قوله تعالیٰ وَكَلَّمَا جَعَلْنَاهُمْ جِبْهَاتٍ هُمْ
 قَالُوا لَنْ نَبْرَأَ لَكُمْ مِنْكُمْ إِلَّا تَدْرُونَ أَيُّ الْأُذُنِ الْكَيْلِ وَأَنَا
 خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ هُ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهَا فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي
 وَلَا تَقْرَبُون**۔ ترجمہ۔ اور جب تیار کیا ان کو اس کا اسباب اور کہا اے آئیو میرے
 پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے کیا نہیں دیکھتے ہو تم کہ پورا پورا مانپ دے رہا
 ہوں اور میں سب سے زیادہ مانپ کر دینے والوں میں سے ہوں۔ جس بھائی کی طرف حضرت یوسف
 نے اپنے بھائیوں کی توجہ دلائی تھی وہ حضرت یوسف کا چھوٹا سا بھائی تھا اس کو اپنے پاس
 ان بھائیوں کے ذریعہ بلوایا اور تیزی بھی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اس
 کو نہ لاؤ گے تو پھر آئندہ میرے پاس نہ آنا کیونکہ میں آئندہ گندم تم کو نہ دوں گا۔ یہی ان کو ہدایت
 دے کر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا اور وہ بولے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے
 فرمایا ہے۔ **قَالُوا سَتَرْنَا عَنْهُ آيَاتِنَا وَجَاءَنَا قَاعًا يُدْرِنَا**۔ ترجمہ۔ کہا انہوں

نے کہ تم سب خواہش ظاہر کریں گے اپنے باپ سے اس کے لانے کی اپنے ہمراہ اور یہ کاؤ کو کرنا ہے ضروری پس حضرت یوسف نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ جو پونجی ان کی دو سو دینار کی ہے اس کو بھی ان کے بوجھوں میں جا کر رکھ دو۔ چنانچہ ان کے بھائی یہودا کے اونٹ کے بوجھوں میں چھپا کر رکھ دی گئی اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے ان لفاظ میں ارشاد فرمایا۔ قَالَ لِيَقْتَابِرُوا اِذْ اَجْعَلُوْا بِيْنَ سَا عَتِهِمْ رِيْزًا لِّمَنْ يَّعْبُرُ فُرُوقَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو کہ ان کی پونجی کو ان کے اونٹ کے بوجھوں میں رکھ دو شاید وہ اپنے گھروں میں پہنچنے پر اس کو پہچانیں اور شاید اسی وجہ سے وہ پھر واپس ہمارے پاس آویں یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جو قیمت وہ لے کر آئے تھے سو اس کو چھپا کر ان کے اونٹوں کے بوجھوں میں رکھ دی گئی بطور احسان کے تاکہ وہ اس احسان کے بدلے پھر دوسری مرتبہ آویں اور اپنے ہمراہ اس چھوٹے بھائی کو بھی لادیں جس کی ہدایت چلتے وقت حضرت یوسف نے کی تھی۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں پر بہت ہرمافی کی لینے دینے میں تب یہودا کو کمال یقین ہوا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے کیونکہ ہم کو کھلانا بیانا اور اتنی خاطر مدارت کرنا اور باپ کا حال احوال پوچھنا سولے یوسف کے اور کون کر سکتا ہے اور ان کی بول چال اور آواز بھی اسی طرح پر ہے اور اگر فی الحقیقت یہ یوسف نہ ہو تو اغلب سے کوئی ہمارے خاندان میں سے یا اہل بیت سے ہوگا یہ سن کر ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ اگر واقعی یہ ہمارا یوسف ہے تو اس کو اتنی بڑی مملکت کس طرح سے ملی ہے اور اس نے یہ دولت و لشکر اور اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے پایا پھر وہ آپس میں تعجب سے کہنے لگے کہ کیا یوسف بھی ہم زندہ ہے، اچھا وہ تو کبھی کامرچکا ہوگا اور اب تو اس کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ اور بعض ان بھائیوں میں سے کہنے لگے ارے بھائی اگر واقعی یوسف ہوتا تو یہ سلوک ہمارے ساتھ کیونکر کرتا بلکہ وہ تو ہم سے ضرور انتقام لیتا۔ پھر یہودا بولا کہ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی نبیا میں کو کیوں طلب کرنا، البتہ جو میں کہتا ہوں بس سچ ہے یہ شخص ہی یوسف ہے۔ اور یہودا کے بھائیوں نے یہ غور نہ کیا اور جلدی میں وہ یوسف سے رخصت ہو کر ملک مصر سے چلے گئے اور اپنے ملک کنعان میں جا پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور کنعان کے باشندے بہت حیران ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اسے بیٹو مہر کا احوال بیان کرو ورنہ ماں تم کو بکا گزری وہ مجھ سے بیان کرو۔ تب انہوں نے احوال رازنہ بیان کیے اور

کی ضیافت و مہربانی کی پوری کیفیت بیان کی۔ یعقوب نے کہا اے بیٹو! ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کہیں میرے یوسف کی بھی خبر ملی ہے وہ سب کہنے لگے اے ابا جان تعجب ہے یوسف کو جھوٹا یا کب کا کھا گیا اور اس کو بہت دن گزر گئے اور یہ خبر ہم کس سے پوچھیں اور اگر ہم لوگوں سے معلوم بھی کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہے اور کب کی بات ہے۔ ہاں ایک بات ضروری عرض کرنا ہے کہ عزیز زمر بنیامین کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہاں اس کے لے جانے سے ایک ایک شتر کا بوجھ کم ملے گا اور اگر ہم اسکو وہاں لے جاویں گے تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت یعقوب نے اپنے دل میں سوچا کہ وہاں میرا یوسف ہے وہاں نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں دیکھنا چاہتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عزیز زمر کو بنیامین سے کیا مطلب وہ سب بھائی اپنے جان سے عرض کرنے لگے کہ عزیز زمر نے ہماری شکلیں دیکھیں اور پھر خوش ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ ضرور اپنے ہمراہ لانا اور نہ گندم نہ ملے گا۔ مجھے اس کے دیکھنے کا بہت شوق ہے کیونکہ وہ آپ لوگوں سے سب سے چھوٹے ہیں، بمسداق اس آیت شریفہ کے قولہ تعالیٰ: **ذَکٰلَکَآءِ جَعُوْا اِلَیْہِمْ قَالُوْۤا یٰۤاَبٰۤا نَا مٰنِیْحَ وِنَا اَلْکٰیۡلُ نَا رَسِیْلٌ مَّعَنَا اَخٰنَا فَکُنْ لَکُمْ وَاِخٰلَہٗ لَحٰۤا یَنْظُرُوْنَ ہٗ قَالِ هَلْ اَمْنٰکُمْ عَلَیْہِ اِلَّا کَمَا اَمْنٰکُمْ عَلٰی اٰخِیْنِہٖ مِنْ قَبْلُ ہٗ قَالِ اللّٰہُ خَیْرٌ حٰۤا یْظَاہُ وَھُمْ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ہٗ۔** ترجمہ

پس جب پھر آئے طرف باپ اپنے کے کہا انہوں نے اے ہمارے باپ منع کیا گیا ہے ہم سے پس بھجھ ساتھ ہمارے بھائی کو ہمارے درمیان تاکہ ہم اس کی نگہبانی کریں حضرت یعقوب نے کہا کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر مگر وہی جیسا کہ اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر پہلے کہنے لگے اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے جب وہ لوگ سب کے سب اپنے باپ کے پاس آئے اور اپنا لایا ہوا سب کھولا تو اس اباب میں اپنا مال بھی پایا جو لے گئے تھے قولہ تعالیٰ: **وَلَسَآ نَتَّخِذُہُمْ اَمْتًا عَلَہُمْ وَحٰۤدٌ وَّاِبْضَاعَہُمْ رُدَّتْ اِلَیْہُمْ قَالُوْۤا یٰۤاَبٰۤا نَا مٰنِیْحٰی حٰنِہٖ یَضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَیْنَاہُ وَ نُوْیْسِرُ اَھْلَنَا وَ نَحْفَظُ اَخٰنَا وَ نَزِدُّ اَدْرِیْۡلَ بَعِیْرَہٗ ذٰلِکَ کَیۡۡلٌ یُّسَیِّرُ** **قَالَ اَرْسِلْہُ مَعَکُمْ حَتّٰی تَوَلُّوْنَ مَوْتِقٰمِیۡنَ اللّٰہِ لَسَآ تَتَّخِیۡۡ بِہٖ اِلَّا یُحَآطُ بِکُمْ ہٗ۔** ترجمہ اور جب کھولا انہوں نے اسباب اپنا اپنی بونجی جو تھی وہ اس میں پائی اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ جو ہم لوگ لے کر گئے وہ سب واپس آگئی ہے۔ اگر آپ

نے چھوٹے بھائی ہمارے کو ہمراہ روانہ کیا تو آئندہ بھی ہم سب کو غلہ ایک ایک بوجھاؤنٹ
 کاٹنے کا ذمہ ہم سب کو محروم کر دیا جائے گا پھر یہ بات سن کر حضرت یعقوب نے کہا کہ ہرگز نہ
 بھیجوں گا اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ قسم دو اللہ تعالیٰ کی میرے روبرو
 کہ اس کو لے آؤ گے واپس میرے پاس۔ پس جب دیا انہوں نے ان کو عبد اپنا کہا اللہ تعالیٰ
 اس بات پر شاہد ہے اور جو کچھ ہم لوگ آپ سے کہتے ہیں وہی ہمارا اور آپ کا کارساز ہے۔
 پھر سب بھائیوں نے اپنے باپ کے ساتھ عبد کیا اور پھر قسم کھاٹی۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام
 نے فرمایا کہ خدا حافظ ہے اور شاہد ہے تمہارے قول و قرار پر اور یہ بھی خبر ہے کہ حضرت یعقوب
 علیہ السلام نے جب اپنی پونجی پائی اونٹوں کے بوجھوں میں جو مال بھیجا تھا اناج کے لئے مصر میں
 پس حضرت یعقوب علیہ السلام کو کابل یقین ہوا کہ مصر میں میرا یوسف ہے اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے
 چھوٹے بھائی بنیامین کو مصر میں کیوں بلاتا اور میں نے بھی یقین کیا اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو اپنے
 چھوٹے بیٹے بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کیوں بھیجتا اور جو اناج مصر سے آیا تھا اس
 میں آدھا اپنے خولیش و اقارب کو دیا اور آدھا ملک شام میں بھیج دیا۔ اور بنیامین کو اپنے بیٹوں
 کے ہمراہ مصر روانہ کر دیا اور چلتے وقت یہ وصیت کی کہ تمام یکبارگی ایک ہی دروازے سے شہر
 مصر میں داخل مت ہوں بلکہ سب مختلف دروازوں سے داخل ہوں ممکن ہے کسی کی بد نظر تم
 پر پڑے اور جو میری پونجی وہاں سے بذریعہ شتر کے بوجھ میں واپس آگئی ہے یہ تم لیتے جاؤ
 اور یہ وہاں سے دینا ہو سکتا ہے شاید بھول میں چلے آئی ہو اور یہ چیز اناج کی قیمت میں دی
 گئی ہے تمہیں واپس رکھنا حلال نہیں یہ وصیت فرمائی اور پھر کہا جاؤ میں نے تمہیں خدا پر سوچنا
 حَتَّى تَكْتُمُوا عَلَى اللَّهِ كَمَا كُنْتُمْ كُفْرًا وَرَبُّكُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اہل کفران نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ لوگ
 بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ ادھر حضرت یوسف اپنے چھوٹے بھائی کے بہت منتظر تھے
 کہ دیکھیں کب آریں گے، غرض یہ کہ وہ سب لوگ چند ہی روز میں مصر جا پہنچے اور حضرت یوسف
 کو خبر دی گئی کہ آپ کے پاس کفران سے گیارہ آدمی آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف بہت
 خوش ہوئے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گیارہ آدمی بنیامین کو لے کر آئے ہیں اور سب بھائیوں کو جب
 وصیت اپنے اپنے باپ کی علیحدہ علیحدہ دروازے سے متفرق صورت میں داخل ہوئے جیسا کہ
 حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تو قتلے دَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْعُوا حُلُوًّا مِّنْ بَابِ
 وَاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۗ وَمَا عَنِي عَنْكُمْ مِثْ

اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ اِنَّ الْحَكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۗ وَ عَلَيْهِ فَاْتَتْكَ
 الْمُسْوَكُوْنَ ط - ترجمہ۔ اور حضرت یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹے داخل ہونا ایک
 دروازے سے اور تم داخل ہونا مختلف علیحدہ علیحدہ دروازوں سے اور میں کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا
 کہ میں کسی چیز سے بچا سکوں بجز حکم خداوندی کے اور حکم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں اور
 اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے۔ اور یہ بھی مجھے کامل یقین ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں
 کو۔ یہ درحقیقت لوگوں کی ٹوک کا بچاؤ بتایا اور پھر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر اور ٹوک لگنی غلط
 نہیں ہے، اور اس کا بچاؤ کرنا بھی جائز ہے۔ وَ لَمَّا دَخَلُوْا عَلٰی يُوْسُفَ اَدٰى اِلَيْهِ
 اَخَاهُ قَالَ رَبِّ اِنَّا اَخْوَاكُ فَارْحَمْنَا بِمَا كَانُوْا يَحْمِلُوْنَ ۗ ترجمہ۔

اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اور اپنے بھائی کو کہا میں ہوں بھائی تیرا
 اور تم کسی طرح پر ٹھیکیں مت ہو۔ ان کاموں سے جو کرتے رہیں سب بھائی مل کر اور وہ سب شہر میں
 جا کر ایک جگہ اترے۔ بعد اترنے کے ایک ملازم شہر کا ان کو سیدھے راستے سے حضرت یوسف
 کے پاس لے گیا سب بھائیوں نے بروقت ملاقات کے حضرت یوسف کے پاس لے گیا سب
 بھائیوں نے بروقت ملاقات کے حضرت یوسف کو باادب سلام علیک عرض کیا اور ایک ستار
 جو حضرت یعقوب کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میراث میں ملی تھی وہ انہوں نے
 اپنے باپ کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف کو پیش کر دی اور حضرت یوسف سے کہا کہ یہ
 ہمارے باپ کا دیا ہوا بدیہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دستار دیکھ
 دیکھ کر از حد خوش ہوئے کیونکہ یہ دستار جس کسی کو پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوا اور معلوم کیا کہ
 جو پونجی اپنے بھائیوں کو پھیر دی تھی کہ تم لوگ اس کو لے جا کر اسے اپنے خرچ وغیرہ میں لانا پھر
 اس کو دیا ہی باپ نے واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف کو کچھ افسوس ہوا۔ لیکن مہمانوں کی
 مہمان نوازی کو نا ضروری تھا۔ فوراً اپنے خادموں اور خاناں ماں کو حکم دیا کہ کھانے جلد از جلد
 تیار کرو اور باقاعدہ دسترخوان لگاؤ۔ چنانچہ آپ کے کہنے کے مطابق کھانے نہایت نفیس اور
 مختلف قسم کے دسترخوانوں پر چن دئیے گئے۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے مہمانوں کو طلب
 کیا اور ان سے فرمایا کہ اس وقت کھانا تیار ہے آپ حضرات دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لیجئے لیکن
 ایک بات ضرور کہنی ہے کہ جو جو بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے ہوں تو وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ
 کہ کھانا کھائیں۔ یہ بات حضرت یوسف کی سن کر سب بھائی ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئے صرف نبی امین

ہی اکیلے رہ گئے۔ اور وہ یہ حال دیکھ کر رونے لگے حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو اور تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، بنیامین نے روتے ہوئے کہا کہ میرا ایک سگلا بھائی تھا اور اس کا نام یوسف تھا میرے بھائیوں کی غضبت سے اس کو بھڑٹے نے کھالیا اور میں اپنی ماں سے اکیلا بھائی ہوں اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر وہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو اجازت دو کہ وہ میرے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یوں نوازش و کرم فرماتے ہیں تو یہ ہماری سرفرازی ہے اس بات کو طے کر کے حضرت یوسف نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر خلوت سرا میں چلے گئے اور اپنے شاہانہ چہرہ کا نقاب اٹھا کر بنیامین کو دکھایا، بنیامین حضرت یوسف کی شکل و صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف نے ان کے چہرے پر عرق کلاب چھڑکا جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئے۔ حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا کہ تم کو کیا ہوا، شاید تم کو مرگی کی بیماری ہے پھر بہت ہی غم خواری اور دلاسا دینے لگے۔ بنیامین نے کہا کہ میں بینیمزادہ ہوں ہم کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی ہے میں تو آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا آپ تو میرے بھائی جو گم ہو گئے ہیں جن کا نام یوسف ہے انہیں کے مثل ہیں۔ بنیامین کی یہ بات سن کر حضرت یوسف نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو میں وہی تمہارا بھائی گم ہوا یوسف ہوں اب تم کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو یہ بات سن کر بنیامین پھر بے ہوش ہو گئے تقریباً ایک گھنٹہ کے بعد اٹھ کر بیٹھے اور ہوش میں آ گئے۔ پھر حضرت یوسف بنیامین سے والد بزرگوار کا حال پوچھنے لگے کہ ہمارے والد اب کیا کرتے ہیں اور وہ کس حال میں رہتے ہیں۔ وہ بولے تمہارے فراق میں بیت الاحزان میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے ہیں اور تمہارے لئے شب و روز روتے روتے دونوں آنکھیں جاتی رہی ہیں اور تمہارے غم میں ان کی زندگی تلخ ہو گئی ہے، حضرت یوسف بنیامین کی یہ باتیں سن کر بہت روتے لگے اور کہا تم کھانا کھاؤ اسے میرے پیارے چھوٹے بھائی! میں اپنی مصیبت کا قصہ جو جو ظلم بھائیوں نے مجھ پر کیا وہ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ظلم کی یہ کہ میرے باپ سے بہانہ بنا کر جنگل میں لے گئے۔ اور وہاں جا کر مجھے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ اور پھر کچھ دن بعد گوند نے والے قافلہ نے ہم کو اس اندھیرے کنویں سے نکالا تو پھر ہمارے اہلی بھائیوں نے اسی قافلہ کے سردار کے ہاتھ ہم کو بیچ دیا ہم نے کنویں میں بہت تکلیف اٹھائی اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس تکلیف و مصیبت کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت

کی دولت سے نواز ہے اور تم اس بات کو میری بطور امانت رکھنا اور یہ بات کسی سے نہ کہنا اور اپنے بھائی یہ بات سننے نہ پائیں میں کسی جیلے سے تم کو اپنے پاس رکھوں گا اور بہت اچھی طرح سے میرے پاس رہو گے، پھر یہ باتیں کر کے بنیامین اس خلوت سہارے سے باہر نکل آئے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو براہِ تین دن تک کھانا نہ دینا حکم دیا پھر چلتے وقت ہر ایک کو ایک ایک شتر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا اور ایک حیلہ ساز نے کر کے چپکے سے ایک پیالہ چاندی کا جو سواہر سے بڑا ہوا تھا ایک کنعانی غلام کو کہہ دیا کہ اس پیالے بے بہا کو بنیامین کے شتر کے بوجھ میں چھپا کر رکھ دینا۔ چنانچہ اس غلام نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا تھا اور وہ سب تقریباً ایک منزل کی راہ نکل چکے تھے اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے چند سواروں کو ان کے پیچھے بھیجا کہ پیالہ پانی پینے کا منع بنیامین کے ہمارے پاس لائیں یہ خبر سنتے ہی چند سوار فوراً ان کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہوں نے اس قافلے کو دور جا کر پایا اور اس قافلہ کو پکارا اسے قافلہ والو! ذرا ٹھہرو تم کہاں جا رہے ہو ہماری ایک قیمتی چیز گم ہو گئی بہت ممکن ہے وہ تم لوگوں کے پاس ہو پہلے تو تم لوگ اپنی تلاشی دے دو شاید وہ چیز تمہارے پاس سے نکل آئے اور ممکن ہے کہ تم ہی چور ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فَلَمَّا جَهَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَحْيَبِهِ ثُمَّ أَذِنَ مَوْدِنَ أَيُّهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَقَبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ هُ قَالُوا تَفْقَدُ صَوَاعِمَ الْمَلِكِ وَلَيْنَ جَاءَ بِهِمْ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِمْ رَعِيمٌ هُ قَالُوا نَا اللَّهُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ هُ قَالُوا فَمَا جِئْتُمْ بِإِذْنِكُمْ كَذِبِينَ قَالُوا جِئْنَاكَ مِنْ دُونِ حِلِّهِ فَهُوَ جَزَاءُ هُ كَذِبِكُمْ لَأِنَّهُ لَنَجْزِي الظَّالِمِينَ هُ

اور پھر جب تیار کر دیا ان کو اسباب ان کا اور رکھ دیا پانی پینے کا پیالہ جان بوجھ کر اپنے بھائی (بنیامین) کے بوجھ میں پھر لپکارا پکارنے والوں نے اسے قافلے والو! یقیناً تم چور ہو، کہنے لگے اپنا منہ کر کے ان کی طرف کیا تم نہیں پاتے وہ بولے کہ ہم نہیں پاتے بادشاہ کا ناپ یعنی پیالہ اور جو کوئی وہ پیالہ لادے گا تو اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ بولے قسم ہے اللہ کی تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے نہیں آئے تھے اس ملک میں اور نہ ہم کبھی چور تھے اور نہ ہم لوگوں نے کبھی چوری کی ہے ان لوگوں نے ان سے کہا کہ پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہوئے تو وہ سب کہنے لگے اس کی سزا بس یہی ہے کہ جس کے بوجھ میں پاؤ وہی

جاوے اسی کے بدلے میں اور ہم تو یہی سزا دیتے ہیں گنہگاروں کو، خلاصہ یہ ہے کہ ایک پیالہ بادشاہ کے پانی پینے کا تھا اور وہ بادشاہ کی پیاس کا ناپا ہو اٹھا یا پیالہ تھا اناج ناپنے کا حضرت یوسف نے ان کو چور کہلوا یا یہ جھوٹ نہیں ہے اس لئے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے باپ کے سامنے سے لے جا کر چوری سے بچنے والا مختار اور حضرت یعقوب کے دین میں یہ حکم تھا کہ جو کوئی چوری کر تا وہ مال والے کا غلام ہو رہتا صرف ایک برس تک اور ان کے بھائیوں نے کہا بھی تھا کہ تم جسے چوری میں پاؤ اسے غلام بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ قافلہ والوں کا مال و اسباب تلاش کرنے لگے سب بوجھوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی اور سب سے آخر میں چھوٹے بھائی بنیامین کے شتر کے بوجھ کی تلاشی ملی بالآخر بنیامین کے شتر کے بوجھ میں شیلے میں وہ پیالہ نکلا جیسا کہ قول تاملے فَبِكَانَ اِيَادُ عِيَّتِهِمْ قَبْلَ دَعَا عَآءِ اَخِيْنِمَا ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ دَعَا عَآءِ اَخِيْنِمَا طرہ سے پھر شروع کیں اس نے دیکھنا خر جیاں ان کی پہلے اپنے بھائی کی خرچی سے آخر کو وہ برتن نکلا ایک خرچی سے اپنے بھائی کی پھر سب کو حضرت یوسف کے پاس حاضر کیا۔ ان کے بھائی بہت طاقتور تھے اگر وہ اپنی طاقت سے کام لیتے تو وہ نہ پکڑے جاتے، لیکن چھوٹے بھائی بنیامین کی وجہ سے سب پکڑے اور حضرت یوسف کے پاس حاضر کئے گئے اور جب حضرت یوسف کے پاس واپس پہنچ گئے تو وہ آپس میں مشورے کرنے لگے کہ عزیز مصر سے یہ بات کہنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے عوض میں کسی دوسرے بھائی کو ایک سال کے واسطے غلام رکھ لیجئے تاکہ ہم لوگ اپنے کئے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے پاس اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے جائیں اور ان کے سپرد کر دیں ورنہ ہم اپنے آپ کو کیا جواب دیں گے اور باپ ہم سے سخت ناراض ہوں گے اور کہیں گے کہ بنیامین کو بھی یوسف کی طرح کم کر دیا ہم لوگ اگرچہ ہر چند یقین دلا نہیں گئے لیکن وہ کبھی ہماری بات کو باور نہ کریں گے اپنے جی میں یہ مشورے طے کر کے دربان کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف کے حضور میں حاضر ہوئے اور حضرت یوسف سے بولے اے عزیز مصر آپ نے ہم پر بہت مہربانی کی اور شفقت فرمائی اور اسی سے بھی زیادہ آپ سے نوازشات کی امیدیں ہیں لیکن ایک مودبانہ التماس ہے کہ آپ اپنے لطف و کرم سے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں تاکہ ہم لوگ اپنے کئے ہوئے وعدوں کے مطابق اپنے باپ کے پاس لے جائیں اور ہم لوگوں کو یقین کامل ہے کہ آپ ضرور ہماری گزارشات پر توجہ فرمائیں گے اور ہم لوگوں کو تشکر و امتنان کا موقعہ دیں گے۔ یہ سن کر حضرت

یوسف نے کہا کہ حکم شرعی تمہارے دین میں یہی ہے اور تم نے بھی یہ چیز پہلے قبول کر لی تھی کہ چوری پکڑا جاوے ہو جب شرع کے وہ ہماری قید میں ایک سال تک رہے گا اور تم لوگوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم سب پیغمبر زادے ہیں اور نیک مرد ہیں جھلا بتاؤ کیا یہ درست ہے کہ تمہارا بھائی میری چوری کرے وہ بولے کہ آپ صحیح فرماتے ہیں، چوری کرنا اس کے حق میں عجب نہیں اس کا بھائی بھی چور تھا، چنانچہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں وضاحت بیان فرمائی توہ تعالیٰ۔ قَالَ اِنَّ يٰسُوْفَ ذٰتَہٗ سَدَقَ اَخَہٗ مِنْ قَبْلِہٗ تَرْجُمَہٗ۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چر یا تو چوری کی اس کے بھائی نے بھی پہلے تب حضرت یوسف نے یہ سن کر دل میں کہا توہ تعالیٰ۔ فَاسْتَسْہَا یُوْسُفُ فِی نَفْسِہٖ وَاَمَّ یٰسُوْفَ هَا لَہُمَا قَالَا اَنْتُمْ هٰتٰمٰکَاہٗ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یَصِفُوْنَ ۝ تَرْجُمَہٗ۔ تب آہستہ کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ بتایا اور بولا کہ تم بدتر ہو درجے میں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بتاتے ہو۔ مروی ہے کہ اگرچہ وہ چوری کا ذکر نہ کرتے تو بنیامین کو لے جا سکتے تھے چونکہ انہوں نے چوری کا ذکر کیا اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے غصہ میں ہو کر اپنے دل میں کہا کہ تم نے ایسی چوری کی کہ اس کے بھائی کو باپ سے چرا کر بیچ ڈالا اور میری چوری کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے ان پر چوری کے ظن کا قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کو بھو بھوئی نے پچیس میں پالا جب بڑے ہوئے تو باپ نے چاہا کہ اپنے پاس رکھوں اور بھو بھوئی کو محبت تھی اس نے انہوں نے چھپا کر ایک پٹکان کی کمر سے باندھ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس کو دھونڈنے لگیں آخر لوگوں میں چرچا ہوا آخر وہ پٹکا یوسف کی کمر سے نکال لیا۔ بایں سبب موافق ان کے دین کے ایک برس تک ان کی بھو بھوئی نے اس جیل سے حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا اور حضرت یوسف نے کہا کہ بھائیوں نے کہ بھائیوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا اور ستایا یہاں تک کہ مجھ کو بعید الوطن کیا۔ پھر بھی یہ لوگ چوری کی تہمت دیتے ہیں یہ سب لوگ عجیب آدمی ہیں۔ بالآخر بھائیوں نے حضرت یوسف سے عرض کیا کہ اے عزیز مصر ان کے والد بزرگوار بہت ضعیف اور نابینا ہیں اور ان کی مفلسی میں اور بھی زیادہ پریشان ہوں گے آپ ہمارے اور بھائیوں میں سے ایک بھائی کو رکھ لیجئے اس کا بدلہ ہو جائے گا اور ہم میں سے آپ کی خدمت بھی بخوبی کر سکے گا توہ تعالیٰ۔ قَالَ وَاِنَّا لَآءِیٰتِہَا الْعٰزِیٰرَاتُ لَہٗ اَبَا شٰیخًا کَیْمًا فَاخُذْ اَحَدًا مِّنْکَا ذٰہٗ اِنَّا نَرٰکَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ تَرْجُمَہٗ کہنے لگے اے عزیز مصر اس کا باپ ہے بوڑھا بڑی عمر کا سو آپ ہم میں سے اس کے بدلے دوسرے کو رکھ لیں اور ہم آپ کو بہت احسان والا دیکھتے ہیں حضرت

یوسف نے اس کے جواب میں کہا تو تعالیٰ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ كُنَّا خُدَّاءَ اِلٰهٍ مِّنْ وَّرْتٍ
جَدْنَا مِمَّا عَنِ عِبَادَتِهِ هَٰؤُلَاءِ اِنَّا اِذْ نَطَّالِيْۤسُوْنَ ۝ ترجمہ۔ بولے یوسف اللہ تعالیٰ اپنا
دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر اس کو کہ جس کے پاس پائی اپنی چیز اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو بہت
بے انصاف ہوں گے یعنی حضرت یوسف نے فرمایا کہ معاذ اللہ ہم بے گناہ کو پکڑیں گے لیکن ہم
اس کو گرفتار کریں گے کہ جس کے پاس پائی گئی ہماری چیز اور اگر ہم تمہارے کہنے سے کسی بے گناہ
کو پکڑیں گے تو پھر ہم تو بہت ظالم ہوں گے اور اس جملہ میں حضرت یوسف نے ایک اشارہ فرمایا
ہے جو آخرت پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے مگر
ہم پکڑیں گے اس کو جس نے چوری کی ہے ایسا ہی قیامت کے دن جو شخص چاہے کہ کسی کو بخشوا
دے اللہ تعالیٰ سے حق سبحانہ تعالیٰ اسی وقت فرمائے گا کہ جس بندے نے میرے حکم کو مانا اور
مجھ کو واحد جانا اسی کو بخشوں گا۔ حاصل کلام، ہر چند بھائیوں نے چاہا کہ حضرت یوسف سے اپنے
چھوٹے بھائی بنیامین کو چھڑائیں لیکن وہ کسی طرح سے چھڑانے سکے اور بہت ہی مایوس ہو گئے اور سب
کے سب شہر کے دروازے پر جا بیٹھے اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اور
بعض ان میں سے کہنے لگے کہ ہم ادھر جا سکتے ہیں اور نہ ادھر۔ اور بنیامین کو یہاں چھوڑ کر کہاں جاویں
کہنے لگے عجب شامت ہم پر آئی آخر باپ کو جا کر کیا جواب دیں تو لہ تعالیٰ۔ فَكَلِمًا سَتًّا يُسْتَوٰ
مِنْهُ خَلَصْنَا نَحْنُۢمۡ ۝ قَالَ كَيْفَ يُرْهِمُۤ اَللّٰهُ تَعَلَّمُوۡۤا اِنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ
عَلَيْكُمْ مَّرْثَقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا نَرٰۤى طَمَعًا فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَكُنْ اَبْرَحَ
الْاَرْضِ حَتّٰى يَأْتِيَ اَبْنٰى اِيۡنٰى اِذْ يُحَكِّمُ اللّٰهُ بَيْنَہٗ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ ترجمہ۔
جب ناامید ہوئے اس سے تو اکیلے بیٹھے مصلحت سمجھنے کو پھر بولانا کا بڑا بھائی جس کا نام شمعون
تھا۔ اسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے کیا ہے عہد اللہ تعالیٰ کا اور اس
سے پہلے جو قصور یوسف کے بارے میں کر چکے ہو اس کا حال تم کو اچھی طرح معلوم ہے لہذا میں
اس ملک سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا باپ اس ملک پر روانگی کی اجازت
نہ دے اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی حکم کرے میرے واسطے اور وہ البتہ بہتر حکمت کو نبی والا ہے۔
اس کے بعد تمام بھائیوں کو بڑے بھائی نے رخصت کر دیا اور خود وہیں رہ گیا اس امید پر کہ شاید
مہربان ہو کر بنیامین کی خلاصی کر دیں۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ سب بھائیوں
نے کہا کہ اے عزیز مصر ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو نہ چھوڑو گے تو ہم اپنے زور و طاقت سے

نے یوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی طاقت دی ہے، اور ہر ایک ان میں سے بولا اگر ہم
 چاہیں تو ایک ایک بھائی ایک ایک کو لے سکتا ہے۔ پس کیوں ہم اس معاملہ میں نامردی کریں، اور
 ایک بھائی نے فخر سے جس کا نام یہود تھا کہا کہ میں اکیلا ہی ملک مصر کو لے سکتا ہوں، یہ کہہ کر وہ
 سب بھائی لڑنے کو مستعد ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہر ایک بھائی ہر ایک دروازے پر جا کر
 جنگ کا نعرہ مارو اور حضرت یوسف ان کی قوت سے خوب اچھی طرح آگاہ تھے، ایک جا سوس
 پوشیدہ طور پر ان کی خبر کو بھیجا اور وہ جا سوس ان لوگوں کی خبر لایا کہ کنعان کے باشندے حضرت
 یوسف عزیز مصر سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس خبر کو سن کر حضرت نے چالیس ہزار مرد جنگی
 سلاح پوش تیار کئے اور تمام اہل مصر کو خبر دی کہ لڑائی کا سامان تیار کرو اور ہر وقت بہت زیادہ
 ہوشیار رہو۔ یہ خبر ملک ریان تک پہنچی اس نے کہا کہ یہ خبر کیا ہے تو مصریوں نے اس کے جواب
 میں ملک ریان سے کہا کہ کنعانیوں نے ایک پیالہ سرکاری چوری کیا تھا اور خدا تعالیٰ وہ پیالہ ان
 کے ثلیموں میں سے نکلا اس جرم میں ان کا ایک بھائی بموجب آئین و قانون مقید ہے اور وہ کنعانی
 اس لئے ہم سے لڑنا چاہتے ہیں ملک ریان نے کہا کہ میں بھی حاضر ہوتا ہوں تمہاری مدد کے لئے
 معہ تمام لشکر کے۔ حضرت یوسف نے ملک ریان سے کہا کہ ابھی میں کافی ہوں اور ابھی آپ کو
 تکلیف دینا مناسب نہیں۔ جب ضرورت ہوگی آپ کو یاد کرو لیا جائے گا آپ اپنی جگہ آرام کریں
 چنانچہ دوسرے دن قافلے اور لشکر نے شہر کے اندر آکر حملے شروع کر دیئے اور ان کے بھائیوں
 میں سے ایک بھائی یہود نے دروازے پر جا کر ایک ایسا نعرہ مارا کہ چالیس ہزار مرد کار نڈا مصر
 کے یکبارگی بے ہوش ہو گئے اور شمعون نے بھی دوسری راہ سے آکر اپنی شجاعت دکھائی۔ مصر
 کے لشکر یوں نے جب یہ حال دیکھا سب شکست کھا کر پسا ہوئے اور حضرت یوسف چالیس ہزار
 مرد سپاہ کے بیچ میں تھے دیکھا کہ ان کے بڑے بھائی نے ایک پتھر اٹھا کر قلعہ کے گوشک پر
 پھینکا اس سے مکان کی تمام کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور یہ بھی دیکھا کہ تمام لشکر مصر کا بیعت سے پسا
 ہو گیا ہے تب انہوں نے وہ دستار جو بھائیوں نے باپ سے لا کر دی تھی اور وہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ
 السلام کی دستار تھی جو بطور معجزے کے ان کو لا کر دی تھی وہ ان کو دکھائی۔ پھر سب بھائیوں نے اس دستار
 کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب بھائی سست اور کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے ایک ہی
 حملے میں ان سب کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اہل مصر کو بہت تسلی ہوئی اور بادشاہ ریان نے حضرت یوسف
 کی جوانمردی دیکھی تو بہت تعریف کی حضرت یوسف نے ان لوگوں سے کہا کہ شاید تم نے اپنے اپنے

دل میں یہی بات ٹھہرائی ہوگی کہ ملک مصر میں تمہارے مقابل کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی یہی مرضی تھی کہ آخر میں ہم تمہارے ہاتھ سے گرفتار ہو جائیں، لیکن ہم کو اس جنگ سے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ مصر میں ہمارے مقابل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف نے ان لوگوں کو اونٹوں کے بوجھ سمیت اپنے پاس بلوایا تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ان پر ضرور سزا مقرر کی جائے گی۔ اور وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کوئی ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا ہمارے آباؤ اجداد سے کچھ بزرگی پائی ہوگی کہ ہم سے مقابل ہو کے لڑے اور ہم اس کے ساتھ نہ لڑ سکے۔ اس پر یہود نے کہا کہ میری بات سچ ہے جو کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے۔ پھر اس کے بھائیوں نے کہا اگر ہمارا بھائی یوسف ہوتا تو ہم پر اس طرح احسان نہ کرتا ہم لوگوں کو تو اسی وقت مار ڈالتا۔ الغرض حضرت یوسف نے ان سب لوگوں کو تین دن تک قید میں رکھا تاکہ شہر کے لوگوں کو خاطر جمع رہے، جب تین دن قید کے گزر گئے تو انہوں نے ان لوگوں کو بلوایا کہ تم پر بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ فوراً جان سے مار دیا جائے لیکن میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی اور تمہاری رہائی دلائی۔ کیونکہ تم لوگ نیک آدمی ہو اور ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ پس میں نے تم کو معاف کیا اور اس قید سے تم کو خلاصی دی اب تم لوگ جہاں طبیعت چاہے وہاں جاؤ شمعون نے کہا کہ اسے بھائیو! میں یہاں رہوں گا اور تم سب لوگ جاؤ اپنے باپ کے پاس اور یہ حقیقت و ماجرا جاگہ بیان کر دو۔ پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: **اِذْ جَعَلْنَا اِلٰی اٰبِنٰیْمُ نَقُوْرًا یٰۤاِیُّہَا جَاہِلَاتُ اِنَّکُمْ سَرَقْتِہُنَّ** ترجمہ: شمعون نے کہا کہ تم سب بھائی اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ اور ان سے کہو کہ ہمارے ابا جان آپ کے ایک بیٹے نے چوری کی ہے۔ پس بموجب کہنے شمعون کے نو بھائی کنعان میں گئے۔ اور یہاں شمعون بنیامین رہے اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے واسطے اندیشے میں تھے اور بوجہ فکر کے لوگوں کو راستے میں بٹھا رکھا تھا کہ بیٹوں کے آمد کی خبر ہم تک۔ جلد پہنچائیں۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کو لوگوں نے ان کے بیٹوں کی آمد کی خبر دی اور کہا مصر سے صرف نو بیٹے آئے ہیں اور ان کے ہمراہ نہ اونٹ ہیں اور نہ ان کے بوجھ ہیں یعنی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے اور رونے لگے۔ اور جب بیٹے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ساری حقیقت اپنی جو جو حال ان پر گزرا تھا وہ کہہ سنایا اور کہا گندم ناپنے کا ایک صاع چوری ہو گیا تھا اس کے عوض بنیامین کو قید میں رکھا اور وہاں کے عزیز مصر یوسف سے ٹھائی ہوئی اور ہم سب بھائیوں

کی عزیز مصر یوسف نے بہت اچھی ضیافت کی اور بہت ہی اچھی طرح سے ہم لوگوں کو رکھا۔ اور اے ہمارے ابا جان اگر آپ کو ان باتوں میں ذرا بھی شک معلوم ہو تو ہمارے قافلے کے دوسرے لوگوں سے معلوم کر لیجئے اور ہم نے جو کچھ آپ سے عرض کیا ہے بالکل سچ ہے ذرا بھی اس میں فرق نہیں ہے اور اس معاملہ میں ہم لوگ بے گناہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **اَسْئَلُ الْقَضِيَّةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا وَاِنَّا لَطَائِفُ قَوْمٍ هُمْ تَرَجَمُوا** اور پوچھ اے میرے باپ ان بستی والوں سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے والوں سے بھی جس قافلے کے ہم لوگ واپس آئے ہیں اور بیشک ہم لوگ سچ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو اور تم لوگوں نے اپنے دل سے یہ بات بنالی ہے اور اب مجھے سولے صبر کے کچھ بھی نہ بن آئے گا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قولہ تعالیٰ **قَالَ بَدَسَوَّ كَتَّ لَكُمُ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَاَصْبِرُوا بِحَمِيلٍ هُوَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ** ترجمہ۔ بولا کوئی نہیں بنائی ہے تمہارے جج نے یہ بات، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے۔

شاید اے آوے اللہ تعالیٰ میرے پاس ان سب کو وہی ہے خبر دار حکمت والا۔ الفرض حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے یہ دروغ آمیز باتیں سنیں تو ان سے مزید معلوم ہوا اور قیاس ان کی باتوں کا کیا کہ بہت ممکن ہے میرا یوسف مصر میں ہے پھر ان سے توجہ ہٹالی اور پھر کہا تولہ تعالیٰ **ذَكَوْا لِي عَنْهُنَّ وَقَالَ يَا سَهْلِي عَلَيَّ يَوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ** ترجمہ اور منہ پھیرا ان سے اور کہا اے افسوس اوپر یوسف کے اور سفید ہو گئیں ان کی آنکھیں یوسف کے غم سے کیونکہ وہ یوسف کے غم میں بھرے ہوئے تھے بیٹوں نے جب اپنے باپ کو دکھا کہ یوسف کے غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں اور ضعیف و ناتوانی سے پشت بھی خم ہو گئی تب وہ کہنے لگے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے **قَالُوْا قَالِيْهِ تَفْتَنُوْا اِنَّكُمْ يَوْسُفَ حَتَّىٰ تَمُوتُوْا حَرْصًا اَوْ تَمُوتُوْنَ مِنْ اَلْهَابِ يَكِيْنٌ** ترجمہ۔ کہا انہوں نے قسم ہے خدا کی کہ ہمیشہ رہے گا تو یاد کرو تا یوسف کو یہاں تک کہ ہو جاوے تو مضمحل یا ہو جاوے ہلاک ہونے والوں سے یعنی بنیامین کے جانے سے پھر یوسف کا غم تازہ ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قولہ **قَالَ لَآ اَتَمَّ اَشْكُوْا بَنِيَّ وَحُزْنِيَّ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ** کہا سو اس کے نہیں کہ شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی اللہ کی طرف اور میں جانتا ہوں خدا کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے

اپنے بیٹوں سے کہا کہ کیا تم مجھ کو صبر سکھاؤ گے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ بے صبر وہ ہے جو خلق کے آگے شکایت کرے مخلوق کی اور میں اسی خدا سے کہتا ہوں جس نے مجھے یہ درود دکھ دیا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ پر آزمائش ہے۔ دیکھو یہ آزمائش کہاں تک بس ہوتی ہے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے قید ہو جانے کی خبر سنی اس زور کی آہ ماری کہ آنکھیں اٹکیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکر فرمایا۔ اے یعقوب! اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور اور نہ روؤ گے تو تم کو راحت ملے گی ورنہ اور زیادہ پریشانی ہوگی اور یہ آہ و بکا عبت ہوگی یہ ارشاد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی اور کچھ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا یوسف اب مصر میں ملے گا پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں خدا کی طرف سے جس چیز کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور فرمایا تو نے تعالیٰ جِئِنِّي اِذْ هَبُّوْا فَاَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَ اٰخِيْنِهٖ وَ لَا تَاِيْسُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يَآيْسُنُ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّهٗ الْقَوِيْمُ الْكَفِيْمُ ۝۵۔ ترجمہ۔ اے بیٹو! جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی اور مت ناامید ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیشک ناامید نہیں اللہ کے فضل سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پانچ برس تک حضرت یوسف کے لیے روتے رہے اور ان فراق یوسف کے دنوں میں سوائے عبادت الہی اور ذکر یوسف کے اور کچھ نہ کرتے تھے یہاں تک کہ بھوک و پیاس کی حالت میں یہی ذکر رہا کرتا تھا ایک طرح سے یہ ذکر ان کی زندگی کی غذا بن گیا۔ اس لئے شب و روز یہی کام تھا اور کوئی دوسرا کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا یہ بھی فرط محنت اپنے بیٹے سے، ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آکر کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو مسلم کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اس سے زیادہ یوسف کے لئے گریہ و زاری کرو گے تو بھی مرضی الہی کے سوا تم کو کچھ نہ مل سکے گا اور نام بھی تمہارا پیغمبروں کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب نے حکم الہی پر دھیان کیا پھر ان گورب العزت نے اپنے حکم سے ملوادیا۔ اگر معترض یہ کہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو ناحق چور بنا کر کیوں پکڑا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بھی حضرت یوسف کو ناحق چور کہلوایا تھا۔ اس کی مکافات دنیا میں یوں ہوئی بمصداق اس آیت کے **قَوْلُ تَعَالَى قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ يَسْرِقُوْا فَنَقْدُ مَسْرُوْقٍ اَخْرَجَتْهُ مِنْ قَبْلِهٖ ۗ اِذَا اسْتَفْهَمَ** نے چرایا تو چوری کی اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے یعنی حضرت یوسف کی شان پر تہمت لگائی ان کے

بھائیوں نے پھر اگر کوئی کہے کہ بنیامین تو یوسف کا سکا بھائی تھا ایک بطن سے اس پر کیوں چوری
 کی بدنامی لکائی تھی اس سے تو ان کو کچھ بھی برائی نہ پہنچی تھی یہ سچ ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ بدنامی اس
 کی اس کے بھائیوں کے سبب سے تھی ظاہراً لیکن حقیقتاً وہ بالکل صاف تھے اس کے پیچھے معلوم ہوا
 وہ سب کے سب بے گناہ تھے پھر تو کسی کو بھی ایذا نہیں پہنچی الغرض پھر حضرت یعقوب علیہ السلام
 نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا اور بولے کہ اپنے بھائی بنیامین کو لے آؤ اور خدا کی رحمت سے
 مایوس مت ہو۔ کیونکہ اسی کی درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہتا وہ سب کو منہ مانگی مرادیں عطا فرماتا
 ہے اور جو اس چیز سے انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ یہ باتیں اپنے والد بزرگوار کی بیٹوں نے
 سنیں تو اپنے والد محترم سے عرض کی کہ ایک خط آپ ہم کو عزیز مصر یوسف کے نام پر لکھ دیجئے۔
 اور ہم یہ اچھی طرح سے معلوم کر چکے ہیں کہ عزیز مصر مرد معزز ہیں ممکن ہے آپ کے خط کو پڑھ کر بنیامین
 کو چھوڑ دیں تب ان لوگوں کے کہنے سے حضرت یعقوب نے ایک خط مندرجہ ذیل مضمون پر لکھا جو
 نہایت ہی جامع کلمات سے پر تھا تاکہ عزیز مصر یوسف اس خط کو دیکھتے ہی بنیامین کو اپنے
 قید خانے سے چھوڑ دے۔ خط یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 اَیُّهَا یَعْقُوْبُ اِسْرَآئِیْلُ نَبِیُّ اللّٰهِ اَبْنُ اِسْحٰقَ صَفِیِّ اللّٰهِ اَخِ اِسْمٰعِیْلُ ذَرِیْبُ
 اللّٰهِ اَبْنُ اِبْرَآهِیْمَ خَلِیْلُ اللّٰهِ اُكْتُبُ اِلَی عَزِیْزِیْنِ الْمَرْیٰیـنِ۔۔
 اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُمْ اَهْلُ الْبَيْتِ فَاِذَا رَعِیْتُمْ مُبْتَلَاً بِالْبَدَا اِمَّا جَبَّی
 اِبْرَآهِیْمَ اَبْتِی اللّٰهُ تَعَالٰی بِالتَّارِفَا نَجَاةً وَاَمَّا عِیْنِ اِسْمٰعِیْلُ فَاَبْتِی
 بِالذَّبِّحِ وَاَمَّا اَخَا فَاَنْ قَرَّةٌ عَلَیْنِیْ فِیْ جَمِیْعِ الْاَوْلَادِ اِبْتِلَا فِیْ نِیَّةِ مُفَادَرَةٍ
 حَتّٰی عَمِیْتُ وَكَانَ لَهَا اَخٌ وَهَوَّ الْمُحْبُوْسُ لِشَاْمَتِهِ عِنْدَكَ لَعَلَّه السَّرَقَةِ
 فَاَعْلَمَ اَخَالَا اَكُوْنُ لَهَا اَخٌ وَّلَا اِبْنِیْ اَنْ فَضَلْتُ بَدْرَیْهِ فَلَكَ الْاَجْرُ
 التَّوْبُ عِنْدَ یَوْ مِ الْاِحْسَابِ هَا اَنَا هِی لکھ کر اپنے بیٹوں کے لئے لکھا اور بیٹے اپنے
 باپ سے رخصت ہو کر ملک مصر جا پہنچے اور والد بزرگوار کے دست مبارک سے لکھا ہوا نامہ مبارک
 عزیز مصر یوسف کو دیا حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار کا نامہ مبارک بڑی تعظیم و تکریم سے
 پڑھا اور اس نامہ مبارک کو پڑھتے ہی زار و زار رونے لگے اور پھر فوراً ہی اس خط کا جواب لکھ کر
 اپنے محترم والد صاحب کو بھیجا جس کا مضمون یہ تھا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ
 كِتَابُكَ وَصَلَّتْ اِلَیَّ وَ شَرَّفْنَا مِیْمًا وَ صِفَتْ مِنْ مَّحْذُنِ اَبَائِكَ وَ تَبْلِغِ

يَهْدِي اِيَّكَ اَدُلُّكَ وَفَهَّمْنَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ يَا الصَّبْرَ الْحَبِيْلَ فَيَانَ مَنْ صَبَرَ
 صَفَرَ كَمَا صَبَرَ اَبَاؤُكَ فَظَفَرُ وَنَهَضَ يَهْطَلُ يَهْطَلُ يَهْطَلُ يَهْطَلُ يَهْطَلُ
 تو اس کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس خط میں تو مجھے یوسف کا اثر
 معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت جی یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا اس کے جواب
 میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میرے خط کا جواب لکھنا سوائے پینمبروں
 کے اور کسی کو ادراک و فہم ممکن نہیں پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خط کا
 جواب لکھ کر قاصد کے حوالے کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک خط بیٹوں کے پاس بھی لکھا کہ اے
 میرے بیٹو! تم عزیز مصر یوسف کے پاس جا کر عجز و انکساری سے اپنے بھائی بنیامین کو طلب
 کرو۔ شاید وہ مہربان ہو کر میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے اور ساتھ ہی اس کے گھروں سے
 ایک اونٹ کا بوجھ بھی دے کیونکہ یہاں پر قحط زوروں پر ہے اور لوگ بوجھ بھوک جاں بلب
 ہیں یہ خط جب پہنچا تو وہ فوراً اس خط کو لے کر حضرت یوسف کے پاس گیا اور ان کے پاس
 جا کر گریہ و زاری کرنے لگے اے عزیز مصر یوسف، ہم بیچارے غریب پر دسی اس ملک میں آئے
 ہیں تمہارے پاس اور باپ ہمارے بوڑھے گھر میں ہیں اور مارے لئے تو پتے ہیں اور جو کچھ
 مال ہم لوگ آپ کے پاس لائے وہ آپ ہم سے لے لیجئے اور بمقدار اس کے ہم کو اس کے عوض میں
 کچھ گندم دے دیجئے اور ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنا تصدق کر کے چھوڑ دیں اور ہم لوگ
 یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تم اہل ملک آپ کے قبضہ میں ہو رہے ہیں اور آپ کے واسطے ایک تیدی
 کو چھوڑنا کہی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہم کو امید ہے کہ آپ ضرور ہماری طرف تو ہر فرمائیں گے
 اور پھر کہنے لگے۔ قَالُوْا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَنَا أبا سَيْمُوْنَ أَخَذَ أَخَذًا
 مَكَاحَةً. إِنَّا نَرْمِكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۗ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ تَاَخَذَ اِلَّا مَنْ
 وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ اِلَّا اِذَا الظَّالِمُوْنَ ۗ فَلَمَّا سَتَا يُنْثَوِا مِنْهُ خَلَصُوْا
 نَحِيْبًا قَالِ كَيْتُوْهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اِنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْتًا
 مِنَ اللّٰهِ وَ مِنْ تَبَدُّلِ مَا نَرْتَضِيْكُمْ فِيْ بُرْسَفَ ۗ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى
 يَأْتِيَنِيْ اَبِيْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ بِيْ ۗ وَ هُوَ خَيْرٌ اَلْحٰكِمِيْنَ ۗ - اور کہنے لگے اے عزیز
 مصر یوسف اک کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا بڑی عمر والا سو اس کے بدلے میں ایک ہم میں
 سے رکھ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ آپ بہت احسان کرنا لے ہیں

یہ سن کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی اپنی چیز اگر ہم اس اصول کے خلاف کریں گے تو پھر ہم بے انصاف ہوتے یہ باتیں عزیز مصر یوسف کی سن کر جب وہ ناامید ہوئے پھر اکیلے بیٹھ کر مصیبت کو سوچنے لگے۔ لیکن کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور وہ سب ہر چند غور و فکر کرتے تھے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا کیا تم نہیں جانتے کہ چلتے وقت باپ نے تم سے کیا عہد لیا تھا اور وہ عہد بھی معمولی عہد نہیں ہے، کیونکہ اس عہد میں اللہ کو گواہ کیا گیا ہے اور پھر اسی سے پہلے حضرت یوسف کے بارے میں زبردست تصور کر چکے ہو اس حال کو بھی غور کرو آخر اس کا کیا جواب ہوگا اور میں یہ تو فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اسی جگہ سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک حکم نہ دے میرا باپ یا پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ چکانے والا حضرت یوسف نے اپنے بھائی یعنی بنیامین کو عمدہ لباس پہنا رکھا تھا اور ان کی خدمت میں لڑکھارکھے تھے اور ایک مکان ہنایت عالیشان بھی ان کی رہائش کے واسطے دیا تھا اور ہر روز اپنے ساتھ سیر کو لے جاتے تھے اور ہر وقت اور ہر لحظہ اپنے باپ کا ذکر ان سے کیا کرتے تھے اور بنیامین اپنے دل میں کہتے تھے کہ اس حال کی خبر جلد از جلد باپ کو کر دینا چاہیے تاکہ وہ جلد از جلد یہاں آجائیں کیونکہ یہ جگہ بہت آرام و سکون کی ہے ادھر بھائیوں نے بنیامین کو دیکھا لباس شاہانہ پہن کر تخت پر برابر یوسف کے بیٹھا کرتے ہیں یہ دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے کہ شاید یہ عزیز مصر نہیں ہے بلکہ یہ یوسف ہیں ورنہ اسی شفقت سے اپنے برابر تخت پر بٹھانا سوائے حقیقی بھائی کے کون کسی کو بٹھاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم لوگوں کو مصیبت پڑے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو شفیق کریں گے حضرت یوسف نے جب ان لوگوں کا چہرہ متغیر دیکھا تو فرمایا کہ کم از کم تم یاد کرو ان کے بھائی یوسف پر تم لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا تھا۔ قوله تعالیٰ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ بِيَوْمِئِذٍ وَ اَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُوْنَ . ترجمہ کہا حضرت یوسف نے تم پر کیا کیا تھا یوسف سے اور اسی کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی وہ بولے قوله تعالیٰ قَالُوْا بَلَّغْنَاكَ لَدُنَّكَ لَا نَتَّيْبُ لِيُؤْسَفُ هٗ قَالَ اَنْتَا يُؤْسَفُ وَ هٰذَا اَخِيْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهَا مِنْ يَشَقِّ وَ يَصْبُوْنَ يَاۤ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِلُّحَ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ . ترجمہ کہا انہوں نے کیا سچ تو ہی یوسف ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہی یوسف ابن یعقوب ہوں۔ اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے بیشک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ اور وہ ہر پرہیزگاروں پر احسان کرتا ہے البتہ جو کوئی پرہیزگاری کرے اور پھر بھی صبر کرے پس تحقیق اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا اور احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جس پر

کچھ تکلیف پڑے اور وہ حدود شروع سے باہر نہ ہو اور نہ وہ ان مصائب کو دیکھ کر گھبرائے اور اس کو صبر شکر کے ساتھ برداشت کرے تو بالآخر اس کو اللہ رب العزت ضرور اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ حضرت یوسف سے جب ان کے بھائیوں نے یہ بات سنی تو یکبارگی ناچار ہو کر گریہ پڑے اور زار زار رونے لگے اور اپنی زبانوں سے کہنے لگے۔ قَوْلَهُ تَعَالَى قَاتِلُوا لِلّٰهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَاِنَّ كُنْتُمْ لَعٰلِطِيْنَ ۝ ترجمہ کہا انہوں نے تم ہے خدا کی کہ تحقیق پسند کیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمارے اور تحقیق تھے ہم البتہ خطا وار۔ یعنی تمہارا خواب سچ اور ہمارا حسد غلط اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا۔ اور اب ہم سب گنہگار ہیں اور اب ہم نے توبہ کی اپنے گناہوں سے اور اس کے بدلے میں جو کچھ بھی تم سزا مقرر کرو وہ سب جائز ہے اور اگر تم بنظر عفو معاف کرو تو یہ آپ کی بزرگی کے لائق ہے۔ اور اگر سزا دو تو وہ ہمارے تقصیروں کے لائق ہے حضرت نے یہ عاجزاً کلام جب اپنے بھائیوں نے سنا تو فرمانے لگے قَوْلَهُ تَعَالَى قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْاِثْمَ يَعْظُمُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَذْحَمُّ السَّرَاحِمِيْنَ ۝۔ ترجمہ! کہا یوسف نے کہ کچھ بھی لازم نہیں تم پر آج اور اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیرات کو بخشے اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کوئی آدمی گناہ اور تقصیر سے توبہ کرے اور معافی چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے معاف فرمادیتے ہیں۔ اسی اشارت پر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے بسبب توبہ و انکساری کے معاف کیا اور اگر ایسا یہاں نہ ہوتا تو حشر میں انصاف کے دن خدا کے پاس یہ معاملہ پیش ہوتا اور اللہ تعالیٰ انصاف کرتا تو اس کی پاداش میں نہ معلوم کیا خداوند قدوس سزا مقرر فرماتا اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام تقصیرات کو اپنے بھائیوں سے دب کر فرمایا الغرض حضرت یوسف نے اسی وقت اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم سب کو میں نے خطا و ماضی سے معاف کیا اور اب تم لوگ کچھ غم نہ کرو۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تم پر رحم کرے اور میں نے تمہاری ساری تقصیر میں معاف کیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب تم کو لازم ہے کہ ہماری ملاقات جلد ہمارے باپ سے کرو اور تب تو تمہارا اچھا کام ہے جہاں یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرے باپ کی آنکھیں کس طرح جاتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا پیرا میں آنکھوں پر رکھ کر شب و روز روتے روتے اندھے ہو گئے۔ تب حضرت یوسف نے کہا کہ اچھا اب یہ میرا دوسرا پیرا میں لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ نیا ہو جائیں گے، ان کا علاج یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِذْ هَبُوا بَصِيصًا هُنَا لَمَّا لَقَوْهُ عَطَا وَاَجْرًا لِيَّ يٰٓاَبَتِ

جِئِیۡرًا ۙ اَتُوۡنٰی بِمَا هَلٰکَکُمْ اَجْمَعِیۡنَ ۝۵۔ ترجمہ۔ حضرت یوسف بولے لے جاؤ یہ گمراہ
 میرا اور میرے باپ کے منہ پر ڈالو اللہ وہ اپنی نظر کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلے آویں گے
 اور یہ بھی کرو کہ سارا گھر میرے پاس لے آؤ یہ بات کہہ کر منہ اپنے بھائیوں کے کھانا کھایا اور پھر
 ان سب کو اچھی اچھی پوشائیں پہنائیں جو نہایت قیمتی تھیں اور پھر ان سے کہنے لگے کہ تم میں کوئی
 ایسا بھی ہے کہ جو میرے باپ کو جلد اس امر کی خبر پہنچا دے تاکہ جلد ان کو میری طرف سے تسلی خاطر
 ہو۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام ناز تھا۔ ہر روز اس کو تقریباً ڈیڑھ سو سو کوس چلنے کی عادت تھی
 اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ اور میرے باپ کو یہاں آنے کا فرودہ دو۔ اور ایک
 پیرا بن کو جس کی برکت سے حضرت خلیل اللہ نے آگ سے نجات پائی تھی اور آگ گلزار ہو گئی
 تھی وہ پیرا بن حضرت یوسف کے بازو میں تھا۔ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں
 ڈالا تھا تو اسی پیرا بن کو کھول کر آپ نے یہود کے ہاتھ میں دیا۔ اور پھر بولے کہ یہ باپ کے منہ پر
 لے کر ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے باپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور
 وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے آویں گے میرے پاس اور یہ بھی تاکید کی کہ جب تم مصر کے دروازے
 سے باہر ہو جاؤ تو اس پیرا بن کو کنعان کی طرف، ہوا کے رخ پر رکھنا تاکہ جو میرے پیرا بن کی
 جلد میرے باپ کو پہنچے، اسی تاکید کے مطابق یہود نے مصر کے دروازے کے باہر جا کر اس
 پیرا بن کو ہوا کے رخ پر رکھا اور باد صبا نے بوئے پیرا بن یوسف کی فوراً حضرت یعقوب علیہ
 السلام کو پہنچائی اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اپنی اولاد کو جو ان کے پاس
 اسی وقت حاضر تھی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے پاس بیٹھے تھے تو ان سے کہنے لگے
 اے بیٹو! اب تو یوسف کے پیرا بن کی بو پاتا ہوں تم مجھ کو دیوانہ مت کہنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 نے ارشاد فرمایا ۙ لَمَّا فَصَلَتِ الْعَبْرَةُ قَالَ اَبُو هٰمُرٍ اِنِّیْ لَا اَجِدُ رِیْحَ یُوسُفَ
 نُوْلًا اَنْ تَفْتِنُوۡنِیْ ۝۵ ترجمہ۔ اور جب جدا ہوا قافلہ مصر سے کہا ان کے باپ سے میں
 پاتا ہوں یوسف کی کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لایا ۙ اِنِّیْ لَا اَجِدُ رِیْحَ یُوسُفَ
 ترجمہ۔ لوگ کہنے لگے تم خدا کی تحقیق تو البتہ بیچ و ہم و گمان اپنے قدیم کے ہے اسی بات کو کہے
 ہوئے کچھ ہی ساعت گذری کہ رات پیک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر حضرت یوسف
 کی طرف سے بشارت دی یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جلدی سننے اٹھ کر اس کو گود میں
 لے لیا اور پھر بہت ہی مشتاق ہو کر اس سے پوچھنے لگے یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرا یوسف اس وقت

کہاں ہے وہ بولا کہ یوسف کو ہم نے مصر میں پایا ہے اور وہ ملک مصر کے بادشاہ ہیں۔ بنیامین اور جو دوسرے بھائی وہاں موجود ہیں وہ سب اچھی طرح آرام سے ہیں اور میرے پیچھے ہو دیا بھی آ رہے ہیں۔ اور وہ اپنے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیا ہوا ایک کرتا لے کر آ رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے چلتے وقت یہ تاکید فرمائی تھی کہ یہ کرتہ میرے باپ کے منہ پر ڈال دیجئے گا۔ اللہ کے حکم سے وہ مینا ہو جائیں گے، لہذا وہ کرتہ لاکر آپ کے منہ پر ڈالیں گے تاکہ آپ کی مینائی ٹھیک ہو جائے اور ایک بات کی اور بھی تاکید کی تھی کہ سب اہل بیت کو یہ ہال لے آؤ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بہت اچھا اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا یوسف اس وقت کس کے دین پر ہے اپنے باپ دادوں کے دین پر ہے یا نہیں اس میں مجھ کو اندیشہ ہے اس نے کہا کہ ابھی تک وہ اپنے باپ دادوں کے دین پر قائم ہے یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور شکر خدا بجالائے اور تمام کنعان کے لوگ خوش ہوئے اتنی دیر میں یہود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آتے ہی یہود نے وہ پیرا بن جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اس پیرا بن کے ڈالتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ ہر چیز کو دیکھنے لگے۔ پھر اس پر یہ کہنے لگے اپنے بیٹوں سے کہ کیا ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے یوسف کے پیرا بن کی بوا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ آتَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ حَافِظًا ۗ قَالَ آتَيْنَاهُمْ إِيَّاهُ أَنْ نَلْفُ بِرَبِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ترجمہ پس آیا خوشخبری لانے والا تو اس نے ڈال دیا اس کرتے کو اور پر منہ اس کے پس ہو گئے وہ مینا پھر بولے کہ میں نے یہ نہ کہا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت یوسف کے پیرا بن کی بوا، مصر سے حضرت یعقوب کو پہنچی تھی اور کسی دوسرے کو نہیں پہنچ رہی تھی اس کی بوا کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو عاشق اپنے مستحق کا ہو تو ضروری ہے کہ بوجوب کی اسی کو آئے گی اور کسی دوسرے کو کیوں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے مومنو! تمام عالم مخلوقات میں میں نے کوئی ایسا نہیں پیدا کیا کہ اس کی رنگ و بو میری نہ ہو اسی طرح سے جو تکہ حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اس لئے ان کو اپنے بیٹے کی بولہبی مسافت سے بھی آ رہی تھی اسی طرح سے بندہ مومن خدا کا دوست ہوتا ہے۔ اس کو بھی موت کے وقت راحت اور اپنی خدا دوستی کی بوا آتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ موت کے وقت جو مومن حالت نزاع میں ہو گا خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ میرا دوست ہے چنانچہ اس وقت اس کو اس دوستی کی بوا آتی ہے۔ جب جان اس کی نکلنے کی ہو گی تو خدا کی طرف سے بشارت دی جائے گی کہ اے روح خوشی سے

نکل جاتا فرشتے بھی اس سے کہیں گے اے مومنو! تم کو بسبب عیصال کے اور غفلت کے راہ امر و نہی خدا کی نہیں سوچی تھی۔ اب جاتے وقت تکلیف کھینچتے ہو اور روتے ہو۔ اس لئے پیرا بنی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیجا تاکہ آنکھوں میں تمہارے روشنی آجائے اور اپنی جگہ بہشت میں پاؤ۔ الغرض حضرت یوسف نے بعد رخصت کرنے زائر پیک کے اور بھی تین بھائیوں کی تدبیر میں رہے ان کو اچھے اچھے عمدہ کپڑے پہن کر اور ہر بھائی کو علیحدہ علیحدہ دے کر اور اہل کنعان کے لئے ایک ہزار اونٹ معہ بوجھ گندم کے اور اقسام اقسام کے کھانے کی چیزیں اور اچھے اچھے کھوڑے بطور ہدیہ باپ کے پاس بھیجا تاکہ تمام اہل کنعان کو حصہ پہنچے اور تمام اہل کنعان میرے باپ کے حق میں دعا کریں۔ یہ چیزیں کئی دن کے بعد شہر کنعان پہنچ گئیں پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تمام اپنے اہل بیت کو لے کر مصر کے قریب پہنچے۔ اس خبر کو سن کر بادشاہ ریان بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اولٹے شکر تم کو واجب ہے اپنے ماں باپ سے اور تمام اہل بیت سے تمہاری ملاقات ہوئی اور جتنا مال پہلے سب کے واسطے تم نے اپنے والد بزرگوار کے پاس بھیجا تھا ہم اس سے بہت ہی خوش ہوئے۔ اور بھی اتنا ہی مال خزانے سے لے کر اداے شکر میں فقیروں و محتاجوں کو خیرات کر دو اور پھر ملک یان نے بھی ہدیہ خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے بھیجا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مصر کو رہائے رومی سے آتے کریں اور مکانات نئے نئے جداگانہ تیار ہوویں۔ پس حضرت یوسف مع اپنے لشکر بادشاہت کے مصر سے نکل کر دو منزل آگے باپ کے استقبال کو آئے اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جب کسی سے راستے میں ملاقات ہوتی تو اس سے پہلے ہی بات دریافت کرتے کہ بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے کیا تم لوگوں میں ہے یا نہیں وہ لوگ اس کے جواب میں کہتے کہ وہ ہم لوگوں میں کیسے ہو سکتے ہیں لوگ تو ان کے غلام ہیں، چنانچہ اسی راستے میں تقریباً اسی سواڑ اونٹ پر گزرے ان سب سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال دریافت کیا اس کے بعد حضرت یوسف بذات خود نہایت باحتمت و دبدبہ لشکر لے ساتھ آہ پہنچا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس فخر کی عماری پر تشریف لائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خاص اپنے والد شرم کے واسطے بھیجا تھا۔ چنانچہ راستے ہی میں باپ بیٹے، ملاقات ہو گئی اور بعض تغیروں میں لکھا ہے کہ ملک ریان نے حضرت یوسف سے کہہ دیا تھا کہ جب اپنے والد بزرگوار سے ملاقات ہوئی تو تم اپنے کھوڑے سے نیچے نہ اترنا اگرچہ اپنے باپ کی تعظیم واجب ہے لیکن بادشاہوں کا پاپیادہ ہونا سب نہیں تب حضرت یوسف یہ بات سنی کہ یہ تجوز عمل میں لائے کہ بادشاہ ریان کے

حکم کی بھی تعمیل ہو جائے اور اپنے والد محترم بزرگوار کی تعظیم بھی بجا لاؤں تو وہ ایک مہم میں نماز پڑھنے کے لیے
 جاؤں اور اس کے بعد وہ فوراً شاہدے میں گئے غیب سے ایک ندا آئی کہ اے یوسف جو جس کا محبوب
 جانی ہوتا ہے تو اس کی ماں جیسی محبت ہوتی ہے یہ آواز سنتے ہی حضرت یوسف نے جانا کہ یہ ہدایت
 منجانب اللہ ہے اور حضرت یعقوب حضرت یوسف کو دیکھتے ہی اپنی سواری سے اتر پڑے اور محبت
 و تعظیم سے یوسف کو اپنی عماری پر اٹھایا اور پھر دونوں مل کر بہت روئے اور یہ حال دیکھ کر تمام اہل لشکر
 بھی رو دیا ان کے رونے سے سب بھائی اور تمام لشکر یا پیادہ مصر میں آئے بعد اس کے نزدیک
 تیار کئے خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب لشکر یوسف کیساتھ آئے اور ان میں نشان جتنے تھے وہ
 سب ہلست ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا سر سب سے بند ہوا یہ دیکھ کر سب بہت حیران و
 متعجب ہوئے اور اسی اثنا میں دیکھا گیا کہ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام ہنستے تھے اور حضرت یوسف
 یوسف علیہ السلام روتے تھے اور کبھی حضرت یوسف علیہ السلام ہنستے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام
 روتے تھے۔ اس میں ایک اشارہ ہے جو درحقیقت عاشقانہ کہلاتا ہے یعنی کبھی عاشق روتے ہیں
 تو معشوق ہنستے نظر آتے ہیں اور کبھی معشوق روتے ہیں تو عاشق ہنستے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
 حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام اہل بیت کو لے کر اس قصر معلیٰ میں جا کر رہے۔ جو کہ خاص
 حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے بنایا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو لے
 کر شاہی تخت پر بٹھادیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ **وَدَفَعْنَا جَبَّيْنًا فِى الْخُرُوبِ
 وَخَرَدْنَا لَهُ سُجُودًا ۝** اور بلندی پر تخت شاہی کے اپنے ماں باپ کو بٹھایا اور پھر سب کے
 سب بھائی اس کے آگے سجدہ تعظیم میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی اس وقت شریعت میں جائز تھا اب منع کر
 دیا گیا۔ پھر سجدے سے اٹھ کر حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا تو لہ تعالیٰ **دَقَالَ يَا بَتِ لَهٰذَا
 قَتَا وَبِئْسَ رُؤْيَا مِىْ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتُمْ بَاتِنِىْ حَقًّا ۝** **وَقَدْ اَحْسَنَ لِيْ اِذْ اَخْرَجْتَنِ
 مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْنِ وَ مِنْ بَعْدِ اَنْ تَرَعَمَ الشَّيْطَانُ بَيْنِيْ
 وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۝** **اِنَّ دَبِّيْ لَطَيْفٌ لِّمَآئِسَا ۝** **اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝**
 ترجمہ! اور کہا یوسف نے اے میرے باپ یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا اک کو میرے
 رب نے سچ کیا اور اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا۔ اور پھر تم سب کو
 میرے پاس لے آیا۔ بعد اس چیز کے کہ جھگڑا اٹھایا مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیطان مردود
 نے اور میرا رب ہر کام کو بذریعہ تدبیر کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے بیشک وہی ہے خرد دار حکمت

والا۔ اگلے زمانے میں سجدہ کرنا بڑوں کی تعظیم سمجھی جاتی تھی اور فرشتوں نے بھی حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا اور اس شریعت محمدیہ میں وہ رواج بالکل موقوف کر دیا بلکہ سجدہ کرنا کسی مخلوق کو حرام کر دیا اور حکم دے دیا کہ **وَ اَنْ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ** ترجمہ تحقیق مساجد اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں جن میں سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور سوائے اس کے کسی کو روا نہیں ہے۔ چونکہ کچھ احکام خداوندی پہلے کی شریعتوں میں جاری کے لئے تھے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہنوں سے نکاح جائز تھا پھر وہ موقوف کر دیا گیا اسی طرح سے یہ سجدہ تعظیمی کا حکم پہلے تھا مگر شریعت محمدیہ میں ہمیشہ کے لئے موقوف کر دیا پس حضرت یوسف نے کہا کہ اے میرے ابا جان! یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ آفتاب اور مہتاب اور گیارہ ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے وہی خواب میرے پیچ کر دیا۔ بعد اس کے دوسرے دن تمام اہل مصر نے اپنے اپنے ہدیے و نذرانے سفر سے یعقوب علیہ السلام کو پیش کئے بعد حقیقت حساب و گنتی سے باہر ہیں اور وہ سب مال حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دے ڈالا اور پھر ملک ریان بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے آیا۔ خدا کے فضل و کرم سے ان کی صحبت کی برکت سے وہ دین اسلام سے مشرف ہوا پھر اس کے کئی لوگ آئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے جاتا اچھنبھے کا ایک نوران کی پیشانی پر چمکتا ہوا دیکھتا اور وہ نہایت ہی متعجب ہوتا اور پھر وہ دین اسلام قبول کر لیتا۔ اس کے بعد ملک ریان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا اے حضرت کیا یوسف آپ ہی کے صاحبزادے ہیں بولے جی ہاں وہ میرے بیٹے ہیں تب بادشاہ ریان نے کہا کہ میں ان سے بہت خوش ہوں اور میں نے ہی اس خوشی میں اپنی سلطنت کا کل اختیار ان کو دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ملک ریان یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہی کوکل جہان کو اختیار ہے وہ جو چاہتا ہے کر لے گا۔ روایوں نے روایت کی ہے کہ اس وقت بادشاہ نے کئی سات چکیاں رنگین طلائی تختیں اور ہر ایک چکی وزن میں پانچ ہزار من کی تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں ایک چکی کی ٹھوکری لگی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کراہی چکی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اور یہ طاقت حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے سبب حاصل تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو مختصر کر دوں تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو اور میرے واسطے دعائے خیر کرتے رہیں۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دریا ئے نیل کے کنارے پر اپنے رہنے کے واسطے عمارت بنوائی اور پھر وہیں سکونت اختیار کر لی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے

حضرت یوسفؑ سے کہا کہ تم کو معلوم تھا کہ میں کنعان میں ہوں تو کیوں تم نے مجھ کو اپنے حال سے خبر نہ دی۔
 حضرت یوسفؑ نے اپنے باپ سے مؤذبانہ عرض کی کہ اباجان میں نے خطوط آپ کی خدمت میں لکھے اور
 وہ سب کے سب اب تک ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں اور کہا کہ جب میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے
 کا ارادہ کرتا تو اسی وقت جبرائیل آتے اور مجھ کو بھیجنے سے منع فرما دیتے اور مجھ سے یہ فرماتے کہ
 اے یوسف خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا اور ابھی کچھ عرصہ باقی ہے
 اب تم اس وقت یہ خط اپنے والد بزرگوار کو مت بھیجو یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ ہر چیز
 پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت
 یوسف سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی ہے، یہ سن کر حضرت
 یوسف خاموش رہے اور کچھ نہ کہا۔ لیکن تمام بھائیوں نے خود ہی اہم کہا کہ اے اباجان ہم سب ان کے
 بدخواہ تھے اور ہم ہی گنہگار ہیں اور اب ہم سب معافی چاہتے ہیں آپ سے اور امید تو ی کرتے ہیں کہ آپ
 ضرور ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائیں گے تو نے تعالیٰ کے قائلو ایماً بانا استغفر لانا ذُنُوبَنَا
 اِنَّا كُنَّا خٰطِیْئِیْنَ ؕ قَالَ سَدِّدْ اَسْتغْفِرْ لَكُمْ رَبِّیْ ۙ اِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْدُ الرَّحِیْمُ
 ترجمہ۔ کہا انہوں نے اے میرے باپ بخشو! ہمارے گناہوں کو بیشک ہم تھے خطا کرنے والے،
 حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے ان سے کہا کہ اے بیٹو! غنقتریب بخشو! ان
 کا تمہارے گناہ اپنے رب سے کیوں کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے (سوال) اس میں کیا بات تھی
 جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے اپنی خطا کی معافی مانگی جو انہوں نے حضرت
 یوسف کے بارے میں خلم کی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وعدہ میں دکھا اور
 کہا میں غنقتریب بخشو! گا۔ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ وعدہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے
 بیٹوں سے کیا تھا وہ علی الصبح کیا تھا کیونکہ صبح کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں مستجاب ہوتی ہے اور بعض
 مؤرخین حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرنے
 میں اس واسطے تاخیر کی تھی کہ حق تعالیٰ کسی کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس شخص
 کو راضی نہ کر لے جس کے حق میں غلطی اور گناہ کیا گیا چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ اور
 ظلم حضرت یوسف کے حق میں تھا اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت تک تاخیر کی جب
 تک آپ نے حضرت یوسف سے ان کے بھائیوں کی معافی کا تذکرہ نہ کیا جب حضرت یوسفؑ نے حضرت یوسفؑ سے
 حضرت یوسف سے پوچھا کہ تم اپنے بھائیوں سے راضی و خوشی ہو یا نہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے

والد بزرگوار سے عرض کیا کہ میں اپنے تمام بھائیوں سے راضی ہوں اور ان کی پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی فرمائشی دعا خداوند قدوس سے مانگی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے وہ قصور جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف کے حق میں کئے تھے معاف کر دیئے اس دعا کے چند ہی روز بعد حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد شعموں بنی ہوئے اور بعض معتبر روایتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً چوبیس برس تک نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے جب آپ کی عمر ستر برس کی ہوئی تو موت بالکل قریب آگئی تو اس وقت آپ نے دربار خداوندی میں دعا مانگی اور کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

ذٰلِكَ فَتَنَّا آتِيَتِيْهِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَكَتٰبَتْنٰى مِنْ تَآوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۗ فَاٰطٰرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ تَفٰۤا نْتَ وَ لِيْ فِي الْمَدِيْنَةِ وَالْاٰخِرَةِ حَافِظَتِيْ مُسْلِمًا وَّ اَكْحَفٰنِيْ بِالصَّٰلِحِيْنَ ۔ اے پروردگار میرے دی تو نے میرے تئیں کچھ بادشاہی اور سکھائی تو نے میرے تئیں تعبیر خوابوں کی اے پیدا کرنے والے آسمان زمین کے تو ہی ہے دوست یعنی کار ساز میرا دنیا و آخرت میں اور میں امید کرتا ہوں کہ میری موت بھی نیک نختوں میں ہو اور بعد مرنے کے میرے مجھے صالحین میں ملا دے ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا بھائی یوسف بادشاہ ہے اور وہ قیامت کے دن بادشاہ کے زمرے میں اٹھے گا اور وہ پسندیدگی کی نگاہ سے بیوں میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اس بات کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی سن لیا تھا تب ہی تو موت کے وقت خدا کی درگاہ میں دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار تو نے میرے تئیں بادشاہی دی دنیا میں اور موت دے مجھ کو ایمان کے ساتھ اور آخرت میں انبیاء صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اور ستر برس کی عمر میں رحلت فرمائی اور روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے تمام بھائی بنی ہوئے اور اسی طرح سے انتقال ہوتا رہا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بارہ نوموں پر مشتمل تھے قرآن شریف میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے ان نوموں کو اسباط فرمایا ہے اور اسباط کہتے ہیں بنی اسرائیل کو یعنی اولاد یعقوب کو اور دوسرے بنی اسرائیل کو قبائل کہتے ہیں تاکہ تمیز ہو سکے ان دونوں فریقوں میں یہاں تک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان پر اکتفا کرتا ہوں۔ اَوَّلُ اُمَّلٍ

اصحاب کہف کا قصہ

ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقتیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آکر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لئے میدان جنگ میں کود پڑا اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھاٹی کر کے آیا تھا آخر کار دقتیانوس بادشاہ کے ہاتھ مارا گیا اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے چھ بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ پانچ بیٹے تھے بادشاہ روم دقتیاں نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا مرن ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرور کا دیا تھا جب بادشاہ دقتیانوس جائے ضرور کو جاتا تو اس سے آبدست کروا لیتا اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فریبہ نہ ہوتا تھا کہ اس کا ہاتھ جائے مقعد پر نہیں پہنچتا تھا۔ برا عظیم البدن تھا۔ اور یہ بھی بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا پس اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَصْحَابَ الْكُهْفِ وَ السَّرْحِمْ كَانُوْا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا ۗ اِذْ اَوٰی الْيَتِيْمَ اِلَى الْكُهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۗ ترجمہ! کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غلام والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اچھبھا تھے جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں پھر لو لے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے ہر اور بنا ہمارے کام کو درست یہی شہزادے مذکور سب کچھ تہمیر اور حیلہ کرنے لگے کہ کیوں کر اس ظالم بد بخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں ایک روز دقتیاں اپنی جائے ضرور کو گیا تھا اور اس غلام کو جسے اس نے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا کہ اس کی مقعد کو دھلائے تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کو اس کے سب بھائیوں کو ایک ایک سو دسے مارے جائیں اور ان کو تائید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شاہزادہ کو جس کا عہدہ جائے ضرور کا تھا جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا، وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلح و مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے اپنے کو عہدہ کرتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے

باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جا دیں اور اپنے خالق ارض و سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے
مرنے کے بعد کام آوے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی سب بھائیوں نے اس
بات کو بے وسوسہ قبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے۔ جو تم کہتے ہو۔ اب کسی صورت و تدبیر سے
یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان میں چوگان کھیلنے
کو جانے کا اہتمام کو بھی لے جائے گا جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسی جیتی و چالاکی
سے چوگان کھیلنا چاہئے۔ یہ وہ خوش بوجھے اور تعریف کرنے لگے جب شام قریب ہو گی تب میں چوگان
میدان سے باہر بھیجا گیا۔ اس وقت تم لوگ بھی سارے بچھے میدان سے باہر نکل آنا اور سب ایک جگہ
جاگرمیلے اور پرانے پڑے بہن لینا اور پاؤں پاؤں چلے جانا اسی طرح سے کوئی ہم کو دیکھے گا بھی نہیں
اور ہم لوگ اپنے قاصد میں کامیاب ہو جائیں گے چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور عزم
یا لہجہ اپنے حصول مقصد میں لگ گئے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور
اپنے اپنے ہمدرد جاگھڑے ہوئے اور وہ ملعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعوے کرتا تھا انتم اللہ علیہ
اتفاقا اسی وقت ایک بلی بالا خانے پر سے اس کے پاس اپنا ہنگ آ کر سی اس کے گورن سے وہ ملعون
چونک پڑا اور بہت ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ ملعون نہ ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا۔
معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردود جھوٹا ہے اور دعوے اس کا باطل ہے اکی گھڑی ایک شیطان بصورت انسان
اس کے آگے آ کر کہنے لگا اے ملعون اگر تجھ کو دعوے خدائی کا ہے تو ادنیٰ ترین ایک ذی روح
جانور مکھی ہے اس کو تو پیدا کر تب ہم جانیں گے تیرا دعوے حق ہے اس مردود نے ایک بہانہ کر کے
کہا کہ ایسے بد جانور کو ہم پیدا نہیں کرتے شیطان بولا خدانے تو اس کو پیدا کیا ہے البتہ کچھ حکمت ہوگی
وہ ملعون بولا اس میں کیا حکمت ہوگی۔ اس کے جواب میں شیطان بولا خدانے اس کو پیدا کیا ہے۔
البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا اس میں کیا حکمت ہوگی۔ اس کے جواب میں شیطان بولا جب تو
جانے ضرور میں جا بیٹھتا ہے وہ مکھی تیری گندگی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں میں نجاست آلودہ کر کے
تیری داڑھی پر جا بیٹھتی ہے۔ یہ بھی ایک کار حکمت ہے یہ کہہ کر وہ شیطان غائب ہو گیا اور وہ
ملعون یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ پس دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا اور
ان شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پس جب وہ میدان میں پہنچ گئے تو چوگان کا کھیل کھیلنے لگے۔
دقیانوس ان شہزادوں کے کھیل سے بہت زیادہ محفوظ ہوا اور بلا صبح کو تم سب کو خلعت دے کر خوش
کرد گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہو ہی گیا۔ شہزادے اپنے مشورہ کے مطابق چوگان میدان

سے پھینکے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلے ہوئے دور تک نکل گئے۔ دقیانوس ان ڈگڑوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا اور وہ شہزادے سے سب فرصت کر لے کر پھر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے میدان کی طرف گھوڑا اٹھا کر رات ہی رات چلے گئے۔ صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے ان سے ملاقات ہوئی وہ سب کہنے لگے کہ اے عزیزو! تم یہاں جمانے ہو، انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ خالق ارض و سما کی طلب کو جلاتے ہیں اور نہ ہتے تھے اور وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو وہ بولے کہ وہ خدا نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے زمینان ہے وہ سب کا پروردگار ہے تمام کائنات کو ملک عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی خدا ہے پس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی اور ایک کتابھی ان کے ساتھ تھا وہ بھی ان کے ہمراہ آیا۔ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہت اچھا ہے ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونٹے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو آکر پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پٹھا اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے اور سارے بدن اس کا زخمی کر دیا تو بھی اس کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتابھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی سکھائی تو کتے نے کہا کہ اے یارو مجھے مت مارو۔ تم جس کے بندے ہو میں بھی اس کا فرمانبردار ہوں۔ اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو۔ میں بھی اس کو چاہتا ہوں لہذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ پس کتے سے یہ باتیں سن کر اصحاب کہف کو ترس آ گیا اور اے بیار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھوہ میں جا کھسے اور بولے یہاں فرادم لینا چاہیے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے اور وہ اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے تو لہ تعالیٰ۔

اِذَا دَرَى الْيَمِينِ اِلَى الْكُهْنِ فَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَنًا ۗ فَصْرَبْنَا عَلَى الْاِذَانِهِمْ فِي الْكُهْنِ سَتِينَ عَدَدًا ۗ شَقَّ بَعَثْتُهُمْ لِنَعْلَمَ اَفَى الْحِزْبَيْنِ اَحْصَىٰ بِمَا كَيْدُهُمْ ۗ اَمْ اَهُـۥ تَرَاهُمْ۔

جب جا بیٹھے وہ جوان اس کھوہ میں پھر وہ بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس مہر اور بنارے ہمارے کام۔ پس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر کانوں ان کے یعنی سلا دیا ہم نے ان کو تیج نذر کے پڑے۔

برس گنتی کے پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کریں ہم دو فرقوں میں سے کسی نے یاد رکھی ہے جتنی مدت
 وہ سوئے رہے تھے۔ "الغرض وقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شاہزادوں کو نہ پا کے بہت
 تاسف کیا اور فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑا یا لفس و جسس کرتے ہوئے
 اسی کھوہ کے چا پینچے اور خدا کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چیز میوں کے سوراخ جیسا بن گیا اور
 وہ سوار اس پر بڑا تلاش کرتے رہے لیکن وہ ان کا ناؤ نشان تک نہ پاسکے آخر مجبوراً واپس چلے آئے
 اور بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ اس کھوہ کے کنارہ پر ان سب کو مردہ پایا تھا تو وہ لوگ اسی کھوہ
 میں ڈال کر چلے آئے تھے اور اسی دن سے ان سب کا ناؤ لقب اصحاب کہف ہوا اور بعضوں نے
 اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے اور بعض ان میں نابنائی کے
 بیٹے۔ اور بادشاہ وقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک
 دن اس لڑکے کی اٹنائے راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی راہب نے اس لڑکے سے پوچھا تم کہاں
 جاتے ہو وہ بولا میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا شیادو دیکھنا تو کفر ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا
 تب وہ راہب کے کہنے سے اور خدا کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا بادشاہ
 وقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ روایت میں ہے کہ اس
 لڑکے پانچ مرتبہ سولی پر چڑھایا تو بھی نہ مرا اور اللہ کے فضل و کرم سلامت رہا اور کہا۔ ۱۰ نَسْتُ مَرِيَّتِ
 الْعَالَمِيْنَ۔ آخر اس کو بادشاہ وقیانوس نے قید شدید میں رکھے۔ اس کے ہم جنس اور پانچ چھ لڑکے
 وقیانوس کے ملازم تھے انہوں نے باہم صلاح و مشورہ کر کے کسی حیلہ سے اس کو قید سے چھڑا لیا
 اور اسی کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضہ سے اس شہر سے باہر خدا کی عبادت کو نکلے
 اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر ایک کھوہ میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے اور ان پر خدا
 کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً تین سو برس تک سوتے رہے۔ تین سو نو برس۔ اور اصحاب
 کہف کے نام میں اور ان کے اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے اور ان
 کا غار بھی ارض روم میں ہے۔ اور بعضے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دین میں تھے۔ اور قاموس میں لکھتے
 اور ابن قتیبہ نے روایت کی ہے کہ اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ فقط وہ
 لوگ صرف تو خدیر پر قائم تھے اور وہ کسی بنی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے مگر جس نے
 اس کی خبر پائی معتقد ہوئے اور ان کے پاس مکان زیارت بنا دیا۔ وہ نصاریٰ تھے۔ اور نا ان
 کے یہ ہیں۔ مکسینا۔ وایلیا۔ دیکر۔ مرکوش۔ نواس۔ سانیوش۔ سلططوس۔ اور بعضوں نے کہا

ہے۔ مکینا۔ ملیخا۔ ویکسر۔ مرطوس۔ مینوس۔ سابوس۔ کسٹطوس۔ ذونواس اور بعضوں نے کہا ہے مکینا۔ ملیخا۔ مرطوس مینوس۔ دواس۔ سفیطط۔ اور بعضوں کے نزدیک یہ نام ہیں مکینا ایٹخا۔ مرطوس۔ سارنوس۔ بطنوس کسٹطوط۔ ذواس اور آٹھواں ان کا کتاب ہے کہ کتنے کا نام قلم تھا تا موس میں بھی لکھا ہے لیکن شمار ان کا سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے۔ اسی واسطے ان کے اعداد و شمار میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بمصدق آیت مذکورہ کے قول تعالیٰ۔ سَيَقُولُونَ ثَمًّا ذَرْنَاهُمْ كَلْبُهُمْ كَلْبُهُمْ وَدَيُّ قَوْمٍ خَمْسَةَ سَلْسَلَةٍ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَدَيُّ قَوْمٍ سَبْعَةَ وَفَا مَنَّهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ دَرَيْتِي أَعَلَّمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۝۔ ترجمہ البتہ کہیں گے وہ میں ہیں چوتھا ان کا کتاب ہے اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں چھٹا ان کا کتاب۔ بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں چھٹا ان کا کتاب۔ بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتاب ہے تو کہہ کر پروردگار میرا خواب جانتا ہے کہ کتنے آدمی ان کے پاس ہیں کچھ صحیح خبر ان کی نہیں رکھتے مگر کھوٹے لوگ۔ جب وہ لوگ تین سو نو برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۝۔ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ بَقِيَْتُمْ فَاَبْعَثْنَاَ اَحَدًا كُمْ بِوَرِيْقِكُمْ هٰذَا لِاِطِ الْمَسِيْنَةِ فَاَلْيَسْتَنْظَرُ اِيْهَا اَذْ كٰى طَعَامًا فَلْيَا تِكُمْ بِوَرِيْقٍ مِنْهَا وَفَاَلْيَسْتَلْطَفْ وَ لَا يُشْعَوْنَ بِكُمْ اَحَدًا ترجمہ۔ اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے۔ ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے تم وہ بولے کہ ہم سوتے رہے ایک دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس غار میں رہے۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جا دے اور وہاں سے کوئی کھانا پاکیزہ لے کر آوے اور نہایت ہوشیاری سے جائے اور اپنا بھید بھٹی کسی کو نہ بتائے اور نہ اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے۔ چونکہ وہ تقریباً تین سو برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا ان میں سے ملیخا کو شہر میں روٹی لانے کو نانبائی کی دکان پر بھیجا اور اس کے پاس دینار و قیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے ملیخا سے پوچھا کہ میرا یہ رہنما کہاں سے لائے ہو کیا تم نے کوئی کڑا ہوا دینہ پایا ہے کیونکہ میں اسی دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں اور اس بادشاہ

کو تڑتڑوں ہوئے گزرے ہوئے اور وہ تو کبھی کاٹر چکا ہے اور اس کا ٹوکڑی نام و نشان بھی نہیں، اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دو۔ ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ سارا پھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر میلینا نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر مجتمع ہو گئے اور میلینا کا قصہ سننے لگے یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا اس نے میلینا کو اپنے حضور میں طلب کر لیا اور میلینا سے اس سے گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی، بادشاہ کے پوچھنے پر میلینا نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں۔ اور بادشاہ وقتیا نوس کے ظلم سے بھاگ کر نفلانے پہاڑ کی کھوہ میں جا رہے ہیں اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بیٹاب ہوئے اور برواقت نہ کر سکے اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر تیس اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور علماء تو اسے سمجھ جانے والوں کو بلوایا اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ بتا سکتے ہو کہ بلاشاہ وقتیا نوس کون سے زمانے میں گزرا ہے۔ ان علماء تو اسے سمجھنے سے تعلق ہو کر بلاشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ جو پاتیں میلینا نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تو اپنے عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ وقتیا نوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزرا ہے۔ اسی یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا یہ حقیقت سن کر میلینا کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر ان غار سپر جا پہنچا۔ میلینا نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ جا کر چھپ جائیں گے اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں اور یہ بھی ان سے جا کہہ دوں کہ بادشاہ وقتیا نوس دنیا سے رحمت ہو چکا ہے تاکہ ان کو خاطر جمع ہو جائے۔ اور ان سے کہہ دوں کہ مسلمان بادشاہ ہے آڈ شہر میں چلیں۔ یہ بات کہہ کر میلینا اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لوگوں سے جا کر بیان کیا وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں ہم کو تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ لوگ سو گئے۔ لیکن راديوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح بناواست تک سو رہے ہیں گے۔ میلینا پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا۔ اور پھر بادشاہ نے اس کھوہ میں جانے کا ارادہ کیا۔ کہہ رہے اس غار میں جانے سے باز رہے۔

رہا اور اب اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آگئے اور اس پہاڑ کے کنارے بتوں میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ اصحاب کہف کے لئے حتیٰ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کئے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو بہ پہلو سلاتے ہیں اور گرد میں دلاتے رہتے ہیں اور بہشت کے پتھروں سے ہوا کرتے ہیں اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِذَا طَلَعَتِ تَرْاٰرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْاَيْمٰنِ اِذَا ذَاكَ رُبَّتْ تَقْوٰهُمْ ذَاتَ الْاَيْمٰنِ اِلٰل وَهٰمْ فِيْ فُجُوٰةٍ مِّنْهُ هٰذَا ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝۱۰۱ اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے پتھر کے جاتی ہے ان کے کھوہ سے رہنے کو اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں کو تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اگرچہ اس کے قریب ہی رفیق کیوں نہ ہوں اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگتے ہیں اور حتیٰ تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو متاثر نہ بناسکیں اور وہ اس سبب سے بے آرام ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کتابھی لگ گیا تھا وہ بھی ان ہی کے ساتھ ہے۔ مردی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی زمانے سے اصحاب کہف غار میں جاگھے ہیں اور بھنے کہتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی غار میں گھے تھے اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ دین و مذہب ان کا بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام

حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صلح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے کہ وہ فصیح اللسان اور فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے اور وہ اہل مدین اور اصحاب ایکہ کی طرف مبعوث کئے گئے تھے اور حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب ایکہ ایکہ ہی گمراہ کے دو نام ہیں اور یہ لوگ باوجود بت پرستی کے ناپ رسول میں

بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے اور مسافروں کا راستہ بھی منقطع کیا کرتے تھے اسی قوم کی طرف حضرت
 شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو خداوند قدوس نے قادر الکلامی سے سرفراز کیا تھا اس لئے آپ
 اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت الی الحق دیتے تھے۔ اور شہر مدین آپ کا وطن تھا جیسا کہ اللہ
 رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ **وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا
 اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا لِمِثَالِكُم ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
 وَأُتُوا بِالْحَقِّ فَرِحُوا بِالْحَقِّ وَأَنبَغُوا ۗ لَمْ يَلْمِزُوا أَحَدًا وَلَا كَانُوا فِي أَعْيُنِهِمْ
 أَنذَارًا ۗ** (سورہ شعیب ۱-۵)۔ ترجمہ -
 اور شہر مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو وہ جا کر لو لے اسے قوم بندگی کرو
 اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی نہیں تمہارا خدا کے سوا اور نہ گھنڈا ناپ اور تول میں اور تم کو اس سبب سے آسودہ
 دیکھتا ہوں۔ لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آدے گا تو تم کو اپنے گھیرے میں
 لے لیکار کوئی بھی اس گھیرے سے نکل بھی نہیں سکتا، اور لے قوم پورا کرو تم اپنے ناپ و تول
 کو انصاف کے ساتھ اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزوں اور نہ مچاؤں اس کے سبب سے فساد
 زمین پر۔ یہ شکر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا اسے شعیب تم کو معلوم ہونا چاہیے
 کہ مال ہمارا ہے خواہ ہم اس کو زیادہ میں بچیں خواہ اس کو گھنٹا کر فروخت کریں اور تم کو ہمارے وزن
 اور ناپ تول سے کیا کلام ہے اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں آپ کو ہماری
 تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے آپ تو اسی کام کو کہے جاؤ جس کا ان لوگوں
 کو دعوت دیتے ہو اور ہم لوگوں کی تجارت کی طرف تو خیال بھی نہ کرو اس سے ہمارے کام میں کاؤ
 پڑے گی پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم خدا کی بندگی کرو اور تم بندگی نہ کرو گے
 اور اپنے وزن ناپ تول اور میزان کے درست نہ رکھو گے تو یقیناً تم کو عذاب خداوندی پہنچے گا جیسا
 کہ عذاب پہنچا قوم نوحؑ پر اور قوم ہود اور قوم صالحؑ پر اور قوم لوطؑ پر۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ
 نے۔ **وَيَقُولُ لَا يُجْرِمَكُمُ شِقَاقِي ۚ إِنَّ يَصِيبِكُمْ مِثْلَ مَا آصَابَ قَوْمَ
 نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۗ وَ
 اسْتَغْفِرُوا ۚ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ تَوَّابٌ ۗ** (سورہ شعیب ۱۱-۱۵)۔ ترجمہ -
 اے میری قوم نہ برا گنہگار سے تم کو میری مخالفت کی ضد میں خدا کی نافرمانی کرتے رہو
 جیسا کہ ضد میں سے نافرمانی کرتی رہی قوم نوحؑ اور قوم ہودؑ اور قوم صالحؑ

اور قوم لوط قوم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع ہو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ بیشک میرا رب بہت مہربان سے محبت والا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام کا سن کر ان کی قوم نے جواب میں کہا قولہ تَالَيْ قَائِلُ يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِتْنًا ضَعِيفًا وَلَا رَهْطًا كَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝۵ اے شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں میں کمزور ہے اور نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو مجھ کو ہم لوگ سنگسار کر دیتے۔ اور یہ بھی نہیں ہے تو ہم پر کوئی نہ وار ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے قوم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو اور میں جس چیز کو حکم دوں اس کو بھی مانو اور ہر امر میں میرا کہنا مانو۔ ہر چند اور ہر وقت حضرت شعیب اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے لیکن قوم برابر انکار ہی کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر مصر رہی تو بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بددعا کی اس بددعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے شعیب قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے گا۔ لہذا تم ہوشیار رہو۔ اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ اور اب اس قوم سے دور رہو اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے وہ سب ملا کر ایک ہزار سات سو آدمی تھے ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے اے شعیب تم پر کیا مصیبت آپڑی ہے کہاں جاتے ہو یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہر والو میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے اب بعد ا کے حق تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیئے۔ تقریباً تین کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آکر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہو گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں مورتے تھے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے

اور خدا کے حکم سے ایک ایسی بیخ باری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں غیب سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر تم اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لاجھی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مرد و جل جہنم کو خاک ہو گئے ہیں، پھر شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آجانے سے شہر مدین آباد ہوا اور وہاں کے اشجار و درخت از سر نو پھر تروتازہ ہوئے اور خوب پھول و پھل پھلنے لگے، اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہ برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بددعا سے بہت افسوس کرنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب سے کہا اے شعیب تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو۔ اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لئے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو اور اگر تم دنیا کے لئے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دی جائے گی کیونکہ خداوند قدوس اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام میں کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی تو دانا و بینا ہے شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے ندا آئی اے جبرائیل تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا الغرض حضرت شعیب علیہ السلام بارہ برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپہنچا اور اس کی شرع بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کر دی گئی اور یہ بھی ایک روایت ہے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف چار برس اور چار مہینے زندہ رہے اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آٹھ برس تک جئے پھراس کے بعد انتقال فرمایا۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بیان کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

حضرت یونس علیہ السلام

حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے انہیں
 شہر نینوا میں جس کو آج کل دمشق کہتے ہیں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو اتنی
 درجہ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور دعوت الی اللہ میں ہمہ تن مصروف رہے اور
 خداوند قدوس کی مہربانیوں و انعام الہام سے لوگوں کو امیدیں دلائیں اور غضب الہی سے
 بھی ہر طرح ڈرایا لیکن کسی نے بھی فرمانبرداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے
 رہے بلکہ دست و زبان سے بھی رنج و اذیت دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت
 یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں
 دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم نمود آباد تھی اور وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز
 ابو جرحہ یقیناً رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالتِ آباء صلوات اللہ علیہم و آلہم وسلم سے پوچھا کہ حضرت
 یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی آپ نے فرمایا ایک لاکھ سے زیادہ تھی اور وہ سب کے سب نافرمان
 تھے چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا **ذَٰلَکَ مَا آتَانَا مِنْکَ ۗ اِنَّا عٰدِیۡنَہٗ**
اَدۡیۡیۡنِ مَیۡدُوۡنَ۔ یعنی اور بھیجا اس کو ایک لاکھ تھے اور سب چھوٹے بڑوں کو شمار کیا جائے
 تو ایک لاکھ سے زائد تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چالیس
 برس تک خدا کی دعوت دی۔ اور ہمیشہ کہتے رہے **اے قوم کہو لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ یُوۡسُفُ**
نَبِیُّ اللّٰہِ ۗ وَہٗ مَرۡوُۡدٌ نُّوۡمٌ کبھی اس کلمہ کو اپنی زبان پر نہ لائی اور حضرت یونس علیہ السلام سے
 یہ کہتی رہی کہ اے یونس اگر تم کو پارہ پارہ بھی کر دیا جائے تو بھی تم کو نبی اللہ نہ کہیں گے۔ حضرت
 یونس علیہ السلام اس بات سے بہت مغموم و مایوس ہوئے اور ساری قوم بت پرستی میں مدہوش تھی
 حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے
 ہوئے فرمایا کہ اے قوم اپنے خالق ارض و سما کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو اور اس میں
 تمہارے واسطے کوئی بھی نفع کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ نہ ضرر کے اختیار رکھتے ہیں۔ اور نہ فائدے
 کے وہ تمہارے خود مشیدہ بت ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم نے قطعاً اس بات پر توجہ نہ دی اور ساری
 قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اور پھر ضد میں آ کر حضرت
 یونس علیہ السلام کو اذیت دینے لگے لیکن باوجود اس قدر اذیت و تکلیف کے حضرت یونس علیہ

علیہ السلام اپنی قوم کو براہ ہدایت کرتے رہے اور ہر وقت ان سے کہتے کہ اے میری قوم خدائے واحد
 کی عبادت کرو اور تم لوگوں نے جو راہ ضلالت اختیار کر رکھی ہے اس کو فوراً چھوڑ دو اگر تم نے راہ ضلالت
 نہ چھوڑی تو میں خدائے تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نہ نازل کروں اور مجھے اس بات سے خوف معلوم
 ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جب یونس علیہ السلام سے یہ تہدید امیر القافض سے تو کہنے لگے۔ اے
 یونس یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے یہ تم سنو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر
 وقت کیا کرتی تھی اور حضرت یونس نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عذاب آتش
 و دوزخ ہے یہ جو اب سن کر تمہارے دلچسپ ہے لیکن میں ان مردودوں نے کہا بھلا اس میں کچھ مضائقہ نہیں
 آخر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہٹ دھرمی اور فساد سے عاجز آگئے۔ پھر جب کوئی
 ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی دعوت الی الحق کو قبول کر لے گی اور اللہ کے بتائے ہوئے۔
 طریقہ پر کامزن ہو جائے گی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خداوند قدوس سے اس
 ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی، تو نہ آئی اے یونس آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو
 جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس کچھ خفا ہو کر
 اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بے رضائے الہی چل دیئے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں
 مبتلا کیا چنانچہ ارشاد باری ہے۔ وَذَٰلِیْنَ الَّذِیْنَ اِذْ ذُہِبَ عَنْہُمْ مَّا کَانُوا یَعْبُدُونَ اِنَّہُمْ لَکٰفِرٰتٌ
 عَلَیْہِمْ فَاذٰی فِی الْمَظَلَمٰتِ اِنَّ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ
 فَاسْتَجِنَا لَہٗ وَتَجِنَا ۙ مِنَ الْعَذَابِ ۙ وَکَذٰلِکَ فَتٰجِی الْمَوْمِنِیْنَ ط
 پھلے والے کو دیکھو جب چلا گیا غصہ سے لڑ کر اور پس وہ سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے پس پکارا
 بیچ اندھیروں کے کہ وہاں کوئی حاکم نہیں تیرے سوائے تو بے عیب ہے بیشک میں تھا
 گنہگاروں میں، پس قبول کی اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے اور اندھیرے سے اور
 اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت بڑے
 شہوتین تھے اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھے۔ حکم ہوا ان کو وہ فوراً پینیس شہر دمشق میں تاکہ وہاں
 کے مشرک باشندوں کو بت پرستی سے منع کریں اور یہ خفا ہو کر چلے راہ میں ایک ندی آئی ایک
 بیٹے کو کنارے پر چھوڑ کر ایک بیٹے کو کندھے پر لے لیا اور عورت کو ہاتھ پکڑا اور جب وہ
 پانی میں پہنچے تو ندی کے پانی نے زور کیا تو اتفاقاً اس زور کی وجہ سے عورت کا چھوٹ گیا اور
 دیکھتے رہ گئے اور جو لڑکا کا کندھے پر لے لیا تھا اور کسی طرف سے ہاتھ پکڑا گیا اسی

گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو وہاں کے سرداروں سے ملے اور ان کو اللہ تعالیٰ باری
 پہنچا یا وہ ٹھٹھا کرنے لگے اور پھر وہ ایک مدت تک وہاں رہے آخر پھر خفا ہو کر اس قوم کے
 واسطے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی اور خود وہاں سے تین دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل
 گئے تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل میں نکلے اور سب
 نے اللہ سے توبہ کی اور بہت ہی گریہ و زاری کی اور تمام اپنے بنائے ہوئے بت توڑ ڈالے اس
 وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا، شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی مچھلی
 ہے اور اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے
 کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اور میں اپنی قوم سے جھوٹا ہو گیا، یہ کہہ کر وہ کسی طرف چل دیجئے اور اللہ تعالیٰ
 کے حکم کا انتظار نہ کیا چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے اور وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی
 دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھنور کے پھر کھانے لگی، یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کشتی
 میں کمی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے کشتی والے نے بہت معلومات کی کچھ بھی
 پتہ نہ چلا آخر قرعہ اندازی کی گئی تو اس قرعہ میں یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں
 نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی بھنور سے بڑے سکے۔ جب حضرت یونس کو دریا
 میں ڈال دیا گیا تو اسی وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے بندہ یونس علیہ السلام کو ثابت
 نکل جا اور کسی طرح سے کوئی گزند نہ پہنچے یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب
 آئی اور وہ ثابت نکل گئی، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندھیرا
 تھا اسی اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا تو یہ قبول ہوئی اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی
 اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا، جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا تو
 اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوو کی بیل کو دکھایا اور اس بیل کے حضرت یونس
 علیہ السلام کو سایہ کر دیا، اور اللہ کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم دیا گیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ
 علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے، جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں قوت و طاقت آگئی
 تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد
 کی آرزو مند تھی، اور ان کی عورت کو اور لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا اور ایک لڑکے
 کو بیٹھے سے بھی چھڑا لیا تھا، اب اسی دمشق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔

سوال: اگر کوئی پوچھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی نکل گئی تھی، وہ کیسا ماجرا تھا، تو اس کا

جواب یہ ہے کہ خدا کو منظور یہی تھا کہ اپنے بندوں کو دکھلا دے کہ میں ناطق و درشتہ کسی سے نہیں رکھتا۔ مگر جو میری اطاعت و فرمانبرداری کرے گا وہ میرا بندہ ہے اور میرا بھیجا ہوا بنی تھا اس نے اس نے میرا کہنا نہ مانا اور خفا ہو کر بے حکم میرے چلا گیا اس لئے میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا تاکہ میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ بندہ بے حکم کو اسی طرح سزا ملتی ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام خدا کی مرضی نہ دریافت کر کے جلدی غصہ ہوئے اس لئے خدا نے تعالے نے ان کی عبرت کے لئے مچھلی کے پیٹ میں ان کو چند روز رکھا اور اس میں حکمت یہی تھی کہ مومن بندوں کو دکھلا دے کہ عبرت دکھلانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندے اور پیغمبر کو بھی نہ چھوڑا۔ آخر ان کو بھی سزا کا مستحق ٹھہرایا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رکھا پھر یہ سزا دینے کے بعد ان کو نجات دی پس مومن بندوں کو لازم ہے کہ مرضی الہی سے کسی امر میں سرکشی نہ کریں اور ہر آن اس کا شکر یہ ادا کریں۔

الفرض حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ وہیں رہے اور پھر چلتے چلتے کسی ندی کے کنارے پہنچے دیکھا کہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر پار اترتے ہیں آپ بھی جا کر سوار ہوئے تین تباہ روز کشتی پر رہے۔ چوتھے روز تمام دریا میں ایک بارگی اندھیرا ہو گیا اور بڑی بڑی مچھلیاں آکر کشتی کو حرکت دینے لگیں۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی گنہگار بندہ کشتی پر سوار ہے۔ اس کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دو اور اس کو مچھلی نکل جائے گی۔ شاید ہم لوگ اس ناگہانی آفت سے بچ سکیں کبھی ایسا نہ ہو کہ اس گنہگار کی وجہ سے پوری کشتی ہی دریا میں غرق ہو جائے اور ہم سب دریا میں ڈوب جائیں حضرت یونس علیہ السلام اس بات کو سنتے ہی کشتی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کشتی والوں سے کہنے لگے کہ بس میں ہی ایک بندہ ہوں مجھ کو ہی دریا میں ڈال دو اور مجھے مچھلی نکل جائے گی۔ سب اہل کشتی نے آپ کی طرف نظر کی اور پھر کہا کہ ہم تو آپ کو درویش صفت دیکھتے ہیں اور عقلمند لوگ کبھی آپ پر بدگمانی نہیں کر سکتے بلکہ بہ نسبت آپ کے ہم لوگ آپ سے ہمیں زیادہ گنہگار بندے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کشتی والوں سے کہا کہ میں اپنے مالک خداوند قدوس سے خفا ہو کر اس شہر سے چلا آیا ہوں جس شہر کی طرف مجھے بنی بنا کر بھیجا گیا تھا یہ سن کر اہل کشتی نے ناچار ہو کر اس دریا میں حضرت یونس علیہ السلام کو ڈال دیا اور فوراً ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس کو نکل لیا جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا **مَا لَنْفَعَهُمُ الْاُحْوَثُ وَ هُوَ مُلْتَمِسٌ** پس نکل لیا اس کو مچھلی نے اور وہ ملامت میں پڑا ہوا تھا۔ اور تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ مچھلی نے حضرت یونس

علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اے پیغمبر خدا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو اچھی طرح پیٹ میں رکھوں اور کسی طرح سے اذیت نہ دوں۔ اور میرا پیٹ اب آپ کے واسطے زنداں ہوا جب خدا چاہے گا۔ تو یہاں سے نکال لے گا اور میرا پیٹ بھی غلاظت سے پاک ہے کیونکہ میں ہر وقت خدا کی یاد میں لگی رہتی ہوں اور میرا کام تسبیح و تقدیس میں مصروف رہنا ہے اور تمہارے واسطے یہی میرا پیٹ عبادت گاہ بنا لے مومنو ذرا غور تو کرو کہ مچھلی کس طرح خدا کی عبادت کرتی ہے اور حضرت یونس پر غور کرو کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی خدا کی عبادت کرتے رہے اور تم لوگ دنیا کے پیچھے اپنے اوقات برباد کرتے ہو کیوں خدا کی عبادت نہیں کرتے اور ہر آن آلائش دنیا میں اپنے کو ڈبوئے ہو اور خدا سے دور ہوتے ہو اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہو۔ یاد رکھو جو مومن خدا کا پیارا ہوگا وہ البتہ اس کی عبادت میں کثرت سے مصروف رہے گا اور اپنے کو معصیت سے باز رکھے گا۔ الغرض بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگلی گئی تھی اس مچھلی نے چالیس دن تک اپنا منہ کھلا رکھا تھا کہ ہمیں منہ بند کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی اذیت نہ پہنچے کیونکہ وہ بندہ خاص خداوند کریم کے ہیں اور مسلسل چالیس روز تک حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ کھانا پینا نہیں کھایا پیا۔ اس وجہ سے بدن کی تاب و طاقت جاتی رہی اور نہایت نحیف و کمزور ہو گئے لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی وہ عبادت اپنی اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے اور اسی ذکر و اذکار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ کے اندھروں سے نجات دی جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ **وَجَدْنَاهُ فِي بَطْنِهَا**۔ اِسْمٰئِيْلِيْنَ لَبِثَتْ فِيْ جَنْبِهَا اَلْحَيُّ مَرِيْعَشُوْنَ ۝ ترجمہ۔ پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تھا وہ تسبیح کرنے والوں سے البتہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک کہ جب اٹھائے جاوے گا اور اسے یعنی حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پھر انہوں نے کثرت سے اپنے معبود برحق کو یاد کیا اور اسی کی عبادت کی اور ہر وقت تسبیح و تقدیس میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی تو کیا عجب ہے کہ اگر تم بھی خدا کی عبادت و بندگی کرو گے تو آتش و دوزخ سے نجات پاؤ گے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دریا کی تمام مچھلیاں بیمار ہو گئی تھیں۔ تسبیح و تحلیل سے وہ اچھی اور ٹھیک ہو گئیں اور پھر جناب بارہ، تعالیٰ سے مچھلیوں نے عرض کی یا رب العالمین تیرے بندے سے جب بیمار ہو ویں تو تیری رحمت کے علاج سے آرام پائیں اور ہم کو بھی اپنے لطف و کرم کے شفا خانے سے داروشفا کی

بتلا دے تاکہ ہم بھی اس سے پھیلے اور ٹھیک ہو جائیں۔ تب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اسے پھیلو! یونس جس مچھلی کے پیٹ میں تھا تم اسے جا کر سونگھا کیجیو! ہر مرض سے شفا پاؤ گی، اور پھر کبھی بیمار نہ ہو گی۔ چونکہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کی صحبت پائی ہے اور چالیس روز تک حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے تمڑ میں جمع امراتن مچھلیوں کی دو انگر دانی یعنی جو مچھلی بیمار ہو جائے وہ اس مچھلی کے پاس جا کر اس کو سونگھے بفضل خدا اس کو آرام ہو جائے گا لہذا یہاں پر یہ ضروری گزارش ہے کہ اسے مومن بھائیو! جو شخص خدا اور رسول کی محبت اور رضا پر رہے گا اور اس کا حکم بجالائے گا تو امید قوی ہے کہ عذاب و دوزخ سے وہ نجات پائے گا اور حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی دوسری بردہ تھی کہ دریا کی مچھلیاں اپنی تسبیح و تحمیل سے فخر کرتی تھیں کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں اور عبادت کرنے میں تیری فاضل ترین مخلوق ہیں یہاں تک وہ اپنے آپ کو بنی آدم سے بہتر سمجھتی تھیں۔ اس چیز کو دکھانے کے لئے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید فرمایا اور پھر کہا اسے پھیلو دیکھو تو یونس کی جگہ تنگ و تاریک میں ہمارا نام لیتا ہے اور تم تو جائے آرام میں رہ کر ہمارا ذکر کرتی ہو۔ پس اس کی عبادت فضیلت رکھتی ہے تمہاری عبادت پر۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے حال عبادت سے دریا کی مچھلیاں آگاہ ہو جائیں گی تو پھر خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہو گئیں۔ خبر ہے کہ چھ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا تو بھی انہوں نے اپنی حالت مصیبت میں اپنے خالق کی بندگی نہ چھوڑی اور تمام ارض و سما کے فرشتے اور نبی آدم کو اللہ رب العزت نے دکھلایا اور تنبیہ کی کہ دیکھو کسی کسی مصیبت میں ہمارا بندہ مبتلا رہا پر ہم کو نہ بھولا یاد کرتا رہا تو اس کے حملے میں ہم نے اس کو نجات دی۔ چنانچہ پہلے حضرت نوحؑ نے تنبیہ کو ان کی قوم کے سبب سے رنج و بلا میں گرفتار کیا تھا اور پھر ان کو اس سے نجات دی۔ اور دوسرے ابراہیمؑ خلیل اللہ کو آگ مزود میں ڈالا۔ دوستی اور صدق اعتقاد ان تمام فرشتوں اور خلائق کو دکھلایا پھر ان کو بھی ہم نے نجات دی تیسرے حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا۔ پھر ان کو نجات بخشی۔ چوتھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں اور زنداں میں اور غلامی میں ان سب بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تھا تو بھی انہوں نے ان مقامات میں برابر خدا کی عبادت کی اور خدا کی عبادت سے کبھی غفلت نہ برتی۔ پھر ہم نے ان تمام مصائب سے نجات دی اور پانچویں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا تھا۔ ایسا کہ ان بدن میں آئے پڑے کہ ان میں کپڑے پڑ گئے تھے باوجود اس

سخت تکلیف کے حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی عبادت نہ چھوڑی۔ پھر خداوند قدوس نے اپنی
 کرم نوازی سے ان تکلیف سے نجات بخشی اور چھپے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندان مبارک
 شہید ہوا اور غار میں رہے اور شب معراج میں ساتویں آسمان میں سے لامکاں پر تشریف لے گئے
 یہ صدق محبت ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مہفت آسمان کے فرشتوں کو دکھلائی۔ اس حالت میں
 بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند قدوس کی اطاعت نہ چھوڑی تب اللہ تعالیٰ
 نے ان کو مقرب تر مقرر کیا اور مکرم تر مکرمین سے کیا تاکہ عالم بالا کو معلوم ہو کہ سب سے زیادہ
 بزرگی اور شرافت اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو دی ہے۔ اور کسی کو نہیں دیں۔ الغرض اس مچھلی نے
 حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر سات سمندر پھیر آیا اور تمام قدرت الہی کو دربار میں
 دیکھی اور تقریباً چالیس دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا
 اور بہت ہی گریہ و زاری کی، ان الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے ارشاد باری
 تعالیٰ یوں ہے۔ **تَتَذَكَّرُ فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ
 الظَّالِمِيْنَ ۝** ترجمہ! پس پکارا یونس نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے تیرے
 تو بے عیب ہے اور بیشک میں گنہگاروں میں سے ہوں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس
 وقت چار تاریکی میں تھے ایک تاریکی ذلت و خواری کی اور دوسری رنج و عذاب اور تیسری قصر
 دریا۔ اور چوتھی تاریکی مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ بمصداق اس آیت شریفہ کے۔ **فَاَسْتَجِبْنَا
 لَهُ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُصَيِّحُ الْمُرْتَدِيْنَ ۝** ترجمہ! پھر
 سن لی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو اس غم سے اور ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں
 ایمان والوں کو حضرت یونس پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشکی پر آئے اور اس
 نصیحتانہ آزمائش سے نجات ہو گئی تو حضرت یونس نے اس کے شکرانہ میں چار رکعت نماز ادا کی۔ ایک
 روایت میں آتا ہے کہ وہ چار رکعت جو حضرت یونس نے بطور شکرانہ ادا کی تھیں وہ عصر کی نماز تھی
 اور اس نفل نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے واسطے فرض کر دیا۔ اور جس قوم سے حضرت
 یونس علیہ السلام خفا ہو کر شہر سے نکل گئے تھے پیچھے ان کے خدا نے ان پر عذاب نازل کیا چنانکہ
 ایک آگ غضبناک آسمان سے مثل آب سرخ کے نازل ہوئی اور وہ آنا فنا ان کے سردوں پر آجوتو
 ہوئی۔ اور وہ مارے خوف کے سب کے سب ایک میدان میں جا کر دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے یعنی ایک
 فرقہ بوڑھے اور جوانوں کا اور دوسرا فرقہ عورتوں اور لڑکوں کا اور ایک جگہ پر تمام موشیوں کو جمع

کر دیا۔ اس کے بعد سب نے اپنے اپنے سرول کو لگا لیا اور پھر سب گئے سب مسجد میں گر گئے
 اور بہت ہی زیادہ خدا کے دربار میں تضرع و گریہ و زاری کی اور خدا سے دعا مانگی اور ساتھ ہی ساتھ
 یہ بھی اترا کرتے جاتے تھے کہ یا نبی اب ہم تیرے پیغمبر کی باتیں ضرور مانیں گے اور ہم نے اب
 توبہ کی تو اب ہم کو اس پلائے ناپہانی سے نجات دے اگرچہ ہم سب عذاب کے مستحق ہیں تو ہی
 ہمارے توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہم عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ جب اس طرح انہوں
 نے تضرع و گریہ زاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اس بلا و عذاب سے نجات
 دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خَلَوْا لَكُمْ مَا تَشَاءُونَ فَتَمْتَعُوا بِهَا وَلَا تَتَذَكَّرُوا فِيهَا وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ
 الْإِيمَانُ أَنْ تَمْتَعْتُمْ بِهَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ مُبِينٌ۔ سو نہ ہوئی بستی کہ یقین لاتی پس کا آتا ان
 کو یقین لانا مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ یقین لاتی کھول دیا ہم نے ان سے ذلت کا عذاب
 دنیا کی زندگی میں اور کام چلایا ان کا ایک وقت تک دنیا میں حالانکہ عذاب دیکھ کر یقین لانا کسی
 کو کام نہیں آیا مگر قوم یونس علیہ السلام کو اس واسطے کہ ان پر عذاب کا حکم نہ پہنچا تھا۔ حضرت
 یونس علیہ السلام کی کتابی سے صورت عذاب نمودار ہوئی تھی، پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام
 پر ایمان لے آئے اس وجہ سے وہ عذاب سے بچ گئے اور اس کے بعد پوری قوم نے حضرت یونس
 علیہ السلام کو بہت تلاش کیا انہوں نے کہیں نہیں پایا اور ساری قوم نے مل کر اللہ رب العزت سے
 دعا مانگی۔ کہ پھر اس پیغمبر کو ہماری قوم میں بھیج، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی دعا کو قبول فرمایا
 اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے محبوب بندے کو دریا کے کنارے خشک زمین پر جا کر اٹکل دے۔ یہ
 حکم سن کر مچھلی فوراً دریا کے کنارے پر گئی اور خشک و سوکھی ہوئی زمین پر حضرت یونس علیہ السلام کو
 اس مچھلی نے اٹکل دیا اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے تمام اعضاء نازک و ضعیف ہو رہے تھے
 کچھ کھانا بھی نہ کھا سکتے تھے اور آپ کو سایہ کی سخت ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے
 فضل و کرم سے ایک درخت کدو کا پیدا کر دیا حضرت یونس علیہ السلام اسی کو کھاتے اور اسی کے
 سایہ تلے دھوپ سے بچاؤ پا کر آرام کرتے۔ چنانچہ اسی طرح پر حضرت یونس علیہ السلام مسلسل
 چالیس دن بلب دریا کدو کی بیل کے نیچے آرام کرتے رہے پھر کچھ جسم میں قوت آئی۔ بعد اس کے اللہ
 تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پھر اسی قوم کی طرف تشریف لے گئے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ذُنُوبُكُمْ
 بِالْعَرَاءِ وَ هُمْ سَقِيمٌ ۝ وَ أَنْتُمْ مَلِكَةٌ مُّشْجَرَةٌ مِنَ بَقْرَطِينٍ ۝ وَ أَنْتُمْ سَلَمَةٌ

اِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۖ قَامُوا فَمَشَتْهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۗ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ
 ذَالِ دِيَارِهِمْ نَادِيًّا ۚ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ۖ كَانَ فِي ذَلِكَ زَيْنُ أَرْدُورَهِ بِيَارِ تَحَارِثَ ۚ وَكَانَ فِي ذَلِكَ
 سَبِيلٌ وَاللَّيْنُ كُدُوكَا ۚ وَكَانَ فِي ذَلِكَ زَيْنُ أَرْدُورَهِ بِيَارِ تَحَارِثَ ۚ وَكَانَ فِي ذَلِكَ سَبِيلٌ وَاللَّيْنُ كُدُوكَا ۚ
 كِلْتَا طَرَفَيْهِمَا فِي ذَلِكَ زَيْنُ أَرْدُورَهِ بِيَارِ تَحَارِثَ ۚ وَكَانَ فِي ذَلِكَ سَبِيلٌ وَاللَّيْنُ كُدُوكَا ۚ
 قَوْمٌ تَحْتَهُ جَوْ حَضْرَتِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي هَادِيَةً سَعَىٰ رَوَيْتِي تَحْتَهُ ۚ وَكَانَ فِي ذَلِكَ سَبِيلٌ وَاللَّيْنُ كُدُوكَا ۚ
 تَوْبَهُ يَوْمَ حَضْرَتِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۚ تَوْبَهُ يَوْمَ حَضْرَتِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۚ تَوْبَهُ يَوْمَ حَضْرَتِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۚ
 كُو تَلَاشٍ كُو تَقِي تَحْتَهُ ۚ پھر کچھ عرصہ میں حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس جا پہنچے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی
 اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس شہر کے داخلے کے وقت ساری قوم بڑے تزک و احتشام سے لے
 گئی اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے ان لوگوں نے شریعت سیکھی تقریباً حضرت یونس علیہ
 السلام اس قوم میں اکتیس برس تک رہے پھر حضرت یونس علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہ پیغمبر
 مرسل تھے جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: **إِنِّي يُوسُفُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۗ**
 تحقیق یونس البتہ پیغمبر مرسلوں میں سے تھے۔ جناب باری تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کو بایں الفاظ ارشاد فرمایا: **فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ لَآ تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ
 إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۗ تَرْجِمُهُ ۗ** اور راہ دیکھیے اپنے رب کے حکم کی اور مت
 ہونا اس جیسا کہ مچھلی والے نے جب پکلا تو وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ پس اسے مومنو! جبکہ
 یونس علیہ السلام چالیس روز مچھلی کے پیٹ میں رہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحبِ حوت
 فرمایا یعنی مچھلی کے یار۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسولِ خدا صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور وہ یارِ غار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے یعنی مکہ
 کے کافروں نے جب حضرت کا بیچھا کیا تو پھر آپ مجبوراً حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر مکہ کے
 نزدیک ایک پہاڑ پر جا کر ایک غار میں پھر گئے اور ایک رات اور ایک دن گزارنے کے بعد
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع ابو بکر صدیق کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 نے ارشاد فرمایا: **إِذْ أَخْرَجَهُ السَّيِّئِينَ كُفْرًا ۚ فَآتَىٰ أَثْنَيْنِ ۚ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
 إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۗ** ترجمہ۔ جس وقت ان کو نکالا
 کافروں نے دونوں تھے غار میں تو ان میں سے ایک کہنے لگے اپنے رفیق کو تو غم نہ کھا کیوں کہ

اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پس رفیق غار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جس دن ہجرت کی مکہ سے مدینہ منورہ میں اور بعض اصحاب حضرت کے آگے نکل گئے اور بعض حضرت کے پیچھے تھے۔ اے ایمان والو! اپنا پیشوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو تاکہ ہم سب نجات پالیں۔

حضرت ایوب علیہ السلام

حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت پیغمبروں کے سے ہیں اور ان کے سلسلے نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریب ہی رشتہ میں حضرت عیسیٰ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی طبیعت نہایت حلیم الطبع اور نیک صالح اور اعلیٰ درجے کے صابر تھے آپ کا وطن ملک شام تھا۔ افریقہ بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اور یہ ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے اور اسی طرح سے وہ جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو پہلے دس مسکینوں کو کپڑا پہناتے پھر خود پہنتے تھے۔ کپڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ صرف نبی بنائے گئے تھے لیکن اس ابتلا کے بعد وہ مرسل بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و فرزند عنایت کئے تھے غرہ کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور وہ کثرت سے خداوند قدوس کی شب درود عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر خدا کی درگاہ میں عرض کی اے رب تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیئے ہیں اگر ایسا نہ کرتا تو وہ قیری عبادت اتنی زیادہ کبھی نہ کرتا۔ پس ہم کو اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائی پھر دیکھیں کہ تیری عبادت و بندگی کیونکر کرتا ہے اور پھر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے ہم اس کو کسی راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دیدی تاکہ حضرت ایوب کو آزما یا جائے۔ شیطان لعین خوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا حضرت ایوب عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بہر صورت شیطان لعین نے چاہا کہ میں حضرت ایوب کو کسی طرح سے مغالطہ دوں مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب کو مغالطہ نہ دے سکا آخر منہ موڑ کر مردود لعین چلا گیا۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا اور جناب باری تعالیٰ نے اس عرض کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت

زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے اسی لئے وہ اولے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے فرشتے! تو بلا طاعت و بندگی اس کی عوضی دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لئے ہے اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کے شکر یہ میں وہ ضرور میری بندگی کرے گا اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرمانبردار ہے حالت فقیری میں اس سے زیادہ وہ میرا مطیع و فرمانبردار ہوگا روایت کہ حضرت ابوبکر علیہ السلام نے بذات خود ہر آئے آزمائش کے بلا مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے وعامانگ کر لی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کروں اور مجھے میرا پروردگار صابر و دلہا میں شامل کرے اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں بذریعہ وحی کچھ حضرت ابوبکر علیہ السلام کو بتایا گیا اے ابوبکر تو مجھ سے صحت و تندرستی مانگتا۔ بجائے اس کے تو نے رنج و بلا طلب کیا۔ حضرت ابوبکر علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مؤدبانہ عرض کی کہ اے میرے رب میرے لئے مصیبت تیری بہتر ہے صحت و عافیت سے پس نجواش اپنی مرضی مرضی میں گرفتار ہوئے مرضی الہی سے ان کے تمام بدن میں پھینچو لے پڑ گئے اور پھر ان میں کیرے بھی پڑ گئے اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک روز حضرت ابوبکر علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے

بہت مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کے جواب میں حضرت ابوبکر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی ہم تو اس کے عوض میں بہت زیادہ اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں یہ کلام حضرت ابوبکر کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور برا معلوم ہوا۔ چنانچہ اسی کلام کی یادداشت میں حضرت ابوبکر کو زخموں کے کیروں کے مرض میں مبتلا کیا۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و ارباب کا ہوا اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی اور پھر یکا یک یہ تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کے مر گئی ہے اور پھر اس کے بعد چالیس ہزار بھیڑ بکری ہانکھی گھوڑے اونٹ گائے بیل مویشی تھے وہ سب مر گئے پھر اس کے بعد پابانوں نے آکر حضرت ابوبکر علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے، بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھیں غیب سے الگ آئی وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ابوبکر نے اس کے جواب میں کہا

کہ میں کیا کروں جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا یہ کہہ کر وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ آئی اس نے جتنے گائے بیل تھے سب کو جلا دیا۔ چرواہے نے آکر حضرت ایوب و خردی کہ اسے اللہ کے نبی آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر آتش عینب ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے اس کے بعد تیراؤن نے آکر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے حضرت جتنے ہزار اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مرضی الہی ہی ہے میں کیا کروں۔ پھر کچھ پیر کے بعد ہی سائیسوں نے آکر کہا اے حضرت جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ سب مر گئے کوئی بھی نہ بچا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو امی میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہے۔ سوائے مشیت الہی کے کوئی چارہ نہیں بعد اس کے تمام اسباب و اثاث گھر دروازے فرش و فرش چھت پر دے سب آگ سے جل گئے۔ غرضیکہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی عبادت میں مشغول تھے، شعلے آگ کے ان کے سامنے آکر گرے لوگوں نے گھرا کر حضرت ایوب سے کہا کہ اے حضرت آپ کیا دیکھتے ہیں اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مگر اٹے اور آپ نے فرمایا لوگو! خدا کا شکر ہے کہ ہنوز جان باقی ہے بہر حال جو ہے وہ بہت بہتر ہے پھر دوسرے دن چار بیٹے تین بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھیں اتفاقاً معلم صاحب کسی کا کو مکتب سے باہر گئے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے و لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے حضرت آپ کی اولاد سب کی سب چھت گرنے سے دب کر مر گئی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب شہید ہوئے، غرض زن و فرزند مال و متاع گھر برباد بنا کر با کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غم فرزندوں سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے تھے کہ اَلصَّبْرُ مَقْتَضٍ اَلْفَرَجِ، یعنی صبر کشادگی کی کنجی ہے پھر ایک ہفتہ کے بعد حالت نمازیں ہی ان کے جسم میں ایک پھیپھو لاپٹا اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا اور یہاں تک کہ تمام بدن کھوکھلتا ہوا ہو گیا پڑ گئے اور باوجود اتنی سختی تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی خدا کی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے تھے بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے اور حالت اس درجہ خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پڑے رہتے اٹھنے۔ یعنی ہلنے جلنے کی طاقت نہ تھی، اسی طرح سے چار برس تک ذی فرش رہے ہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیرے پڑ گئے تھے، خویش وافر باپتے بیگانے محلے والے

ان سے نفرت کرنے لگے سب سے رشتہ چھوٹ گیا، چار بیویاں تھیں وہ بھی مطلقہ ہو گئیں۔ صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا وہ بہت نیک بخت تھیں وہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھیں اور انہوں نے حضرت ایوب سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت کھانے پینے میں شریک حیات تھی اب اس مصیبت میں بھی انشاء اللہ ہر وقت آپ کی شریک حیات رہوں گی۔ اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب ہو گا اللہ تعالیٰ نے جاہا۔ پس اسی پریشانی و مصیبت میں سات برس گزرے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی مرض میں تقریباً اٹھارہ سال گزرے یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان لوگوں نے کہا ان زخموں کی بدبو کی وجہ سے محلہ میں نہیں رہ سکتے اور ہم یہ بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کی بیماری ہم میں سرایت کر گئی تو ہم سب بھی اسی مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان وجوہات کے سبب حضرت ایوب کو اس قریہ میں رہنے نہ دیا اور خویش واقربا کسی نے بھی نہ پوچھا صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا۔ اور دو شاگرد ان کے پاس رہے ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا کر رکھا۔ پس یہ حالت دیکھ کر بہت روتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہماری سرداری کہاں گئی اور زن و فرزند اور میرے عزیز واقارب کہاں گئے آج کوئی کام نہیں آتا مگر صرف تو ہی میرا مالک اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں رکھا تو وہاں کے لوگوں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو نفرت کرنے لگے اور پھر اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ آخر دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سایہ تلے رکھا اور وہ دونوں شاگرد چند روز کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے صرف ان کی بیوی رحیمہ ان کی خدمت میں رہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ ہر روز حضرت کو اس میدان میں اکیلا جھوڑ کر محلے میں جا کر محنت و مشقت کر کے اور جو کچھ ملتا وہ لاکر کھلاتی اور پھر دست بستہ خدمت میں رہتی تھیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں میں نکل گئیں کہ کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے معزز شوہر کو کھلائیں اس دن کسی نے بھی مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت حیران پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگیں کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی خدا یا آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے

یہ کہہ کر ایک عورت کافر کے پاس گئیں۔ سوال کیا کہ اے بی بی مجھ کو آج کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہے تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خروں کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے اس کو کھلاؤں گی اور کل جو مزدوری ہوگی اس سے میں ادا کر دوں گی وہ کافر عورت بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں ہے مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت خوش نظر آتے ہیں۔ تھوڑے سے کاٹ کر مجھ کو دیکھ جائے تب مجھ کو کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سُن کر رو پڑیں اور نہایت عاجزی و انکساری سے کہنے لگیں اے بی بی اس بات سے مجھ کو معاف رکھا شوہر میرا بیمار ہے طاقت بالکل نہیں ہے بجائے غصا کے میرے ان بالوں کو پکڑ کر نماز کے لئے اٹھتا بیٹھتا ہے آخر بہتیرا سمجھایا لیکن اس کافر عورت نے یہ بات نہ مانی اور بی بی رحیمہ نے ناچار ہو کر اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافر عورت کو دے دئے اور اس کافر عورت سے اپنے شوہر کے واسطے کھانے کو لائیں اس وقت شیطان مردود نے بصورت پیر مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ تیری بیوی کو فحش عورت نے بدکاری کی چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ حضرت ایوبؑ یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اس پریشانی کی حالت میں بہت روئے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر جی تو دردئے تھے وہ اٹھارہ سال کی بیماری میں ایسا کبھی نہیں روئے مگر شیطان علیہ اللعنة کی تہمت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا کہ میں اگر اس بیماری سے آرام پاؤں گا تو اپنی رحیمہ کو سو درے ماروں گا اور بعض علماء مورخین لکھتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لئے کچھ نہ کچھ لے آتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہو گئی شیطان بولا تم کون ہو کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاؤ گی ایسی پریشان خاطر کیوں ہو۔ بی بی رحیمہ نے کہا میرا شوہر محنت بہا رہا ہے اور اس قدر سخیف ہے کہ اس میں جس دھرت کی بھی طاقت نہیں بلکہ صاحب فرش ہے اس لئے میں سخت پریشان ہوں کیا کروں۔ پس شیطان لعین نے ان سے کہا کہ میں ایک دوام کو بتاتا ہوں اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گی تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ اگر سو درے اور شراب استعمال میں لاؤ گی تو البتہ بہت جلد آرام ہو جائے گا اور مرض بالکل جاتا رہے گا اور یہ بہت اچھا دوا ہے۔ پس بی بی رحیمہ حضرت ایوب کو جا کر بولیں کہ اے حضرت ایک شخص پیر مرد سے میری ملاقات راستہ میں ہوئی تو میں نے تمام حال آپ کا ان سے ظاہر کیا اور انہوں نے مجھ کو ایک دوا بتلائی ہے حضرت ایوب علیہ السلام

نے یہ بات سن کر کہا کہ وہ دوائی کیا بتائی ہے۔ وہ بولیں اگر آپ شرب اور سوزک گرفت کو استعمال میں لاویں گے تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بانی رحمۃ پر بہت غصہ ہوئے اور کہا اے رحیمہ تو مجھ کو کہہ گا کہ کتنا چاہتی ہے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام تم کھا کر بولے کہ اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو سو گز می ماروں گا۔ کیوں تو نے ایسی بات کہی۔ اس کے بعد دربار خلدوندی میں بہت ہی تضرع و زاری کی اور کہا یا اللہ میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کئے اور صبر کیا اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی اور اے میرے مولا تو مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں اب مجھ پر رحم کر اور اپنا رحم فرما۔

سوال. حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے برس صبر کیا آخری درجہ میں کیوں رہے؟
جواب. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں کئی روایات ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام گمے رونے کا سبب یہ تھا کہ ان کے دو شاگرد تھے قراتیوں میں سے جو ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت و تیماردگی میں آیا کرتے تھے ایک روز کہنے لگے کہ حضرت ایوب اگر کوئی گناہ نہ کرتے تو خدا ان کو مرض میں کیوں گرفتار کرتا اور اللہ تعالیٰ عادل ہے بے گناہ کو نہیں پکڑتا ہے۔ تب حضرت ایوب اس بات کو سن کر بہت غمگین ہوئے اور رو کر کہنے لگے یا الہی تجھ کو خوب معلوم ہے میرے گناہوں کا حال اور دوسری ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن دو کیرے ان کے زخم سے باہر نکل گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان دونوں کیروں کو پکڑ کر اسی گھاؤ میں رکھ دیا اور کہا کہ اپنی جگہ میں رہو تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائے بیماری سے اٹھارہ برس تک، ان کو کبھی ایسا درد نہ پہنچا تھا جناب باری تعالیٰ میں فریاد کی قولہ تعالیٰ
 ذَا يُؤْتِي لَذَّاتِي ذُبَّهٖ اَنْتَی مَسْتَبِي الضُّوْرُ اَنْتَی اَذْحَمُّ الرَّاحِمِيْنَ
 ترجمہ۔ اور ایوب نے پکارا جس وقت اپنے رب کو اپنی بیشک پہنچا ہے مجھ کو درد اور تو ہے مہربان رحم والوں سے رحم والا۔ تب حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ایوب تم کیوں روتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اس کیرے کے کاٹنے سے بیتاب ہوا ہوں اور اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا اور میں نے اٹھارہ برس سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی اس کے جواب میں حضرت جبرائیل نے ان سے کہا کہ اے ایوب تم نے تو آپ سے اس عرصہ کو خدا سے مانگا ہے اور جو کیرا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا اس کو

بھی تو نے اپنے آپ اٹھا کر اس گھاؤ میں رکھا ہے یہ تکلیف اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے اور خدا نے
 کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور نہ اس نے کسی امر میں کسی کو اختیار دیا ہے مگر جو جیسا خدا سے مانگتا ہے وہی
 ہی پاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روز سوراگردوں کے قافلے حضرت
 ایوب کے دروازے پر آئے انہوں نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے اور اس میں کون رہتا ہے
 لوگوں نے کہا کہ اس مکان میں حضرت ایوب پیغمبر خدا رہتے ہیں وہ بولے اگر نیک بندہ خدا کا ہے
 تو وہ اس بلا میں کیوں گرفتار ہے شاید وہ خدا کے نزدیک گناہگاروں میں ہوگا۔ حضرت ایوب
 علیہ السلام اس بات کو سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ سچ کہتے ہوں گے اور مجھ کو تو
 معلوم نہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک آواز آسمان سے آئی اے ایوب اب تم اندیشہ
 مت کرو اور جس مصیبت و بلا میں گرفتار ہو اس میں گھبراؤ مت اس میں تو اللہ رب العزت کی رحمت
 مضمر ہے۔ پس یہ سن کر حضرت ایوب نے جانا کہ ضرور مجھ پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عتاب آیا
 ہے پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے روح الامین کو پکارا تم کہاں ہو آواز آئی میں روح الامین
 نہیں ہوں میں ایک فرشتہ ہوں فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر عتاب
 لے آیا تھا تب ایوب علیہ السلام نے درد سے اپنے معبود برحق کو پکارا قوله تعالیٰ وَ اِذْ يَدْعُو
 اٰذِنَا دٰى رَبِّہٖ اِنِّیْ مَسْتَعِیْذُ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ۵ وَ مَا
 سْتَجِبْنَا لَہٗ فَاَنْکَشْنَا مَا بِہٖ مِنْ ضُرٍّ وَاَنْعَمْنَا اٰہْلَہٗ وَ مِثْلَہُمْ
 مَعَهُمْ مِنْ عِبْدِنَا وَ ذِکْرٰی لِلْعَبِیْرِ ۵۔ ترجمہ۔ اور پکارا ایوب
 علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو مستحقیق مجھ کو پہنچی ہے ایذا اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی
 کرنے والوں سے پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، اٹھادی ہم نے جو اس پر تھی تکلیف اور اس
 کو دیا ہم نے اور اس کی گھردالی کو اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے، پلس کی مہر سے اور
 نصیحت دی ہم نے بندگی والوں کو، مروی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا تکلیف
 اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض مہلک سے شفا دے دی اور خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل
 علیہ السلام نے آکر فرمایا اے حضرت ایوب علیہ السلام قُمْ بِمَا ذَرٰی اللّٰہِ تَعَالٰی دَرَجَتُکَ
 وَ تَرٰحَلَکَ مِنْ الْخَجَدِ ۱۔ ترجمہ۔ اٹھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا نے رحم کیا تجھ پر اور
 راحت دی تجھ کو غم سے۔ بولے اے جبرائیل! میں کیونکر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ بھی
 طاقت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ چنانچہ جیسا

کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اذْکُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ
 وَشَرَابٌ تَرْتَجِمُ، فرمایا لات مار اپنے پاؤں سے یہ بے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا تبت
 حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے اس میں
 ہنساؤ اور پانی بیو، خدا کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے لیا
 ہی کیا یعنی اس چشمہ جاریہ سے نہائے اور اسی سے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل
 چٹکے ہو گئے اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ مانند چاند چودھویں رات کے روشن ہو گئے۔ اور ایک
 چادر بھی بہت سے اڑادی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک پہل پر جو قریب ہی تھا۔ اس
 پر جا بیٹھے چند ہی ساعت کے بعد بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب کے
 لئے کچھ کھانے کو لائیں آ کر دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئی تھیں وہاں پر
 نہیں۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئیں اور پکار پکار کر روتی ہوئی کہنے لگیں وائے افسوس صد افسوس
 اس ضعیف بیمار پر کاش کہ میں اگر جانتی تو یہاں سے نہ جاتی تم کہاں ہو کیا تم کو شیر کھا گیا ہے یا بھیر یا
 لے گیا ہے، انہیں ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس بلا اور مصیبت کے
 جدائی سے تمہاری خلاصی پاتی اگر تمہاری ہڈی بھی ملتی تو اس کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں رکھتی تو اس
 سے تمہاری یادگار رہتی۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں کچھ بھی بن نہیں آں۔ عرض
 اسی طرح میدان میں چاروں طرف اور زار زار روتی رہیں۔ جب وہ حضرت ایوب
 علیہ السلام کے قریب پہنچیں اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اس طرح روتا ہوا دیکھا تو ان
 سے اجنبی ہو کر پوچھا اے بی بی تم کیوں روتی ہو اور تمہاری کیا چیز کم ہو گئی ہے۔ وہ بولیں یہاں لیک
 بیمار تھا میں ان کو تلاش کرتی ہوں۔ اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ
 اس بیمار کا کیا نام تھا۔ اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی۔ وہ بولیں بس شکل و صورت تو آپ کی سی
 تھی جب وہ تندرست تھے اور ان کا نام ایوب تھا اور وہ بیغمیر خدا بھی تھے اور ان کے گوشت پوست
 رگوں میں کیڑے بڑگئے تھے اور وہ بہت ناتوان و ضعیف تھے اور ان میں کدوٹ بدلنے کی طاقت
 بھی نہ تھی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور پھر کہا کہ میرا نام ایوب ہے تم پہچانتی
 ہو۔ پس رحیمہ بی بی نے ادنیٰ تا مل میں ہی پہچان لیا اور صورت و شکل ان کی بدل گئی تھی۔ پس
 رحیمہ بی بی نے جلدی سے ان کو گود میں بٹھالیا۔ اور خوش و محفوظ ہو کر پوچھنے لگیں کہ اے
 حضرت یہ تو بتاؤ مجھے کہ آپ کس طرح سے صحت یاب ہوئے۔ ان کے پوچھنے پر حضرت ایوب

علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بنی ربیعہ وہ چشمہ دیکھ کر خدا کا شکر
 بجالائیں۔ پھر اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے
 جو بیٹے بیٹیاں چھت سے دب کو مر گئے تھے سب کو جلا دیا۔ یہ انبیاء کرام کو معجزے دینے کے ہیں
 اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور جو جو چیزیں گم ہو گئی تھیں وہ بھی واپس سب ملے
 گئیں اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح
 سے آسودہ رکھا تھا کھیت اور مویشی اور لونڈی غلام اور اولاد صالح اور غورت موانق مرضی کے
 اور بڑی شکر گزار ہی تھی، پھر آزمانے کے لئے ان پر شیطان کو مسلط کیا کھیت جل گئے، مویشی
 مر گئے، اولاد اکٹھی چھت کے نیچے دب کو مری اور جو در دست دار تھے وہ بھی الگ ہو گئے اور سارے
 بدن میں آبلے پڑ کر کیرے پڑ گئے۔ اس موقع پر صرف ایک عورت رقیق رہی۔ جیسے نعمت میں شاکر
 تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہے ایک زمانہ گزارنے کے بعد تو یہ کی اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ
 نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کی دبی ہوئی اولاد کو پھر زندہ کر دیا اور اس کے علاوہ اور بھی
 نیک اولاد عطا فرمائی اور زمین سے چشمہ نکالا اسی چشمے سے پانی پیتے اور نہاتے رہے اور پھر اللہ
 تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت مند اور تندرست کر دیا اور ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں
 اور ہر طرح سے درست کر دیا۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لیں
 تھیں وہ پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمادیں اور جو بیبیاں چلی گئی تھیں وہ بھی واپس
 آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صابر بندے ہوتے ہیں ان کو خداوند قدوس اپنی بہتیاں نعمتیں
 بخشتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَدَحَبْنَاهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا**
وَذَكَرْنَا لِأُولِي الْأَلْبَابِ تَزْوِجَهُمْ اور دیا ہم نے اس کو اس کی گھر وایاں اور ان کے
 برابر ان کے ساتھ اپنی طرف سے جبر سے اور یادگاری واسطے عقلمندوں کے جب اللہ تعالیٰ
 نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے ایک چشمہ نکالا ان کے لات مارنے سے وہ اسی چشمہ سے نہایا کرتے
 اور پیتے ہی ان کی شفا ہوئی اور جو ان کے بیٹے بیٹیاں چھت کے نیچے دب کو مرے تھے ان
 کو زندہ کیا اور اتنی ہی اولاد اور عنایت فرمائی اور رسول بنایا ان کو پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت
 کرتے اور شریعت سکھاتے اور حالت بیماری میں جو نعم کھائی تھی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں
 گا تو اپنی زوجہ رحیمہ کو سو لکھڑی ماروں گا۔ چاہا کہ اس کی ادائیگی کو وہ حضرت جبرائیل نے آ کر
 ہمارے حکم کے تحت ان کو منع فرمایا اور کہا کہ اسے ایوب زندہ رحیمہ مستوجب سزا نہیں ہیں تم

اس کو رنجِ مست پہنچاؤ کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں ساتھ چھوڑ گئی تھیں صرف بی بی رحیمہ ہی تمہاری تیمارداری میں رہی ہیں ان کو حقیقی معنی میں رفیقہٴ حیات مانو۔ کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت و تندرستی میں شریکِ حیات رہیں ویسے ہی تمہاری بیماری میں ہر دقت تیمارداری کرتی ہیں اس لئے وہ تمہاری صحیح معنی میں شریکِ حیات ہیں ان کو کسی طرح سے رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے حالتِ بیماری میں تم کھائی تھی کہ اس کو سو مکہ ٹھی ماروں گا یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک مٹھا سیکوں کا لوجس میں سو خوشے گندم کے ہوں وہ مارو صرف ایک دفعہ تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور وہ یہ چونکہ سو خوشے کا ہو گا اس لئے تمہاری قسم کی تصدیق ہو جائے گی اور پھر اپنی قسم کی وجہ سے گنہگار بھی نہ ہو گے۔ چنانچہ ارشادِ ربانی ہے وَحِذِّ بِمَيْدَانِكَ وَغُفَّتْ فَاَضْرِبْ بِهِ وَلَا تُحْسِنْ تَرْجَمَهُ! اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں سیکوں کا مٹھا پس مار اسے اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو۔

سوال۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے آخر صبر کی جزا میں صحت پائی کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا۔ اِحْسَابًا وَادَابًا ۵ ترجمہ! تحقیق پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا اچھا بندہ تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت تھی خدا کو معلوم ہے کہ بندہ کو کسی امر میں صبر نہیں۔ اس لئے ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے خدا نے عبرت دلوائی تاکہ گناہ سے باز رہے اور وہ چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو اپنا بدن آبِ ندامت سے دھو کر توبہ استغفار کرے تاکہ اس کا گناہ جاتا رہے اور وہ خدا کے نزدیک پاک صاف ہو جائے جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے اس چشمہ میں نہا کر اور پانی پی کر اور خدا کے فضل و کرم سے صحت و شفا پائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت ایوب تم اس سے ہناؤ اسی پانی کو پیو تاکہ خدا کی مخلوق کو معلوم ہو کہ عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے اپنے پروردگار کا۔ پس اے ایمان والو! ہم سب کو بھی ہر دقت خداوند قدوس سے ڈرنے نہ ہنا چاہیے کیونکہ وہ بسمع و بصیرت ہے یعنی وہ ہماری ہر حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اس لئے ہم سب کو لازم ہے کہ ہر دقت اس کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر دانی کریں اور اس کے حکم بجالانے کی ہر ممکن کوشش کریں اور یہ دنیا نے آفرینش سے خداوند تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے

نیک و صالح بندوں پر آزمائش کے مواقع پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتداءً دنیائے آج تک بحوالہ
تواریخ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور
پھر اس کے صلہ میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا
اور پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے بھی نوازا چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت
میں اڑتالیس برس اور زندہ رہے پھر انتقال فرمایا۔

سکندر ذوالقرنین

معتبر راویوں سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ نئی روایت سے اس سکندر کو ذوالقرنین کہتے کہ وہ
قان سے قان تک گئے یعنی وہ مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی
تھی اور انہوں نے اپنی بادشاہت کے طول و عرض میں سیر کی اور قرن کہتے ہیں تیس برس یا اسی
برس یا ایک سو بیس کو کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا ایک مرد
عشق قرنٹا۔ اور اس مرد کی عمر اس وقت سو برس کی تھی اور ایک میں قرن گوشہ جہان کو بھی کہتے
ہیں۔ یعنی ایک گوشہ جہان کا وہ ہے کہ جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے اور دوسرا گوشہ وہ
ہے جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے پس اسکندر ذوالقرنین دونوں گوشوں تک پہنچے تھے اور
ذوالقرنین اسی لئے کہتے ہیں کہ ان کے دو شاخ تھیں اور اسکندر اس لئے کہتے ہیں کہ ان کا تولد
شہر اسکندر میں ہوا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب
ابو جہل اور مکے کے کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے اور بطور
شرارت بد ذاتی کبر کے حضرت کی پیغمبر آزمائش کے لئے ایک شخص کو ملک یشرب میں علماء یہود
کے پاس بھیجا کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہے اور وہ دعویٰ نبوت کا کرتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے
یہ شخص سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ تم کو تو علم توریت خوب معلوم لہذا ہمارے لئے چند مسئلے قدیم زمانہ
گزشتہ کے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اپنی کتابوں سے چن چن کر ہمارے پاس بھیج دو یہاں آکر
ہم کو سوالات اس کے سکھا دو کہ ہم اس سے پوچھیں اور سوال کہیں پھر دیکھیں وہ اس کا جواب
دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تب یہودیوں نے کئی سوالات مشکل ترین اپنی کتاب توریت و زبور سے
دیکھ دیکھ کر نکلے۔ مثلاً ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے اور اصحاف کہف کون لوگ ہیں اور
ان کا حال کیا تھا اور اسکندر ذوالقرنین کون ہے اور ان کا کیا حال تھا یہ مشکل سوالات یہودیوں

کے بہت نامور عالموں نے اپنی کتاب سے نکالے تھے اور یہ سب سوالات و مسائل ابو جہل کے پاس لکھ کر بھیجے تب اس ملعون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سوالات مذکورہ شروع کئے۔ سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ۔ اِن اَتَيْتَ اَلْكِتَابَ بِمِثْلِ مَا اَوْتِيَ مُؤْمِنِي مِنَ الْكِتَابِ لَا مَتَابِيكَ هـ ترجمہ۔ یعنی اگر آئے تم کتاب کے ساتھ مثل اس کتاب کے کہ دی گئی ہوئے کو یعنی توریت تو البتہ تم پر ایمان لاؤں گے۔ جیسا کہ توریت پر ایمان لائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب میں کل دوں گا۔ اور یہ جملہ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ کل جبرائیل علیہ السلام آویں گے تو ان سے پوچھیں گے اور ان کا مکمل جواب دے دیں گے۔ لیکن یہ جملہ کہتے وقت آپ نے انشاء اللہ نہ کہا اس لئے یکبارہ دن تک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ اور آپ ان سوالوں کا جواب بھی یکبارہ دن تک نہ دے سکے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے آکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد! تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے یہ بات کافروں کی سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت ہی غمگین ہوئے اور پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ کافر لوگ ہم پر طعن دے رہے ہیں میں ان کا کیا جواب دوں یہ آپ کی معروضات سن کر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جوہ کے دن ظہر کے وقت نازل فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درودِ سلام پہنچایا اور یہ فرمان خداوندی بھی اپنے ساتھ لائے تو لہ تعالیٰ وَ لَقَدْ كَفَرْنَا لَنِيَّٰنًا عَيْنًا ذٰلِكَ عِنْدَ الْاِلٰهِيْنَ اَشْعٰءُ اللّٰهُ۔ ہ ترجمہ اور نہ کہو تم کسی کا کہ میں یہ کہوں گا کل کو مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ اور اگر کھول جاؤ تو یاد آوے۔ اگرچہ وقت گزر چکا ہو تو بھی پھر انشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اور کافروں نے جو کہا تھا کہ خدا نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو یہ دشمنی سے کہتے تھے بلکہ وہ خود منفعل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم کھا کر۔ وَالضُّحٰی ؕ ذَا النَّيْلِ اِذَا سَبَحٰی ؕ مَا وَاَدَّ عَاثِكَ ذَا بَلَدٍ ؕ وَمَا حٰثٰی ؕ ترجمہ۔ قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جاوے نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو اور نہ بیزار ہوا تجھ سے یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن تک وحی نہ آئی دل میں بڑا ٹھکر پیدا ہوا اور دل کے مقدر ہونے کی وجہ سے تجھ کو نہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے شور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور وہ چند سوالوں کے جوابات نہ بتا سکے پس یہ سورۃ نازل ہوئی پہلے تم کھائی دھوپ کی اور رات اندھیری کی یعنی ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو قدریں ہیں اور باطن میں بھی چاندنی

ہے اور کبھی اندھیرا اور وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور بندہ سے اللہ تعالیٰ کی وقت بھی دور نہیں اور یہ نواحد کتب تفسیر میں سے لکھے ہیں اور اگر اے نبی سوال کروں تجھ سے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قَوْلَهُ تَعَالَى دَلَيْسَ لَكَ مِنَ الرُّوحِ هُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ترجمہ! اور اے نبی اگر تجھ سے پوچھیں روح کے بارے میں تو تم کہہ دو کہ وہ تو میرے رب کے حکم سے ہے اور میں نے تھوڑی سی خبر دی ہے یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یہ ہونے آپ سے پوچھا۔ سوال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اتنی سمجھ کا حوصلہ اور صلاحیت نہیں ہے اور اس سے قبل کسی پیغمبر کی امت نے ایسی باتیں نہ پوچھی تھیں۔ خیر بس اتنا ہی لوگوں کا جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک چیز بدن میں آپٹری وہ بدن زندہ ہو گیا اور جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بدن سے نکل گئی تو وہی بدن پھر مردہ ہو گیا اور یہ بھی ایک تفسیر کا مضمون ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کافر لوگ تجھ سے سوال کروں اسکندر ذوالقرنین سے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ دَلَيْسَ لَكَ مِنَ الرُّوحِ هُ قُلِ سَأَسْأَلُكُمْ عَنْهُ ذِكْرًا إِذْ أَمَكْنَا فِي الْأَرْضِ وَآمَنَّا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَّأً فَأَتْبَعْنَا سَبَّأً حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَهَا قَوْمًا قُنَازًا ذَوَاتِ أَنْفٍ مُنَادِيَةً تَأْتِيهِمْ شِعَابٌ مِنْ ظُلْمٍ فَسَمِعُوا نَعْدَبَهُ شَبْرًا فَلَهُ جَزَاءٌ مِنْ الْحَسَنَاتِ وَاسْتَقْبَلُوهُ مِنْ أَمْرِ نَارٍ ۝ ترجمہ۔ اور سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ عنقریب پڑھوں گا میں ادب پر تمہارے اس میں سے کچھ مذکور ہے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی تھی زمین میں اور اس میں دنیا کے ہر راستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی۔ یعنی سراسر انجام سفر کا کرنے لگا یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پر تو اس نے سورج کو ڈوبتا ہوا پایا ایک رلدل کی ندی میں اور اس نے اس جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذوالقرنین، یا یہ کہ عذاب کرے تو ان کو یا یہ کہ کپڑے تو ان میں بھلائی۔ یہ سن کر ذوالقرنین بولا جو شخص ظالم ہے پس البتہ عذاب کروں گے ہم ان کو پھر پھر جادے گا اپنے پروردگار کی طرف پس عذاب کرنے گا اس کو عذاب بڑا اور جہاں لوگ کہ

ایمان لائے اور عمل کیے اچھے پس ان لوگوں کے واسطے بطریق جزا کے نیکی ہے اور البتہ ہم کہیں گے اس کو اپنے سے کام آسان فائدہ۔ پس جو حکم عادل ہو اس کی پیروی رہے کہ بروں کو سزا دے ان کی برائی کی اور بھلے لوگوں سے نرمی اختیار کرے پس اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات کہی۔ یعنی اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات کی زمین میں اپنے لشکر کے ساتھ کئی برس رہے اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے اس دعوت الی الحق کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کے سب لوگ ان کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے اور ان لوگوں کو نوازشیں بھی کیں اور جو لوگ ان کے باغی رہے تو ان لوگوں کو جہنم دکھائی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسکندر ذوالقرنین کی موت اور بادشاہت میں بعض حضرات کو اختلاف ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اول بادشاہ تھے پھر اس کے بعد وہ نبی ہوئے اور بعضوں نے کہا کہ اول وہ نبی تھے پھر بادشاہ ہوئے اور بعضوں نے اسی پر دلیل قائم کی ہے کہ اگر اسکندر ذوالقرنین نبی نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ تھلنا یا ذالِقْدُنَيْنِ۔ مگر کے خطاب کیوں فرماتا۔ لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ وحی الہامی تھی۔ جیسا کہ حضرت نون علیہ السلام کی ماں کو حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ذَا وَحَيْنَا اِلٰی اٰرَمَ مَوْسٰی اَنْ اَدْخِلْنِيْہٗ نَجًّا۔ الہام نے فرمایا تھا بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اور ان کی بادشاہی تھی مشرق سے مغرب تک اور تمامی راہ ملک کی سمجھائی تھی مشرق اور مغرب اور مختلف جزائر اور دیگر شہروں میں جا کر خلق خدا کو خدا کی دعوت پہنچاتا یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جا پہنچے تو وہاں جا کر ایک شہر ایسا بھی پایا کہ اس کی چار دیواری روئیں کی تھی اور اس کے اندر کسی طرف سے جانے کے واسطے کوئی راہ نہ تھی آپ کا تمام لشکر اس کے ارد گرد پڑا رہا اور آپس میں کہتے ہیں کہ آفراس کے اندر کس طرح جائیں۔ بہر تقدیر کسی حکمت عملی سے رہی اور کمند دیوار پر ڈال کر ایک آدمی کو اس پار کر دیا اور وہ پھرنے آیا، کچھ دیر کے بعد اسی حکمت عملی سے دوسرے آدمی کو بھی دیوار پر چڑھایا اور اس سے کہا کہ شاید اس طرف بہشت یا اور کچھ ہو گا لہذا تم آگے مت جانا اور پھر کہ ہم کو خبر دو تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کیا ہے لیکن باوجود اس تاکید کے وہ بھی پھر واپس نہ آیا۔ یہ کیفیت حال دیکھ کر اسکندر ذوالقرنین نے سمجھا کہ میں جس کو بھی بھیجوں گا وہ واپس نہیں آوے گا۔ پس ملک کی حد بنا کر واپس مشرق کی طرف چل دیئے، چلتے چلتے ایک جزیرے میں جا پہنچے وہاں بھی ایک شہر آباد دیکھا لیکن بغیر کشتی کے وہاں جانا بالکل محال تھا اور اس جگہ پر داننا غلندہ اور حکم تھے۔ جب ان لوگوں کو جو اس شہر میں آباد تھے اسکندر ذوالقرنین کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں

نے تمام کشتیاں جزیرے سے چھپا دیں۔ غرض سکندر ذوالقرنین، مع اپنے لشکر کے بلب دریا چند
 روز تک ٹھہرے اور یہ سوچتے رہے کہ کسی حکمت عملی سے دریا عبور کر کے اس جزیرے میں جاتریں
 وہاں کے جو لوگ ان کو ملتے وہ اپنے جمعی اعتبار سے بہت ہی ڈبلے تھے ان سے پوچھتے کہ تمہارے
 ڈبلا پتلا ہونے کا کیا سبب ہے اس کے جواب میں ان لوگوں نے سکندر سے کہا کہ یہ ہمارے شہر
 کی غذا اور آب و ہوا کا اثر ہے۔ ہم لوگ بڑی حکمت سے غذا کھاتے ہیں، چنانچہ اس کی خاصیت
 بھی یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پس ان لوگوں نے سکندر ذوالقرنین کی دعوت طعام کی اور
 اس ضیافت میں اپنی حکمت عملی سے غذا تیار کر کے ایک خوان، جو اسرات سجا کر سکندر ذوالقرنین
 کے سامنے لا رکھا اور پھر وہ سب کے سب الگ ہو گئے اور سکندر ذوالقرنین سے کہنے لگے کہ آپ
 تناول کیجئے سکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی آویں اور ہمارے ساتھ شامل ہو
 کر کھانا تناول کریں اور سکندر ذوالقرنین نے ان سے یہ بھی کہا کہ جھٹی یہ تو ہماری غذا نہیں ہے
 اور ہم یہ غذا کس طرح سے کھاویں اس کے جواب میں ان لوگوں نے سکندر ذوالقرنین سے کہا کہ تم اسی
 لئے یہاں تک آئے ہو اور تمہاری یہاں تک آنے کی کیا غرض و مقصود ہے آپ کو معلوم ہونا
 چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہم لوگوں نے پیش کی ہیں وہ بھوک کو نفع دیتی ہیں، پھر آپ
 ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جب یہ باتیں ذوالقرنین نے ان لوگوں سے سنیں تو پھر وہاں سے ہندوستان
 کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنا ایک قاصد بھی شاہ ہند کے پاس روانہ کر دیا کہ وہاں جا کر کہو کہ ہمارے
 ساتھ بہت لشکر بھی ہے اور ہم یہ بھی چاہتے کہ تمہارا ملک برہانہ ہووے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ
 تم سے لڑائی کریں پس تمہیں لازم ہے کہ اس خبر کو پاتے ہی سب کے سب ہماری اطاعت میں آجاؤ
 اور جو خراج ہم مقرر کریں اس کو قبول کرو۔ چنانچہ سکندر ذوالقرنین کے قاصد نے یہ باتیں شاہ
 ہند سے جا کر کہیں کہ آپ ہمارے شہنشاہ کا شاہانہ استقبال کے ساتھ بجالائے یہ سن کر شاہ ہند نے
 نہایت تعظیم و تکریم سے ایک ایلیچی معہ تحفہ دہرایا دے کر سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجا جب
 شاہ ہند کا ایلیچی سکندر ذوالقرنین کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ ہند کا بھیجا ہوا تحفہ دہرایا اور
 نذرانے ان کے سامنے پیش کئے تو سکندر ذوالقرنین نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس ایلیچی
 کو لے جاؤ اور اچھی طرح رہنے کو جگہ دو اور تین دن کے بعد اس ایلیچی کو میرے پاس حاضر کرنا۔
 چنانچہ حسب الحکم ملازموں نے اس کو لے جا کر اچھی طرح سے ایک جگہ پر رکھا اور تین دن کے بعد
 حضرت سکندر ذوالقرنین کی خدمت میں حاضر کیا سکندر ذوالقرنین نے اس کو دیکھ کر اپنا سر

نچا کیا اور اس اپنی نے اسکندر ذوالقرنین کو دیکھ کر اپنی ایک انگلی ناک کے تھنہ میں ڈال کر پھر
 نکال لی اور بغیر کہے کسی سے اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خاص لوگوں نے یہ حال دیکھ کر اسکندر ذوالقرنین
 سے عرض کی اسے بادشاہ آپ نے شاہ ہند کے اپنی کو دیکھ کر اپنا سر نچا کیا اور یہ بات سب کو
 اچھی طرح معلوم ہے کہ بے قد کا آدمی احمق اور بوقوت ہوتا ہے اور یہ مثل مشہور ہے کہ کُلُّ طَوِيلٍ
 اَحْمَقُ اِلَّا عَمْرًا وَكُلُّ قَصِيْدٍ فِتْنَةٌ اِلَّا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ یعنی دیکھا گیا ہے کہ آدمی دراز قدوں
 زیادہ تر احمق ہوتے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر پتہ قد
 آدمی فتنہ ہوتا ہے مگر حضرت علیؑ نہیں ہیں۔ اور اس نے جو اپنی ناک کے سوراخ پر انگلی رکھی تھی کہ یہ
 میرا طالع اسکندر کی دیکھنے پھر جاؤ اور اس کو میرے پاس لے آؤ اور اس کو کھانا کھاؤ وہ بزرگ
 آدمی ہے۔ پھر اس کو واپس لے آئے اور اس کے کھانے کے واسطے صرف روٹی اور گھی بھیج دیا تاکہ
 اس کی عقل کی آزمائش ہو جائے چنانچہ وہ روٹی اور گھی کھا گیا اور اس نے ایک سوئی میں رکھ کر اسکندر
 ذوالقرنین نے اسی سوئی کو پیاہ رنگ کر کے اسی روٹی اور گھی پر رکھ کر پھر اس کے پاس بھیج دی اور
 اس نے پھر ایک ٹکڑا آئینہ کا اس پر رکھ کر اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اسے جہاں پناہ
 اس میں کیا حکمت ہے بادشاہ بولے کہ روٹی اور گھی دینے کا مجھ کو یہ مطلب تھا کہ مرد علم و حکمت میں
 خوب ہوتے ہیں جیسے روٹی ساتھ گھی کے اور جو اس نے روٹی اور گھی پر سوئی رکھ کر بھیجی تھی یہ
 سمجھ کر کہ وہ علم و حکمت میں خوب ہے۔ پھر میں نے اس کی سوئی کو پیاہ رنگ کر کے جو بھیجا تھا اس کا
 یہ مطلب تھا کہ اس کا علم اور حکمت مانند آئینہ کے صاف روشن ہے اور ہم نے اس سے معلوم کر
 لیا کہ بے آدمی حقیقتاً بوقوت ہوتے ہیں۔ پس ہم دونوں میں یہی اشارات میں گفتگو جاری تھی۔
 پھر ہند سے ذوالقرنین مشرق کو جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں پہنچے حق تعالیٰ فرماتا
 ہے۔ شَعْرًا اَبْتَعَ سَبِيْكَاهُ حَتّٰى اِذَا اَبْلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى
 قَوْمٍ نَمَّ مَجْعَلِيٍّ كَمَهُمْ مِنْ دُوْرَتِهَا مِيْسْتَرًا۔ پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے یعنی سفر کا
 سرا بنام کیا یہاں تک پہنچا ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ پر تو اس نے پایا کہ سورج نکلتا ہے اور
 اسی جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا کہ نہ ان کے لئے کوئی گھر ہے اور نہ سایہ اور نہ کپڑا اور وہ لوگ
 بیابان ریگستان میں رہتے تھے۔ کیونکہ ریگستان میں گھر وغیرہ نہیں بن سکتے اور نہ روٹی کی کھیتی ہو
 سکتی ہے کہ اس سے کپڑا بناویں اور دیاں جاڑا بہت ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنے کھانے کو دوسرے
 شہروں سے لاکر کھاتے ہیں اور زن و مرد سب ننگے رہتے ہیں اور مثال جانوروں کے جماع وغیرہ

کی کوئی رہتے ہیں اور جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے بدن میں قوت آتی ہے اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو سخت سردی پڑتی ہے یہ دیکھنے کے بعد پھر اسکندر ذوالقرنین دوسری جگہ پر جا پہنچے۔ چنانچہ اندر ب العزت بایل الفاظ ارشاد فرماتا ہے قَوْلُهُ لَقَدْ لَقِيتُ نَارًا تَبْتَغِي سُبْحَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ دَحْدًا مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكْفُرُونَ بِفَقَهُمْ قَوْلًا - ترجمہ: پھر تیجھے چلا اسکندر ذوالقرنین اور راہ کے یہاں تک کہ جب پہنچا میں ان دو دیواروں کے تو پایا اس نے ان دیواروں کے پاس ایک قوم کو جو ان دیواروں کے نزدیک تھی اور وہ یہ بات نہ سمجھتے تھے۔ خاندانہ حد مشرق میں دو پہاڑ بلند ہیں اور درمیان ان دونوں پہاڑوں کے زاہد و حکیم بہت تھے اور وہ ایک دوسرے کی بولی کو نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ان کے درمیان دو پہاڑ حائل تھے اور وہی دو پہاڑ یا جوج ماجوج کے ملک کے درمیان اٹکاؤ ہیں لیکن درمیان میں کچھ کھلا تھا۔ چنانچہ اس راہ سے یا جوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر کے چلے جاتے پس ذوالقرنین نے وہاں کے زاہدوں اور حکیموں کو وعظ و نصیحت کی اور خداوند قادر کی راہ بتائی اسی کے بعد وہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے وہ دونوں

ہنایت ہی عظیم الشان پہاڑ تھے جانے کی راہ اس میں کسی طرف نہ تھی اور اس میں آدمی دو گروہ ان کی تعداد بحد و بیشمار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا اور ان کو قوم یا جوج ماجوج کہتے ہیں اور ایک اولاد یا جوج کی ایک پہاڑ میں رہتی ہے اور دوسرے پہاڑ میں اولاد ماجوج کہ رہتی ہے اور یہ دونوں بھائی یافت بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ لوگ طوفان نوح کے بعد وہاں رہ گئے اور نسل ان کی بحد ہے اور بصورت آدمی ہیں لیکن قد و قامت کم و بیش ہیں۔ یعنی بعض تو دراز قد اور بعض ایک گز اور بعض ایک باشت کے ہیں اور کان انکے اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پر ٹکتے ہیں اور جب وہ لوگ سوتے ہیں تو اپنا ایک کان زمین پر پکھالتے ہیں اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھتے ہیں اور مثل حیوانات کے ایک سے ایک جماع کرتا ہے۔ ان میں کچھ شر و جیا نہیں ہے اور مثل بہائم کے بول و براد کرتے ہیں اور ان کے کھیتوں میں سوائے تل کے اور دوسری کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ لہذا اسی کو وہ روزانہ کھاتے ہیں اور کسی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے یہاں تک کہ وہ خدا کو بھی نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں اور وہ مرتے بھی نہیں ہیں کافی عرصہ سے زندہ ہیں اور اپنی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ پس وہ پہاڑ سے نکل کر ان زاہدوں اور حکیموں پر آکر ظلم کیا کرتے اور جس کو

بھی پاتے مار ڈالتے کھیت و مویشی انکے لوٹ مار کر کھا جاتے اور وہ اس قوم وحشی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب اسکندر ذوالقرنین وہاں تشریف لے لئے تو ان زابدوں زور حکیموں پر بڑی نوازش فرمائی چنانچہ ان سب نے مل کر اسکندر ذوالقرنین سے عرض کیا کہ یا جوج ماجوج کے ظلم سے ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے اور ان پر جو جواحوال گزے تھے وہ سب ذوالقرنین کے سامنے بیان کئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنِ يَأْتِكُمْ فَأُولَٰئِكَ مَخْلُوعَاتُ اللَّهِ أَلَمْ أُحْذِرْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَجْرَأُوا وَرَبُّكَ أَشَدُّ حَقًّا لَقَدْ جَاءُواكَ خِثَابًا وَخِلَابًا وَمُهَاجِرَاتٍ فَرَأَوْكَ مُدْبِرًا مُّجْرِبًا فَجَاءُواكِ لَئِن لَّمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكَ أَوْ حِيلَ عَلَيْهِمْ كَفَرُوا وَصَدَّقُوا بِالْظُلْمِ لَلْأُولَٰئِكَ نُفِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِأَنفُسِهِمْ أَشَدًّا مُّجْرِبِينَ يَوْمَ تَأْتِي سَاعَاتُكَ الَّتِي لَا تَمُورُ فِيهَا كِتَابٌ يَكْتُبُ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ أَخَذَ مَنَّا آلَ فِرْعَوْنَ حَصْرًا فَاسْتَكْبَرُوا فَهِيَ آخِرَةُ الْيَوْمِ الَّذِي نَجَبْنَاهُمْ أَتَىٰ رَبَّهُمْ نَارٌ لَّهُمْ هَامِيمَةٌ كَذُوبَةٌ أَفَرَأَوْكَ إِذَا أَنشَأَ عِزًّا أَمْضَىٰ إِلَيْكَ وَجَدَهَا لِذِي الْقُرْنَيْنِ مُرْتَدًّا وَقَدِ احْتَمَمَتْهَا فَذُكِّرْتَهَا بَلْ كَذَّبَتْ لَدُنَّا آلَ فِرْعَوْنَ وَكَانَ عُذْرُهُمْ ذُرِّيَةً قَدْ أَفْرَأَتْ وَإِذِ ابْنُ فِرْعَوْنَ ظَهَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَاسْتَفْتَىٰ أَنِ إِنِّي لَأَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَجَاءَهُ بِالسُّورِ وَكَانَ صِدْقًا فَكَذَّبْتَهُ لَقَدْ جَاءَهُ رَبُّهُ بِالْحَقِّ لِيُحْذِرَهُ يَوْمَ الْقِيَامِ وَكَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِثٍ أَسْلَمَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَأْتِيهِمْ لِيُخْبِرَهُمْ بِمَا يَكْفُرُونَ فَجَاءَهُ بِالسُّورِ وَكَانَ صِدْقًا فَكَذَّبْتَهُ لَقَدْ جَاءَهُ رَبُّهُ بِالْحَقِّ لِيُحْذِرَهُ يَوْمَ الْقِيَامِ وَكَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِثٍ أَسْلَمَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَأْتِيهِمْ لِيُخْبِرَهُمْ بِمَا يَكْفُرُونَ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا کہ وہ دیوار ایسی ہے کہ جیسا چارخانہ لنگی
 آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ تو بیچ کہتا ہے کیونکہ اس دیوار میں لوبے کے تختے لگے ہیں اور ان کے
 دیواروں میں تانبہ چھلا کر بھر دیا گیا ہے اس لئے وہ چارخانے کی شکل بن گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا جُوجُ وَ مَا جُوجُ وَ هَضْمِيْنَ كَجَلِّ حَدَابِ
 يَنْسِلُونَ ۝۔ یہاں تک کہ کھولے جاویں گے یا جوج اور ما جوج اور وہ ہرا و پچان سے دوڑتے
 ہوں گے یعنی جب روز قیامت نزدیک آوے گا یا جوج ما جوج سد سکندری سے نکلیں گے
 اور تمام روئے زمین پر منتشر ہوں گے جہاں جہاں جو چیزیں پاویں گے کھا جائیں گے اور پھر خدا
 کے حکم سے صور بھونکا جائے گا اس کی آواز سے ساری مخلوق مری جاوے گی۔ اور ایک روایت حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ سے ہے کہ ہر روز یا جوج اور ما جوج کو کشتی کرتے ہیں کہ سد سکندی کو توڑ کر
 باہر آویں لیکن حکم خدا وہ توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چلٹے ہیں مثل پوست
 بیضہ کے کھداتے ہیں۔ بس تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب
 توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے۔ مگر وہ انشاء اللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے
 اس لئے وہ توڑ نہیں سکتے۔ بس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے۔ اور جب ان کا شروع ہوگا
 قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک بڑا مسلمان پیدا ہوگا اور جب وہ بڑا ہوگا تو انہیں لوگوں کے
 ساتھ مل کر بسم اللہ کر کے دیوار چاٹنا شروع کرے گا اور پھر شام کو انشاء اللہ پڑھے گا۔ کہ کل
 انشاء اللہ اس کو توڑ ڈالوں گا۔ جب وہ خدا کے حکم سے سد سکندری ٹوٹے گی۔ اور پھر اس کے بعد
 سب قوم اس دیوار سے باہر نکل آوے گی۔ روایت ہے کہ طول اس دیوار کا چھتیس کوس کی راہ ہے
 اور عرض اس کا تین کوس کی راہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس دیوار کا طول تین کوس کی راہ ہے اور
 عرض اس دیوار کا تین کوس کی راہ ہے اور اپنی ستر کڑ اور یہ بھی خبر ہے کہ جب وہ دیوار توڑ کر
 باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے شام میں آئیں گے اس کے بعد بلخ میں اپنی اسکندر ذوالقرنین
 نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا موجودہ علماء و حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب
 میں دیکھا ہے کہ درازی عمر کس چیز کے سبب ہوتی ہے ان میں سے ایک حکیم صاحب نے اسکندر
 ذوالقرنین سے عرض کی کہ اے جہاں پناہ میں نے حضرت آدم کے وصیت نامہ میں دیکھا ہے کہ حق
 تعالیٰ نے ایک چشمہ آپ جہات ظلمات میں کوہ قاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ بانی اس کا دودھ
 سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے نرم اور

شک سے زیادہ خوشنودار ہے جو اسے پیے گا تو اس کو موت نہ آدے گا اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا اور اس کا نام بھی آپ حیات ہے۔ یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا کہ اس چشمہ آب حیات کا پانی پینا چاہیے اور علماؤں سے بھی اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس کوہ قات کے ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے اور ہم تو یہاں کے قطب ہیں۔ دنیا کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں۔ اس لئے ہم نہیں جا سکتے۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور تم لوگ یہ بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کونسا جانور چست و چالاک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑی کہ جس نے ابھی تک بچ نہ جنا ہو تو وہ نہایت چست و چالاک ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر مخصوص کر لیں اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا اور ان سے کہا کہ جب ہم اس کوہ قات کے ظلمات میں جا پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو نہ پاوے گا تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت حکما نے کہا کہ لعل و گوہر شاہسوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے جب الہی کوئی نوبت آوے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے پھر ایک گویا شہر چرخ خزانہ عامر سے نکال کر حضرت خضر کے حوالے کیا اور تحت و تاج اور سلطنت ملازموں سے اپنے ایک دانا عقلمند کے سپرد کیا اور بارہ برس کے وعدہ پر رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا گوشہ سرا انجام سائے کر ظلمات کوہ قات کی طرف آپ حیات کی تلاش میں روانہ ہو گئے راہ بھول کر ایک برس مسلسل گھومتے رہے اور حضرت خضر بھی شکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے اس وقت اس گویا شہر چرخ کو حبیب سے نکال کر زمیں پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چشمہ آب حیات کا ان کو ملا پھر حضرت خضر نے اس میں منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ پس اس وجہ سے حضرت خضر کی عمر دراز ہوئی پھر وہاں سے مراجعت کر کے دوسری تاریکی میں آ پڑے۔ پھر اس گویا شہر چرخ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا اس کی وجہ سے سب میں اُجالا ہو گیا۔ اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے سب حضرت کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ اور اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو میں آگے چل کر کچھ تماشہ عجیب و غریب دیکھ آؤں یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے ایک بالا خانہ نظر آیا چار دیواری اس کی ہوا پر معلق ہے اور اس میں مریض پرندے بہت دیکھے مرغوں نے

ذوالقرنین نے کہا کہ میں آپ حیات پینے کو آیا ہوں پھر ایک مرغ جو ان میں شاہ تھا وہ حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین اب وہ وقت آپہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنیں گے اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے ہو سب عیش نشاٹ میں مصروف رہیں گے یہ کہہ کر پھر وہ اسی بالاخانہ کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالاخانہ تمام کا تمام جو اہرات کا بن گیا۔ پھر کہا اے ذوالقرنین اب وقت آگیا ہے کہ جنگ و رباب اور بربط اور طنبورہ بجئے گا۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالاخانہ نعل و ماتحت کا بن گیا ہے پھر تو یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئے اس مرغ نے پھر حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہا کہ اے مرد مجاہد تو مت خوف نہ کر یہ تمام کارخانہ ابلیس لعین کا ہے۔ اس مرغ نے پھر کہا کہ اب فنا ظاہر ہو گا مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت لا ایلہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں اس کے جواب میں حضرت اسکندر نے کہا بجا ہے پھر وہ مرغ اس جگہ سے دوسری جگہ پر چلا گیا ایک ایسی جگہ پر جہاں آج بھی آج ہے کہ اس مرغ نے کہا کہ تم اس بالاخانہ پر جا کر دیکھو وہاں کیا چیز ہے۔ تب ذوالقرنین وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پاؤں پر کھڑا اپنے منہ میں صورتوں کے ہونے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل تھے۔ ذوالقرنین نے اپنی سلطنت اور روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑے کیا وہ تجھ کو بس نہ تھا آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں آپ حیات کو پینے آیا ہوں تاکہ آپ حیات پینے سے زندگی زیادہ ہو اور خدا کی عبادت زیادہ کر دوں اس بات کو سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اسکندر ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثل بی کے سر کے برابر دیا اور کہا کہ میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا تھا اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ اتنے زیادہ عمر لیں مت بنو یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین وہاں آپ حیات نہ پا کر اپنے لشکر میں آگے پھر سب اکٹھے ہو کر چلے آتے تھے اندھیری رات میں ٹکڑے ٹکڑے سنگ ریزوں کے ٹھوڑوں کے پیر کے تلمے مثال لعل شب چراغ کے چمکتے دیکھ کر بوجھا کہ یہ سب کیا چیز ہے جو حکما اس وقت ان کے ہمراہ تھے وہ بوسے یہ پتھر ہیں جو شخص بھی اس کو اٹھائے گا وہ بچھٹائے گا اور جو شخص اس کو نہ اٹھائے گا تو وہ بھی پچھٹائے گا آخر کسی نے ان کو چین لیا اور کسی نے ان کو نہ چننا جب ظلمات سے نکل آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جن لوگوں کے چن لئے تھے سب وہ تمام جو اہرات

نعل اور زبرجد اور زبرجد اور یا قوت اور فروزہ اور زمرہ میں یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت پچھتا تے
 لگے جنہوں نے ان کو نہ چنا تھا۔ اور جن لوگوں نے ان کو بچن لیا تھا وہ اس لئے پچھتا تے کہ کیوں
 نہیں زیادہ چنے۔ اسکندر ذوالقرنین نے اپنے حکماء سے دریافت کیا کہ اس میں کیا اسرار ہے وہ
 بولے کہ اب سب کے پتھر تار کو اکٹھے پلے میں ایک مشت خاک رکھ دو جب ایک مشت خاک کو
 پلے میں رکھا تو دونوں پلے ترازو کے برابر آئے۔ دونوں طرف برابر رہے پھر پوچھا کہ اس میں
 کیا بھید ہے حکماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی ہے تو بھی
 تم کو سیری نہیں مگر تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پیٹ اور کھوپری کی خواہش ایک مٹھی خاک
 سے بھرے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ جب اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات سنی تب تمام لشکر
 کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور سب اپنے اپنے ملک میں واپس چلے گئے اور اسکندر ذوالقرنین
 یہیں رہ گئے اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے اور پھر چند روز بعد ہی انتقال کیا اور پھر
 مرنے کے تابوت میں وہیں مدفون ہوئے اور یہ بھی بذریعہ ایک خمر کے معلوم ہوتا ہے کہ
 ذوالقرنین نے اپنے مرنے کے وقت اپنی مال کو وصیت کی تھی کہ بعد موت کے میری روح کو
 ثواب بخشو اور تیمم، اسیر، غریب، مسکین، یتیم، بیسک محتاجوں کو خوب کھانا کھلانا اور ان
 سے میری مغفرت کی دعا کرانا جب ان کی مال کو یہ خمر پہنچی تو وہ زار زار روتے لگیں اور بعد
 مرنے کے ان کی وصیت کو پورے طور سے بجالائیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 احوال اسکندر ذوالقرنین کو اور سوالات مذکورہ سے ابو جہل اور مکے کے کافروں کو اور وہاں کے
 یہودیوں کو جواب دیا سب کافرن کو متحیر، موئے اور بولے یہ سچ کہتے ہیں اور بالکل توہات اور
 زیور کے یہ جوابات بتاتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے پس سوائے ابو جہل کے اور
 سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ابو جہل سے حضرت
 نے فرمایا کہ اب تم کو معلوم ہوا یا اب بھی شک میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں یا نہیں۔
 اور اگر تم کو کچھ اب بھی شک ہو تو پھر پلو پھو تب اس لعین نے کہا کہ تم تو ایک ساحر ہو اور دوسرا
 ساحر مونسے تھا۔ ہرگز تمہارے دین میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان
 کافروں کے بارے میں۔ **فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا آؤْتِي
 مِثْلَ مَا آؤْتِي مُوسَىٰ**۔ ترجمہ۔ پس جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے
 کہا انہوں نے۔ کیوں نہ ملی بیغبری جیسی ملی تھی مونسے کو یہ بات کہی اور راہ ضلالت اختیار

کی۔ پس اسے میرے محترم بھائیوں مومنو! ہم سب کو لازم ہے کہ خدا اور رسول کی رضامندی پر راضی بنیں اور ان کے جملہ احکام شرع کو بجالائیں اور کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین تم آمین۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فرعون علیہ اللعنة

بعض تواریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام مصعب اور دادا کا نام ملک ریان تھا اور بعض مورخ نے لکھا ہے کہ فرعون کا نام مصعب بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً چار سو برس کی ہوئی اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا۔ اور نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا اور نہ کوئی غنیمت و دشمن اس پر غالب ہوا۔ اور فرعون بھی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حَقَّالْآخِرُ بِكُمْ الْآخِرُ مَا أَجْرُكَ مَا لَمْ يَأْتِكُمْ مَعَهُ الْكُفْرُ وَالْكَافِرُونَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِآيَاتِنَا إِذْ جَاءَهُمْ بَنَاتُهُمْ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ مَعَالِيقُ الْحَبْلِ۔

پس پکڑو اس کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں پھیلی اور پہلی کی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا اول اچھا تھا اس ملعون نے جب دعویٰ خدائی کا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی بلاؤں سے نواز کر تار کیا اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا وہ سیر و سیاحت کو نکلا۔ بیوٹخنہ ایک شہر کا نام ہے سیر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس جگہ ہامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ ہامان اسی جگہ کا باشندہ تھا جب آپس میں ربط و ضبط قائم ہوا تو ہامان نے فرعون سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کر دوں گا چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے اور وہ ایام خرپڑے پھل کے تھے ان دونوں نے حکمت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا خرپڑے والے نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے یہاں خرپڑے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کر دو گے تو پھر ہم تم دونوں کو کھانے کو دیں گے یہ سن کر فرعون نے ہامان سے کہا کہ تم ہمیں رہو اور میں یہ مال خرپڑے لے کر بازار جاتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا یعنی فرعون خرپڑے لے کر بیچنے کو شہر گیا اور دوکانداروں سے اس نے کہا ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور نقد میں پھل و ترکاری نہیں خریدتے اور جس کو جو قیمت

ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتے ہیں ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصہ تک سوچتا رہا اور پھر وہ خد پزیر سے اسی وعدہ پر بیچ کر واپس اسی جگہ آ گیا اور مالک خد پزیر سے جا کر کہا کہ یہ کام اچھا نہیں اتنا بول کر وہ وہاں سے چھیل دیا اور پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی کہ میں بعید الوطن عزیز ہوں۔ اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ فدوی کو کوئی کام اس شہر مصر میں جہاں پناہ کی سرکار عالی میں موافق گزارے گئے ہو تو غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز فرمائیں۔ اس بد بخت کا نصیب بیدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہوا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ بولا داروغی مقبرہ اسی شہر کی چاہتا ہوں کہ بے اجازت میری کوئی وہاں مردہ نہ گاڑنے پائے یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو کورستان کی داروغی دے دی تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا۔ قضا الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی۔ اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے دارثول سے ایک ایک درم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقہ سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپے سے مقربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی داروغائی لے کر اور شاہ مصر اپنے جہل سے اس کو بیار کر تا اور خلعت بھی دیتا اتفاقاً قضائے الہی سے وزیر مصر مر گیا اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے ہامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں، تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے یہ سن کر ہامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر کے سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ فرعون نے کہا ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے کیونکہ تمام لوگ تو اس وقت یوسف یعقوب کے دین پر مستحکم ہیں کس طرح ان کو اپنا بناؤں آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ ہامان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر یہ تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کر کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائش پوری کی جائیں اور فدوی اپنے طرف سے سرکاری خزانہ میں ایک سال کا جو کچھ خرچ ہو گا دے گا بادشاہ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ اچھا میں اجازت دیتا ہوں کہ اس سال کا جزیرہ رعیتوں پر تیری خاطر معاف کیا فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکار عالی کا خزانہ کسی طرح کم ہو پس بادشاہ نادان اور کم ہمت تھا۔ فرعون کی خاطر رعیتوں سے ایک سال کا جزیرہ نہ لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کر دو۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو ملا کر پوچھا کہ مصر کا جزیرہ

رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے وہ سب بولے کہ اتنا ہوتا ہے پس فرعون نے اسی قدر روپیہ اپنی
 طرف سے ہامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیا اور اس کے بعد پورے شہر میں منادی
 کرادی کہ اس سال جزیرہ رعیتوں پر معاف کیا اور ہم نے اپنی طرف سے جزیرہ بادشاہ سرکار میں داخل
 کر دیا اور مزید دو برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں عرض کی سو وہ بھی قبول ہوئی
 پھر تو تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی
 ترقی کے واسطے دعائیں کیں اور سب کے سب خدا کا شکر بجلائے پس تین سال کا جزیرہ موقوف ہوئے
 سے مصر کی رعایا کو فراغت ہو گئی اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا اور کوئی بھی
 اس کا دالی وارث نہ تھا جو اس کے تخت شاہی پر بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد تین دن
 تک تعزیت کی گئی۔ اور جو تھے روز تمام شہر کے لوگ قاضی مفتی عالم فاضل امراء غزباجھوٹے بڑے
 سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کسی کو بٹھانا چاہیے کیونکہ ملک
 بے سر بننا ہے جو کہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ تین برس کا جزیرہ مصر کا معاف کیا تھا
 اور اپنے پاس سے تین برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا اس لئے سب اس سے خوش تھے۔ یہ خبر خواہی
 دیکھ کر سمجھوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور
 پھر اس ہامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا اس کے بعد کہنے لگے کہ اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ
 میں آیا ہے یعنی ہم اس ملک کے بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں ہامان سے اس نے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر
 کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہے اور مجھ ہی کو معبود جانے۔ اور
 میری پرستش کرے۔ اس کے مقرر کردہ وزیر ہامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں
 یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء و فضلا جتنے ہیں، ہمارے قلمرو میں درس تدریس نہ دینے پائیں
 اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیں۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے
 بے خبر ہوتے رہیں گے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے۔
 اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ہامان کی سن کر فرعون ملعون نے
 اپنے ملک مصر میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ بند کر دیں ورنہ ہم ان سب کو قتل کرادیں گے فرعون بادشاہ کا
 یہ حکم سن کر اور اس کے قتل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور
 بالکل کھنسا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے
 حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گئے اور وہ مثل چوپائے و حوش کے ہو گئے اس کے بعد فرعون نے

حکم کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کریں پس ایک قوم قبلی جو کثیر تعداد میں تھی اس نے بت پرستی شروع کر دی اور یہ سلسلہ تقریباً بیس برس تک رہا پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کر دیا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کو قرآن مجید نے نقل فرمایا۔

فَحَسَدَ قَوْمٌ نَّشَادِيهِ هُ فَقَالَ اٰخٰذَ بَسْمٰكُمَا لَعْنٰتِي هُ ترجمہ۔ پس لوگوں کو جمع کیا پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند اور اس حالت پر چالیس برس گزرے۔ ان کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اسی قوم قبلی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون ملعون بہت نوازش کرتا اور دوسری قوم جو بنی اسرائیل تھی اس کو خدا نہیں مانتی تھی اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا کیوں کہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی۔ اور بعض جزیرہ کے فرعون ملعون ان سے قبیلوں کی خدمت کروانا اور ان کو ہر وقت تحقیر کرتا اور جن کاموں کو وہ ناچیز سمجھتا تھا مثل محنت اور بوجھ اٹھانا لکڑی چیرنا اور چنار دلنا اور گھاس کاٹنا۔ بھاڑ و کشتی کرنا۔ اور گوہر چھیننا علیٰ ہذا القیاس ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا۔ اور کچھ لوگوں کو بنی اسرائیل قوم میں سے مختلف شہروں اور دیہات میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا۔ اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا۔ غرض کہ بنی اسرائیل قوم کی عزت و وقار نہیں کرتا تھا۔ مگر صرف ایک عورت کہ جن کا نام آسیہ تھا وہ بنی اسرائیل قوم سے تھیں اور بڑی ہی حسین و جمیل تھیں لیکن وہ اپنے اباؤ اجداد کے دین پر ہی تھیں اور ان کے خصال بھی شہرہ آفاق تھے اس وجہ سے فرعون ملعون ان کو اپنے نکاح میں لایا تھا۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون نے ان کو پرستندہ اپنا جان کر بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ مگر وہ اپنے دین میں بہت مضبوط تھیں اور وہ خلاف شرع نہیں چلتی تھیں اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ عورتوں کی پاک اور بزرگی بیان فرمائی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ کی ماں، دوسری مریم بنت عمران۔ اور تیسری خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچویں بی بی آسیہ رضی اللہ عنہم کیوں کہ یہ سب صالحہ تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل تیرہ برس تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت میں گرفتار رہی زن و مرد اس قوم کی خدمت کرتے اور ان کی بار برداری میں لگے رہتے اور صبر کرتے تھے۔ لیکن باوجود اتنی سخت تکلیف کے وہ اپنے آباء دین اسلام سے نہیں پھرے اسی حالت میں وہ شب و روز استغفار اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن فرعون ملعون نے دریا نئے نیل کے کنارے مجلس جشن کی تھی تمام لوگ ہنا کو وہاں گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے

کا سامان بھی لے گئے اور وہاں جا کر خوشیاں منائیں اور پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا تو لے تلوں
 دَنَاذِي فِرْعَوْنَ فِي تَوْبِهِ قَالَ يُقَوْمُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَحَلِي هَذَا الْكَهَادُ
 تَجْرِي مِنِّي تَحْتِي أَفَلَا تَبْصُرُونَ هَذَا مَا نَحْنُ مِن هَذَا السِّدِّي
 هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَاذُ يَسِينُ ۝ ترجمہ ! اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں بولا
 اے قوم میری بھلا مجھ کو کیا نہیں ہے حکومت مصر کی اور یہ نہر میں چلتی ہیں نیچے میرے کیا تم نہیں
 دیکھتے بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے کہ جس کو عزت نہیں ہے اور وہ صاف نہیں بول سکتا ہے۔ اتنی
 بات فرعون نے حضرت موسے کی شان میں تکبری سے کہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے اس بات کو لوگوں
 نے مانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قولہ تعالیٰ فَاَسْتَحَفَّ فَوْمَهُ نَا طَاعُوهُ ۝ اِخْتِهَادُ
 كَانُوْهُ مَا ضَلُّوا سَبِيْلًا ۝ ترجمہ ! پھر عقل کھودی اپنی قوم کی پھر اسی کا کہا مانا تحقیق وہ لوگ
 تھے فاسق۔ پس چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو روزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملا دے
 اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چار سو برس کی عمر دی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے اور اپنے
 حقیقی معبود کی نافرمانی کرتا رہے۔ پھر ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے تو
 دریائے نیل کو سکھادیا اور اس میں کچھ بھی پانی باقی نہ رہا یہ دیکھ کر فرعون ملعون کی قوم نے کٹھے ہو کر کہا
 اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے تب جائیں گے کہ تو ہمارا رب سے۔ پس فرعون
 نے یہ بات سنی اور سنتے ہی سات لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر میدان سعید الاعلیٰ کی طرف نکل گیا اور
 ایک ایک منزل پر ایک ایک لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا اسی طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان
 میں جا کر ایک غار میں اندر گھسا اور گھوڑے کی باش کو گلے میں لپیٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا کر
 اور پھر یہ مناجات کی۔ الٰہی تو حتیٰ پر ہے اور میں باطل پر ہوں اور میرا رب بے نیاز و بے پردا ہے
 اور میں نے دنیا کو بعض آخرت کے اختیار کے اختیار کیا ہے میرے رب جو کچھ مجھ کو دینا ہے تو وہ مجھے دنیا
 کی زندگی میں ہی دیدے اور میں آخر میں نہیں چاہتا ہوں اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں
 میرے لئے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا و مناجات
 کی تو اسی وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا۔ اور فرعون سے کہنے لگا کہ
 میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں تم اس کا انصاف کرو یہ سن کر فرعون بولا تو یہاں کیوں
 آیا یہ بلکہ تو انصاف کی نہیں ہے کل دربار میں آنا وہاں میں اس کا انصاف کروں گا اور اس وقت
 تو یہاں سے چلا جا۔ پھر وہ بولا کہ تم ہمارا انصاف یہیں کرو اور بغیر انصاف کرائے ہوئے ہم یہاں سے

نہیں جائیں گے چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر دریا سے نیل کا پانی جاری ہو گیا نیل پھر بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت خوشی محسوس کی اور اسی خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ اسے نوجوان تم کیا چاہتے ہو۔ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا کہ جو بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس بندہ کی کیا سزا ہے؟ فرعون نے جواب دیا کہ اس بندہ کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریا سے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا کہ بہت اچھا، آپ اس کو مجھے کر دے دیں تاکہ یادداشت رہے اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون بولا کہ بھائی یہاں تو دوات قلم و کاغذ نہیں میں کس طرح لکھوں، اس نوجوان نے کہا کہ میں دیتا ہوں تم لکھو۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خداوند کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم نہ مانے اور خداوند اس کو سب طرح سے آرام دے کھانے کو دے تو اس بندہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا سے نیل میں ڈبو کر مارا جائے، اس طرح یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی اور اس نے یہ نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا اور وہ نوجوان یہ ستاؤ لکھو اگر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ درحقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اے فرعون! دریا سے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا تو جب حکم کرے گا کہ پانی تو کھڑا رہے تو وہ پانی تیرے حکم سے کھڑا رہے گا اگر تو کہے گا کہ اے پانی تو جاری ہو جا تو وہ پانی جاری ہو جائے گا۔

الغرض۔ وہ تیرے فرمان کے باہر نہ ہوگا تب فرعون یہ سن کر اور خوش ہو کر اس میدان سعید الاغلی سے اپنے گھر پر چلا آیا اور دریا سے نیل کو جس طرف کہتا وہ اس طرف ہوتا جاتا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اے پانی تو ادب چاہو کہ چل تو پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو کر چلتا اگر وہ کہتا کہ اے پانی تو نیچے ہو کر چل تو وہ پانی نیچے ہو کر چلتا۔ چند روز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرعون ملعون کو ایسی کرامت دی تھی۔ باوجود اس کے وہ ملعون دعویٰ خدائی کا کرتا ہے کہ کہتا تھا اے لوگو! میں مصر کا مالک ہوں اور دریا سے نیل بھی میرے تابع ہے دیکھو تو پانی دریا سے نیل کا بالکل خشک ہو گیا تھا وہ میں نے ہی جاری کیا تمہارے پینے کے لئے اہل مصر نے جب یہ کرامت دیکھی فرعون سے تو تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اس کی ربوبیت اقرار کیا۔ بولے بیشک تو ہمارا پروردگار ہے۔ لعنتہ اللہ علیہم اجمعین اور ایک مکان بھی عالیشان لب گادریا بنا یا تھا اور اس کا

نام عین الشمس رکھا تھا ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس پر جاری کی تھی اور اس پر چار ستون سونے کے بنائے تھے اور وہ اس طرح بنائے تھے کہ حوض کے کنارے پر سے کوشک پر جا کر دوسری راہ نکل پڑتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے در درخت بھی اس حوض کے کنارے پر پیدا کئے تھے ایک درخت سے تو روغن زرد نکلتا تھا اور دوسرے درخت سے روغن سرخ وہ روغن جس بیماری کو دیا جاتا تھا کے فضل و کرم سے شفا پاتا اسی وجہ سے فرعون ملعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور خدا کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی ربوبیت کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا کہ دیکھو میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے چنانچہ مخلوق نے جب ان درختوں پر غور کیا اور اس میں فرعون کی کرامت ظاہر پائی جو وہ کہتا اسی وجہ سے خلق اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی اور تمام ملک میں گمراہی پھیل گئی۔

عروج بن عمق

تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض راولوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موٹی علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام مقدس کی تم کو دوں گا تم وہاں سے ظلم و تعدی کرنے والوں کو نکال دو اور درحقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا کنعان میں ہی تھا اب مصر میں ہوا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک شام میں خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو اور حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا اور وحی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ بارہ آدمی سردار بارہ قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کرنا کہ ہر ایک سبط اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر یہی تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو حکم ان پر کرے تو وہ اس پر عمل کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا**۔ اور اٹھائے ہم نے ان پر بارہ سردار۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظلم و جابر لوگوں کا حال معلوم کریں جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کئے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہہ میں مچھلی پکڑ لاتا تھا اور اپنی لمبائی کے سبب سے وہ سورج کی پیش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اور معارج النبوت میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا۔ اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی وہ ڈوب نہ سکتا تھا اتنا بڑا لمبا جوان تھا اور اس کی نترتین ہزار پانچ سو برس کی ہوتی

یعنی وہ شخص حضرت آدم کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ کے زمانے تک زندہ رہا اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا وہ بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تھیں اور اس کے باپ کا نام عنق تھا اور معارج البنوت میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام سجان تھا اور ماں کا نام عنق تھا وہ بنت آدم تھیں۔ پس عوج بن عنق نے حضرت موسیٰ کے بارہ سرداروں کو دیکھ کر پوچھا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے۔ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا اس کے بعد عوج بن عنق نے ان سب کو کپڑے اور اپنی ازار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ مثال چوٹی کے پیر سے لے کر اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو وہ ضعیف ناتوان ہیں خود ہی چلے جائیں گے تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کر میں گے پس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جباروں کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ان جباروں اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ سے وہاں کا حال بیان کیا اور نیز یہ بھی کہا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا اگر ایک دانہ نکالیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھا یا جائے اور پھل فروٹ جو وہاں سے لائے وہ حضرت موسیٰ کو دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے۔ پس دس آدمی سردار نقیب نے عہد شکنی کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا اور عوج بن عنق کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا لیکن دشخص یعنی یوشع اور کالوت نے عہد شکنی نہ کی۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو تم مت گھبراؤ اور نہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا ادھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قولہ تعالیٰ، قَالُوا جِئُوا نَسِيًّا وَفِيهَا كَوْمًا جَبَّارِيْنًا ۝ ترجمہ ہوئی قوم اے موسیٰ وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قامت والا اور وہ بڑا ہی زبردست ہے ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے، جب تک وہ وہاں سے نکل جاوے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی ان دونوں پر وہ یوشع بن نون اور کالوت بن قادہ تھے اور وہ دونوں بزرگ نیک طینت تھے ان بارہ

سرداروں میں بنی اسرائیل کے اور وہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد پیغمبر ہوئے وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو دروازے سے کیونکہ قوم جبار نہایت توی ہے اور خدا تم کو فتح دے گا اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کو ضرور ہلاک کرے گا جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا۔ اور تم لوگ تو اللہ پر یقین رکھتے ہو پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے اس پر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جاویں گے ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو ہمیں بیٹھ رہیں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سختی ہو کر اللہ تعالیٰ سے بددعا کی کہ تَعَالَىٰ قَالَ سَتَبَارِكُ لِي بِآيَاتِي لَعَلَّ الْكَافِرِينَ! بولے موسیٰ علیہ السلام اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی سو تو جہاد کرو اے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں، قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو و عدا لہ جبار سے ملک شام چھین لو پھر ہمیشہ کے لئے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے بارہ شخص کو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی خوبیاں بیان کیں اور وہاں مسلط تھے عدا لہ ان کی قوت زور بھی بیان کیا۔ پس حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس خوبی ملک کی بیانت کیجو اور قوت دشمن مت بیان کرنا۔ اس حکم پر صرف دو شخص قائم رہے اور دس شخص نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عدا لہ کا زور و قوت کو سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پھر لوٹ کر اپنے مہر جائیں۔ اس تقصیر کی وجہ سے چالیس برس شام کے فتح میں دیر لگی اور اس قدر مدت بنی اسرائیل جنگوں میں بھرتے رہے اور اس قرن کے لوگ سب مر گئے تھے مگر دو شخص جو حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ ہوئے یوشع اور کالوت ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القصہ موسیٰ و ہارون اپنا عدا لہ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں پھر دوسری شب کو تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں پھر دوسری شب کو تمام رات چلتے فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں ہیں۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ کی بددعا سے یہ حال ہوا تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ ملک شام فتح کر کے واپس نہ آویں تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات

سن کر بنی اسرائیل خدا پر توکل کر کے اسی جگہ رہے اور اس جگہ کا نام تیرہ ہے جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے اس میں بارہ اسباط بنی اسرائیل اور چھ لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برعنا سے چالیس برس محسوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے اور وہ تیرہ درمیان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہے اور اس میدان تیرہ کا طول چھتیس کوس ہے اور عرض اٹھارہ کوس کا ہے عرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر عوج کے گئے۔ لوگوں کی مہیب شکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب عوج بن عنق نے انکو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چوٹی کی طرح پیروں سے مل دیں اور کہا کہ تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا اور تو نے قبیلوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبا مارا ہے یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے جوانی حملہ کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تھریبا دس گز لمبا تھا اور دس گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر بٹھا مارا وہیں مردود گر کر مر گیا چالیس برس سے بنی اسرائیل تیرہ مذکور میں تھے اور ادھر لاش عوج بن عنق کی میدان میں بڑی تھی اور گوشت پوست گل گیا تھا اور پرتت کی ہڈی مثل پہاڑ کے اونچی سو رہی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام

پیدائش | بعض تواریخ کے حوالے سے یہ چلتا ہے کہ ایک دن فرعون ملعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ دو درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں اور منجموں اور جادو گروں کو بلا یا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم کو خوب غور و خوض کر کے ہم کو اس خواب کی تعبیر بتانا چاہیئے۔ یہ سن کر فرعون سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ پھر ان لوگوں نے آکر فرعون سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ تمہاری مملکت کو وہی خواب کو سے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے۔ یعنی ملک و میراث و نعمت کل اس کے ہاتھ میں ہوگی یہ گفتگو اپنے منجموں کی سن کر فرعون بہت ہی ہراساں ہوا اور پھر بولا۔ وہ لڑکا کب پیدا ہوگا۔ وہ منجم کہنے لگے کہ تین دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی بشت سے مادر رحم میں آوے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں آج سے کوئی

بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہتر نہ ہونے پائے اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو
 مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں میں متعین کر دیا اور فرعون کے
 در کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی بھی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا مگر تقدیر الہی سے چارہ نہ تھا
 اور باوجود اس تنہیہ اور ہمدید کے اس تین دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا روز موعود
 میں وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے شکم میں آگئے اور اس کی شرح یوں ہے کہ خاتون
 نام عمران کی بی بی تھی اور وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم سے تھیں اور اس سے پہلے ایک لڑکا بھی تھا بی بی
 کو شوق مباشرت کا ہوا اور ان کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار بھی جاتا رہا آخر وہ نہ ٹھہر سکیں رات ہی کو
 اٹھ کر اور اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جا پہنچیں۔ اتفاقاً تمام دروازے کھلے ہوئے
 تھے۔ اور دروازوں پر نگہبان اور دربانوں کو سوتے ہوئے دیکھا اس دن اللہ تعالیٰ نے ان
 پر نیند کا غلبہ بھی زیادہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ خاتون بے کھٹکے فرعون کی خوابگاہ میں جا پہنچیں وہاں
 اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی کر رہا ہے اور فرعون سوتا ہے اور پھر عمران اپنی بیوی کو دیکھ
 کر جب کہ تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے شوق مباشرت زیادہ ہوا۔ پس وہاں سے سرک کر زن
 و شوہر نے جماعت سے فراغت کر لی اور اس گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے صلب
 سے ماں کے رحم میں آئے بعد اس کے بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئیں اور یہ
 بھیدگی کو معلوم نہ تھا سو اے رب العالمین کے وہ تو ہر بھید کو اچھی طرح جانتا ہے بلکہ وہ تو ظاہر
 و باطن چیزوں کو خبر رکھتا ہے پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان
 سے پوچھا کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں تو انہوں نے اپنے نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ
 شب گذشتہ میں باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آچکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے
 اپنے تمام رکنوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تو اس کو فوراً مار دو، لیکن
 لڑکی کو مت مارنا اور خون کے عوض میں اس کی ماں کو ستر دم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے
 اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبیلے کو تعینات کیا اور وہ قبیلے
 اگر بیٹا ہوا تو اس کو مار ڈالتا اور اگر بیٹی ہوئی تو اس کو نہ مارتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے
 ارشاد فرمایا۔ **وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اِلٰٓئِۤهِمْ يٰۤاٰمَنُوْنَ يَسُوْۤا۟نُكُمْ مَّوۤءَاۤءَ الْعَذَابِ
 يٰۤاٰمَنُوْنَ اَبۡنَاءُكُمْ وَاٰۤمَنَاتُكُمْ فَاۤتٰنَاۤءُكُمْ وَاٰۤمَنَاتُكُمْ فَاۤتٰنَاۤءُكُمْ فَاۤتٰنَاۤءُكُمْ فَاۤتٰنَاۤءُكُمْ**
وَاٰۤمَنَاتُكُمْ فَاۤتٰنَاۤءُكُمْ ہر ترجمہ اور جب پھر دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کر دیتے تھے

تم کو بڑی تکلیف سے ذبح کرتے تہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو اور اس میں
 آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا
 اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور یہاں تک اس نے کر رکھا تھا کہ انکی عورتوں کے حمل آکر دیکھے
 اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ حمل میں ہے یا نہیں، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ
 السلام کی ماں حمل سے تھیں ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھیں یکا یک ان کو دراز
 ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے اور وہ نہایت خوبصورت تھے ان کے تولد سے سارا
 گھر روشن ہو گیا اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں اور کچھ ہی
 عرصہ میں فرعون کے بچے کو بھی آپہنچے اور حضرت موسیٰ کی والدہ اندیشہ کر رہی تھیں اور کہہ رہی
 تھیں کہ یا اللہ میں اس بچے کو کہاں لے جا کر چھپاؤں کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی
 مار ڈالیں گے، یا اللہ اس معصوم بچے کو تو کسی جگہ پر پناہ دے، آخر مجبور ہو کر تنور کی آگ میں
 بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک دیگ خالی اس کے اوپر چڑھا دی، بعد اس
 کے فرعون کے لوگوں نے آکر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا اور پھر وہ
 چلے گئے اور ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگیں اور کہتی تھیں کہ ناحق میں نے اپنے
 بچے کو تنور میں ڈال دیا، نہایت ہی افسوس کو کہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل
 جل گیا، اور کہنے لگیں کہ اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈی بھی ہوئی تو اس سے اپنے دل مجروح کی دوا
 کرتی، بعد اس کے جب انہوں نے اس جو گھسے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اسی آگ میں اپنے ہاتھ
 میں ایک سیب لئے کھیل رہا ہے، یہ حال دیکھ کر بڑی ہی متعجب ہوئی اور خدا کا شکر بجالائیں
 یہ دیکھتے ہی ان کو اس تنور سے فوراً اٹھا لیا، اس کے بعد وہ پھر متفکر ہو گئیں کہ اس لڑکے کو کہاں
 چھپا کر رکھوں ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو مار ڈالیں، یہ کہتی جاتی تھیں، اور ان کی آنکھوں
 سے آنسو بھی جاری تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ **وَاذْ حَيْنًا اٰلِ اٰرَمُوْسٰی اَنْ
 اَرْضَعِيْهَا مَيِّا ذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَا لَقِيْهِ فِي الْمِيْمِ وَ لَا تَحْزَنِيْ
 اِنَّآ اَدْوَدُوْهُ اِلَيْنَا وَ جَاعَلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ** ترجمہ اور ہم نے حکم بھیجا ہوگی
 کی ماں کو کہ اس کا دودھ پلا پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریاٹے نیل میں اور
 اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ کچھ غم، تم ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کہیں گے اس کو اپنے
 رسولوں میں سے تب حضرت موسیٰ کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں اور ایک مندر

بنانے کے لئے ایک برہمی کی تلاش میں نکلیں فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت برہمی کے ان کے سامنے آکھڑے ہوئے حضرت موسیٰ کی والدہ ان سے کہنے لگیں کہ کیا تم صدوقچہ بنا جانتے ہو۔ یولے ہاں میں صدوقچہ بنا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صدوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں پیٹ کر اس صدوقچہ میں رکھ کر مفضل کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ اس سے بہت خوف کرتی تھیں، اور برہمی کو سترنگ دینا راجرت اس کی دے کر رخصت کیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فرعون کو کر دوں جب وہ ارادے سے فرعون کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ میں اس لڑکے کی خبر دوں تو خدا کے حکم سے اس کی زبان گونج ہو گئی اور وہ اپنا مقصد جو لے کر گیا تھا فرعون سے کہہ نہ سکا، جب فرعون کے پاس سے باہر نکل آیا پھر اس کی زبان کھل گئی، یہ دیکھ کر پھر اس نے قصد کیا کہ میں فرعون سے جا کر کہوں تو پھر وہ گونگا ہو گیا جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان کھل گئی بیان کیا گیا ہے کہ ایسا قصد اس نے تقریباً سات مرتبہ کیا۔ لیکن جب وہ فرعون کے قریب پہنچتا اور ارادہ کرتا کہ میں اس خبر کو فرعون سے کہوں تو اس کی زبان فوراً گونج ہو جاتی تھی۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا اور اس قصد سے وہ باز آ گیا اور پھر اس نے توبہ کی اور خداوند کریم پر ایمان لے آیا اور پھر اس نے یہ بات کسی سے بھی نہ کہی۔ الغرض اور امیر حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اس صدوقچہ میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اور حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی تو اس صدوقچے کو دیکھتی ہو تو قریب دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَقَالَتْ لِذٰلِہِہَا قَصِّیْہِہَا فَبَصُرَتْ بِہِہَا عَنْ جُنُبٍ وَّہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۗ۔ ترجمہ: اور کہہ دیا اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے چلی جا پھر وہ دیکھتی رہی اور اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ پس خدا کے حکم سے وہ صدوقچہ پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا وہاں پر جا ٹھہرا اور اس وقت فرعون اپنی آسیہ خاتون کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا اچانک ان دونوں کی نظر اس صدوقچہ پر جا پہنچی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے یہ کہہ کر دونوں اپنے تخت شاہی سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صدوقچہ ہے فرعون نے چاہا

کہ اس ضد و قبحہ کو اپنے ہاتھ سے اٹھالے لیکن وہ ضد و قبحہ اس کے ہاتھ میں نہ آیا۔ کیونکہ فرعون مردود
 کافر و مشرک تھا پلید کے ہاتھ سے نہ اٹھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ دراز کئے اور انہوں
 نے وہ ضد و قبحہ اپنے ہاتھ سے اٹھالیا اور پھر فرعون کے سامنے لا کر رکھا پھر فرعون نے اس کے
 کھولنے کی ہر چند کوشش کی لیکن وہ اس ضد و قبحہ کو نہ کھول نہ سکا۔ مجبوراً تھک کر بیٹھ گیا پھر آسیہ
 خاتون جو کہ مومنہ تھیں انہوں نے اس ضد و قبحہ کو کھولا اور بسم اللہ پڑھی اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا ہتھاب
 صورت ہے اس کے نور سے سارا گھر فرعون کا روشن ہو گیا یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت
 آگئی خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا
 فریفتہ ہو جاتا تھا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ مجھے فرزند نہیں ہے میں اس کو پالوں گی اور
 یہ واضح ہو کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھیں اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت
 موسیٰ کی چچری بہن تھیں اور وہ اچھی طرح اپنے خویش برادر کو پہچانتی تھیں پھر فرعون سے کہنے لگیں
 کہ دیکھو یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے اس کو نہ مارنا کیونکہ ہم اس کو پالیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ عَوْنُ قُرَّةِ عَيْنٍ لِيْ وَلَكَ هٰذَا ثَقُلُوْا عَلٰی
 عُنُقِيْ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ يَتَّخِذَهُ وَاَدَّاهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۗ ترجمہ: اور بولی
 فرعون کی عورت انکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ لڑکا مجھ کو اور تم کو اور اس کو نہ مارو شاید یہ ہمارے
 کا آدے یا بنا لیویں اس کو بیٹا اپنا اور وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے یعنی ان کو کچھ بھی نہ خبر تھی کہ وہی
 لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خون سے
 دریاے نیل میں ڈال دیا کہنے لگا کہ اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا۔ یہ سمجھ کر ان کو نہ مارا۔ اور فرعون
 کے یہاں ایک بیٹی تھی جو برص کی بیماری میں مبتلا تھی اس نے آکر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے اور اس
 کے منہ سے رال گرتی ہے اس نے جلدی سے آکر اس لڑکے کو اٹھالیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔
 خدا کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا وہ لعاب اس
 لڑکی کے برص کے دھبوں پر لگا تو اس کی برص کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔
 یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ دیکھو یہ کیسا مبارک لڑکا ہے کہ اس کے منہ سے جو رال
 نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برص کی بیماری جاتی رہی۔ یہ سن کر
 اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور پھر دیکھا کہ واقعی یہ برص کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے تب فرعون
 نے حضرت موسیٰ کو بیمار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے

بھی مقرر کر دی اور کہتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنے شہر کی تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَحَرَّ مَنَا عَلَيْنَا الْمَرَاۤءِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدَّبْتُمْ عَلٰٓى اٰهْلِ بَيْتِ
 يٰۤاٰكْفُرُوۡنَ لَكُمْ وَاٰهْلُكُمْ مَنَاصِحُوۡنَ ۗ ترجمہ: اور حرام کر دیا ہم نے اوپر اس
 کے دودھ دائیوں کا پہلے سے۔ پس خواہر موسیٰ و ہارون موجود تھیں۔ وہ بولیں کہ میں بتاؤں تمہیں
 ایک گھر والی کو کہ پالے اس کو واسطے تمہارے اور واسطے اس کے بہت خیر خواہ ہے یہ سن کر فرعون
 نے کہا کہ لے آؤ ان کو، پھر وہ دوڑی ہوئی گئیں اپنی ماں کے پاس جا کر بولیں اسے ماں میری
 خدا نے مہربانی کی ہے ہم پر، چلو تم میرے بھائی کو دودھ پلانے اور فرعون بلاتا ہے اور اس
 کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے اور اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا مگر وہ
 کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے تم چلو کیونکہ میں نے اجنبی طور پر تمہاری بات فرعون سے کہی ہے
 کہ میں دودھ پلانے والی ایک دائی لاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کی ماں خوش ہو کر فرعون
 کے گھر پر آئیں وہاں آ کر دیکھا بہت سی دائیوں کو بلایا ہے لیکن کسی دائی کا دودھ بھی
 حضرت موسیٰ نہیں پیتے جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو اپنی گردیں لیا اور اپنا دودھ
 پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ کی ماں خوش ہو کر فرعون
 اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھیں کہ یہ بیٹا بھی میرا ہے۔ تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے ان کے دل میں افواہوا کہ اسے خاتون یہ راز کسی پر مت ظاہر کرو اور اپنا بیٹا کہہ کر کسی
 کو مت کہو ہا مان پلید نے جو فرعون کا وزیر تھا اس نے تب حضرت موسیٰ کی ماں سے پوچھا کہ
 اسے دائی یہ لڑکا شاید تمہارے ہی

بطن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولیں کہ ایسا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لڑکا میرے دودھ سے
 بہت خوش ہے۔ پس فرعون نے اس سے کہا کہ تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز ایک دینار
 ہم سے لے لیا کرو۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ فرعون سے اجرت دودھ پلانے کی مہینہ میں تیس
 دینار لیا کرتی تھیں اور اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَكَذٰلِكَ
 اٰطٰۤاۡ اُمَّہٗ كِی تَقَرَّ عَیۡنُہَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لَیۡتَعَلَّمَنَّ اَنَّ وَاَعَدَّ اللّٰہِ حَقِّۡ وَا لَیۡكُنَّ
 اَكۡثَرُھُمْ لَہٗ یَعۡنَمُوۡنَ ۗ ترجمہ: پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف
 کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھاوے اور جانے کہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے لیکن

اکثر ان کے نہیں جانتے۔ اسی طرح پر چند روز گزرے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دیکھ کر خوش ہوا اپنی گود میں لے کر حضرت موسیٰ کو بوسے دینے لگا حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک طمانچہ مارا یہ کیفیت دیکھ کر فرعون بہت ہی غصہ میں آ گیا اور اسی وقت مار ڈالنے کا حکم کیا اور پھر بولا کہ شاید یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس وقت آسیہ خاتون نے کہا کہ اے فرعون کیا تم نہیں جانتے شیر خوار بچوں کا تو یہی فعل ہے ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اور یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو اور تم نے تو تمنا قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ پس اسکے آزمانے کیلئے دو طشت منگوئے۔

ایک طشت میں یاقوتِ سرخ بھر کر حضرت موسیٰ کے سامنے لا کر رکھے اور دوسرے میں آگ بھری یہ بولا اگر یہ لڑکا آگ کی طشت میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں ہے اور اگر یہ لڑکا یاقوت کے طشت میں ہاتھ رکھے گا تو سمجھنا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ پس حضرت موسیٰ نے چاہا کہ اپنا ہاتھ اس یاقوت والی طشت میں ڈالیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل نے آکر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے طشت میں ڈال دیا۔ پس اسی طشت سے ذرا سی آگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں رکھ لی اس سے کچھ زبان مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جل گئی۔ تب خاتون نے فرعون سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ بچے نے آگ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ یہی خصال بچوں کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات سن کر فرعون ان کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا اور پھر ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان طفولیت میں فرعون کے گھر میں جل گئی تھی جس کی وجہ سے صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ بڑے ہوئے تو کچھ چاکر فرعون کے اپنے ساتھ لے کر شہر میں پھرا کرتے اور لقب آپ کا پسر فرعون تھا اور کبھی کبھی فرعون ملعون ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھا کر اکثر باتیں علم اور حکم کی لب شیریں سے انکے سنتا اور پھر بہت پیار بھی کرتا جب حضرت موسیٰ کی عمر میں برس کی ہوئی تو فرعون نے ان کی شادی بڑی شان و شوکت سے کر دی اور شادی کے بعد دو لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں ایک کا نام حرتون تھا اور دوسرے کا نام بلقا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ملعون کے پاس تقریباً تیس برس رہے۔ پھر اسی کے بعد شہر مدین کی طرف ہجرت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔

ہجرت مصر

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ایک دن شہر کے اندر قیلوے کے وقت گشت کر رہے تھے اسی اثنائیں دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک ان سے قوم قبلی تھا اور یہ فرعون کے باورچی خانے کے سرداروں میں سے تھا اور دوسرا ان میں قوم بنی اسرائیل سے تھا اور نام اس کا سامری تھا دونوں میں اچھا خاصا جھگڑا ہو رہا تھا۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کی کہ دیکھو قبلی مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اور میری لکڑیاں ظلم سے چھین لیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اس کی لکڑیاں چھوڑ دے۔ قبلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لکڑیاں تمہارے باپ فرعون کے باورچی خانے کے لیے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے کہنے سے اسے چھوڑ دے اور دوسری لکڑیاں لے لو۔ لیکن اس قبلی نے نہ مانا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبلی کے سینہ میں ایک گھونسا ایسا مارا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور فوراً اس کی روح نفسِ عنبری سے پرواز کر گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قولہ تعالیٰ

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاذَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ

ترجمہ اور موسیٰ آئے شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہو رہے تھے وہاں کے لوگ آپس پائے اس میں دو آدمی لڑتے ایک ان میں ان کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا پس فریاد کی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس نے جو تھا ان کے رفیقوں میں اس شخص کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا پس مکارا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پس تمام کیا اس کو اور کوئی قبلی برادر اس کا نہ تھا پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو وہاں سے بھگا دیا کہ تو یہاں سے چلا جا نہیں تو تیرا دشمن قبلی تجھ کو پکڑے جائیگا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں تضرع و زاری کی اپنے گناہ سے جو کہ انہوں نے ایک قبلی کو ان کے حکم کے فیصلہ کو تسلیم نہ کرنے کے سبب سے مار ڈالا تھا۔ قولہ تعالیٰ تَالِ قَوْلِ رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَاغْفِرْ لَیْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۗ

ترجمہ! کہا موسیٰ نے اے رب برا کیا میں نے اپنی جان کا سونچنا کھج کو پس بخش دیا اس کو

اس کو بیشک وہی ہے نختہ والا نہربان۔ اس کے بعد سب قبیلی آئے اور اس سردار قبلی کو مردیکھا پھر اس کی جہز فرعون ملعون کو مینپائی۔ فرعون بولا جاؤ اور اس کے قاتل کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ تمام قبلیوں نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا قاتل نہ ملا۔ پھر اس مرے ہوئے قبلی کو بے جا دفن کیا۔ اگرچہ فرعون کا فریشک تھا مگر عدل و انصاف ظالم و مظلوم کا کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کا قاتل نہ پا کر خاموش ہو رہا۔ پھر دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبح اٹھ کر شہر میں جا کر دیکھا کہ ایک قبلی اسی سامری کو مار رہا ہے بمصداق اس آیت مذکور کے۔

فَبَصَّحَ فِي الْمَدِينَةِ حَائِفًا تَتَرَقَّبُ يَا ذَا الَّذِي أَسْتَعْتَصِرَ ۗ يَا أَلَمَسِ يَسْتَصِدِّعُهُ
 قَالَ لَهُ صَدِّقِي لَنْتَ لِعَوْنِي سَيِّئَةٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَكُمْ أَهْلًا
 قَالَ يَمْؤُومِي اتَّوَيْدُ إِنَّ تَقْتَلِقِي كَمَا قَتَلْتِ فَنَسَا يَا أَلَمَسِ ۗ إِنَّ تَوَيْدِي إِلَّا أَنْ تَكُونِ
 جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَنْ تَوَيْدِي أَنْ تَكُونِ مِنَ الْمُضْلِمِينَ ۗ تَرَجَّسَ بِمُحْرَمٍ كَوَاهِلًا
 موسیٰ شہر میں ڈرتا ہوا گیا تاکہ جہزے، پھر وہی جس نے کل مدد مانگی تھی وہی موسیٰ سے فریاد کرتا ہے۔ اس کو کہا حضرت موسیٰ نے مقرر تو گمراہ ہے صریح یعنی تو پھر روز ظالموں سے اچھتا ہے اور پھر مجھ کو لڑواتا ہے پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا ان دونوں کا بل اٹھا اے موسیٰ علیہ السلام کیا چاہتا ہے تو کہ خون کرے میرا جیسا کہ خون کر چکا ہے تو کل ایک آدمی کا کیا تو یہی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھر سے ملک میں اور تو نہیں چاہتا کہ ہووے تو صلاح پسند ملاپ کرنے والا پس موسیٰ علیہ السلام نے ظالم قبلی کو مارنا چاہا سامری مظلوم تھا تو اس نے جانا کہ صرف زبان سے مجھ پر غصہ نہیں کیا ہاتھ بھی چلاویں گے، وہ کل کا خون چھپا ہوا تھا کہ کس نے کیا آج کی زبان سے مشہور ہو گیا اس نے کہا اے موسیٰ آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہو جیسا کہ کل ایک قبلی کو مار ڈالا تھا لہذا تم جبار ہو اس ملک میں پس دوسرا قبلی سامری سے یہ بات سن کر دوڑا فرعون کے پاس کہ کل کی بھی بات اس سے جا کر کہہ دے کہ کل موسیٰ ہی نے خون کیا ہے اس قبلی کا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کو گئے کہ نہ جانے فرعون مجھ کو کیا کہے گا اور وہ ظالم بھی ہے اور عادل بھی ہے کہ اپنے بیٹے کی بھی رعایت نہیں کرتا اس سے بھی قصاص لیتا ہے اپنی والدہ محترمہ صاحبہ سے یہ باتیں پریشہ کہہ رہے تھے اسی وقت ایک شخص نے آکر جزدی کہ اے موسیٰ تم کو فرعون مار ڈالنے کی فکر میں ہے اسی قبلی کا قصاص تم سے لے گا تم اس شہر سے کسی دوسرے شہر چلے جاؤ تب تم بچ

گے اور نہ پھر مشکل ہے اور میں تمہارا اخیر خواہ ہوں میں نے تم کو یہ خبر سنادی ہے اور جبر دیتے والا بھی قرآن کا چیر لھائی مومن مسلمان ایمان والا تھا تو کہہ لے اللہ تعالیٰ و بقاء و جعل من افضی الیہ ینتہ یسعی ۵ قَالَ يَا مُوسٰى اِنَّ الْمَلٰٓئِکَہٗ یَاْتُمِرُوْنَ بِکَ لِیَقْتُلُوْکَ فَخُذْ نَعْلَیْ لِیْ لَکَ مِنَ النَّاصِحِیْنَ ۵ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا یَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ لَتَبْعُنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۵ ترجمہ ایک شخص شہر کے دوسرے سرے سے دوڑتا ہوا آیا کہ اے موسیٰ دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھ کو مار ڈالیں لہذا تو یہاں سے نکل جا اور میں نیز لھاجا ہوتا ہوں۔ پھر چلے گئے موسیٰ وہاں سے اپنی والدہ کو چھوڑ کر ڈرتے ہوئے اور جبر لیتے ہوئے کہا ہے پروردگار نجات دے مجھ کو ظالموں سے

حضرت شعیب سے ملاقات

حضرت موسیٰ مہر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے اور کہتے ہیں کہ مدین شہر مہر تقریباً دس کوس پر واقع ہے اور بعض روایوں نے کہا کہ وہ سات دن کی راہ ہے غرضیکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مدین کو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ لَمَّا تَرٰجَعَهُ تَلَقَّاهُ مَدَّیْنٌ قَالَ عَلٰی مَا نَبِیُّ اَنْ یَّهْدِیْ نَبِیُّ سَوَاعِ السَّبِیْلِ ۵ وَ لَمَّا وَسَّ دَمَاعِ مَدَّیْنٌ وَ جَدَّ عَلَیْهِ اَصَۃٌ مِّنَ النَّاسِ یَسْقُوْنَہٗ وَ وَّجَدَ مِنْ دُوْحٰہِمَا مَوَاتِیْنِ تَدْوٰرِیْنِ ۵ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا۔ قَالَتْ لَا نَسْتَحِیْ حَتّٰی یُصِیْبَ الرَّعِیْلَ ۵ وَ اَبُوْنَا شِیْخٌ کَبِیْرٌ ۵ ترجمہ! اور جب متوجہ ہوا موسیٰ طرف مدین کے کہا تو دیکھ رہا ہے پروردگار میرا یہ کہ دکھا دے مجھ کو راہ سیدھی یعنی حضرت موسیٰ مدین کی راہ سے مکہ حلقہ آگاہ نہ تھے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پر لے گیا۔ جب سینچے میں گے پانی پر تو دیکھا کہ ہے ایک جماعت لوگوں کی کہ پانی پلاتے ہیں اپنے مولیشی کو اور اس کے سوا اس پانی کے قریب پائیں دو عورتیں جو رکی کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا کام ہے، وہ بولیں کہ ہم اپنے مولیشی کو پانی اس وقت تک ہمیں پلا سکتے۔ جب تک تمام چرواہے اپنے اپنے مولیشی کو پانی نہ پلائیں، اور پھر وہ چلے جائیں۔ اور بہار اباب بہت بوڑھا ہے۔ بڑی عمر کا یعنی وہ شرم و حیا سے کنارے پر کھڑی تھیں، اپنی بکریاں لے کر ان میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ بھاری ڈھول سے پانی اٹھا کر بکریوں کو پلا دیں۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میدان میں جا پہنچے تو وہاں دیکھا کہ دو عورتیں چند بکریاں و بلی لے کر کنوئیں کے کنارے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم کون ہو۔ وہ یہاں کیوں کھڑی ہو۔ بولی ہم بکریوں کو پانی پلا دیں گی لیکن یہ

پتھر جو کنویں پر رکھا ہے بہت وزنی ہے یعنی ہماری طاقت سے باہر ہے کہ ہم اس کو ہٹا سکیں اور ہمارا باپ بھی نہایت ضعیف ہے ان میں بھی قوت نہیں رہی کہ وہ یہاں آکر پانی پلا دیں اس لیے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں کہ چرواہے آئیں گے تو وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے واسطے پتھر کو ہٹائیں گے پھر ہم بھی اپنے مویشی کو یعنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو از روئے ہمدردی انہوں نے اس پتھر کو کنویں سے ہٹا دیا اور پھر اس کنویں سے پانی بھر کر ان بکریوں کو پلا دیا اس کے بعد وہ چونکہ بہت تھکے ماندے بھوکے پیاسے تھے ایک درخت سایہ دار کے نیچے جا بیٹھے اور خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا الہی مجھ کو کچھ کھانے کو دے اور میں اس وقت شدید بھوک میں مبتلا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأْتَتْهُ رَحْمَةً مِنَّا فَآتَتْهُم مِّنْهَا مَائِدًا وَخُبْزًا مِّنْ لَّدُنْهَا يُؤَكِّلُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حَوْبٍ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ حَدَّثْنَا كَذِبَآءَ وَإِن يَسْتَأْذِنُوا فَاذْنَبْهُمْ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ مَنًّا وَكَفًّا وَهُوَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ پس آئی ان کے پاس ایک ان دونوں میں چلتی ہوئی شرم سے کہا تحقیق میرا باپ تم کو بلاتا ہے تاکہ دلیرے تجھ کو مزدوری کہ تو نے پانی پلایا واسطے ہمارے۔ یہ سکر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ تقریباً سات دن کے بھوکے پیاسے تھے وہاں سے اٹھ کر اس لڑکی صفورا کے ساتھ چلے صفورا آگے چلتی رہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلتے رہے۔ صفوری دور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفورا سے کہا کہ اے صاحبزادی میں آگے آگے چلوں کہنے لگی تم میرے گھر کی راہ نہیں جانتے اس لیے میں تم سے آگے چلتی ہوں حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں راہ بھولوں گا تو تمہارا کام یہ ہو گا کہ تم پیچھے سے اشارہ کر کے راستہ بتا دینا۔ یہ بات سکر صفورا نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ شخص بڑا ہی نیک مرد پارسلہ ہے چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلے اور صفورا ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور راہ بتاتی جاتی جنیں کچھ دیر کے بعد دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ دونوں نے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کو اسلام علیکم کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے سلام کا جواب نہایت سخاوت پشانی سے دیا اور پھر ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان سے حال و احوال پوچھا حضرت شعیب علیہ السلام کے دریافت کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا احوال مصر کا بیان کیا اور فرعون اور قبیلہ وغیرہ کا بھی درمیان گفتگو کے بیان کر دیا۔ یہ سکر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تم کچھ بھی اندیشہ مت کر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انشاء فرمایا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ مِنَ الْقَدَمِ الطَّيِّبَةِ

ترجمہ پس آئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور بیان کیا پاس اس کے قصہ کہا
 مت دُرتو نے نجات پانچ ظالموں سے اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی
 جو حضرت موسیٰ کو اپنے ہمراہ لے کر آئی تھی وہ اپنے باپ سے بری ہو چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ
 نے: قَالَتْ اِغْدُ الْكُهْمَا يَا بَتِ امْتَا جُدَا اِنَّ حَيْثُ مِثَ السَّاجِدَاتِ الْقَوِيَّ اللّٰمِيْنَ
 ترجمہ بولنی ان دونوں میں سے اسے میرے باپ اس کو نوکر رکھ لو اور البتہ یہ بہتر نوکر ہے اگر تم کو رکھنا
 ہی ہے کیونکہ یہ مرد نور آدمی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے
 فرمایا اسے بیٹی بھلا تم نے ان کا زور تو دیکھا کون میں سے پانی بھرنے میں اور امانت دار تم نے اس کو
 کیونکر جانا۔ وہ بولیں کہ ہم نے ان کی امانت داری راستے میں چال اور گفتگو سے معلوم کی ہے پھر حضرت شعیب نے
 اس بیٹی کو تسلیم کر لیا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قولہ تعالیٰ: اِنِّي
 اُرِيكَ اَنْ اَتَّخِذَكَ اَحَدَ بُنْتَى هٰتِيْنِ عَلٰى اَنْ تَاۡجِدَ فِيْ سَمَاۡئِيْ جَمِيۡحٍ فَاِنْ اٰمَنْتَ عَشْرَ اَفۡقُنِ
 عَرَبِيَّۃٍ وَمَا اُدِيۡرُ اَنْ اَسۡتَقَ عِيۡدَكَ سَجۡنِيْ اِنۡ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيۡنَ ؕ فَجَمَعَ
 کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کو بیاہ دوں ایک بیٹی سے
 ان دونوں سے اس شرط پر کہ تم میری نوکری کرے آٹھ برس تک پھر اگر تم پر راکرے۔ دس برس
 تو وہ تیری طرف سے ہو گا اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ بلا وجہ تجھ پر تکلیف ڈالوں اور تو انشاء اللہ
 آگے مجھ کو پیاوے گا نیک نختوں سے۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قولہ تعالیٰ
 قَالَ ذٰلِكَ بِنۡتِيْ وَبِنۡتِيْكَ اَيُّهُ الْاَجَلِيۡنِ قَضِيۡتَ فَلَا عُدۡوَ اِنۡ عَلٰى وَاللّٰهُ عَلٰى مَا لَقَدۡلُ دَكِيۡبًا
 ترجمہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ سوچا کہ ہے عہد میرے اور تمہارے
 درمیان جو نسبی بھی مدت ان دونوں میں سے پروری کر دوں سو وہ زیادتی نہ ہو گی مجھ پر اور ہمارا اللہ
 تعالیٰ پر بھروسہ ہے اس کا جواب جو آپ کہتے ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب
 علیہ السلام سے کیا کہ آٹھ برس مجھے اختیار ہے چاہوں آٹھ برس نوکری کروں یا پھر دس برس، لیکن
 ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے قول سے پھر ہاریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام مومن آدمی
 کا نہیں کر وہ اپنے قول سے پھر جاوے، غرضیکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے آٹھ برس کے اقرار سے
 اپنی بیٹی کے ہنر کے عوض ان کی بکریاں چرانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لکھوا کر اپنی بیٹی کو ان
 سے بیاہ دیا تاکہ دونوں پر نواح درست ہو مصادق اس حدیث شریف کے کہ اُنۡحَرَكُوۡا جِيۡبَ اَ
 اَجۡدَا فَبَلَّ اَنْ يَّجۡفَ عَوۡقُہُ۔ یعنی مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے

پہلے سے ادا کر دو۔ اب اس حدیث سے لازم آتا ہے کہ اجرت نوکر کی جلدی ادا کرنا واجب ہے
اب اگر ہزار قطرے مزدور کی پیشانی سے نکل آویں اور خشک ہوں تو بھی اس کو کوئی غور نہیں کرنا۔ الغرض
حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور ایک عصابو
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے لا کر آدم کو دیا تھا وہ عصاب حضرت شعیب علیہ السلام کو ورثے
نبوت میں پہنچا تھا اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ عصاب لائق پیغمبر مرسل ہے لہذا یہ عصاب حضرت موسیٰ کو دینا چاہیے
تب یہ سنتے ہی وہ عصابے جا کر حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیا اور پھر کہا کہ اے موسیٰ اگر تم اس عصاب
کو زمین سے اٹھا سکو گے تو پھر تم کو دوں گا یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ نے جلدی سے اس عصاب کو اپنے
ہاتھ میں لیا اور زمین سے اٹھالیا یہ کرامت دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ شاید
تم کو اللہ تعالیٰ پیغمبر مرسل کرے گا۔ اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو اس فلانے میدان
میں ہرگز بکریاں چرانے مت جانا کیوں کہ اس میدان میں اژدھے بہت ہیں۔ یعنی حضرت شعیب
علیہ السلام نے سنتی سے منع فرمایا تھا کہ اس اژدھے والے میدان میں بکری مت چرانے جانا
اس نصیحت کو حضرت موسیٰ نے ہر وقت ملحوظ رکھا اور ہر چند چاہا کہ بکریوں کو سانپوں کی جگہ سے
روکیں وہ بکریوں کو نہ روک سکے۔ بکریاں اس میدان میں جا کر چرنے لگیں ناچار ہو کر وہاں سے
ایک ہرشتہ پر جا بیٹھے اور اس عصاب کو اپنے پہلو میں رکھ کر بولے اے عصاب خرد اگر اژدھا آوے
تو اس کو مار ڈالنا تاکہ وہ بکریوں کو کھانے نہ پاوے۔ یعنی بکریوں پر نگہبان رہنا یہ کہہ کر سو گئے
اور خوب اچھی طرح نیند آگئی کچھ دیر کے بعد ایک اژدھا اپنی جگہ سے نکل کر بکریوں کو کھانے آیا۔ پس
اس عصاب نے مثال ایک بڑے اژدھے کی بن کر اس آنے والے اژدھے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ
علیہ السلام حیرت منینہ سے بیدار ہوئے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اژدھا اس میدان میں مردہ پڑا ہوا ہے
اور بکریاں چر رہی تھیں بخوش ہو کر اپنی بکریوں کو لے کر گھر چلے آئے۔ یہ بات گھر آکر حضرت شعیب
علیہ السلام سے کہی کہ اجی حضرت وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس میدان میں مت جانا کیونکہ وہاں پر اژدھا
ہے وہ بکریوں کو کھا جائے گا۔ وہ اژدھا خدا کے فضل و کرم سے مارا گیا۔ پس اس چیز سے حضرت
شعیب علیہ السلام کو اور بھی یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرسل پیغمبر ہوں گے کہتے ہیں کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے چار برس حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں اور جب پانچواں سال شروع
ہوا تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے اقبال سے اگر اس سال ہمارے بکریاں نر نہیں
گن آوے سب تم کو دے ڈالیں گے۔ پس خدا کی مرضی وہی ہوا کہ تمام بکریوں نے نر ہی جنے تو سب

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیتے پھر جب چھٹا سال ہوا تو پھر فرمایا کہ اگر اس سال ہماری بکریاں مادہ جنین گی تو وہ بھی تم کو دے دوں گا۔ فضل الہی سے سب بکریاں نے مادہ ہی جنا اور وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئیں۔ پھر ساتواں سال شروع ہوا تو پھر کہا گیا اس سال ہماری بکریاں سیاہ بچے جنین گی تو وہ بھی تم کو بہہ کر دیں گے آخر وہی ہوا۔ تمام بکریوں نے سیاہ بچہ جنا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہہ کر دیا گیا پھر آٹھواں سال شروع ہوا تو پھر فرمایا اگر اس سال ہماری بکریاں البق بچے جنین گی تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہہ کر دوں گا مرضی الہی سے تمام بکریوں نے وہی البق بچہ جنا وہ بھی سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہہ کر دیا گیا۔ پھر تو ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ کی بکریاں حضرت شعیب کی بکریوں سے دو گنی ہو گئیں۔ پس دس برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالعوض بہر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرایا اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ سب بکریاں اور لونڈی باندی مال و متاع اور میری بیٹی صفورا کو میں نے نہاری ملک میں دے دیا تم جہاں چاہو وہاں لے جاؤ اور ان سب کو بھی اپنے ہمراہ لے جاؤ میں اس میں کچھ بھی رکاوٹ نہ کروں گا خدا سب کو ہیزیت سے رکھے آمین۔

مصر میں دوبارہ واپسی

مصر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن تھا اس لیے اس سے مانوسیت بھی بہت زیادہ تھی لیکر ایک ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمنا ہوئی کہ اپنے ملک مصر جائیں اور وہاں جا کر اپنی والدہ کی خدمت میں شرف یوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی ہارون سے بھی ملاقات کریں چنانچہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت چاہی اور ساتھ ہی گزارش کی کہ ہمارے ہمراہ آپ کی بیٹی صفورا اور لونڈی باندی بھی بکریاں مال و اسباب بھی سب لے کر مصر جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت مرحمت فرمادی۔ اس کے بعد وہ مدین سے روانہ ہو گئے جب وہ مدین سے ایک منزل نکل آئے تھے کہ رات ہو گئی اور اسی جگہ رات گزارنے کے لیے قیام کیا اور بکریوں کو ایک جگہ پر باندھ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورا حمل سے تھیں اور وہ حمل بھی قریب الولادة تھا چنانچہ اسی رات پھر جننے کا بھی اتفاق مرضی الہی سے ہو گیا۔ ادھر اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طوفان آیا کہ تمام عالم پر اندھیرا ہو گیا۔ اور

پھر آسمان بھی گر جسے لگا کسی نے بھی اس رات آرام نہ کیا پانی بھی برسنے لگا اور سخت سردی پڑنے لگی یہ دیکھ کر پھر موسیٰؑ گھبرا کر آگ لگانے کو چاقاں جھاڑنے لگے لیکن اس سے آگ نہ نکلی تاچار ہو کر غصے سے چاقاں زمین پر پھینک دیا۔ پس خدا کے حکم سے اس چاقاں نے موسیٰؑ سے کہا کہ اے موسیٰؑ مجھ کو خدا کا حکم نہیں ہے کہ تم کو آگ دوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰؑ علیہ السلام اس چاقاں سے باز آئے اور پھر آگ کے واسطے بہت متفکر ہوئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ کوہ طور کی طرف ایک آگ کا شعلہ نظر آیا اور حقیقت میں وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ خداوند قدوس کا نور مبارک تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَذَمَّ قَضِي مُوسَى الْكَاهِلَ وَسَارِ يَا هَلُمَّ اَنْتَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لَا هَلْهِيَ اَمْ كُنْتُمْ اِنِّي اَنْتُ نَارًا لَعَلِّي اَتَيْتُكُمْ مِنْهَا بِسَخِيرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ ترجمہ۔ پس جب پورا کر چکا موسیٰ وہ مدت اور سے کر چلا اپنے گھر والوں کو دیکھا کہ وہ طور کی طرف ایک آگ پھر یہ دیکھ کر کہنے لگے اپنے گھر والوں کو کہ تم سب یہاں ٹھہرے رہو میں نے ابھی دیکھی ہے ایک آگ شاید میں اس آگ کو لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے یا تو وہ کچھ مرہ ہے یا پھر وہ آگ کا انکارہ تاکہ تم لوگ اس سے تالو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ۔ فَلَمَّا اَشْهَادُوْا رَبِّيْ مِنْ شَاطِئِي الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَّمُوسَى اِنِّي اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝ پھر جب پہنچا موسیٰ اس آگ کے پاس آواز آئی میدان کے واسطے کہ اسے برکت والی زمین میں اس درخت سے کہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ تمام جہان کا رب ہے پھر قولہ تَعَالَى اِنِّي اَنَا وَابْرٰهِيْمَ قَاهُلَع لَعَلَّكَ اَنْتَ يَا لُوَادِ الْمُقَدَّسِ طُ ۝ وَاَنَا خَلَقْتُكَ فَاَسْمِعْ مَا يُدْعِي ۝ اِنِّي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي ۝ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۝ لِيَذْكُرْنِي ۝ ترجمہ! پھر کہا تحقیق میں ہوں پروردگار تیرا پس اتار ڈال دونوں جوتیاں اپنی تحقیق تو بیچ میدان پاک کے ہے کہ نام اس کا طوی ہے اور میں نے پسند کیا تجھے پس سن جو کچھ کہ وحی کی جاتی ہے تحقیق میں ہوں اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہوں پس تو عبادت کر میری اول قائم رکھنا زکوہ واسطے میرے روایت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام مدین سے مہر کو آنے لگے تو اپنی بیوی اور اپنی کبریاں ساتھ لے کر جنگل میں رات کی سردی میں راہ بھول گئے اور دوسرے ان کی بیوی کو درد زہ شروع ہو گیا۔ نہت دور سے آگ نظر آئی کہ وہ طور پر حقیقت میں وہ آگ نہ تھی وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم کچھ دیر ٹھہرو میں تمہارا سوا سوا

آگ لانا ہوں یہ کہہ کر حضرت موسیٰ اپنے خیال کو یہاں چھوڑ کر صرف اپنا عصا ہاتھ میں لے کر
 کوہ طور پر گئے۔ جب اس کے نزدیک پہنچے ایک درخت سبز دیکھا کہتے ہیں کہ وہ درخت
 یعنی میری کے درخت کے مثل اور اوپر سے نیچے تک اس پر نور ہی نور تھا حضرت موسیٰ علیہ
 السلام نے یہ جانا کہ یہ آگ ہے پس اس کو جھاڑ کر کاٹ کر سرے پر باندھ کر عصا سے اس
 درخت کے سر پر رکھا تاکہ آگ سلگے اور اس کو کپڑے سے پس وہ نور درخت کا ایک شاخ سے
 دوسری شاخ پر اور دوسری شاخ سے تیسری شاخ پر چلا جاتا تھا عرض کیا جہاں پر حضرت موسیٰ
 اپنا عصا رکھ دیتے اس پر آگ نہیں سلگتی تھی یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ بہت مالوس ہوئے اور
 اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب نعلین اپنے پاؤں سے نکالے اس وقت دونوں نعلین دو چھو ہو گئے
 اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ سے کوہ طور کی طرف جاتے ہوئے صفورا نے
 ان سے کہا تھا کہ خبردار اس میدان میں جہاں جا ہے ہوسا پ و چھو بہت ہیں اچھی طرح سمجھ
 لو بھ کر جانا حضرت موسیٰ بولے میرے پاؤں میں نعلین ہیں اور میرے ہاتھ میں عصا ہے پھر
 چھ کو کیا ڈر ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے ان مادی طاقتوں پر اعتماد کیا تو وہ خدا کے حکم سے
 دونوں نعلین دو چھو ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ ڈر گئے اور پھر وہیں آواز عیب سے آئی
 حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا تَلَكْ بِمِثْلِكَ لِيُؤْسِيْ قَالَ هِيَ عَصَايَ اِنَّ كَوْنَهَا
 عِيْنَهَا وَاَهْشَىٰ بِهَا عَلٰى غَنِيٍّ وَّلِيٍّ فِيْهَا مَا رِبُّ اُحْدَىٰ۔ قَالَ اَلْقِسْمَا
 يُؤْسِيْ هَا فَالْقِسْمَا فَاذْ اَهْبٰ حَيَاتُهُ تَسْمٰى هَا قَالَ هَذَا هَا وَا لَا تَخَفْ وَفَقَدْ سَمِعْنَا
 سَابِقَتَهَا اَكْبَرُ وَّلِيٌّ فَرَجَبًا۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ یہ کیا چیز ہے
 تیرے داپنے ہاتھ میں حضرت موسیٰ بولے کہ یہ میری لاٹھی ہے اس پر بیگیتا ہوں اور اس سے
 تنے بھی جھاڑتا ہوں اپنے مویشی یعنی کبڑوں کے واسطے اور بھی اس میں میرے کتنے ہی کام
 ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تو اس کو ڈال دے اے موسیٰ پس ڈالا اس کو ناکھان پھر
 تو وہ سانپ تھا اور پھر پھر پھر کہا اے موسیٰ اس کو تو کپڑے اور مت ڈر ذرا بھی پھر میں
 اس کو اسی حالت پر کروں گا جو اس کی پہلی حالت تھی یعنی یہ پھر لاٹھی بن جائے گا پھر جب
 حضرت موسیٰ نے اس کو کپڑے پس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ہو کر ہاتھ میں آگیا اور اللہ تعالیٰ
 نے قرآن مجید میں اس عصا کو ایک جگہ حَيَاتُهُ تَسْمٰى اور ایک جگہ ثُعْبَانٌ سَبِيْنٌ اور ایک جگہ كَاثِبًا
 جَانٌ فرمایا کہ پہلے دیکھتے ہی سانپ تھا معلوم ہو تا اور پھر پھر تا اور بزرگی میں ثعبان کے مانند بنا۔

کے یعنی سانپ کی یہ تینوں صفتیں ہیں اور میں موجود تھیں کہتے ہیں کہ وہ عصا جب ثعبان کی مانند
 ہوتا تو بڑا سانپ بنتا اور پشم اس کی مانند نیزے کے ہوتی اگر وہ پتھر پر بھی مارے تو وہ ٹکڑے
 ٹکڑے ہو جاتے پھر کہا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ اَسْلَمْتَ يَدَكَ فَيَ حَيْثُكَ تَخْرُجُ فَيُضَاءُ
 مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ وَ اَضْمَمَّا اَيْدِكَ جَبَاحَكَ مِنَ الدَّهَبِ فَذَلِكَ بَدَعَانَا مِنْ رَيْكَ
 اِنِّي وَرِعُونَ دَسَلًا بِمِ ۵ اِنَّهُدْ كَا لَوْ اَقْوَمَا فَنَسِقِينَ ۵ ترجمہ اے موسیٰ لے جا اپنے ہاتھ
 کو اپنے گریبان میں کہ نکل آوے سفیدی بغیر برائی کے اور بلا اپنی طرف بانو ڈرے تاکہ
 سانپ کا ڈر جاتا ہے پس وہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ فرعون اور اس کے
 سرداروں پر تحقیق وہ ہیں قوم فاسق۔ پس حضرت موسیٰ نے خدا کے فضل سے اپنے گریبان
 میں ہاتھ ڈالا اور اس میں ایک سفیدی پھیلی پر نظر آئی مثل آفتاب روشن کے ظاہر ہوا اور اس
 کا نام دیدیضا ہے اس کی روشنی سے تمام جہاں روشن ہو جاتا ہے اور اسی کا نور آفتاب پر
 غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے تھے ایک
 عصا کا جس سے ہزاروں قوم کے معجزے ظاہر ہوئے اور دوسرا معجزہ دیدیضا دیا تھا اس معجزے
 سے عالم روشن ہو جاتا اور ان دو معجزے کو دیکھ کر مخلوق خدا ان پر ایمان لاتی تھی۔ حکم ہوا اے
 موسیٰ تم مصر میں جاؤ اور وہاں جا کر فرعون ملعون کو خدا کی دعوت دو۔ قولہ تعالیٰ : اِذْ نَادَى رَبَّهُ
 يَا ذَا الْعَرْشِ مَن مَّطْوًى نَدَى اِذْ هَبْ اِنِّي وَرِعُونَ اِنَّهُ طَعْنِي ۵ فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلٰى اَنْ تَنْزِلَ
 وَ اِهْدِ يَدَكَ اِنِّي سَ يَكْفُ فَتَحْشَى ۵۔ ترجمہ جب پکارا اس کو رب نے پاک میدان
 میں جس کا نام طوی ہے اے موسیٰ تو با فرعون کے پاس اس نے بہت مراٹھا یا ہے۔ پس
 اس کو کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنو رہا ہے اور میں تجھے نیک راہ بتاؤں جو تحقیقی رب کی راہ
 ہے پس تجھ کو ڈر ہو۔ کہا موسیٰ نے اے رب میرے عیال اور میری یہ بکریاں بیاباں جنگل
 میں پڑی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کو بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ سب چھوڑ کر مصر میں کیونکر جاؤں
 نہ آئی اے موسیٰ میں نے بہت سے سوچیں بھیجیں تیری بوسے کے پاس کہ وہ ان کی خدمت
 کریں اور بچے کو دودھ بھی پلائیں اور بھڑوں کو کہا گیا ہے کہ وہ تیری بکری کے ریوڑ کی ٹھیکانی
 کریں اور تو ہر طرح سے خاطر جمع رکھ اور کوئی اندیشہ مت کر قولہ تعالیٰ : قَالَ رَبِّ اِنِّي
 قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَقْتُلُوْنِ ۵ وَاَحْيٰ هَارُوْنَ هُوَا وَاَسْحَمَ مَتٰى لَسَانًا
 فَاَدْسَلَهُ مَعِيَ دِدْمًا يُصَدِّقُنِي اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَلِّمُنِي ۵ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ

بِأَهْنِكَ وَنَجَعَلْ لَكَ مَا سُلْطْنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا هَا يَا أَيُّهَا أَنْتُمْ وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا
 الْغُلَبُونَ ترجمہ موسیٰ نے کہا اے رب میں نے خون کیا ہے ان میں سے ایک جی کا سوڈوتا
 ہوں کہ کبھی وہ مجھ کو مار ڈالیں اور میرا بھائی ہارون ہے کہ اس کی زبان اچھی صاف چلتی ہے
 مجھ سے زیادہ سو تو اس کو میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میرا مددگار ہو اور میں ان کی نظر میں سچا ثابت
 ہوں اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ لوگ مجھ کو جھوٹا کریں فرمایا اے موسیٰ یقیناً ہم نذر
 دیں گے تجھ کو تیرے بھائی ہارون سے اور پھر مدد دیں گے ان لوگوں پر تجھ کو تاکہ تو غالب
 آوے ان پر اور وہ میری مدد کی وجہ سے تم پر غالب نہ آسکیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے اپنے رب سے پانچ حالتیں طلب کیں قولہ تعالیٰ: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي
 أَمْرِي ۗ وَاجْعَلْ لِي سَبِيْلًا يَفْقَهُوا قَوْلِي ۗ وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِ
 هَاؤُنِّ ۗ إِنَّهُ أَشَدُّ دِيْبًا ۗ اَنْزَيْ لِي ۗ وَاشْرِكْ لِي فِيْ اَمْرِيْ ۗ كَيْ تَسْبِحَكَ كَثِيْرًا ۗ
 وَتَذَكَّرَكَ كَثِيْرًا ۗ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَابِصِيْرًا ۗ ترجمہ کہا موسیٰ نے اے رب کشادہ کر
 میرا سینہ کہ میں جلدی حقانہ ہوں اور آسان کر کام میرا سخت گرہ کھول میری زبان سے تاکہ لوگ
 سمجھیں میری بات۔ زبان حضرت موسیٰ کی بچپن میں جل گئی تھی اور وہ صاف بول نہ سکتے تھے اس لیے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یا الہی زبان میری کھول دے اور
 میرے واسطے ایک وزیر کو میرے بھائی کو ہارون کو جو کہ اہل سے ہے اور میری قوت اس
 کے ساتھ مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو شریک بنا دے یہاں تک کہ وہ شریک ہو سکے
 میری پیغمبری میں کہ میں صحیح طور پر تیری ذات پاک کا بیان کر سکوں اور پھر مل کر تیری یاد کرتے ہیں
 بے شک تو ہی ہم کو دیکھنے والا ہے یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اذْ تَبَيْتَ مَسْؤَلَكَ
 يٰمُوسٰى ۗ ترجمہ کہا اللہ تعالیٰ نے ملائچھ کو تیرا سوال اے موسیٰ دل تیرا روشن کیا اور کام تیرا
 آسان ہوا اور زبان بھی تیری بڑی فصیح کی اور تیرے بھائی ہارون کو تیرا وزیر کیا اب تو جعفر بن
 کے پاس کیونکہ اس نے بہت سہرا اٹھا رکھا ہے۔ پس حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا تو اس نے اللہ
 سے پایا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب
 کچھ دیا۔ علم لدنی ان کو پورا حاصل تھا اور پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک
 میں۔ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۗ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۗ الَّذِيْ اَقْبَضَ طَهْرَكَ
 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۗ ترجمہ کیا ہم نے نہیں کھولا اے محمد صلعم تمہارا سینہ اگرچہ

تم نے مجھ سے نہیں چاہا تھا کہ علم و حکمت سے پر رہے اور اتنا رکھا ہم نے تم سے تمہارا ابو جہر جس نے توڑی تھی پیچھے تمہاری اور بند کیا ہم نے تمہارے واسطے ذکر تمہارا پیغمبروں میں اور فرشتوں میں نام تمہارا بلند کیا اور ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگی تھی جب مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولہ تعالیٰ **وَإِذْ قَعِ ابْنُ هَيْمِ الْقَدِصِ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** ترجمہ اور جب اٹھانے لگے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل بنیاد میں اس گھر کی تبت کہا اے رب قبول کر ہم سے تحقیق تو ہے سننے والا اور جاننے والا اور کہا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَالِإِذْ عَشَى ترجمہ یا رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو معاف کر گناہ سے تبت حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا جب اسے کچھ ملا اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مانگے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عنایت کیا تھا اور ان کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لِيُعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ** میں نے سب کچھ بخشا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تم سے پہلے ہوا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا انکی ذلت سے تجھ کو شفیع لانے سے اور امت کو بخشا تبری شفاعت سے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہنے سے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر مقرر کیا اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چاہت کے چار خلفاء کو وزیر مقرر کیا اور اسی طرح سے ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے مقصد کو خدا تعالیٰ سے مانگ لیا تھا۔ اور ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مانگے سب کچھ عنایت کیا۔ غرض موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قولہ تعالیٰ **وَإِذْ هَبْنَا دَاوُدَ الْمَلِكَ إِذْ رَاكَ وَأَخْلَكَ يَا بُنَيَّ وَلَا تَبْتَغِ فِي دِينِكُمْ دِينًا لِي فَتَقَدَّرَ أَتَىٰ طَغْيَ جِ فَفَقُولَا لَنَا لَعَلَّهَا بَيْنَكَ كَرَامًا أَوْ يَخْشَىٰ قَالَ لَا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ أَغْفَارًا وَأَنْتَ عَلِيمُنَا وَأَنْ يَطْفِئَهُ قَالَ لَا تَخَفَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَنْتُمْ فَاتِيَةٌ تَرْجُمُهُ** اے موسیٰ جانو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور اس کام میں سستی نہ کرو میری یاد میں جاؤ فرعون کی ظلمت کیونکہ اس نے بہت سر اٹھایا ہے اور کہو اس سے بات نرم شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا پھر وہ مجھ سے ڈرے کہہ دو نونوں نے اے پروردگار ہمارے بیشک ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کبھی وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا پھر وہ غصہ کے جوش میں آدے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم بالکل مرت ڈر کر تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب سنتا اور دیکھتا ہوں۔ پس

تم جاؤ اس کے پاس اور اس سے جا کر کہو کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو کسی طرح کے عذاب میں نہ ڈال اور ہم لوگ یہ پیغام لے کر آئیں ہیں تیرے پاس اور ہم دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی نشانیاں موجود ہیں اور سلامتی بھی اس شخص کی ہوگی جو ہدایت کی پیروی کرے گا اور بیشک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس شخص کے واسطے عذاب ہوگا جو کہ اٹھے ہوئے رسول کی پیروی نہ کرے بلکہ اس کو جھٹلائے اور ہدایت سے منہ پھیرے اور اس وقت تیرے واسطے بہتر یہ ہی ہے کہ تو ایمان لے آ اور دعویٰ باطل کو چھوڑ دے پھر تجھ کو تین چیزیں ملیں گے۔ ایک جوانی، دوسری بادشاہی مشرق سے مغرب تک تیسری چیز یہ ہوگی کہ تیری عمر بھی دراز کر دی جائے گی تاکہ تو بہت عرصہ تک دنیا میں بادشاہی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنا رسول بنا کر تمام علم و حکمت کی باتیں اس میدان مقدس میں جو کوہ طور پر تھا سکھائیں۔ پھر ان کو حکم دیا کہ اب تم مصر میں جاؤ اور فرعون کو ہدایت کرو۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی پاکر حضرت موسیٰ فوراً ہی واپس اسی جگہ پر آ گئے جہاں پر اپنی بیوی صفورا کو چھوڑ گئے تھے اگر دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ان سے تولد ہوا اور ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حوران بہشت مقرر فرمادی تھیں اور پھر ایسے اور شیران کی بکریوں کی پاسبانی کر رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام احوال بنورت جو منجانب اللہ عنایت ہوا تھا اور جو گفتگو اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہوئی تھی اور جو حکم فرعون علیہ اللعنتہ کی طرف جانے کا اور اس کو ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا سب کچھ اپنی بیوی صفورا سے بیان کیا۔ صفورا نے جب یہ گفتگو حضرت موسیٰ سے سنی تو وہ بولیں کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ اور خدا کے امر میں تاجرت کر۔ وہ بہت جلد جا کر اس کو خداوند قدوس کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تمام اسباب و لوازمہ اپنی بیوی صفورا کے پاس چھوڑا اور اپنا عصا ہاتھ میں لے کر خدا کو یاد کرتے ہوئے مصر روانہ ہو گئے اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت عشا کا وقت تھا اور حضرت موسیٰ نے اپنے گھر جا کر دستک دی تو ان کی بہن مریم نے گھر سے نکل کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں مسافر ہوں۔ یہ سن کر مریم اپنی ماں سے بولی اے اماں جان ایک مہمان مسافر دروازے پر کھڑا ہے مریم کی والدہ نے کہا جلدی جا کر دروازہ کھول دو اور اس مسافر کو اندر لاکر کھانا کھلاؤ۔ حضرت موسیٰ نے یہ سن کر اپنی صورت ایک اجنبی کی سی بنا کر بتر

کنا سے پر جا بیٹھے اس کے بعد ہارون اور ان کے والد عمران ان دونوں نے آکر
 حضرت موسیٰ کو دیکھا۔ لیکن بعض حواے کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان
 کے والد اور ان کی بہن دونوں انتقال کر گئے تھے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔
 واللہ اعلم بالصواب۔ الغرض والدہ نے آکر دروازہ کھول دیا کچھو نا اور چراغ اور کھانے
 کو نیک اور روٹی لاکر رکھ دی۔ جب حضرت موسیٰ کھانا کھا ہے تھے تو ان کے بھائی ہارون نے
 آکر اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ وہ بولیں کہ یہ مسافر مہمان ہے۔ پھر ہارون نے غور کر کے
 دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تب پھر وہ اپنی ماں سے
 کہنے لگے کہ واہ یہ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ ہیں یہ کہتے ہی گلے مل کر رونے لگے اور یہ دیکھ
 کر حضرت موسیٰ کی ماں بھی رونے لگیں۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ اپنی والدہ کو تسلی دینے
 لگے اور ان کے بھائی ہارون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا اے میرے بھائی میں نے سنا
 ہے کہ تم نے ہمدین میں حضرت شعیب کی بیٹی سے بیاہ کیا ہے اور وہاں بہت دن رہے ہو
 حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میں نے شادی کی ہے اور مزید ایک خوشخبری میں تم کو دیتا ہوں کہ
 خدا نے مجھے بغیر بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر مجھ
 سے کلام کیا۔ ہارون اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جلدی سے اٹھ کر تعظیم کی اور
 دست بوس بھی ہوئے اور پھر خدمت میں حاضر رہے پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہا بھائی ہارون
 تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے میری پیغمبری میں شریک کیا ہے چلو مل کر فرعون کے پاس چلیں اور اس مردود
 ملعون کو خدا کا پیغام پہنچائیں اور اس کو سیدھی راہ کی ہدایت کریں اور خداوند قدوس نے مجھ کو دو
 معجزے بھی عنایت فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ عصا اگر اس کے میں زمین پر ڈال دوں تو یہ اتر دباؤں کو
 سارے مہر کے کفاروں کو کھا جائے اور پھر اس کے علاوہ جو میں کہوں گا سو وہ اللہ تعالیٰ کے
 فضل و کرم سے ہزار طرح کے معجزے اس عصا سے ظاہر ہوں گے اور دوسرا معجزہ یہ بیضا کا
 ہے یعنی میں جب جب حبیب میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ بیضا یعنی سفیدی نکل آوے گی اور پھر ہر
 ایک انگلی سے نور نکلے گا اور تاریکی جاتی رہے گی۔ تمام جہان روشن ہو جائے گا۔ ان وجوہات
 سے یقین ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم سب کفاروں پر غالب ہوں گے ہارون بھی یہ سن
 بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اب معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے
 خلاصی پائیں گے۔ پھر دوسری صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون

دو دنوں فرعون لعین کے مکان پر گئے اور اس مردود نے اپنے گھر کے دونوں طرف حزابوٹے ہوئے تھے اور ان کے نیچے بڑے بڑے جنگلی شیر باندھ رکھے تاکہ کوئی دشمن اس کے مکان پر نہ جاسکے اور اس کے حکم بغیر اس کے گرد بھی نہ پھرے۔ فی الواقع وہاں کوئی بھی اس کے ڈر سے نہ جاسکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو تمام شیروں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر باادب کھڑے ہو گئے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کے بالاناغہ کا حلقہ، دریکڑ کر ہلا دیا اور اس کے ہلتے ہی اس مکان کے پر لڑھ پڑ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ ہی یہ آواز دی کہ۔ اَنَا رَسُولُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ آواز بھی فرعون کے مکان میں جبا پہنچی۔ پردہ زربفت اٹھا کر دیکھا کہ موسیٰ ہیں یہ دیکھ کر چپ ہو رہا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دو برس فرعون کے در پر حضرت موسیٰ رہے اس کے دربان وغیرہ سے کہتے رہے کہ ہم خدا کے رسول ہیں تم لوگ فرعون کے پاس خبر دو۔ وہ مردود کہنے لگے کہ تم لوگ دیوانے ہو۔ اور فرعون تو تمہارا خدا ہے اور تم کیا کہتے ہو۔ دوسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو فرعون کے پاس جانے دو یا ہماری خبر اس کو پہنچا دو، اور ہم دونوں خدا کی طرف سے آئے ہیں اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کرنی ہے، لیکن اس کے دربان کافروں نے نہ مانا اور ایک دن ایک منخرہ کہ وہ فرعون ملعون کے دربار میں ہمیشہ نرلیات کہا کرتا تھا جا کر بولا کہ کیا عجبات ہے کہ آپ کے دروازے پر دو شخص دو سال سے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ ہے کہ جو اگلے اور پھلوں کا خدا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہی سب کو روزی دیتا ہے اور وہی سب کو پیدا کرتا ہے اور وہ پھر وہ موت دیتا ہے لیکن لوگ ان کو دیوانے کہتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں آنے دیتے یہ باتیں جو اس منخرے نے فرعون سے کہیں اس کو سن کر فرعون بہت ہی خفا ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ کو پیش میں آکر بلایا۔ قَوْلًا نَعْمًا ۙ اَلَمْ نَذَرِكْ فِئْنَا وَ لِيْنَا ۙ اَدَلْبِتْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۙ وَ نَعَلْنَا فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتِ وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ۙ ترجمہ کہا فرعون ملعون نے کیا میں نے تجھ کو نہیں پالا تھا بطور اپنے فرزند کے اور برسوں تو ہمارے پاس رہا۔ اور کہ گیا تو وہ کام اپنا جو کر گیا اور تو تو ناشکروں سے ہے پس تھوڑے دن ہوئے تو ہمارے پاس سے نکلا ہے اور ایک قبلی کا خون کر کے اب آئے ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا سچ میں وہی ہوں قَوْلًا نَعْمًا ۙ۔ قَالَ فَعَلْتَهَا اِذْ اَوَاْنَا مِنَ الصَّالِيْنَ ۙ فَفَرَدْتُمْ مِّنْكُمْ

لَمَّا خَفَّيْنَاكَ فَأَوْهَبَ لِي سَيِّئِي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ نَزَّلْنَا سُلَيْمَانَ
 موسیٰ نے کیا تھا جس نے وہ کام اس وقت اور میں تھا جو کئے والاپس میں بجا گا تم سے جب
 ڈر دیکھا پھر تختی میرے رب نے حکومت اور کیا مجھ کو پیغمبروں میں سے کہا فرعون نے
 قوله تعالى . قَالَ فِرْعَوْنُ دَسَّابُ الْعَالَمِينَ ۝ ترجمہ فرعون نے کہا کہ کون ہے پروردگار
 تیرا جس نے تجھ کو بھیجا ہے میرے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوله تعالى .
 قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝ إِنَّ كُنْتُمْ مَذْقِبِينَ ۝ ترجمہ کہا موسیٰ نے
 پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اگر ہو تم یقین لانے
 والے یہ سن کر فرعون نے اپنے قوم سے کہا قوله تعالى . قَالَ لَيْسَ مِنْ حُدُودِ آلِئْتَمْتَمُونَ
 قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبِّيَ أَبَاكُمْ إِلَّا الَّذِينَ ۝ ترجمہ کہا فرعون نے واسطے ان لوگوں کے جو
 اس وقت گرد تھے کیا تم سنتے ہو کہ کیا کہتا ہے موسیٰ کہ پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارا
 اگلوں باپ داداؤں کا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا قوله تعالى . قَالَ إِنَّ
 رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَعْجُونَ ۝ ترجمہ کہا فرعون نے لوگوں کو تمہارا پیغام
 لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا ہے سو وہ مجنوں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قوله تعالى
 قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ کہا موسیٰ علیہ السلام
 نے یہ پیغام ہے پروردگار مشرق و مغرب کا اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے اگر تم
 سمجھ رکھتے ہو تو سمجھ لو پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک ایک بات کہے جاتے
 تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتے جاتے تھے اور فرعون بیچ میں اپنے سرداروں کے
 ساتھ کچھ غلط فہمیاں کرتا جاتا تھا اور ان کو حضرت موسیٰ کے خلاف ابھارتا جاتا تھا کہ کبھی ان
 کو یقین نہ ہو جائے۔ پھر فرعون بولا قوله تعالى . قَالَ لَيْسَ اتَّخَذَتِ السَّمَاوَاتُ
 لَأَهْلِنَاكَ مِنَ الْمُسْجُودِينَ ۝ ترجمہ کہا فرعون نے اگر کپڑے کا تو معبود میرے ہوا
 تو البتہ کوزوں گامیں تجھ کو قیدیوں میں سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا
 تعالیٰ نے مجھے تم پر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کہہ لے اَلَا اللَّهُ مُرْسَلِي سَأَسْأَلُ اللَّهَ
 یہ سن کر فرعون نے کہا حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اگر میں یہ کلمہ پڑھوں گا تیرا خدا مجھ کو
 کیا دے گا اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اگر تو ایمان لا دے گا تو میرا خدا
 تجھ کو تین چیزیں دے گا اول جو انی دوسری بادشاہی مشرق سے مغرب تک تیرے سرور

یعنی ایک سو برس کی عمر اور بڑھادی جائے گی تاکہ تیری زندگی دنیا کے عیش و نشاط میں گزرے اور پھر قیامت میں اس کا حساب نہ ہو گا۔ حضرت موسیٰ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ فرعون کے ساتھ نرم نرم بات کریں اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نرم نرم بات کہتے تھے۔ فرعون بولا اے موسیٰ علیہ السلام آج مجھ کو مہلت دے تاکہ میں اپنے وزیروں سے صلاح و مشورہ کر کے جو کچھ مصلحت ہوگی اس کا جواب کل کو دوں گا۔ پھر حضرت اور ان کے بھائی ہارون دونوں اپنی والدہ کے گھر چلے آئے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے وزیر ہامان کو بلایا اور جو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئیں تھیں وہ سب اس کو بیان کر دیں اور بولا کہ مجھ کو اب کسی بات کی آرزو نہیں ہے مگر میں اپنی جوانی چاہتا ہوں کہ میں پھر از سر نوجوان ہو جاؤں۔ تب وزیر ہامان بے ایمان نے اس سے کہا کہ ابھی چند روز ہوتے تھے کہ تو نے دعویٰ معبودیت کا کیا ہے۔ اور اب تو اقرار عبودیت کا کرتا ہے۔ اس بات سے تمام حلائی بنے گی۔ اور اگر تجھ کو جوان ہونے کی آرزو ہے تو آج ہی شب میں تجھ کو جوان کر دوں گا جب رات ہوئی جو اب فرعون کی داڑھی میں رستے تھے اس نے ان کو لیکر کسی ترکیب سے کالا حنصا بنا کر لیا اور فرعون کی داڑھی میں سوتے میں لگا دیا۔ فرعون نے صبح اٹھ کر دیکھا تو اپنی داڑھی کو سیاہ پایا پھر اس کو یقین ہو گیا کہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ پھر دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ اے موسیٰ علیہ السلام تیرے پاس تیرے رب کی کیا دلیل ہے اور تیری پیغمبری کی کیا معجزہ ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے کہا تو کہ تعالیٰ نے فرمایا اذْکُوْبُکُمْ اَشْتٰی مَبِیْنٰی ۛ۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ لاؤں میں تیرے پاس ایک چیز تب تو یقین لائے گا میری پیغمبری پر۔ کہا فرعون نے قولہ تعالیٰ۔ فَاْتِ بِہٖ اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ترجمہ کہا فرعون نے پس سے آ اگر ہے تو بچوں میں سے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال کر تعالیٰ کا قافی عَصَاۃً فَاْتٰ ہِیْ ثَعْمٰنٌ مَبِیْنٌ۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا اپنا عصا پس ناگاہ اڑ دیا اسی گز کا ظاہر ہوا اور منہ اس کا کھلار یا اور سینہ پاؤں مثل بڑے ہاتھی کے تھے اور میٹھا ردا نت اس کے ظاہر ہوئے اور دم اس کی مانند تیرے کی تھی اور اس کے منہ کا کف جس جگہ گرتا اس زمین کو بالکل جلادیتا۔ پھر اس جگہ پر گھاس بھی پیدا نہ ہوتی اور اگر وہ کف کسی آدمی پر گرتا تو وہ فوراً مر جاتا یا پھر اس کو برص کی بیماری ہو جاتی اس ہنہیب

شکل سے وہ سانپ فرعون کے بالاخانے کی طرف گیا پھر اس سانپ نے اس بالاخانے کے قریب پہنچ کر ایک لب اس نے فرعون کے تخت کے نیچے رکھا اور دوسرا لب اس تخت کے اوپر رکھا چاہتا تھا کہ معہ فرعون کے اس کے شاہی تخت کو نکل جائے یہ دیکھ کر فرعون بہت جلدی سے اپنے تخت سے اتر پڑا اور حضرت موسیٰ کے پاس آکر معذرت کرنے لگا۔ اسے موسیٰ علیہ السلام تو مجھ کو خدا کی دعوت دینے آیا ہے یا مجھے ہلاک کرنے آیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں تو تجھے خدا کی دعوت دینے آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر فرعون گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا اے موسیٰ مجھ میں تجھ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ بس تو اپنا اثر دہا تھا مے۔ پھر اس کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اثر دہے کی گردن پر ہاتھ رکھا اسی وقت، وہ سبب عصا بن کر حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا پھر اسی وقت فرعون اپنے تخت پر جا بیٹھا پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر یہ بیضا نکال کر دکھایا، فَوْكَا تَعَالَى - وَتَنْزِيحًا يَدَاہِمْ بِيضًا لِّلْبَيْضِ مِثْلُہٗ ۝ ترجمہ اور نقل میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا موسیٰ علیہ السلام نے پس ناگہاں وہ سفید تھا واسطے ہر ایک دیکھنے والوں کے پس یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی قوم سے کہا یہاں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قَاتِلِ لِلْمَلَآئِكَةِ اِنَّ هٰذَا السَّحَرُ عَلِيُّہٗۃٌ یَّدِیْنَ اَنْ یَّخْرِجُوْکُمْ مِنْ اَرْضِکُمْ بِسِحْرٍ فَمَاذَا تَأْسُدُوْنَ ۝ فَاَلَا رَءٰیہٗ وَاَحَاۡہٗ وَابْعَثْنَا فِی الْمَدَآئِنِ حٰشِرًا ۝ لَا یَأْتِیْکُمْ بِکُلِّ مَسَآرِعِہٖۃٌ ۝ بولا فرعون اپنے اس پاس کے سرداروں سے یہ کوئی جادوگر ہے پڑھا سوا اور چاہتا کہ نکال دیوے تم کو تنہا رہے دیس سے اپنے جادو کے زور سے سوا ب تم کیا حکم دیتے ہو۔ وہ بولے کچھ مہلت دو اس کو اور اس کے بھائی اور تمام شیروں میں نقیب بھیجو تاکہ وہ بڑے بڑے جادوگرے آدیں ادھر فرعون سے ذریعوں نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں تو بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں ان سب کو بلا کر جمع کرو۔ پھر دیکھیں کہ موسیٰ اپنی جادوگری میں کیونکر بڑھ سکتا ہے بلکہ وہ جادوگر تو موسیٰ پر غالب آجائیں گے، ان وزیروں کے کہنے سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند روز کے واسطے مہلت لے لی۔ حضرت موسیٰ اپنے گھر واپس آ گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اس عرصہ میں تقریباً چھ مہینے گزر گئے فرعون ملعون نے تقریباً چار ہزار مشہور اور نامور جادوگروں کو جمع کیا۔ اور ہر جادوگر الیا اپنے ہنر میں ہوشیار تھا کہ وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ان میں ایک بڑا جادوگر اندھا بھی تھا فرعون ملعون نے اپنے

جادوگروں سے کہا کہ تم کو تین سو برس سے پرورش کر رہے ہیں اور کچھ بھی دینے میں اب وقت
 ہم پر کچھ مصیبت اُڑی ہے تم لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ اپنے اپنے علم اور جادو سے موسیٰ کو
 روک دو بلکہ اس کو شرمندہ کر کے ہمارے ملک سے نکال دو تب تم سے ہم خوش ہوں گے
 اور دولت بھی بہت دیں گے جادوگروں نے کہا کہ ہم سب آپ کے ننگ خوار میں ذرا بھی حضور
 کے کام قصور نہ کریں گے، مگر عرض یہ ہے کہ آلات جادوگری بہت چاہئیں۔ برائے کرم
 آپ ہم کو منگوا دیجیے ہم سب طلسم تیار کریں گے یہ سنتے ہی فرعون نے حکم دیا اور سب خزانہ
 اس کے خرچ کے واسطے کھول دیار یہاں اور سیما و میزہ جو ضروریات سے تھے سب تیار
 کر دیا گیا۔ پھر مہینوں تک جادوگروں نے طلسم تیار کیا اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معبود
 برحق کی عبادت میں مصروف تھے اور فرعون ملعون اپنے جادوگروں میں مشغول تھا، اور بارہ
 ہزار لشکر تیار کیا اور ان کو اس مکان کے واسطے بائیں ٹھہرے کر دیئے اور اطراف میں اس
 مکان کے بارہ بارہ کوس تک میدان وسیع تھا۔ اسی مکان میں دو پہر کے وقت جب آفتاب گرم
 ہوا جادوگروں کے آلات طلسم واسطے چار ہزار ایک بار جہنم میں آنے اور وہ حشرات العرین
 سانپ اژدھا اور بچھو بن گئے اور اس میدان کے تمام پتھر و کلورج موم ہو گئے پھر جادوگروں
 نے کہا قرآن تاملے: **قَالُوا أَيُّ مِثْلِي إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ آدَمَ مِنَ الْتَالِقَاتِ**
بَلْ أَنْتُمْ أَجْرٌ فَإِذَا هَبَّ لَهُمْ وَعَصَبُهُمْ مَجْتَلٍ أَلَيْسَ مِنْ سِحْرِهِمْ أَفَمَا تَسْمَعُونَ
فَأَوْحَيْتُ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ ۖ فَلَمَّا لَا تَخَفُ أَتَكَرَّرَ الْاَعْتَمَاءُ وَالنَّبِيُّ
سَانِي بِيَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۗ إِنَّمَا تُسْمَعُونَ كَيْدُ سِحْرٍ طَرَجِمَهُ كَمَا ان جادوگروں نے
 اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہوں ڈالنے واسطے حضرت موسیٰ نے کیا نہیں تم ڈالو۔ تب انہوں
 نے ڈال سب ریاں ان کی اور لالٹھیاں ان کی کی نیال میں آئیں ان کے جادو سے کہ وہ زمین
 پر دوڑنے لگیں، پھر ڈرتے لگے اپنے جی میں موسیٰ علیہ السلام ہم نے کہا اے موسیٰ تو ترترے ڈر
 اور البتہ تو ہی غالب رہے گا اور اب آخر میں ڈال اے موسیٰ جو تیرے واسطے میں ہے نکل
 جاوے گا وہ سب جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو ایک فریب ہے جادوگروں کا پس ڈالو
 اپنا عصا حضرت موسیٰ نے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ **قَالَ تَمَّ لَيْسَ ۗ ذَا لِقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاةَ**
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۗ ترجمہ: پھر ڈالو حضرت موسیٰ نے عصا پس وہ نکلنے لگا جو
 کچھ انہوں نے سانگ بنایا تھا پھر وہ عصا اژدھا بن کر میدان کے کنارے چل کر آیا اور جو

اس میدان میں چار ہزار طلسم جادو کے فرعون کے جادو گروں نے تیار کیے تھے ان سب کو ایک ۴
ایک لقمہ میں لکھ لکھ گیا اور جو آلات اور آوازاں کے بنائے تھے وہ بھی نکل گیا۔ اس میدان میں
پھر کوئی چیز بھی باقی نہ رہی اور پھر ابھی اس کو پورا پیٹ نہ بھرا۔ تب وہ اژدہا فرعون کے مکان کی
طرف چلا۔ فرعون اس کو دیکھ کر اپنا تخت چھوڑ کر بھاگا۔ جب لوگوں نے بھاگتے دیکھا تو معلوم کیا کہ وہ
جھوٹا برسر باطل تھا۔ اس اژدہے نے ایک لب اپنا فرعون کے بالا خانے پر رکھا اور دوسرا لب
اس کے نیچے رکھ کر زمین سمیت کر اس مکان کو کھود کر ہوا میں اڑا دیا۔ پھر مکان کا کوئی نام و نشان بھی
نہ رہا اور اس طرح سے حق اور باطل ظاہر ہو گیا۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: فَوَقَعَ الْحَقُّ بِبَاطِلٍ مَا كَانُوا**
لِعَمَلِهِمْ ۖ فَعَلْبُوا هَذَا لَيْكًا وَانْقَلَبُوا صَفِيرًا ۗ ترجمہ ثابت ہوا حق اور باطل ہوا
جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تب بارے اس جگہ پر اور پھر سے بہت ذلیل ہو کر اور پھر نہ آئی اسے
موسیٰ علیہ السلام عصا اپنا پکڑ نہیں تو ملک مصر تباہ کر دے گا اور اگر تو ذرا بھی ٹھہرے گا تو سارے
مصر کو کھا جائے گا۔ تب خدا کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا اسی وقت وہ لاکھ
بن کر باقیوں آگیا یہ دیکھ کر جادو گر بوسے کہ عصا موسیٰ علیہ السلام اژدہا بن کر ہمارے قوم سانگ
جادو کو کھا گیا۔ پھر ان سردار جادو گروں نے آپس میں کہا کہ موسیٰ حق پر ہیں اور اب تو صلاح ہماری یہ
ہے کہ ہم سب مل کر ان پر اور ان کے خدا پر ایمان لائیں گے کیونکہ ان کا خدا برحق ہے پس اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے: **وَالْقُلُوبُ السَّخِرَاتُ لَمَّحِينَ بِنِ ۗ قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ** یعنی ہم ایمان لائے
دُھڑو دُن۔ اور پڑھ گئے جادو گر سیدے میں اور کہا انہوں نے ایمان لائے ہم ساقھ۔
پروردگار عالموں کے اور پروردگار موسیٰ و یارون کے اس کے بعد خداوند قدوس نے ان کی
آنکھوں کا پردہ اٹھا کر تخت التراوی دکھایا۔ جب انہوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا پھر ان کو
عرش اور کون و مکان دکھایا پھر انہوں نے کہا **اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ** یعنی ہم ایمان لائے
پروردگار بے شمار عالموں کے تب فرعون ملعون نے ان سے کہا کہ تمہارا رب تو میں ہوں جادو گروں
نے فرج تہ جو اب دیا کہ تو ہمارا پروردگار کا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو پروردگار ہے موسیٰ
اور یارون کا۔ پھر فرعون نے ان سے کہا کہ ان کا خدا تم کو کیا دے گا۔ انہوں نے کہا **قَوْلُهُ تَعَالَى:**
اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيُعَذِّبَنَا لِمَا نَحْطِئُهَا وَمَا كُنَّا هُنَا عَلَيْنَا مِنَ السَّخِرَةِ ۗ ترجمہ وہ
ہوئے تحقیق ہم ایمان لائے ساقھ پروردگار اپنے کے تاکہ نکلنے ہمارے واسطے خطائیں اور
ہماری وہ چیز کہ زبردستی کی ہے تو نے ہم کو اوپر اس کے جادو سے یہ تو کفر ہے اور خدا برحق ہے

تو باطل ہے فرعون لعین نے کہا تو اے تمہارے۔ فَلَا تَقْطَعْنَ آيِدِيكُمْ وَاذْرِكُنَّ مِنَ
 خَلْقٍ دَلِيلًا لِّأَصْلَابِكُمْ فِي حُجْرٍ مِّنَ النَّخْلِ وَتَعْلَمُنَّ آيَاتِنَا مِنَّا وَعَنْ آبَائِنَا لَقِي
 قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَ بِكَ عَلَىٰ مَلَكًا نَّامِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ
 قَائِلٌ بِهِ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ط ترجمہ پس کہا فرعون نے جا دو کروں
 کو البتہ کالوں گامیں تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے والاہ سے اور البتہ سولی پر کھینچوں
 گا تم کو اور پتند کھینچو کہ تم بھرا البتہ جانوں گے تم کو ن سابع میں سے اسد ہے سداب میں اور کون
 ہے باقی رہنے والا کہا انہوں نے ہرگز نہ اختیار کریں گے ہم تجھ کو اور پر اس چیز کے کہ آئی ہے
 ہمارے پاس دلیلوں سے اور اوپر اس کے کہ پیدا کیا انہوں نے ہم کو پس حکم کر جو کچھ کہ تو کہنے
 والا ہے۔ سوا اس کے نہیں کہ حکم کرے گا تو بیچ زندگانی دنیا کے یہ سن کر فرعون لعین نے
 اپنے جا دو کروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ ان جلاوطن
 نے حکم پاتے ہی ان جا دو کروں کے ہاتھ پاؤں مخالف طریقہ پر کاٹ ڈالے اور سولی پر بھی
 ان لوگوں کو کھینچا۔ پھر ان کے سروں سے آواز آئی تو اے تمہارے قَالُوا الْأَصْنِيرُ إِنَّا إِلَهُنَّ
 مُنْقَلِبُونَ ۗ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 ترجمہ: لو سے کچھ ڈر نہیں ہم کو اپنے پروردگار کی طرف سے پھر جانا ہے اور ہم لوگ اس چیز
 کی امید رکھتے ہیں کہ ہم کو سہارا رب بخشے اور تمام تقصیروں کو درگزر فرمائے اور ہم پہلے قبول
 کرنے والے ہیں اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے والے ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام اور ان کے
 بھائی ہارون اپنے مکان پر آئے اور خدا کا شکر بجالائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلَّكَ سَبِيلُهُ ۗ مِن تَبَاظُمِي عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْتَدَّ
 عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ ۗ أَلَا لِيُبَيِّنَ قَدِ أَهْبَيْتَ
 دَعْوَانَا مَا فَاسْتَقْبَهُمْ ۗ وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْزَمُونَ
 ترجمہ: اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے ہمارے پروردگار تحقیق تو نے دیا ہے فرعون کو
 اس کے سرداروں کو آرائش اور مال بیچ زندگانی دنیا کی کے اے پروردگار ہمارے تاکرہ
 کراہ کریں تیری راہ سے اے پروردگار مثا د سے ان کا مال اور سخت کر ان کے دلوں کو ایمان
 نہ لا دیں جب تک دکھیں وہ دکھ کی مار کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قبول ہو چکی تمہاری دعا سو

تم ثابت تھا اور مت چلو راہ ان کی جو انجان ہیں یعنی جلدی مت کرو اور میرے حکم کا انتظار کرو اور چند روز وعدہ ابھی باقی ہے یعنی چالیس برس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون برابر فرعون کو دعوت الی اللہ کی دیتے رہے کہ اسے فرعون تو وحدانیت کا اقرار کرو اور خدا پر ایمان لاجو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا مگر باوجود بار بار تلقین و ہدایت کے اس ملعون نے نہیں مانا اور اپنا جھوٹا دعویٰ خدائی کرتا رہا اور لوگوں کو مہکتا رہا۔ پھر کچھ روز بعد فرعون نے اپنے وزیر ہامان سے کہا تو لہ تعالیٰ۔ وَقَالَ لِيَزْنُونْ يٰ هَامَنْ ابْنِ يٰي ضَرْحًا تَقْلِي اَبْلَغُ الْاَنْبَابِ السَّمَوَاتِ فَاطْلَعْ اِلَى الْاِلٰهِ مُوسَىٰ وَاِنِّي لَآظُنُّهُ كَاِذْ جَا تَرْجَمَ كَيْمَا فرعون نے اے ہامان بنا واسطے میرے ایک محل بلند مینار سے والا تاکہ جا پہنچوں میں آسمانوں کے راستوں پر پس جھانکوں میں موسیٰ کے معبود کی طرف اور تحقیق میں البتہ گمان کرتا ہوں اس کو چھوٹا۔ پس یہ حکم سن کر وزیر ہامان نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد اینٹیں پختہ بنائی جائیں۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اینٹ کی ایجاد سب سے پہلے فرعون کے وزیر ہامان نے کی ہے۔ غرضیکہ اینٹیں پختہ تیار ہونا شروع ہو گئیں اور چند روز میں ایک محل بڑے اونچے مینار والا تیار ہونے لگا اور اس مینارہ اتنا بلند کیا گیا کہ راج اس پر اینٹیں رکھنے سے قاصر ہو گئے یعنی بلندی کی وجہ سے اینٹیں جمانہ سکتے تھے۔ غرض بہت کچھ مال و زر خرچ کر کے سات برس میں وہ مینار تیار ہوا۔ جب وہ بن کر تیار ہوا ہی تھا کہ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل نے آکر اس مینار سے پر اپنا پرارا تمام مینار سے کاسیتا ناس ہو گیا اور اس مینار سے بنانے والوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور جو لوگ اینٹوں کو پختہ کر رہے تھے وہ بھی اس میں جل کر راکھ ہو گئے اور جو مزدور گار بنا رہے تھے ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا اور پھر اندھا ک کے بنا دیا کسی بانی کار کو اس سزہ نہ رکھا۔ جب بیس برس گزرے تو ایک دن آسیہ خاتون اپنے سر میں کنگھی کر رہی تھیں۔ اتفاق سے کنگھی ہاتھ سے نیچے گر گئی تب بد دعا کی یا الہی تو فرعون کو عارت کر فرعون نے اس بات کو سن کر آسیہ خاتون سے کہا۔ اے آسیہ شاید تو موسیٰ و ہارون پر ایمان لائی ہے مجھے گفتگو کے قرینہ سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولیں بیشک آج چالیس برس پورے ہیں۔ میں خدا پر ایمان لائی ہوں۔ اتنے دن میں نے چھپا رکھا تھا۔ اب ظاہر کیا ہے۔ یہ سن کر فرعون ملعون نے آسیہ خاتون سے کہا کہ دیکھ تو موسیٰ کا دین چھوڑ دے میں تجھے سونے کا گھر بنا دوں گا۔ وہ بولیں خدا نے میرے واسطے بہشت میں لعل و یاقوت اور جواہر کے مکان بنا رکھے ہیں، میں دنیا میں تمہارا

سونے کا گھر نہیں چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس کا غصہ بڑھ گیا اور وہ ملعون کہنے لگا کہ آسیہ میں تجھے سخت عذاب میں ڈالوں گا۔ آسیہ خاتون نے یہ سن کر اس کو جواب دیا کہ جو تیرے جی میں آدے سو کر ڈال میں تو ہرگز حضرت موسیٰ کے دین کو نہ چھوڑوں گی پھر اس کے بعد مجبور ہو کر اس ملعون نے حکم کیا کہ اس کے بدن سے کپڑے اتار کر زمین پر لٹکا کر چاروں ہاتھ پاؤں میں اس کے لوہے کی میخیں ٹھونک دیں۔ جلا دوں نے اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا جب ان میخوں سے ان کے جگر میں درد پہنچا تب انہوں نے درد کی پریشانی کے عالم میں رو بسوئے آسمان کر کے کہا۔ اے خدا یہ فرعون مجھے سخت ایذا دے رہا ہے تاکہ میں موسیٰ کے دن سے پھر جاؤں اور مجھے یہ بھی لالچ دے رہا ہے کہ تجھے سونے کا گھر بنا دوں گا۔ اور یہ چیزیں میں نہیں چاہتی ہوں بس تو مجھے اس عذاب ایذا سے بچات دے۔ پھر فرعون نے آسیہ خاتون سے کہا کہ تو موسیٰ کے دین کو چھوڑ دے تو میں تجھ کو عذاب و ایذا نہ دوں گا۔ وہ بولیں اے فرعون تجھ کو میرے بدن سے کام ہے میرے دل سے کیا تعلق تو جو چاہے میرے ساتھ کر یہ سن کر اس کے بعد فرعون شقی القلب وہاں سے الگ ہو گیا۔ ایک شخص بصورت موسیٰ آکر کہنے لگا اے آسیہ خاتون اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھولے ہیں اور تمام فرشتے اس وقت تجھ کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کچھ حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگ تیری فرمائش ضرور پوری ہو جاوے گی تب وہ بولی

قَوْلَ تَعَالَىٰ - اِذْ قَالَتْ رَبِّ اَبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا مِّنَ الْجَنَّةِ وَ تَخِّنِّي مِّنْ فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَ تَخِّنِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ ترجمہ بولی فرعون کی بیوی اے رب بنا واسطے میرے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں اور بچا نکال تجھ کو ظالم لوگوں سے منقول ہے کہ حضرت آسیہ خاتون رضی اللہ عنہا پہلے فرعون کے گھر میں آتے ہی یہ بولی تھیں کہ یا الہی تو ہی میرا مقصود ہے اور تجھی کو میں معبود سمجھتی ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسیہ خاتون شروع ہی سے خدا پرست اور وحدانیت کی قائل تھیں، اور جب وہ فرعون ملعون کے گھر میں داخل ہوئیں تو بہت بڑے مصائب و ایذا میں مبتلا ہوئیں۔ مگر نیک فرعون ملعون نے آسیہ خاتون سے بار بار کہا کہ تو مرنے کے خدا کو بھول اور اس کے دین کو چھوڑ دے اور تجھ کو خدا مان لے جیسا کہ اور لوگ مانتے ہیں، ورنہ میں تجھ کو طرح طرح کی ایذا اور تکالیف دیتا رہوں گا۔ یہ سن کر آسیہ خاتون بولیں اے فرعون تجھ سے میں نہیں ڈرتی خدا میرا حافظ و ناصر ہے۔ پھر ملعون نے طیش میں آکر حکم کیا کہ اس کو شکنجہ آہن میں ڈالا جائے چنانچہ جلا دوں نے فرعون کے حکم کی تعمیل کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے انکی آنکھوں سے

حجاب اٹھایا اور گھر بہشت میں دکھلادیا۔ ان کا خیال بھی بہشت کی طرف رہا اور فرعون ملعون کا غنا
 ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا مردی سے کہ فرشتے نے ایک ایسب لاکر بہشت سے ان کے ہاتھ میں
 دیا اس میں ہی ان کی جان قبض ہو گئی۔ تغیروں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو آسیہ ثاقون نے
 پالاکھا فرعون کے گھر میں اور ان کی مددگار بھی وہی تھیں۔ ایمان کو ظاہر کرنے کی وجہ سے فرعون
 ملعون نے انکو مار ڈالا اس وجہ سے وہ شہید ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی
 ہارون علیہ السلام فرعون کو چالیں برس تک دعوت خدا پہنچاتے رہے۔ لیکن وہ مردود حقیقی خدا
 پر ایمان نہ لایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مار ڈالنے کا بھی خیال کیا اور کہا چنانچہ فرمایا
 اللہ تعالیٰ نے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرِّيَّتِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ عِبَادِي وَآلِيَّ أَكْفَارًا ۚ
 مِثْلَ دِينِكُمْ ۚ أَوْ أَن يَطَّيِّرُكُمْ فِي الْأَرْضِ النَّسَادَ ۖ ترجمہ اور بولا فرعون اپنے
 ارکان و دولت سے کہ مجھ کو چھوڑ دو کہ میں ارڈالوں موسیٰ کو اور میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ
 اپنے رب کو نہ پکارے اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ تمہارے دین کو بگاڑ دے اور ملک میں فساد پرا
 کر دے اس وجہ سے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں اور فرعون نے موسیٰ کو یہ جواب دیا کہ میں
 پناہ سے چکا ہوں اے موسیٰ تمہارے بکنی اور جس وقت فرعون نے اپنے لوگوں سے یہ بات
 کہی کہ مجھے تم لوگ چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں اس وقت کوئی مومن وہاں پر موجود نہ تھا مگر
 ایک بڑھئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایک صندوق بنا کر دے گیا تھا جس صندوق میں
 رکھ کر حضرت موسیٰ کو دیا۔ نئے نیل میں ڈالا تھا وہ وہاں حاضر تھا اور نام اس کا خرقیل تھا اس نے
 کہا اے فرعون! حضرت موسیٰ رسول خدا برحق ہے تم اس کو نہیں مار سکو گے۔ بہتر یہ ہے کہ تم
 ان پر ایمان لے آؤ اور جو دین اسلام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اس کو قبول کر لو
 یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ فرعون اس کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد فرعون ملعون کے لوگوں میں سے
 ایک شخص ایمان دار تھا۔ اس نے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَنْقُزِي ۗ
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَخْيَابِ ۗ مِثْلَ يَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ
 مِن بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِذِي ظُلْمٍ لِّلْعِبَادِ ۗ وَيَقُومُ إِلَيَّ ۗ أَخَافُ عَلَيْكُمْ
 يَوْمَ التَّنَادِ ۗ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مِنْ بَدِينِ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ
 ترجمہ اور کہا اس شخص نے کہا کہ ایمان لایا تھا اے قوم میری تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ اے تم
 پر دن ان قوموں کی مانند جیسی مصیبت آپڑی قوم نوح پر اور قوم عاد پر اور قوم ثمود پر اور ان

کے پیچھے جو ہوسے اور نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ ظلم کا واسطے بندوں اپنوں کے اور اسے
قوم میری تحقیق میں ڈرتا ہوں اس لیکار نے والے دن سے کہ اس دن پھر جاوے گا اپنی پیٹھ موڑ
کر اور نہیں ہوگا کوئی بھی بچانے والا اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ
کیا کہ نکل جاویں فرعون ملعون کے مکان سے اور ادھر فرعون کی قوم قبیلوں نے قصد کیا کہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کو مار ڈالیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شیر فرعون ملعون کے محل کے دروازے
پر بندھے ہوئے تھے وہ سب چھوٹ گئے اور ان مارنے والے قبیلوں کو پھاڑ کھایا اور جو باقی
رہے تو انہوں نے فرعون ملعون کو جنر پہنچائی پھر جو لوگ فرعون کے نزدیک تھے وہ کہنے لگے
قَوْلًا تَعَالَى . دَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمٍ خِذْعُونَ أَتَن رَمُوسَى وَقَوْمَهُ لَيُفْسِدُنَّ فِي
الْأَرْضِ نَحْنُ وَبَنِي سَاك وَالْمَلَائِكَةُ قَال سَنَقْتُلُنَّ أَبْنَاءَهُمْ وَكُتَيْبِي نِسَاءَهُمْ فَرَأْنَا
خُوفَهُمْ قَهْرًا وَنَه تَرَجْمُهُمْ وَرَبَّهُمْ قَالُوا لَعْنَةُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ كَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
کُو اور اس کی قوم کو کہ فساد پھیلاویں ملک میں اور موقوف کرے تھو کو اور تیرے بتوں کو یہ سن
کر فرعون نے کہا اچھا اب ہم ان قوموں کے بیٹوں کو ماریں گے اور زندہ رکھیں گے انکی عورتوں
کو اور ہم ان پر زور آور میں۔ بس فوراً ملعون نے اپنا حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بیٹے
ہیں ان سب کو مار ڈالو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو اور آئندہ سے ہم بہتری نہ کرے اور
ان کو یہ بھی بتادو کہ دیکھو ہم قابریں مقبورہ نہیں ہیں کہو کہ ہم جبار ہیں مجبور نہیں اور ہم سب دولت
والے ہیں مفلس و فلاش نہیں ہیں ہم لوگوں سے مقابلہ کریں کوئی کیوں کرے گا ان باتوں کو بنی
اسرائیل نے سن کر کہا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آپ آئے تو اتنا عذاب فرعون ہم پر نہ کرتا
اب قوم قبلی اور فرعون پہلے سے زیادہ عذاب کرنے لگے ہیں اور ہم پر تیری سختی آپڑی ہے بنکر
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قَوْلًا تَعَالَى . قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا
بِرَبِّكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُدْرِكُهَا مِنْ تَشَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ ه قَالَو اذْبُنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى
رَيْبُكُمْ أَنْ يَهْدِيكُمْ غَدًا وَكَمْ وَبِشْخَلِكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ ه ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ تم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے
مدد مانگو اور پھر ثابت قدم رہو تحقیق زمین ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو وہ چاہتا ہے اس کا
وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے سے ڈرنے والوں

کو کامیابی ہوگی وہ بولے ہم پر سخت تکلیف رہی تیرے آنے سے پہلے اور جب تو آچکا ہے
 تو بھی تکلیف بدستور رہی کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ وقت بالکل قریب آچکا ہے کہ تمہارا
 رب اس قوم کو ہلاک کرے گا یعنی تمہارے دشمن کو نیت و نالود کرے گا اور پھر تم کو اس زمین
 پر وارث بنا کر خلیفہ بنانے کا پھر دیکھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام
 ہر سال فرعون کو اور اس کی قوم کو ایک ایک نشانی دکھاتے گئے اور خدا کے عذاب سے بھی ڈراتے
 رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا۔ **وَدَعَا أَتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۗ تَرجمہ:** اور وہی
 ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں ظاہر ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عذاب خداوندی سے ان کافروں
 کو ڈراتے تھے وہ کہتے تھے اے موسیٰ اگر تو اس عذاب سے ہم کو بچالے گا تو ہم تجھ پر ایمان لے آویں
 گے چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خداوند قدوس سے دعا کرتے تو عذاب ٹل جاتا اور
 جب کافر یہ دیکھتے کہ عذاب آیا ہوا ہم سے ٹل گیا ہے تو وہ پھر ایمان لانے سے منکر ہو جاتے
 اور ایمان نہ لاتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلَمَّا دَفَعْنَا عَنْهُمْ الزَّحْرَدُ قَالُوا إِنَّمَا هِيَ
 إِذْعُ لَنَّا رَبِّنَا لَمَّا نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَدُوكَ أُمْلُوسِي ۗ اذع معاك بني اسد اع جيل ۗ فلما كشفنا عنهم الزحرد الى اجل هه
 جالغوه اذاهم ينگنون ۗ ترجمہ اور جس وقت پڑتا کافروں پر عذاب تو لولتے آئے
 موسیٰ پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو جیسا کہ سکھا رکھا ہے تجھ کو تیرے رب نے اگر تو اٹھاؤ
 ہم سے یہ عذاب بے شک ہم تم کو ضرور مانیں گے اور پھر رخصت بھی کر دیں گے تیرے ساتھ
 قوم بنی اسرائیل کو پھر جب اٹھا لیا ہم نے ان سے عذاب ایک وعدے تک جو ان کو پہنچا تھا
 پھر وہ اپنے وعدے سے منکر ہو جاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے ہم ہر
 گز ایمان نہ لائیں گے اور اسی طرح عہد شکنی کرتے رہیں گے اور ہم ان کو نشانیاں بھی بڑی سے
 بڑی دکھاتے تھے چنانچہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ **وَمَا تَرْيَهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ
 أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعُنَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ قَالُوا يَا أَيُّهَا اتَّ
 حِدُ الْح - ترجمہ اور جو دکھائی ہم نے ان کو نشانی سو وہ دوسری نشانی سے بڑی ہوتی تھی۔
 لیکن بدبخت ایمان نہ لائے، اور پھر وہ باز آجائیں شرک سے اور
 کہنے لگے موسیٰ کو اے جاوے گا پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو جیسا کہ سکھا رکھا ہے تجھ کو
 تیرے رب نے ہم ضرور ایمان لاویں گے پھر جب اٹھا لیا ہم نے ان پر سے تکلیف تب ہی وہ****

اپنے دعوے توڑ ڈالتے تھے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی نشانیاں دکھائیں اور ان کو ہرج سے ڈراتے رہے لیکن اس قوم نے برابر ایمان سے انکار ہی کیا۔ سب سے پہلی نشانی قحط سالی کی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَرُوا أَخَذُوا مَا آتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَغَرَّبُوا الصَّلَاةَ وَأَنفُسَهُمْ يَسْرِىٰ وَأَنفُسَهُمْ يَسْرِىٰ

اور پھر انہوں نے فرعون والوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں شاید کچھ نصیحت بکریں۔ پس غضب الہی تین برس مصر میں رہا۔ اور پھر مصر میں کچھ بھی زراعت اور میوے پیدا نہیں ہوئے مگر بھوک اور پیاس کے لوگوں نے فرعون کے آگے گریہ و زاری کی قوم کی گریہ زاری دیکھ کر اس ملعون نے ستر زار نہالوں کو ہر اسے بنا کر کھانا کھلا۔ آخر پھر وہ تمام غلہ ختم ہو گیا اور قحط بدستور جاری رہا۔ اور قحط سے لوگ سخت پریشان ہوئے اور بے اختیار سو کر کہنے لگے اے فرعون جو ہم پر قحط آپڑا ہے یہ سب حضرت موسیٰ کی بددعا سے ہے یہ سن کر فرعون بولا کہ تم سب موسیٰ کے پاس جاؤ اور پھر اس سے کہو کہ اے موسیٰ یہ قحط کا عذاب تمہارا خدا ہم پر اٹھائے تو ہم سب تیرے خدا پر ایمان لے آویں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَوْلًا تَعَالَىٰ. فَاذْجَبْنَا قُلُوبَهُمْ

الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِينَ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّخِذُوا الِجْحُومِي وَمِنْ صَعَفَةٍ

ترجمہ: پس جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہمارے واسطے اور اگر پہنچی ان کو برائی تو توفیق بتاتے موسیٰ کو اور ان کے ساتھ والوں کو۔ آخر قوم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہو فریب سے رو رو کر کہنے لگی۔ اے موسیٰ اپنے خدا سے کہو کہ یہ قہر ہم پر سے دور کرے تب ہم سب ایمان لادیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے اپنے خدا سے دعا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ قحط جاتا رہا لیکن پھر بھی وہ مردود ایمان نہ لائے اور کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام جو تو لاوے گا ہمارے پاس اپنی کوئی نشانی کہ اس سے تو ہم کو جا دو کرے تو ہم تجھ پر ایمان نہیں لادیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیں جس کی وجہ سے ان پر نذر جہنم نازل ہوئیں قَوْلًا تَعَالَىٰ. فَاذْجَبْنَا قُلُوبَهُمْ وَالصَّلٰوةَ وَالْبَرَآءَ وَالْقَمَلِ وَالصَّفَادِ وَالْأَيْتِ مَفْصَلَتِ قَفَا شَتَّ كَبُرُوا كَانُوا قَدُومًا فَجَدَّ مَيْسِرًا ۗ

ترجمہ: پھر ہم نے بھیجی ان پر طوفان مبینہ کا اور ٹنڈی اور چھری یعنی جوئیں اور مینڈک اور لہو، دیکھو کتنی نشانیاں عبادہ الہیہ بکرتے رہے اور درحقیقت وہ لوگ تھے گنہگار تفسیر میں یوں لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چالیس برس فرعون

سے منقاد رہا اس بات پر کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن مالوف کو جانے دے لیکن اس نے منانا اور برابر ادھر ادھر کی جیلہ سازیاں کرتا رہا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یہ دعائیں کیں جس کی وجہ سے یہ بلائیں ان پر آتی رہیں۔ یعنی دریائے نیل بہت چڑھ گیا۔ کھیت اور باغ اور گھر بہت تلف ہو گئے اور ٹڈیاں سبزی کھا گئیں اور پھر آدمیوں کے کپڑوں میں جوئیں کثرت سے پڑ گئیں، اسی طرح ہر چیز میں مینڈک پھیل گئے اور تمام پانی ٹون بن گیا۔ لیکن ان سرکش کافروں نے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول تسلیم نہ کیا اور برابر انکار ہی کرتے رہے۔ پہلا عذاب ان پر طوفان کا نازل کیا گیا تو اس وقت لوگوں نے کہا اے موسیٰ اس بلا سے اپنے رب سے دعا کر۔ تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے اور پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے التجا کی، اس عاصی وہ طوفانی، عذاب جاتا رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سبزی اور زراعت بہت پیدا کی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اور اپنا وعدہ پورا کرو۔ انہوں نے کہا ہم تم کو برا بھلا کہتا رہے کیونکہ یہ زراعت ہر سال ہمارا بہت ہم کو دیتا ہے یہ پیداوار کوئی تمہاری دعا سے نہیں ہے پھر یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے اس ظالم قوم سے واسطے بددعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بہت کثیر تعداد میں بھیج دیں جو اعلیٰ تر و تازہ زراعت کو کھا گئیں۔ پھر کافروں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اگر تم ہم سے ان ٹڈیوں کے عذاب و بلا سے نجات اپنے خدا سے دلو اور گے تو پھر ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس ظالم قوم کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے خدا سے دعا کی۔ چنانچہ ان پر سے وہ ٹڈیوں کا عذاب جاتا رہا۔ پھر اس ظالم قوم نے اگر حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ ٹڈیوں کا عذاب تمہاری شومی سے آیا تھا اور ہم تو تم پر یقین نہیں لاتے اور نہ ہم تمہارے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے اس ظالم قوم کے واسطے بددعا کی۔ اور اس کے نتیجے میں اس قوم پر جوؤں کا عذاب آیا اور ہر شخص کے کپڑوں میں بہت کثرت سے جوئیں پڑ گئیں اور سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے پھر حضرت کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ ہمارے بدن اور کپڑوں میں بہت کثرت سے جوئیں پڑ گئی ہیں وہ ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں۔ ہم لوگ سخت پریشان ہیں آپ اپنے خدا سے ہمارے لیے اس عذاب سے نجات دلانے کی درخواست کیجیے تو پھر ہم لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کہنے سے پھر اپنے رب سے دعا

اس دعا کی برکت سے ان پر آئی ہوئی یہ بلائیں جاتی رہیں۔ پھر ان کافروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ یہ سارا کھیل تیرے جادو کا ہے ہم تجھ کو ہرگز نہ مانیں گے توڑا جادو کرے۔ **فَاَلْقَاهُمْ اَقْبَانِيَةً مِنْ اَيَّةٍ لِيَسْمُرْنَ عَلَيْهَا لَا فَمَا لَمْ يَنْصُرُوْا لَكُمْ**۔ **جَمُوْا مِّنْهُنَّ** ۝ ترجمہ اور کہنے لگے کافر اے موسیٰ جو تو لاوے گا ہمارے پاس نشانی کہ اس سے ہم کو جادو کرے سو ہم تجھ کو نہ مانیں گے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بددعا کی جس کی وجہ سے بینڈک بیٹا پیدا ہوئے کہ کوئی بلکہ ان کافروں کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی خالی نہ رہی تمام بینڈکوں سے بھر گئی چنانچہ وہ پلید اس عذاب میں گرفتار ہوئے اور سخت عاجز آ گئے اگر وہ ایک بینڈک کو مارتے تو بے شمار اور پیدا ہو جاتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر سخت پریشانی کی وجہ سے لوگوں نے فرعون ملعون سے جا کر کہا۔ ہم لوگ اس شدید عذاب سے تنگ آ گئے ہیں اور کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے اور کہنے لگے کہ ہم سب موسیٰ علیہ السلام سے سخت عاجز آ گئے ہیں وہ ہم کو ہر سہفتہ ایک نہ ایک بلا میں ضرور ڈالنا ہے فرعون بولا تم مت ڈرو یہ تو اس کے جادو کے کھیل ہیں بلکہ تم پھر اسی سے جا کر کہو کہ اے موسیٰ علیہ السلام جب ہم تم کو مانیں گے کہ اب کی دفعہ اس بلا سے ہم کو نجات دلا دو تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر التجا کی۔ پھر یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی خدا کے حکم سے جتنے بینڈک تھے سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم ایمان لے آؤ خدا پر، آخر کار انہوں نے انکار کیا، اور نہ مانا۔ جہنم کی راہ لی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے مناجات کی۔ تو پھر ان مردودوں منکروں کے پینے کا پانی دریا، ندی سب لہو بن گئے۔ اور جب قوم بنی اسرائیل اس کو پیتی تو صاف ہوتا اور اگر قوم فرعون اسی پانی کو پیتی تو وہ خون بن جاتا پھر عاجز ہو کر فرعون سے کہنے لگے کہ اب تو ہم سخت عاجز آ گئے ہیں کہ ہر بلکہ کا پانی لہو بن گیا ہے۔ اور کسی بلکہ پانی پی نہیں سکتے۔ یہ سن کر فرعون ملعون کہنے لگا کہ سب بحر سازی موسیٰ کی ہے۔ لہذا پھر تم اس سے جا کر کہو کہ اے موسیٰ اب کی دفعہ تو اور نجات دلا دو ہم لوگ ضرور تیرا دین قبول کریں گے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے کہنے سے خدا تقاضے سے دعا کی۔ خدا کے حکم سے وہ ندی نالے دریا جو خون بن گئے تھے وہ سب پانی بن گئے۔ اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہر ہر بلا و عذاب ان کافروں پر نازل ہوتی تھی تب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر تضرع و زاری اور جید عذر کے ایمان لانے کا وعدہ دے کر اپنے سر سے جادو کر دیا۔

تھے اور جب وہ بلا ان کے سر سے ٹل جاتی تو پھر منکر ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 ذَلَمَّا وَتَعَّ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمَوْسَىٰ ذُرُّنَا لِمَا نَدْعُ جَمْسًا۔ جب آن پرانا ان پر عذاب توڑ لیتے
 اسے موسیٰ پکارا اپنے رب کو ہمارے واسطے جیسا کہ اس نے تجھ کو سکھا رکھا ہے اگر تو نے یہ عذاب
 ہم سے اٹھادیا تو بے شک ہم تجھ کو مانیں گے اور رخصت کریں گے قوم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ
 چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اٹھایا ہم نے ان سے عذاب ایک وعدے تک کہ ان کو پہنچتا
 تھا۔ تب ہی وہ منکر ہو جاتے اور ہرگز ایمان نہ لاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون
 نے اپنے خدا سے بد دعا کی اسے رب تو نے ہی دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت
 مال و دنیا کی اور وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو تیری راہ سے بہکاتے ہیں۔ اے اللہ تو ان لوگوں کا
 سب مال و دولت ان سے مٹا دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن تعالیٰ، يَا نَارُ اَطْمِئِنِّي
 عَلَىٰ اَهْلِ الْهَيْدِ وَاَسْتَنْدُ ذُعْلَىٰ نَدْرُجِهِمْ فَلَا يَلْمِزُؤُنَا حَتَّىٰ يَبْذُرَ الْعَذَابَ الْاَلَيْمُ ذُنُوجِهِمْ
 موسیٰ نے کہا اے رب مٹا دے ان کے مال اور سخت کر ان کے دلوں کو کہ اب وہ ایمان نہ
 لادیں جب تک کہ دیکھیں دردناک عذاب کو پس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قَانَ حَتَّىٰ
 اُجْبِلْتِ ذَعُوْنُكُمْ فَاَسْتَقِيْمَا وَلَا تَشْتَعِبِ مَنِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَلْمُؤُوْنَ ذُنُوجِهِمْ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ
 نے قبول ہو چکی دعا تمہاری اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں ثابت قدم رہو اور مت چلو ان کی راہ جو انجان
 ہیں۔ پس خدا کے حکم سے فرعون اور اسکی قوم کا مال و متاع و درم و دینار اور میوے سب پھتر ہو گئے
 یہاں تک کہ جو ہر فیال آندے دیتیں زمین پر گرتے ہی سنگ ہو جاتے یہ دیکھ کر فرعون کی قوم نے
 پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر التجا کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ جو چیزیں پھتر ہو گئیں ہیں اگر
 تیری دعا سے یہ اپنی اصلی حالت پر آجائیں تو ہم سب تیرا دین ضرور قبول کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ ؑ
 نے یہ عاجزانہ التجا سنی اور کہنے لگے اے لوگو! میں تمہارے کہنے سے پھر اپنے خدا سے دعا کرتا
 ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ وہ تمام چیزیں ٹھیک جائیں گی۔ چنانچہ یہ کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 جگہ سے میں گر پڑے اور اپنے پروردگار سے پر خلوص التجا کرنے لگے، اس التجا سے اللہ تعالیٰ
 نے ان چیزوں کو جو پھتر کی بن چکی تھیں۔ پھر ان کو اصلی حالت پر کر دیا یہ ٹھیک ہوتے ہی پھر فرعون
 کی قوم فرار ہوئی حضرت موسیٰ کی نبوت سے منکر ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ٹھہرایا
 باوجود ان توہمات کے اول، عصا، دوسرا یہ بیضیا، تیسرا طرفان، چوتھا قحط، پانچواں ٹنڈی۔ چھٹا بوئیں
 ساتواں بینک، آٹھواں ہلو، ناناواں طمس، پھر بھی کفار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ آخر

وحی نازل ہوئی اسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کو مصر سے نکل کر لب دریا جا رہو اور اس طرح جا رہو کہ اہل مصر کو تمہارا سے جانے کی خبر نہ ہو۔ میں تم کو دریا کے پار کروں گا۔ فرعون ملعون کو اور اس کی ساری قوم کو دریا میں ڈبو دوں گا۔ تب تم اور تمہاری قوم اس کے شر سے بچات پاؤ گے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: **ذَٰرِضِينَآ اِیُّیْ مُوسٰی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْ اِنَّکُمْ سَیِّئُوْنَ** نذ جنس۔ اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے کر نکل میرے بندوں کو البتہ تمہارا سے پیچھے لگے گا فرعون معا اپنے تمام لشکر کے اور ہم ان کو غرق کرنے والے ہیں اور تم کو دریا کے پار اتار دیں گے تم کس کا خیال مت کرو۔

فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ

تواریخ کے مطابق حسب الحکم خداوندی دوسرے دن قوم بنی اسرائیل نے فرعون کے پاس جا کے جو جو ضروریاتی لوازمات سونے اور چاندی کیڑے اور زیور جو ان کو درکار تھا عاریتاً مانگا۔ اور فرعون نے خوش ہو کر ان کو حکم کیا کہ جو کچھ تم کو چاہیے سو وہ بخوشی ہمارے سرکاری خزانے سے بے تکلف لے لو۔ یہ سن کر قوم بنی اسرائیل نے فرعون کے حکم پانے سے شامی خزانہ سے جا کر سونے اور چاندی، لعل و جواہر کے زیورات اور جو کچھ ان کو مطلوب و مقصود تھا لے لیا اور وزیر ہامان اور دیگر قبیلوں کے گھر جا کر بھی کچھ ضروریات کے سامان لے لیئے اور قبیلوں نے بھی ان کو دینے میں کوئی تردد نہ کیا۔ کیونکہ ہر سال بنی اسرائیل ان سب سے زیورات عاریتہ مانگ کر نماز پڑھتے کے لیے عید کے دن میدان کی طرف نکل جاتے تھے۔ اس لیے آج بھی سونے اور چاندی کے اسباب دینے میں ان پر کچھ گمان فرار نہ کیا۔ اور بے تکلف دے دیا۔ بعض تواریخ کے حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت شمار میں بنی اسرائیل چھ لاکھ مرد عاقل اور بالغ سوائے عورت اور لڑکے تھے۔ سب کے سب کمر باندھ کر مصر سے نکل جانے کو تیار ہوئے۔ خدا کی مرضی سے ایسا ہی ہوا کہ اسی دن شہر میں وبا پڑی کہ ہر ایک قبیلے کے گھر میں ایک ایک بڑا بیٹا مر گیا اور وہ لوگ اپنے اپنے نم میں رونے لگے۔ جب رات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معا اپنے تمام لشکر کے مصر سے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مقدم لشکر کر کے قوم بنی اسرائیل کو جماعت جماعت بنا کر پیچھے روانہ کیا اور پھر آخیں آپ بھی روانہ ہو گئے اور دریا کے نیل کے کنارے ایک بڑے میدان میں جا پہنچے اور وہ تاریخ زریں محرام الحرام کی تھی جب سحر ہوئی تو فرعون کو خبر ہوئی کہ حضرت

موسیٰ اور تمام قوم بنی اسرائیل مل کر تہارامال و متاع اور سونا چاندی و غیرہ لے کر شب گزشتہ صبح
 سے نکل کر کہیں بھاگ گئے فرعون بولا تم جاؤ اور اوران کا پیچھا کرو پکڑ کر سب کو مار ڈالو۔ اتنا مال و
 اسباب تہارا اور ہمارا دغا سے لے کر بھاگ گئے یہ جز تمام شہر میں اور اپنے تمام سپہ سالاروں کو
 بھیجی اور نثارہ کو سرحلت کا مارا چونکہ اس کی آواز بہت بلند تھی اس لیے آواز سن کر تمام سپہ و لشکر
 چاروں طرف سے شام کے وقت دو شبہ کے دن فرعون کے دروازے پر حاضر ہو گئے اس وقت
 ایک سو امیر سردار لشکر و فوج کے تھے اور ہر ایک سردار کے ہمراہ سو مرد جنگی رہتے تھے اور فرعون
 نے اپنے ہمراہ سات لاکھ غلام سیاہ پوش لے کر اور خود بھی سیاہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار
 وزیرمان کو مقدم لشکر کر کے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا اور دریائے نیل کے کنارے بڑے میدان
 میں بنی اسرائیل کو دیکھا چونکہ وہ لوگ تبیں دن اسی میدان میں ٹھہرے رہے اور بنی اسرائیل کی قوم
 نے جب فرعون کی قوم کا حشمت اور دبدبہ دیکھا تو وہ خوف سے کہنے لگے کہ شاید اب کہ فرعون
 اور اس کی قوم پکڑے گی اور اتنے بڑے لشکر سے ہم مقابلہ نہ کر سکیں گے کیونکہ فرعون کی فوج
 بہت ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قولا تعالیٰ۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَ قَالَ
 أَهَيْبٌ مُّوسَىٰ إِنَّا لَمُعَدُّوْنَ ۖ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَ قَالَ أَهَيْبٌ مُّوسَىٰ إِنَّا لَمُعَدُّوْنَ ۖ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَ قَالَ
 لوگ ہم تو پکڑے گئے، کہا موسیٰ نے کہ کیوں گھبراتے ہو اسے میرے ساتھیو! رب میرا میرے
 ساتھ ہے اور وہی مجھ کو راہ بتائے گا اور مجھ کو اور میری قوم کو چائے گا انشاء اللہ اور فرعون سے
 ہم کو کچھ ڈر نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے اے موسیٰ
 اپنا عصارہ نیل پر مارو جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ فَادْخُلْنَا اِلٰی مُّوسٰی اِنَّا نَبْرُ
 يَعْنٰ اِلٰی الْبَحْرِ الخ۔ پس جب حکم بھیجا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہ اپنا عصارہ پانی پر مارو۔ پس
 پھٹ گیا دریا اور بن گیا اس میں ایک راستہ اور پار کر دیا ہم نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو اور
 دوسروں کو یعنی فرعون کو اور اس کے لشکر کو فرق کر دیا۔ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ
 نے دریا میں عصارہ پانی پھٹ گیا اور بارہ راستے بن گئے اور بیچ پانی کے پھاڑ کھڑے ہو گئے
 اور ان ہی بارہ راستوں سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے اتر کر پار ہو گئے اور اس کے پیچھے قوم
 فرعون ان ہی راستوں کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کو پکڑنے کے واسطے دوڑی جب وہ دریائے
 نیل کے بیچوں بیچ پہنچی تو وہ راستہ جو خدا کے حکم سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے واسطے
 بنائے گئے تھے ختم کر دیئے گئے اور سب راستوں میں دریا کا پانی پھیل گیا۔ اور ایک دوسری

روایت میں یوں بھی آیا ہے۔ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا دریا خشک ہو گیا اور اس میں بارہ راستے بن گئے اور بنی اسرائیل بارہ قبیلوں پر مشتمل تھے وہ ہر ایک اپنے اپنے راستے سے نکل گئے اور کچھ دیر بعد فرعون ملعون نے جا کر دیکھا کہ دریا ٹٹے نیل میں بارہ راستے بنے ہوئے ہیں اور ان ہی راستوں سے قوم بنی اسرائیل پار ہوئی ہے تب اس نے سوچا کہ یا تو موٹی کے جادو کی وجہ سے یہ راستے بنے ہوئے ہیں یا معجزہ پیغمبری سے، اگر یہ کیفیت میرا لشکر دیکھے گا تو شاید وہ ان پر ایمان لے آئے گا۔ پھر تو مجھے بڑی ہی تداامت ہو گئی۔ تب حیلہ سازی سے اپنے لشکر کو کہا کہ اب ہم کو نوب لعین ہو گیا کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے، دیکھو تو جادو سے دریا کا پانی تک خشک کر دیا اور اپنی قوم کے واسطے بارہ راستے بنا کر لوگ دیکھ کر اس کے خدا پر ایمان لے آئیں اور اس کی نبوت کے قائل ہو جاویں اور دل میں یوں بھی کہتا تھا کہ میری فوج کو دریا میں ان کے پیچھے جانے سے پانی ڈلو مارے گا۔ کیونکہ پانی دو طرفہ مثل پہاڑ کے معلق ٹھہرا ہے یہی پس و پیش دل میں کرتا تھا کہ دریا میں اپنا گھوڑا ڈالوں یا نہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے سامنے آکھڑے ہوئے اور وہ مردود بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت جبرائیل نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا یہ دیکھ کر فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا پھر اس نے ہر چند چاہا کہ اپنے گھوڑے کی جھاگ تھامے مگر رک نہ سکا اور فرشتے سواروں نے اگر لشکر کے گھوڑوں کو چابک مار کر بیچے دریا میں ڈال دیا۔ جب فرعون کا لشکر بیچ دریا کے آچکا اسی وقت حضرت موسیٰ نے چاہا کہ دریا میں عصا مار کر ان کی راہ بند کر دیں۔ نہ آتی اے موسیٰ قولہ تعالیٰ۔ **وَإِنَّكَ الْبُحْرَىٰ هَٰؤُلَاءِ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعَدُّونَ**۔

ترجمہ۔ اے موسیٰ چھوڑو بے دریا خشک تحقیق وہ لشکر ڈوبنے والا ہے۔ تب وہ پانی سا ہو گیا تھا اور سہا پر معلق تھا وہی دونوں طرف سے آیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون اپنے ڈوبتے وقت کہتا تھا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے خدا پر اور اس کے رسول پر چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَجَاءَ ذُرِّيَّتِي إِسْدَاءً بِنِي الْبُحْرَىٰ**۔

ترجمہ اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پھرتے پیچھے پڑا ان کے فرعون اور اس کا لشکر شرارت اور زیادتی سے سب تک کہ پہنچا اس پر دبا ڈکھا فرعون نے کہ ایمان لایا میں کوئی معبود نہیں کہ جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل اور میں بھی فرمان برداروں سے ہوں۔ خدا کے فرمانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہا قولہ تعالیٰ: **الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ**

مِنَ الْمُفْسِدِينَ تَنْدَجْمًا تَرْجَمَ كَيْابَ إِيْمَانٍ لَأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الْفِرْعَوْنِيُّ
 پہلے اس سے اور تھا تو مفسدوں سے فائدہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کو اسے فرعون تو ماری
 عمر اللہ کا مخالف رہا اور اب عذاب دیکھ کر ایمان لایا اور اب کامل یقین کرتا ہے اب اس وقت کا
 یقین لانا کیا معتبر ہو سکتا ہے۔ تفت سے ایک مثلت خاک لے کر اس کے منہ پر ڈال دیا۔ پس وہ
 بد بخت اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں ڈوب مرا قولہ تعالیٰ - فَأَيُّ كَوْمٍ نُنَجِّيَا مِنْ مِثْلِ
 الْكَاذِبِينَ تَرْجَمَهُ سَوَاحِلُ بَحْرٍ وَأَيُّ كَوْمٍ نُنَجِّيَا مِنْ مِثْلِ الْكَاذِبِينَ تَرْجَمَهُ سَوَاحِلُ بَحْرٍ وَأَيُّ كَوْمٍ
 بہت لوگ ہماری قدرتوں پر دھیان کرتے تھے۔ **قرآن حکیم** وہ یہ قوف جیسا بیفائدہ ایمان لایا ویسا
 ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے کے بعد اس کا بدن دریا سے نکال کر ایک نیلے پر ڈال دیا کہ قوم بنی
 اسرائیل کو دیکھ کر شکر کریں اور پھر عبرت حاصل کریں بدن بچنے سے اس کو کیا فائدہ۔ پس حضرت موسیٰ
 نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون ملعون معہ اپنے تمام لشکر کے خدا کے حکم سے دریا نے نیل میں غرق ہو
 گیا یہ سن کر قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے
 تب تک اس کے ڈوبنے پر ہم کو یقین نہ ہوگا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی
 اس دعا کی برکت سے موج دریائے ان سب کی لاشوں کو جہاں بنی اسرائیل تھے پہاڑوں پر پھینک دیا
 پڑیاں اٹکی درہم برہم ہو گئیں تھیں اور اس کے قلب میں کچھ رقیق جان باقی تھیں بنی اسرائیل دیکھتے
 تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **وَأَعَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَآسَفْتَهُمْ نَظَرُؤُنَّ** ترجمہ اور
 ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو اور یہ کہ تم دیکھتے ہو ایک شخص نے بنی اسرائیل کی قوم سے آرزو کی
 کہ اللہ مجھ کو فرعون سے ملاوے تو میں اس کی وارثی سے اپنے گھوڑے کی باگ بناؤں گا۔ مرضی الہی
 اسی دن اس نے فرعون کو بارش سرخ دینا کے کنارے مردہ پایا۔ پھر اس نے اس کی وارثی سے اپنے
 گھوڑے کی باگ بنا لی اور اس کے وزیر بابان کو بھی عبرت کش کیا پر وہ نہ ملا۔ تب وحی نازل ہوئی۔ اسے
 موسیٰ اب تم جاؤ اور بابان کو مہر ہی میں پاؤ گے اس کو میں دوسرے عذاب میں گرفتار کروں گا۔ یہ حکم سن
 کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون اور اپنی قوم کو لے کر مہر میں آئے اور فرعون کے
 گھروں میں مال و اسباب بہت کچھ ہاتھ لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ بَنِي حَنْثِ
 ذَعْبُونٍ وَكُؤُومٍ وَمَعَامِرَ كِنْدِيَةَ لَكْنَ لَيْكٍ وَأَوْرَثْنَاهُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ** لا
 ترجمہ: پس نکال لاہم نے فرعون کو اور اس قوم کو ہانوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور
 باغیچہ مکانوں سے اسی طرح سے وارث کر دیا ہم نے قوم بنی اسرائیل کو۔ مفسرین لکھتے ہیں

کہ فرعون کے گھر اللہ تعالیٰ نے مقام کریم فرمایا اس واسطے کہ ستر مہرہا، خاٹا، اس نے پر تعلق
 بنائے تھے اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے انہوں کو مکافوہ کا وارث کیا اور بارہ مہینے فرعون، انھما وہ انہما
 ہو کر امرا ان کو انہوں سے کہا انھیں اتنا تھا حضرت موسیٰ اسے دیکھ کر جناب بارہ اتوا سے بڑھنا جات
 کی کہ الہی تو نے فرمایا تھا کہ ایمان کو فرعون کے سلتو دریا میں غرق کر دوں گا اور اب تک وہ زرا سے
 نڈاؤں اسے موسیٰ اس میں کہیں خلق میں محتاج کیا اور در بدر مانگتے پھر نابہر روز گریا اس کی نئی موت
 سے بلکہ نزار درجہ اس سے مزاجت سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کا شکر بجالائے۔ جب
 لک مسرت تمام ان کے ہاتھ میں آیا اور کافر سارے نیت و نابود ہو گئے۔ تب شامل جمع ہو کر اپنے
 صفورا کے پاس گئے اور جس میدان میں اس کو رکھ کر گئے تھے وہاں دیکھتے ہیں کہ دریا کے جو سنتر
 سے تھے وہ نہایت توانا اور خوبصورت ان کے پار موجود ہیں اور بچھڑ کر اور مال و اسباب سب!
 سلامت پایا بلکہ گریا اور بچھڑیں دو گنی ہو گئیں۔ وہاں سے انہوں نے کراہی والدہ کے پاس محرمین
 تشریف لائے اور یہاں مقیم اور منتظر ایقائے وعدہ حق تو ان کے تھے کہ اب پھر کوہ طور پر جا کر خدا
 وند قدوس سے مناجات کریں پس وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور
 بلایا تاکہ ان سے کچھ مناجات کی جائے اور اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ بھی پورا ہوا۔ میں اس واقعہ کو اسی
 پر اکتفا کرتا ہوں۔

کوہ طور پر اللہ سے کلام ہونے کا قصہ

یہ ایک ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کوہ طور پر جا کر خداوند قدوس سے مناجات کرنے
 کے خدا کے حکم سے فرشتوں نے بہشت سے کسی لاکر حضرت موسیٰ سے بیچتے ہو دی اور
 کہا اسے موسیٰ اپنی انیس پانچوں سے اتار کر کسی پر بیٹھ جاؤ اور پھر جو کچھ مناجات کرنی ہے کیجیے تاکہ
 یہ جگہ مقدس اور بابرکت ہے قدم ہمارا اس پر گرے گا تب موسیٰ علیہ السلام نے بارشاد جناب
 باری تعالیٰ نے اپنے خلیں پاؤں سے اتار کر کسی پر بیٹھ کر مناجات کی۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ
 موسیٰ تیس دن رات روزہ رکھنا کہ میں اپنی کتاب قریت نازل کروں پھر اس سے تمام نسلوں راہ پارے
 اور میری شریعت سیکھیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ ذُو عَدَا خَا مُوسٰی تَلٰتِیْنَ
 یٰنِیۡتًا ط۔ ترجمہ اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو تیس رات کا یہ حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 تیس رات دن کا روزہ رکھا متواتر پھر اپنی قوم سے کہا کہ خدا تعالیٰ مجھ پر قریت نازل کرے

گاتا کہ تم کو شریعت سکھاؤں اور تم اس کے ذریعہ سے ہدایت پاؤ گے وہ بولے اے موسیٰ ہم
 جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے اس وقت تک ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ نے کہا
 کہ پلور تم چند آدمی قوم کے سردار و عالم میرے ساتھ کوہ طور پر کہ کتاب دکھاؤں گا یہ بات حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کی سن کر ان کی قوم کے انبیا و اولیٰ عالم و صالح راتھ ہو گئے اور ایک آدمی یرشع بن
 نون دوسرے جو بہریش سفید تھے ان کو لے کر تیز آدمی پور سے گئے اور پھر کہ انہم سب اظہارت
 لیا۔ یہ بڑے دین کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **ذَاتَانِ مَوْسَىٰ قَوْمَهُ**
سَمِعْنِي لَّا لَبِيْذًا اِنَّهَا سَمِعْتُمْ۔ یہاں سے موسیٰ نے اپنی قوم سے مرد واسطے دوسرے
 کے بارے پاس پس سب کو لے کر طور پر آئے اور ایک پتہ درخت سے تڑ کر چھانے
 لگے اور حکم الہی کے منتظر رہے فوراً جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اے موسیٰ میں نے
 تجھ کو روزہ رکھنے کو کہا تھا اس واسطے تو نے روزا توڑا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے ندادن
 تجھ کو معاویا ہے کہ میں تے تیس روزے رکھے مگر بڑے دین سے میں ڈرا کہ میں میرے منہ
 سے نکلے اس واسطے پتا چیا یا مسواک کا حکم ہوا اے موسیٰ میری خدائی کی قسم ہے روزہ دار کے
 منہ کی بوجھ کو بہت زیادہ خوشبو آتی ہے اور وہ میرے نزدیک مشک و عبنز سے بھی زیادہ بہتر
 ہے کیوں تو نے بغیر میری اجازت کے روزہ افطار کیا۔ اس لیے اس کے بدلے اور دس رات دن
 روزہ رکھ یعنی حرام کو دسویں تاریخ تک پھر حضرت موسیٰ نے چالیس روزے پورے کیے
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **ذَاتَانِ مَوْسَىٰ قَوْمَهُ سَمِعْتُمْ**
ذَاتَانِ مَوْسَىٰ قَوْمَهُ سَمِعْتُمْ۔ اور حضرت موسیٰ نے اور دس روزے سے تب پوری ہوئی مدت اس کے
 رب کی چالیس رات کیونکہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان تیز آدمیوں کے سامنے جو طور پر گئے
 تھے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اور دس روزے رکھو تب جو اپنی کتاب تو ریت دوں گا۔ اس بات
 کو سن کر وہ سب یقین نہ لائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو لے **ذَاتَانِ مَوْسَىٰ**
قَوْمَهُ سَمِعْتُمْ۔ حتیٰ تری اللہ جہوداً ط اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ایمان
 نہ لاویں گے ہم تم پر یہاں تک کہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر نہا منے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے ان لوگوں سے کہا کہ تم گفتگو خالق اور مخلوق کی تمیز کر سکو گے کیونکہ مخلوق کی بات بغیر کان کے
 دوسرے سے نہیں سنی جاتی اور خالق کل کی بات تو صرف دل پر موقوف ہے وہی خوب سنتا
 ہے۔ بلکہ وہ ایسا ہے کہ معانی و در معانی راز با راز بہر چند موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن انہوں

نے نہ مانا کہاں ایک آتش اللہ کی طرف سے آئی اور ان پر اگر گرتی وہ نتر آدمی بل کے مر گئے
 چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ فَاحْزَنْ نَفْسَكَ الصَّعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ ترجمہ
 پھر کڑی باتم کو بجلی نے اور تم دیکھتے تھے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت افسوس کرنے
 لگے اور کہنے لگے یا الہی میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا وہ سب کیا کہیں گے مگر کہ تب حضرت
 موسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کیا۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نَسْتَعِثُّكَ
 مِنْ بَعْضِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ترجمہ پھر زندہ کیا ہم نے پیچھے مرنے تمہارے
 کے تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ ان سب کو لے کر مصر میں آئے اور پھر انہوں نے
 دس روزے رکھے اور پھر ان کو کوہ طور کی طرف لے کر گئے اور وہاں پہنچ کر کہنے لگے کہ دیکھو
 میں سے جاتا ہوں کوہ طور پر اور تم لوگ میرے پیچھے آنا یہ کہہ کر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر
 گئے تو پھر اللہ کی جانب سے خطاب آیا قولہ تعالیٰ: وَمَا عَجَلْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَهُودِي قَالِ
 هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَيَّ أَتْرَبِي وَعَجَلْتَ إِلَيْكَ رَبِّ لَسْتُ ضَيِّقُ ۝ ترجمہ کیوں جلدی کی تو نے اپنی
 قوم سے اے موسیٰ بولے وہ میرے پیچھے ہیں اور میں تیری طرف جلدی آیا اے میرے رب
 یہ میں نے اس واسطے کیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
 نے اس وقت طور پر بلا واسطہ شتر کلمے جناب باری تعالیٰ سے سن کر نہایت عشق کے شوق
 و ذوق میں بے اختیار کہا۔ قَالَ رَبِّ ابْنِي أُنْظُرْ إِلَيْكَ ۝ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے
 رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں، یہ آواز سن کر آسمان کے فرشتے کہنے لگے۔ اے یہ
 عمران کلام الہی تو نے سنا اور پھر تجھ کو طمع روایت کی بنے پھر آواز آئی اے موسیٰ زمین کی
 طرف دیکھو، جب دیکھا، عرش تک نظر آیا۔ پھر عرض کیا خداوند اسکان آسمان تیرے آئندہ میں
 تجھ کو اپنا دیدار دکھلا اتنے میں تتر ہزار فرشتے ہمیب شکل آسمان سے نازل ہو کر حضرت مرثی
 کے گرد پھرنے لگے۔ اور کہتے تھے: يَا ابْنَ النَّسَاءِ الْجَبِيضِ اقْطَمِعْ نَفْسَكَ ۝ پ
 حین یہ ترجمہ اے بیٹے عورت جیض والی کے کیا تو جلیل و جبار کو دیکھنا پاتا ہے یہ آواز
 سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے ڈر کے بیٹھ گئے پھر بعد ایک لحظہ کے امواج عشق نے
 جوش مارا اور پھر ذوق و شوق سے پکارا۔ قَالَ رَبِّ ارْنِي أُنْظُرْ إِلَيْكَ ۝ ترجمہ بولے موسیٰ
 کہ اے رب تو مجھ کو دکھلا اپنا جلوہ اور میری یہی تمنا ہے کہ میں تجھ کو دیکھوں پھر تتر ہزار فرشتے بصورت
 گرگ اور شیر کے نازل ہو کر ایک آواز ہمیب سے حضرت موسیٰ کو پکارا جس طرح کہ اول فرشتے

پکارتے تھے۔ يَا ابْنَ النَّسَاءِ الْحَيْضُ أَقْطَعُ فِي سُؤْدِيَةِ سَابِطِ الْعَبْرَةِ رَوَايَتِ كِي
گئی ہے یہ سب سے پہلے دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا۔ يَا ابْنَ النَّسَاءِ
اور آسمان کے فرشتے ان کو ہر تیبہ یہی کہتے تھے يَا ابْنَ النَّسَاءِ الْحَيْضُ أَقْطَعُ مَا أَفْرَحُ بِرُتْبَةٍ
شخص لشمینیہ پوش اپنی صورت میں دیکھے عصا ہاتھ میں اور پکارتے ہوئے يَا ابْنَ النَّسَاءِ اُنْظُرْ
رَأَيْتَ يَهْنُ كَرُحْمَتِ مُوسَىٰ بَرَّعَ تَعَجُّبًا بُوْنِي كَمَا بَرَّحْتُ خَوَانِدَهُ حَقَّ تَعَالَىٰ كَمَا بَرَّحْتُ تَبَّحْتُ حَضْرَتِ
موسىٰ عليه السلام نے عرض کیا کہ ان کے سوا میری مانند اور بھی کوئی دوسرا ہے خطاب آیا ہے کہ
اے موسیٰ میری قربت کے سبب تو نے بندگی پائی۔ اپنے تئیں جانتا ہے کہ تیرا سا کوئی نہیں بلکہ
یونہی کہ ایک پل میں تجھ سے صد ہا نیا کر سکتا ہوں۔ اس بات کو سن کر پھر ذوق و شوق سے جناب
باری تعالیٰ میں عرض کی: قَالَ رَبِّ اُنْظُرْ اَيْنِكَ تَرْجَمُ لَوْ لَمْ اَسْرِ بَرَّحْتُ تَبَّحْتُ اِنَّا بَرَّحْتُ
اور میں یہی متنا کر کھتا ہوں۔ تب جناب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قَالَ لَنْ نَنْزِلُنِي وَاَلَيْكِن
اُنْظُرْ اِنِّي الْخَبِيرُ فَاِنْ اِسْتَقْدَمْتُ مَكَانَهُ نَسُوْتُ نَبِيَّيْهِ تَرْجَمُ كَمَا تَرْجَمُ كُوْبَرُ كَرْزَمُ دِكْهِي سَكَّةَ كَا دِيَا
میں لیکن تو نظر کر اپنی پہاڑ کی طرف پس اگر قائم رہے وہ اپنی جگہ پر پس البتہ دیکھ سکے گا تو مجھ کو دنیا
میں پس جب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی دکھائی اپنی پہاڑ پر تو موسیٰ گر پڑے اسی وقت بہوش
ہو کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَلَمَّا تَجَلَّىٰ سَابِطٌ لِّبَنِي كَعْبَلٍ جَعَلَهُ دَكَاةً وَحَدَّرَ مُوسَىٰ صِعْقًا فَلَمَّا
أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تَبَّحْتُ اَيْنِكَ وَاَنَا اَدْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتَدَجَمُ اِنِّي تَجَلَّىٰ ذَالِي
پروردگار نے پہاڑ کی طرف تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب
حضرت موسیٰ ہوش میں آئے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے تیری ذات پاک ہے اور میں نے تیرے
کی تیرے پاس میں سب سے پہلے یقین لایا۔ بعض تفسیروں میں لڑ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو
اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی تھی اور بغیر فرشتے خداوند سے کوہ طور پر کلام کیا اور پھر ان کو شوق ہوا
کہ خدا کا دیدار بھی دیکھیں تب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی پہاڑ کی طرف کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا
اور اس کی برداشت نہ ہوئی۔ پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا: قَالَ يُؤَسِّرُنِي اِنِّي
اصْطَفَيْتَنِي عَلٰى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَاَبْكَلَا حِي نَحْنُ مَا اَتَيْتَكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ
ترجمہ کہا اے موسیٰ بزرگیدہ کیا میں نے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغام بھیجنے سے اور اپنے کلام کرنے
سے پس پڑ جو کچھ دیا ہم نے تجھ کو اور تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اسی وقت جناب
باری تعالیٰ سے حضرت میرا ئیل کو حکم ہوا کہ وہ بہشت سے لوہیں زمرہ کی لائیں اور قدرت

کے قلم کو حکم ہوا اس پر کتاب تورات کھچے تقریباً چار ہزار فرشتوں نے ان تختیوں کو لے حضرت موسیٰ کے سامنے لا کر رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو دیکھا کہ اس میں ایک ہزار سورت اور ہر سورت میں ہر آیت کی درازی مثل سورتہ بقرہ کے اور ہر آیت میں ہزار وعدہ اور ایک ہزار وعید اور ایک ہزار امر اور ایک ہزار نہی لکھی ہوئی تھیں اور تورات کے شروع میں عبادت کا ذکر اس کے علماء و حکماء کی صفت بیان کی گئی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَهْلًا فِي الْأَنْبِيَاءِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوعِظَةً وَتَفْصِيلاً بِكُلِّ شَيْءٍ ۗ تَرَجَّمُوا وَرُكِّحُوا بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ سَمَوَاتِنَا وَمِنْ الْأَرْضِ لِيُنذِرَ لِقَوْمٍ كَذِبٍ ۙ

یہ چیز سے نصیب اور تفصیل ہر چیز کی پس پکڑ اس کو ساتھ قوت کے اور حکم کر اپنی قوم کو کہ عمل کریں اس کی بہتر اور اچھی باتوں پر جلد اور دکھاؤں گا میں تجھ کو گھر فاستوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوش ہو کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی یا الہی کیا وہ علماء و حکماء میری امت میں سے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور وہ تمہاری امت سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی ان کو میری امت میں داخل کر۔ فرمایا اے موسیٰ پیغمبری تمہاری بھی اس وقت متبرہ ہوگی جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر خاتم النبیین پر ایمان لائے اور اسی وقت وہ کوہ طور سے اتر آئے اور فرشتے الواح تورات لے کر ان ستر آدمیوں کے بیچ میں آئے جو کہ نور تجلی سے جل کر مر چکے تھے حضرت موسیٰ نے تنگ دل ہو کر ان کے واسطے درگاہ باری میں مناجات کی۔ یا رب میری قوم بہت کمزور و ضعیف ہے وہ میرے ساتھ حضورت کرے گی۔ اور بوسے گی کہ ہمارے سردار بزرگوں کو تم نے بے جا کر ہلاک کیا۔ میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ اغلب ہے کہ وہ میرے دین سے پھر جاویں تب موسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کیا اور وہ اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے چشم خیزہ ہو جاتی تب اپنے چہرہ پر نقاب پہن کر رکھا وہ نقاب بھی نور سے جل گیا پھر لوگ ان کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے لکڑی کا نقاب بنا کر اپنے چہرے پر ڈالا لیکن وہ بھی نور سے جل گیا۔ پھر انہوں نے لوہے کا نقاب بنا کر ڈالا تو وہ بھی جل گیا۔ اس کے بعد جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ ابھی میں کس چیز کا نقاب بناؤں۔ نہ آئی اے موسیٰ فقیروں کے خرقے سے نقاب بنا۔ تب حضرت موسیٰ نے اس سے نقاب بنا کر اپنے منہ پر ڈالی تب لوگ اگر حضرت موسیٰ سے بات چیت کرنے لگے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ستر آدمی اور کتاب تورات لے کر چالیس دن کے بعد مصر میں تشریف لے آئے اور

اور پھر وہیں سکونت اختیار کر لی۔ اور خدا کے پیغام بر ابرہہ لوگوں کو پہنچاتے رہے۔

سامری کا قصہ

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک زرگر تھا اور اس کا نام سامری تھا اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سامری حضرت موسیٰ کا بھائی تھا جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قبضہ سے نکال کر مصر سے چلے اس وقت یہ سامری بالکل بچہ تھا جب فریاد کیا کہ میں نے اس سامری کو بہت دھوکا دیا لیکن اس کو اس گنتی میں نہ پایا۔ مصر آتے وقت راستے میں اکیلے بیٹھے روتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حیرائیل نے اس کو اپنے بازوؤں پر بہت روز تک رکھا یہاں تک کہ جب ماں باپ اس کے گھر میں آئے تب حضرت حیرائیل اس کو لے جا کر اس کے ماں باپ کے گھر کے دروازے پر بٹھا کر چلے سے چلے گئے کیونکہ سامری کو حضرت حیرائیل سے بہت محبت تھی۔ ان کے پیسے جانے اور جدا ہونے کی وجہ سے بلند آواز سے رونے لگے۔ ان کے باپ ان کے رونے کی آواز سن کر اپنے گھر سے باہر نکل آئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اپنا ہی بیٹا رو رہا ہے تب گود میں اٹھا کر اسے اپنے گھر میں لے گئے اندر گھر میں اس کی ماں بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اس کے بعد چند روز تک سامری نے زرگری سیکھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا کر بنی اسرائیل میں چھوڑ گئے تھے اور ستر آدمی کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے۔ اس کے بعد سامری نے فرصت پا کر سب قوم کو جمع کر کے کہا کہ آج بیس دن ہوئے تھے آدنی بزرگ کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اس کے خدا نے مجھ کو خبر دی ہے کہ وہ سب کوہ طور پر مر گئے اگر تم لوگ اس کی صداقت چاہتے ہو تو اس کے خدا کو میں تمہیں دکھاؤں تاکہ تم اس سے پوچھ لو تب حال معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا اس میں کیا مضائقہ ہے۔ تب سامری مردود نے مونا سے ایک قالب صورت گٹو سال بنا کر بطور ساچھے کے اس کو اٹکایا اور رکھ دیا اور پھر اس مردود نے سونا و چاندی کو بہت سالا کر اس آگ میں ساچھے پر ڈال دیا وہ دونوں پگھل کر پانی ہو کر اس قالب کے اندر بیٹھ گیا اور پھر وہ پگھلنے سے کی صورت بن گیا۔ سامری نے اس قالب کو آگ سے نکل کر ایک پگھلا سونے کا خوبصورت اس کے اندر سے نکال کر پاک و صاف کر کے رکھ دیا اور اس کا نام بھی گٹو سال سامری رکھا اور پھر اس کو قوم سامری پوجتی تھی۔ اور بعض محققوں نے یوں لکھا ہے کہ فرعون کے دریا سے غرق ہونے کے وقت سامری اس وقت

طفل نہ تھا بلکہ جوان تھا۔ اس وقت ایک شخص کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے لشکر میں آیا
 جب اس کا گھوڑا قدم اٹھاتا تو اس کے زیر سم مرتے اور بزرگی سے تازہ گھاس پیدا ہوتی۔ سامری نے
 معلوم کیا کہ شاید حیر ایل ہوں گے جو حضرت موسیٰ کی مدد کو آئے ہیں۔ اس وقت ایک خاک ان گھوڑے
 کے سم کے نیچے سے اٹھا کر رکھ لی تھی۔ جب گئو سال بنایا تو قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ آؤ تم اس کو سجدہ کرو
 معاذ اللہ منہا اور جو گمراہ ہوئے وہ اسی وقت سامری کے کہنے سے چلے آئے۔ جب سامری
 نے اس ممت ناک کو پھڑ سے کہ منہ میں ڈال دیا تو خدا کے حکم اور قدرت سے اس پھڑ سے کہ
 منہ سے بیدھڑک گائے کی آواز نکلی۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ فَاحْضَرَجْ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا
 اَللّٰهُ حُوَاطٌ فَقَالُوْا هٰذَا اِلٰهُكُمْ وَرَاٰهُ مُوسٰى وَفَتْسَبٰى ۝ ترجمہ۔ پس بایلیا ان کے
 واسطے ایک دھڑ جس میں چلانا وغیرہ گائے کا تھا پس کہا انہوں نے ان سے یہ خدا ہے تمہارا اور خدا
 موسیٰ علیہ السلام کا سو وہ بھول گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور دوسری جگہ میں چلے گئے
 لیکن بنی اسرائیل اس کی آوازیں سن کر یقین لائے اور سجدہ بھی کیا۔ اور پھر وہ اسی جگہ کو پوجنے لگے۔ اور بعض
 آدمی بارہ قوم میں سے تھے جو ایمان میں کامل تھے ان لوگوں سے بدابو کر کوہ کاف کی طرف نکل گئے
 اور وہاں مسجد بنا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے اور پھر ہر ایک کی نعمتوں سے سرفراز کیے گئے
 معراج النبوة میں لکھا ہے کہ شب معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شعلہ نور
 زمین سے لے کر ساق عرش تک چمکتا ہے۔ آپ نے حضرت حیر ایل سے پوچھا کہ یہ کس کا نور ہے
 وہ بولے کہ قوم بنی اسرائیل جو گئو سال پوجتے تھے۔ اور ان میں ایک جماعت نکل کر کوہ قاف میں اللہ
 تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی یہ نور انہیں کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ان
 کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر حضرت حیر ایل ان کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے
 اور پھر کہا: هٰذَا اٰتٰىكُمْ الْاٰمِيْنُ الْعَدْبِيْعُ الْعَاشِيْمِيُّ الْحَمِيْكِيُّ الْقَمَدِيْنِيُّ ۝ یہ سنتے ہی رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم قرآن اور سورتیں
 وغیرہ سب سکھا پڑھا دیں اور پھر اس کے بعد ہدایت کی کہ دین محمدی پر قائم رہیں۔ القصہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام اور وہ تتر آدمی تو ریت لیکر جب کوہ طور سے آئے اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ
 ایک گئو سال بنا کر پوجتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت خفا ہوئے اور پھر کہا۔ چنانچہ
 حق تعالیٰ فرماتا ہے بِسْمَا خَلَقْتُمُْوْنِيْ مِنْ نَّجْدٍ ۝ ترجمہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے
 کیا بری بات کی تم نے میرے پیچھے کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے اور ڈال دو۔

علیہ السلام نے تختیاں اور پھر پکڑا سراپے بھائی بارون کا اور اپنے طرف بھینچنے لگے، وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی میں تو بے گناہ ہوں تو تم کو میں نے ہر چند منع کیا لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور مجھ کو ناناؤں سمجھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں۔ پس اسے میرے بھائی مت ہنسا دشمنوں کو مجھ پر اور مجھ کو ان گنہگار لوگوں میں مت ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت بارون علیہ السلام دونوں کے بھائی بھائی تھے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی بارون کے سر کے بال چھوڑ دیئے اور کہا گتو سالہ کس نے بنایا وہ بوسہ نہ کہ سامری نے بنایا ہے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلا کر زجر و تہدید کیا اور پھر کہا کہ اس طرح بنایا تو نے اس کو اور تو کیوں خدا کو بھول گیا اور اس چیز کے بنانے سے قوم میں فتنہ ڈالا اور یہ گتو سالہ بنا کر قوم کو گمراہ کر دیا یہ سن کر سامری بولا کہ میرے دل نے یہی مجھ سے کہا تو اللہ تعالیٰ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ اِنْ تَرْجِهْ كَمَا سَامِرِي نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا میں نے اس چیز کو کہ نہ دیکھا لوگوں نے اس کو پھر ملی میں نے ایک مٹھی خاک پاؤں کے نیچے اس بھیجے ہوئے گھوڑے کے سم کے نیچے سے اور وہی خاک میں نے ڈال دی گتو سالہ کے منہ میں تبت سے یہ بات نکلی اور یہی مصلحت دی مجھ کو میرے دل نے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا۔ اٰلِی الرَّجْرِ سَامِرِي نے گتو سالہ بنایا اس کو بولنے کے واسطے زبان کس نے دی۔ نہ آئی اسے موسیٰ اس کو بولنے کی قوت کو یائی میں نے دی۔ پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی یہ سب تیرا آزمانا ہے قولہ تعالیٰ۔ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَةٌ فَخُذْ فَاِنَّكَ تَهْتَكُ مِنْهَا لَعْنَةً لِّمَنْ تَشَاءُ الخ ترجمہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے الہی یہ سب تیرا آزمانا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو تو چاہتا ہے تو ہے ہمارا دوست پس بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے جناب باری تعالیٰ سے وحی آئی ہے اے موسیٰ تم نے اپنی قوم اپنے بھائی بارون کے سپرد کی تھی کہ وہ آپ کی عدم موجودگی میں نجیمان رہے گا۔ کیوں تم نے مجھ کو نہ سونپا کہ ہم ان کو راہ پر رکھتے جب حضرت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت پہنچی تو آپ نے اپنی امت کو خدا پر سونپا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضر کے دن ارلاد آدم علیہ السلام ایک سو بیس صفوں میں مشرق سے مغرب تک کھڑی کی جاوے گی ان صفوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اسی صفیں ہوں گی اس وقت خدا تعالیٰ فرمائے گا اے محمد! تمہاری امت میں جتنے چھوٹے بڑے ہیں دیکھ لو موجود ہیں اور پھر اس وقت جو کچھ مجھ سے مانگو گے سو پاؤ گے یہ سنتے ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اسے پروردگار میرے اس وقت میری امت میں عرصات کہاں رہے گی اور میں کہاں نے

جاؤں گا تو ان کا گناہ بخش اور عفو فرما اور ان کو بہشت دے اور ان کے درجات بلند فرما اور پھر اپنے دیدار سے شاد فرماتا تاکہ تیر افضل و کرم ظاہر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی میں نے توبہ کی اور توبہ میری توبہ قبول کی پھر حکم ہوا اے موسیٰ تمہاری توبہ قبول ہو گئی مگر تم اپنی قوم کے گنہگار پرست کو ایک دوسرے سے قتل کروا پھر اپنے وطن سے خالی ہاتھ ان کو نکال دو ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے تب ان کی توبہ اور تمہاری توبہ میری درگاہ میں قبول ہوگی۔

موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو جو بت پرست تھے بلوا کر اللہ کی طرف سے یہ بات کہی کہ سزائے اعمال بت پرستی میں ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے نجات پاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم کو عزت و وطن کی برداشت نہیں۔ آپس میں لڑ کر مر جانا بہتر۔ تب حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے خطاب آیا کہ اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بدن سے کپڑے اتار کر اپنے گھر کے دروازے پر تلوار سے ایک دوسرے کو قتل کریں تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر کوئی اس معاملے میں اٹ بھی کرے گا تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی۔ پس بحر جان دینے کے اور کچھ چارہ نہ دیکھا تب صبح کے وقت ستر ہزار مرد گنوا سالہ پرست برہمنہ ننگی تلوار کھینچ باپ بیٹے کو پتیا باپ کو بھائی بھائی کو اپنے قتل کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کو برہمنہ کیا اور پھر خدا کے دربار میں خوب گریہ و زاری کی اور برابر سرگوشی کرتے رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

فَاذْبَحْ عَصَايَ
وَاذْبَحْ عَصَايَ وَادْعُنِي بِاسْمِكَ صِدْقًا وَانْتِ اَذْحَمُّ التَّوْحِيدِ ۝ ترجمہ: موسیٰ نے کہا اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور ہم کو داخل کر اپنی رحمت میں اور تو ہے سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ ندا آئی اے موسیٰ دعا تمہاری اور توبہ ان کی قبول ہوئی پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ قوله تعالیٰ۔

ذَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ الخ۔ ترجمہ: اور جب فرد ہو غصہ موسیٰ کا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھالیں اور جو ان میں لکھا ہوا تھا راہ کی سوچ ہے اور مہربانی ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کو کہا اے لوگو! تمہارے واسطے ہم نے کتاب توریت لادی کہ احکام الہی اپنے گھروں میں رکھو اور پھر اس کو ہر وقت پڑھتے رہو۔ اور جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ اگر ہم پڑھیں گے تو کچھ عمل نہ کریں گے اور اگر عمل کریں گے تو کچھ نہ پڑھیں

گئے ان دو میں سے ایک عمل اختیار کریں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مل بھی کرو اور اس کو ہر وقت پڑھو بھی وہ بولے اسے موسیٰ یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیلؑ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ مثل ابر کے سر پر لا رکھا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا اے میری قوم تمہارے سر پر خدا تعالیٰ نے ایک عذاب کا پہاڑ نمودار کیا ہے ذرا اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب ان لوگوں نے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس عذاب کو دیکھ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَذَرْنَنَا الْجِبَلَ قَوْلَهُمْ كَذٰبَةٌ ظُلْمَةٌ تَرْجَمُہٗ اَوْ جِبِ اِٹھایا ہم نے پہاڑ اوپر ان لوگوں کے کہ گویا وہ ایک ساٹھان ہے اور جانا انہوں نے یہ کہ وہ گر پڑے گا ان کہا ہم نے جو کچھ دیا تم کو ساتھ قوت اور یاد کرو جو کچھ بیچ اس کتاب کے ہے تاکہ تم بچو۔ پس موسیٰ علیہ السلام ان سے کہا کہ تم خدا پر ایمان لاؤ اور کتاب تو ریت کو پڑھو اور اس پر عمل بھی کرو اور گنوسالہ پرستی کو چھوڑ دو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا قَالُوۡا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ یعنی ہم نے سنا اور پھر اس کو نہ مانا۔ جب منکروں نے یہ کہا تو پہاڑ ان کے منہ کے قریب آیا تو اس کو دیکھ کر سب کے سب بیٹھ گئے۔ پھر پہاڑ جو درحقیقت عذاب تھا وہ بھی نیچے اترا اور جب وہ کھڑے ہوتے تو پہاڑ بھی ان کے سر پر کھڑا ہوتا یہ دیکھ کر مارے ڈر کے سب کے سب سجدے میں گر گئے اور پھر اپنا آدھا سر منہ مٹی میں لگاتے اور نگاہ کو بار بار اٹھا کر اس پہاڑ کو دیکھتے تھے کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے سروں پر نہ گر پڑے جس میں دہ کر ہم سب مر جائیں گے۔ پس بعض ایمان لائے اور بعض کہنے لگے کہ ہم ایمان تو لائے مگر سچے دل سے نہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے سر پر سے پہاڑ اٹھایا اور جو لوگ کہ منکر تھے وہ اپنے گنوسالہ پرستی میں رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم دے کہ فرمایا کہ میں اس گنوسالہ کو پارہ پارہ کر کے جلا دوں گا اور پھر اس کو دریا میں بہا دوں گا۔ عزیقہ اس کا نام و نشان نہ رکھوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَانظُرْ اِلٰی الَّذِیۡ ظَلَمْتَ عَیۡنَہٗ عَاقِبًا۔ ترجمہم کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا دیکھو طرف اپنے معبود کی جو ہو گیا تھا تو اوپر اس کے معتکف ابھی جلا دوں گا اس کو اور پھر اڑا دوں گا دریا میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اس وقت حضرت جبرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلائی کھانسن سے اس پتھر سے کو جلاؤ الونتب یہ اچھی طرح سے جل جاوے گا اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ پتھر سے پور پور کر کے ذرہ ذرہ کر کے دریا میں ڈال دوںتب حضرت موسیٰ

علیہ السلام نے اس کچھڑے کو پتھر سے چورہ کر کے دریا میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ ان گوسالہ پرتوں نے دریا میں جا کر اس کا پانی پی لیا مارے کفر کے چنانچہ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ: **وَاشْرَبُوا مِمَّا قَلَّ بِهِمْ** اَعَجَلْ بَلْفِزْ هَمْدًا۔ ترجمہ اور پلایا گیا دلوں میں ان کے پتھرے کی محبت بسبب کفران کے روایت ہے کہ جو کوئی اس کا شستہ پانی دریا میں جا کر پی آیا تو اس کا تمام بدن سیاہ ہو گیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا لہذا یہ اس واقعہ کو جو سلامی اور گوسالہ پرستی کا تھا اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

ہلاکت قارون

روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان تختیوں کی کتاب کو نقل کر کے پڑھو۔ اور پھر اسی پر عمل کرو۔ تب انہوں نے کتابیں اس کی نقل کیں پھر حکم ہوا کہ اسے موسیٰ ان لوگوں سے کہو کہ اس کتاب کو بہت زیب و زینت سے رکھیں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے گزارش کی کہ یا رب ہم زینتیں رکھتے کسی طرح تو ریت کو زینت سے رکھیں گے پس حضرت جبرائیل نے آکر کہا جو گھانس میں نے تم کو بتلا دی تھی کہ کچھڑے کو رکھ کر اس میں ہلا ڈالو سو وہ گھانس اور یہ ایک قسم اور اس میں ملا لو تو جس پر یہ رکھو گے ہماری قدرت سے اگر تانا پرا رکھو گے تو سونا ہو گا اور اگر پتیل پر رکھو گے تو چاندی ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رقعہ پوشع کو کھا اور قارون کو کھا کہ فلانی گھانس مجھے لا دو اور ایک رقعہ کالوت کو بھی لکھا کہ فلانی گھانس مجھے درکار ہے بھیج دو۔ تب تینوں نے گھانس منگوائی قارون نے پوشع سے کہا کہ میں دیکھوں کہ تمہارے رقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا ہے قارون چونکا چالاک تھا اس نے ان کا رقعہ پڑھ کر پتھر کر پتھر کالوت کے رقعہ کا مضمون بھی دریافت کیا اور ان تینوں گھانسوں سے اس نے کیا گری سیکھ لی اور وہ تینوں گھانسیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر دیں قارون پتھر کا لفظ تو ریت تھا وہ سب دریافت کر کے چپکے سے جا کر گھر میں گیا بیٹا تاربا۔ اس سے اس نے بہت دولت جمع کر لی۔ بجز خدا کے کوئی بھی اس کے حال سے خبردار نہ تھا۔ جز ہے کہ عمل قارون کا تو ریت پر تھا جب دولت جمع ہوئی تو مال کی محبت اور زخمل کی وجہ سے زکوٰۃ مال اور صدقہ نہیں دیتا تھا اور پھر خدا کا حکم بھی نہیں مانتا تھا۔ اسی وجہ سے کافر۔ مردود ہوا۔ روایت ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچر اجمانی تھا وہ بیٹا صافن کا تھا اور صافن بیٹا فاشش کا اور فاشش بیٹا ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا صاحب دولت دنیا اس نے جمع کر لی تو وہ اپنے تجر و غرور میں پرورش پاتا رہا اور موسیٰ

علیہ السلام کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مَوْسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ ذَرْنُوهُمْ ۚ إِنَّ قَارُونَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ**۔ اس قوم سے پھر وہ شرارت کرنے لگا اور پھر ہم نے اس کو دولت کے خزانے دیئے اور اتنے دیئے کہ کینچوں سے کئی مزدور تھک گئے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ساٹھ مزدور زور آور مقرر تھے اس کی کینچیاں اٹھانے اور رکھنے پر اور ہر ایک کینچی کا وزن نیم درہم سنگ تھا اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے اس کی کینچوں کا بوجھ تتر ااونٹ تھا۔ مترجم نے بھی تورات میں یہی دیکھا ہے یہ دیکھ کر پھر اس قوم نے کہا۔ **قوله تعالیٰ ۚ اذ قال له قومُه لا تغدُحْ اِنَّ اللهَ ذٰی حِجْبِ الْفَرَجِیْنَ** ترجمہ: جب قارون کو اس کی قوم نے کہا مت خوش ہو تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوست رکھتا خوش ہونے والوں کو۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دیا ہے اس سے تو اپنا پچھلا گھربنا اور ایسا بھی نہ کر کہ اپنا حصہ جو تو دنیا میں لینا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے یعنی اپنے حصہ کے مطابق دنیا میں کھا اور پین اور اپنے زیادہ مال سے آخرت کیا اور وہ کام کر جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے اور ان پر تیرا احسان جیسا کہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مت پھیلا اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوست رکھتا ہے فساد کرنے والوں کو اور صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات دیا کرو محتاجوں کو تاکہ اس سے آخرت میں تمہارا بھلا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللهُ اِلَيْكَ**۔ یعنی بھلائی کر جیسی اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی تجھ سے قارون بولا۔ **قوله تعالیٰ ۚ قال انفا** اور قیتنا علی علم عندی اہ ترجمہ قارون بولا اے موسیٰ یہ مجھ کو ملی ہے ایک دولت بہتر سے جو میرے پاس ہے اور تیرا خدا میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے رب العزت نے ارشاد فرمایا: **اَوَلَمْ یُعَلِّمُوا اَنَّ اللهَ قَدْ اَهْلَكَ اِلٰھَکَ** اے ترجمہ اور کہانہ جا اس طرف کیا اس نے ہمیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سنگین اور قوت والی جماعت کو ہلاک کر چکا ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ گنہگاروں سے ان کے گناہ پوچھے نہ جائیں گے اور بے پوچھے وہ تمام سب کے سب جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور باغی ہو گیا پھر اس نے ایک ایسا عالیشان مکان بنوایا کہ اونچائی اسی کی اتنی گز تھی اور اس پر گنگرے بڑے بڑے بنائے تھے اور طلا کاری سے مزین کیا تھا اور تخت مرصع تھا یہ جو کچھ کھا گیا سب جامع التوازیخ سے کھا ہے اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کی دعوت کی اور دو گروہ ہو گئے ایک گروہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہا اور دوسرا گروہ قارون کے ساتھ فسق و فخر شیطانی میں رہا۔ ایک دن قارون نے اپنی عورت کو فرشتی

سے لباس فائزہ پہنا کر اور ہزار غلام و لونڈی کو بھی مرصع جو اہرات سے آراستہ کر کے ہمراہ لے کر پھرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ زِينَتِهِ تَرَجْمًا لَهَا قَارُونَ اپنی قوم کے سامنے ساتھ آرائش کے اور بہت بڑی تیاری کے اپنا تاج بھی مرصع جو اہرات سے کر کے اپنے سر پر رکھ کر نکلا تاکہ اس کو آفتاب کی گرنی نہ پہنچے اور اس کے غلام سب کے سب دائیں بائیں چلتے تھے اور کچھ غلام اس کے آگے اور کچھ پیچھے بھی چلتے یہ دیکھ کر جو لوگ مال اور زندگانی دنیا کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے اور ان کے دل میں حرص پیدا ہو گئی قَوْلَهُ تَقَالُ قَالَ الَّذِينَ يَدَّبُرُونُ وَتَ الْخَيْلُ تَرَجْمَةً كُنْ لَكَ جَو طَالِبٌ تھے دنیا کی زندگانی کے اے موسیٰ کس طرح ہم کو ملے جیسی کہ ملی ہے دولت قارون کو بیشک اس کی بڑی قسمت ہے اور وہ بولاجوں کو ملی تھی سمجھ لو پھر اے خرابی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے ان کو جو یقین لائے اور کیا بھلا کام اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو حضرت موسیٰ کو وحی کی گئی کہ قارون کو کہہ دو کہ وہ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے اور اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرے کہ ایک ہزار دینار میں سے ایک دینار فقراء اور مساکین کو دیوے اگر نہ دیوے گا تو وہ مغضوب ہو گا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قارون سے کہا تو قارون نے اپنے مال کو حساب لگا کر دیکھا تو بہت روپیہ اس کے مال میں زکوٰۃ نکلتی تھی یہ معلوم کر کے اس کے دل نے چاہا کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو پھر قارون بولا اے موسیٰ میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں تم کو اس سے کیا واسطہ حضرت موسیٰ نے کہا کیا گری سے سونے پانہی کے ظروف بنانے میں جتنے ریزے گرتے ہیں اتنا فقیر محتاجوں کو دے ڈال۔ تب بھی زکوٰۃ تیری ادا ہو جائے گی۔ یہ سن کر قارون بولا اگر میں زکوٰۃ مال کی دوں تو تیرا انداز مجھ کو کیا دے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس نیکی کے سبب تجھ کو جنت ملے گی۔ پھر وہ مردود بولا کہ بہشت سے مجھ کو کیا کام ہے آخر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک افزا کی تہمت لگائی تاکہ ان کو لوگوں میں شرمندہ کرے اور پھر یہ موسیٰ مجھ سے زکوٰۃ کی بات نہ بولے۔ ایک دن ایک عورت فاجرہ خوبصورت جو قوم بنی اسرائیل میں سے تھی قارون کے پاس گئی اور قارون نے اس سے کہا کہ میں تجھ کو ایک نذرانہ اشرافی اور مختلف قسم کے زیورات اور اچھی اچھی پوشاک پیش قیمت دوں گا تو میرے واسطے ایک کام کر۔ جب بنی اسرائیل کی جماعت جمع ہوگی تو سب کے سامنے مجمع میں جا کر پکار پکار کر یہ کہنا کہ موسیٰ ہمارا یار ہے اور وہ ہم سے زنا کرتا ہے۔ پس اس فاجرہ عورت نے روپے کے لالچ سے کہا بہت اچھا میں ایسا ہی کہوں گی۔ پس قارون نے اس سے جو کچھ کہا تھا روپے وغیرہ دے کر اس کو رخصت کر دیا۔ اتفاق

سے ایک روز موسیٰ علیہ السلام اپنے منبر پر بیٹھے وعظ کر رہے تھے اور ان کے گرد تواریخ بنی اسرائیل بیٹھی ہوئی تھی۔ قارون نے موقع پا کر اس فاجرہ عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حرام و حلال باتیں بتا رہے تھے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے مال کا مواخذہ لے گا اور جو زنا کرے گا اس کو سنگسار کر دینا ہو گا یعنی دنیا میں ایسا ہو گا اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہو گا۔ اس قسم کی نصیحتا زبانی لوگوں کو سناتے تھے۔ پس قارون مردود نے اس مجلس میں جا کر کہا اے موسیٰ اگر تم نے زنا کیا ہو گا تو تمہاری کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا بھی قتل واجب ہے۔ قارون بولا البتہ تم نے زنا کیا گواہ موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ ثابت کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا كَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَوْتًا قَالُوا أَوْ كَانُوا لِلَّهِ وَمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَأْتِيَهُمْ قَوْلًا لَيْسَ فِيهِ سَبٌّ لَأَنَّ تَعْلِيمَهُمْ هُوَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُرِيدُونَ** اے جو ایمان لاتے ہو چیت ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے جنہوں نے ایذا دی موسیٰ علیہ السلام کو پس پاک کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے جو وہ کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے نزدیک بڑی آبرورہنما سے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات ہمیشہ سیدھی کہنا کرو پس قارون نے اس نماز کو بلا کر حاضرین مجلس کے روبرو کہا کہ ہر موسیٰ نے تم سے کیا بد فعلی کی تھی۔ وہاں جاتی تھی کہ موسیٰ میرا بار ہے قوم قارون عرض ہو گی اتنے میں دل اس کا اللہ تعالیٰ کے مرضی سے جھوٹ بات سے پھر گیا پس لوگوں نے کہا اے نیک مرد موسیٰ تو پاک ہے اور جو کچھ قارون کہتا ہے جھوٹ و بہتان ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں جھوٹ بات کہنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑے متعجب ہوئے اور غش کھا کر اپنے منبر سے گر پڑے فوراً حضرت حیرائیل نے آکر اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر ان کو ہر طرح تسلی دینے لگے۔ اور پھر کہا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا اور اب تم جو چاہو قارون کو سزا دو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا اے قارون تم جھوٹ مت بولو اور انتم امت کرو اور نہ تمہمت لگاؤ اور خداوند قدوس سے ہر وقت ڈرتے رہو اور اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں ہرگز تمہاری بات نہ مانوں گا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنا عصا زمین پر مارا اور پھر کہا اے زمین تو اس مردود سرکش کو اپنے اندر دبا لے یہ حکم سننے ہی زمین نے اس کے تحت سمیت اس کو اور جو اس کے فرما ہر دار

تھے سب کو ٹخنوں تک تک دبایا اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے اے موسیٰ مجھ کو اس سے خلاصی دے میں کبھی ایسا نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھ کے ہر قسم کی کوئی بات آپ سے کہیں گے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو غصتہ سے کہا کہ اے میں ان کو تو زانو تک دبا دے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ستر مرتبہ معافی مانگی اور اپنے اعمال سے توبہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو غصتہ سے کہتے رہے زمین دبا دے یہاں تک کہ زمین نے ان کو کانڈھوں تک دبایا جب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نے ان کو عذاب الہی میں مبتلا دیکھا تو وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے میرے بھائی موسیٰ! قارون تو ہماری برادری میں سے ہے اور انکی جو تقصیر ہو اس سے درگزر کیجیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصتہ سے کہا یا اَرْضُ خُذِیْنِی بِہِمْ پھر زمین نے گلے تک دبایا۔ قارون نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے قرآن نے بنی اسرائیل کے دینے کو جب اس نے کہا تو جتنا مال و متاع اور گنج و خزانہ اس کا تھا خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سامنے لا رکھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون لیٹنے مال کو اور زمین کو کہا اے زمین دبا دے زمین نے اس کو مع مال و متاع و درہم و مہکانات سب کو دبایا پھر انرا اس کا باقی نہ رہا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو قرآن لے۔ فَحَسْبُنَا بِہِ وَبِذِ اِرْبِہِ الْاَرْضِیْنَ فَمَا كَانَ لَہٗ مِنْ فِئْتٍۭۤ اٰیِسٍ وَهَذَا دِیَا بِہِمْ نَعْنِ قَارُوْنَ کُوْا وِاسِیْنَ کُوْا وِاسِیْنَ وَاسِیْنَ اِسْ کُوْیْ جَاعَتِ مَدِیْنَ کَار۔ اور پھر قارون کوئی مدینہ نہ لاسکا۔ قارون مردود کا یہ حال دیکھ باقی لوگ خدا کا شکر بجالیائے اور پھر کہنے لگے قَوْلَہٗ تَعَالٰی۔ وَاَصْبَحَ الَّذِیْنَ تَمَسَّوْا مَکَانَہٗ اِیَالَہٗ مِنْ اِنْحِ نَزَجِہٖ اِدْرَہِ کُوْیْ کُوْیْ کُوْیْ جو شام کی آرزو کر لی تھی اس کے سارے مرتبے کی ارے خرابی ہو۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اور بند کر لیتا ہے۔ رزق جسے چاہتا ہے پھر جو نیک کام کرتے تھے۔ وہ بولے اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ خرابی یہ تو کچھ بھی بھلا نہیں پاتے کافر، منکر لوگ۔ یعنی اگر فضل خدا ہم پر نہ ہوتا تو مثل قارون کے ہمارا بھی یہی حال ہوتا تعجب کہ کافر لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے اور نہ وہ کچھ سنتے ہیں اور اصل بات تو یہ ہے کہ جو کوئی جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کا بدلہ لیتا ہے اگر اس دنیا میں نیک کام کر دے تو تم کو اچھا بدلہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ ملے گا بلکہ اس کو دو جہاں میں اچھا ملے۔

عامیل مقتول بن سلیمان کا واقعہ

روایت کی گئی ہے قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص نام اس کا عامیل تھا ملک اور دولت اور
 حرمت اس کی بہت تھی لیکن اس کے گھر میں کوئی فرزند نہ تھا ایک بھتیجہ تھا وہ بھی بہت ہی غریب تھا
 مگر صابہت ہی طاقتور اور اپنے چچا کے مال پر طمع رکھتا تھا اور وہ اپنے دل میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ کوئی وقت
 ایسا مجھے مل جائے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس ملک اور میراث پر اپنا پورا قبضہ کر لوں مگر
 دنیا کی طمع و لالچ نے اس کو مجبور کر دیا۔ اور ایک شب چپکے سے اپنے چچا کو مار کر پستھیر کے باہر
 لے جا کر دوڑ گئی گاؤں کی سرحد میں رکھ آیا اور پھر اس کی ملک اور میراث سلطنت کا مالک ہوا
 اور مکر و فریب کر کے اپنے چچا کے قاتل کا پتہ تلاش کرنے لگا بالآخر اسی گاؤں والوں پر تہمت
 لگائی کہ انہوں نے میرے چچا کو مار ڈالا ہے۔ لہذا تم گاؤں والوں کو میرے پاس حاضر کرو تاکہ میں
 ان سے اپنے چچا کے متعلق معلومات کروں ادھر گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگانے
 لگے کہ اس نے ان کے چچا کو مارا ہے اللہ تعالیٰ اس معاملہ کو یوں فرماتا ہے۔ **وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
 فَادْرَأْتُمْ سُودًا فِيهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَكْتُمُونَ** ۵۔ ترجمہ اور جب تم نے مار ڈالا ایک
 شخص کو اور پھر لگے ایک دوسرے پر بہتان کرنے اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا ہے جو تم تھماتے
 ہو۔ حضرت موسیٰ کے پاس آکر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ اس
 مقتول کے قاتل سے اللہ تعالیٰ جزدے کہ اس کو کس نے مارا ہے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے خداوند قدوس سے دعا کی حضرت میرا ایل نے آکر کہا اللہ تعالیٰ فرماتا کہ عماز کو ہم دشمن جانتے
 ہیں عمازی کیوں کر کریں۔ ان کو کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور پھر اس کی زبان لے کر اس
 مقتول پر ماریں تب وہ زندہ ہو جائے گا اور خود بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے۔ حضرت
 عبد اللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا گائے کو ذبح کرنے کو کیونکہ
 وہ قوم گائے ہی پوجتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے معبود کو ذبح ہی اپنے ہاتھ
 سے کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ تو ہماری جنتی بھی طاقت و عقل
 کا مالک نہیں ہے۔ فرض حضرت موسیٰ نے خدا کے فرمانے سے اس قوم کو اس چیز کی خبر دی تو اللہ تعالیٰ
إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْعَةً تَرَ جُمْهُرًا اور جب
 کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے تو البتہ تم قاتل

کو معلوم کر لو گے۔ انہوں نے کہا قولہ تعالیٰ: **فَاَلَا اَتَذَكَّرْنَ مَا هَٰذَا بَلَدٌ لِّمَن لَّدُنَّ اَعْوَدُ** کیا ہم کو پکارا امتدق نے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قولہ تعالیٰ: **قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اِنَّ اَكْزَنَ مِنَ الْجَبَلِيْنَ** ترجمہ۔ کہا حضرت موسیٰ نے پناہ پکڑنا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے اور نہ ہوں میں جاہلوں سے بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ قولہ تعالیٰ۔ **قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَاِصْ وَلَا يَكُوْطُ** ترجمہ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گائے نہ تو بول سکتی ہو اور نہ بچہ بلکہ جو اس سال ہو۔ اب تم یہی کر دو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا۔ **فَاَلَا اَدْعٰ لَنَا رَبَّكَ تَبٰىئِنَا لَنَا مَا لَوْ نَهَا هُ تَرْجَمُ** کہنے لگے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کیا ہے رنگ اس گائے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ **قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرًا** ترجمہ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہو خوب زرد رنگ کی جو اچھی معلوم ہوتی ہو دیکھنے والوں کو۔ پھر انہوں نے کہا قولہ تعالیٰ۔ **فَاَلَا اَدْعٰ لَنَا رَبَّكَ تَبٰىئِنَا لَنَا مَا هٰذَا تَرْجَمُ** اپنے رب کو کو بیان کر دے ہم کو کہ کس قسم کی ہے وہ گالیوں میں شبہ پڑا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم راہ پاویں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قولہ تعالیٰ۔ **قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا تَكُوْنُ** ترجمہ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گائے ہے نہ وہ محنت کرنے والی ہو اور نہ بل جوتنے والی ہو کہ پھاڑے زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتوں کو اور اپنے بدن سے پوری تندرست ہو اور داغ اس میں کچھ نہ ہو۔ تب کہا انہوں نے کہ اب لایا ہے تو ہمارے پاس ٹھیک بات ہے اب ہم ضرور ذبح کریں گے۔ پھر وہ مذکورہ بالا صفت کی گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت ہیرائیل نے بصورت اجنبی ان کو آکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں فلاں آدمی کے پاس اس صفت کی گائے کو میں دیکھ آیا ہوں اور قیمت اس کی اس کے پیر سے بھر کے روپے کی ہے جو چاہے سو خریدے داصل قصہ گائے کیوں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مرد صالح نیک بخت تھا اور اس کے ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بہت ہی چھوٹا تھا اور اس کے ایک گائے تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے واسطے جھگل میں خدا پرستی پر سوچنی کہ الہی جب میرا بیٹا بڑا ہو تب اس گائے کو ذبح کرو اور وہ گائے جب بڑی ہوئی جھگل میں اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا خوب وہ لڑکا جو ان ہوانیک بخت صالح اپنی ماں کی خدمت کرتا اور اپنی ماں کا مطیع و فرمانبردار رہتا اور اس نے اپنا معمول یہ بنا رکھا تھا کہ وہ رات کے تین حصے کرتا پہلے حصے میں وہ سوتا اور دوسرے حصے میں عبادت کرتا اور آخر حصے میں اپنے

باپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا یہ اس کا روزانہ کا دستور العمل تھا۔ جب فجر ہوتی تو جنگل و میدان
 میں جا کر بکٹیاں چن لانا اور پھر اس کو بازار بچتا جاہب وہ فروخت ہو جاتی تو اس کے بھتی تین حصے
 کرتا۔ ایک حصہ از فقراء مساکین کو صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا اور تیسرے حصے میں آپ پکھ
 کھا لیتا۔ ایک دن اسی کی ماں نے اس سے کہا اے بیٹے تیرا باپ فلا نے میدان میں تیرے لیے ایک
 گائے خدا پر سوئپ کر گزر گیا ہے تو جا اور وہاں جا کر حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ اور اسحقؑ کے خدا سے
 مانگ تب وہ گائے تیرے ہاتھ آجائے گی اور اس گائے کی شناخت یہ ہے کہ وہ مثل شعاع
 آفتاب کے نظر آوے گی۔ یہ سن کر اس نے اس میدان میں جا کر دیکھا اور کہا یا الہی وہ گائے جو میرے
 باپ نے میرے واسطے اس میدان میں چھوڑی ہے سو مجھ کو دیدے پس وہ گائے جلم خدا اس
 کے سامنے آ موجود ہوئی اور وہی گائے پھر لولی اے لڑکے اپنے ماں کے فرما بزراد تو میری پیٹھ
 پر بیٹھ میں تیری فرما بزراد ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے نہیں کہا تیری پیٹھ پر بیٹھنے
 کو لگ رہا ہے کہ بھوکہ بکڑے جاؤں پس وہ جوان لڑکا اس گائے کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف بے چلا
 اس وقت شیطان بصورت رکھو اے کے اس کے آگے آکر بولا کہ اے جوان مرد میں اس کا پاسیان
 اس پر اپنا اسباب لاد کر اپنے گھر کو جانا چاہتا تھا جب راستے میں مجھے کچھ حاجت پڑی میں اس میں مشغول
 ہو گیا اور یہ گائے مجھ سے چھوٹ گئی تھی اور مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اس کو پکڑ سکوں۔ آخر
 یہ بھاگ گئی اور اب میں نے اسے یہاں پایا ہے اب تم ہم کو اس پر سوار کر کے مجھے اپنے گاؤں
 تک پہنچا دو اور جو اس کی مزدوری ہوگی وہ مجھ سے لے لینا۔ یہ بات سن کر اس جوان نے کہا کہ جانتا
 پر پھر وہ کہ جب تیرا ایمان درست ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے توشہ اور بے سواری تجھ کو منزل مقصد
 پر پہنچا دے گا ابلیس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو مجھے بیچ دو اس لڑکے نے جواب دیا کہ یہ بات میری
 ماں نے کہی نہیں ہے کہ میں گائے کو بیچ دوں یہ کہتے ہی اس نے اپنا ایک قدم بڑھایا اچانک ایک
 پرندہ اجازر گائے کے پیٹ کے نیچے سے اڑ گیا اور گائے بھی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تب اس نے
 پکارا اے گائے برائے خدا میرے پاس آ جا گائے نے یہ آواز سنی اور فوراً حاضر ہو گئی اور پھر
 اس نے اس لڑکے سے کہا اے نوجوان جو مجھ کو لے بھاگتا وہ مرغ نہ تھا بلکہ وہ شیطان تھا اور وہ
 مجھ پر سوار ہو کر بھاگا۔ جب تو نے خدا کا نام لیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ کو اس لعین سے
 چھڑا لیا۔ عرض وہ نوجوان اس گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا اس کی ماں نے کہا اے بیٹا ہم
 غریب ہیں اور کچھ روپیہ پیسہ کھانے پینے کو نہیں تو اس گائے کو فروخت کر ڈال۔ وہ بولا اے میری

ماں اس کو کتنے میں فروخت کروں اس کی ماں نے جواب دیا کہ تو اس کو تین اشرفی میں فروخت کر ڈال وہ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر بازار میں گیا۔ ادھر خداوند قدوس نے فرشتہ بھیجا کہ گائے کی قیمت بتا دے فرشتے نے پوچھا کہ تم اس کو کتنے میں فروخت کرو گے وہ بولا کہ سیم اس کو تین دینار میں فروخت کرنا چاہئے ہیں۔ فرشتے نے اس کو بتایا کہ اس گائے کو تم چھ دینار میں فروخت کرو۔ وہ لڑکا بولا کہ میری ماں نے تو اس کو چھ دینار میں فروخت کرنے کو نہیں کہا اگر تم اس گائے کے وزن برابر بھی دینار دو گے تو بھی بے حکم ماں کے نہیں بیچوں گا۔ یہ سنتے ہی پھر جوان نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ گائے کی قیمت تو چھ دینار بازار میں ہوتی ہے تب اس کی ماں نے اس کو اجازت دیدی۔ جب وہ بازار میں آیا تو پھر اس فرشتے نے بارہ دینار اس کی قیمت کہی پھر اس نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ بازار میں اس گائے کی قیمت تو بارہ دینار ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس لڑکے سے کہا کہ شاید وہ شخص فرشتہ ہو گا جو اس کی قیمت لگاتا ہے اور سیم کو فائدہ پہنچانے آیا ہے پھر جوان جا کر دیکھتا ہے کہ وہ مرد وہی کھڑا تھا تب اس نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اب اس گائے کو مت بیچو اور تم اپنی ماں سے جا کر کہو کہ تم اس کو موسیٰ بن عمران کے آنے تک رکھو کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا ہے اور قاتل اس کا اب تک نامعلوم ہے اس کو وہ خریدے گا اور چڑھے بھر وزن کر کے روپے تم کو دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وہ گائے اسی صفت کی پائی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان بتایا تھا اس گائے کو اس پیرزن سے خرید کر فروغ کیا اور اس کے پڑے بھر روپے وزن کر کے اس کو دیے اور زبان اس گائے کی کاٹ کر عامل مقتول پر جس کا بیان اور گزر چکا ہے رکھ دی خدا کے حکم سے وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس کی رگوں میں اس کے گلے سے خون جاری ہوا تب اس نے بلند آواز اور صیغہ زبان سے کہا اے لوگوں! اگر وہ پوچھو کہ گاؤں والوں نے نہیں ارا میرے جیتنے نے مجھے دولت کے نالچ سے ارا ہے انباہل کو وہ پھر مر گیا پس حضرت موسیٰ نے اس بائیل مقتول کے بھتیجے قاتل کو مار ڈالا اس کا قصاص لے کر تمام مال و اسباب اس کا محتاجوں اور فقروں کو بانٹ دیا تب وہاں کے لوگوں نے اس قاتل کے شر سے امان پائی اور پھر وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لگائے۔

ملاقات حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام

بعض تاریخ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے قوم بنی اسرائیل کو وعظ کر رہے تھے۔ اور بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ جب اس میدان

تیبہ میں تو ابنی اسرائیل کو نصیحت کرنے لگے تو اس وقت بلکم خدا ایک ابر سفید نے ان کے سر پر سیاہ ڈالا اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں یوں گزرا اور وہ کہہ بیٹھے کہ آج ہمارے برابر کوئی علم و فضیلت میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واسطے یہ بات کہی کہ چالیس شتر کا بوجھ تو ریت کی تختیوں میں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حفظ کر رکھا تھا اور خداوند قدوس سے بلا واسطہ تکلم کیا تھا یہ سن کر اس محفل میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں آپ کے برابر کوئی نہیں تمام طرح کے مدارج میں۔ آپ بلند و بالا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے کہا تم لوگ جمع کہتے ہو۔ حقیقت میں میں کسی کو بھی اپنے سے بلند نہیں دیکھتا اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب باری سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ ایسا خیال مت کر تجھ سا کوئی نہیں جزو میرے بندوں میں تجھ سے زیادہ علم ہے اور تجھ کو کیا معلوم ہے کہ میں نے کس کو زیادہ علم دیا دیکھ تعلق میں ایک نیک میرا بندہ ہے جو کہ مجمع البحرین میں ہے اس سے جا کر ملاقات کر پھر دیکھ کہ زیادہ علم اس کو ہے یا تجھ کو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے خداوند اوہ کون ہے۔ اس کو مجھے دکھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ مجمع البحرین کے قریب ایک میدان ہے اس میں وہ رہتا ہے اور وہ اس کام پر مامور ہے کہ ہر گمراہ کو راہ بتاتا ہے اور میری طرف اور میری طرف سے یہ معجزہ بھی اس کو دیا گیا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے اور اس کے ذمہ دیگر اور کام بھی ہیں اور اس کا نام خضر ہے لہذا تو اگہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر دیکھ پھر تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا کرامات ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرا یوشع کے مجمع البحرین کی طرف گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا۔ وَرَدَّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَدْتَهُ ط لَآ اَبَدُحُ حَتَّىٰ اَبْلُغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حَقْبًا ۗ اور یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو یعنی یوشع کو میں نہ سہوں گا جب تک کہ پہنچوں گا گا دو دریا کے ملاپ پر خواہ میں چلا جاؤں برسوں تک۔ پس دونوں حضرت مجمع البحرین تک گئے۔ اور مجمع البحرین دو دریاؤں کا نام ہے جو فارس اور روم کے درمیان جانب مشرق کے واقع ہے اور ان کے ساتھ انکی زنبیل میں بھتی ہوئی ننگہ رچھلی تھی اور یہ واقعہ عالم التنزیل میں لکھا ہے اور کلام اللہ اور حدیث میں ترجمہ ملی ہوئی چھلی ہے ان دونوں نے اپنے کھانے کے واسطے لے لی تھی جب یوشع نے دریا کے کنارے ایک پتھر کے قریب زنبیل رکھ دی اور پھر اسی دریا کے پانی سے وضو کیا تھا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے چھلی پر پڑا تو فوراً انجلی

زندہ ہو گئی زنبیل میں سرنگ بنا کر دریا میں جا پڑی۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَلَمًا
بَلَدًا مَجْمَعٌ بَيْنَهُمَا الخ ترجمہ: پس جب پہنچے دونوں دریا کے کنارے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے
تو اس مچھلی نے اپنی راہ نکال لی سرنگ بنا کر دریا میں۔ یوشع چاہتے تھے یہ ماجرا حضرت موسیٰ
علیہ السلام سے کہیں اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ بعد ایک لحظہ خواب
سے اٹھ کر اس جگہ زنبیل بھول کر اپنی راہ پر چل دیئے اور پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر جلد
روانہ ہوئے۔ راہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اسی وقت اپنے ساتھی یوشع سے
وہ مچھلی کھانے کو مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَلَمَّا جَا وَرَأَقَالَ لِقَتْنَهُ اَتِنَاغَذَا الخ
پس جب وہ آگے چلے دونوں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو دے ہم کو کھانا پیارا
صبح کا ناشتہ تحقیق ہم نے پائی سفر میں تکلیف۔ یوشع نے کہا نہ دیکھا تم نے جب ہم نے وہ
جگہ پکڑ لی تھی اس پتھر کے پاس سو میں بھول گیا وہ مچھلی اور یہ مجھ کو بھلا یا ہے شیطان نے اور میں
یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ذکر عنقریب آپ سے کر دوں اور وہ مچھلی تھی کہ اپنی سرنگ لگا کر دریا میں
چلی گئی یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ وہی جگہ ہے جو ہم چاہتے
تھے۔ پھر اٹھے والپس پھرے دونوں اور اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے جاتے تھے۔ پس پایا اس
جگہ ایک بندہ بیمارے بندوں میں سے جس کو وہی تھی ہم نے اپنے پاس سے نہر اور اس کو علم بھی
اپنے پاس سے سکھایا تھا۔ عرض حضرت موسیٰ اور یوشع دونوں اسی جگہ پر واپس آئے جہاں مچھلی
زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی اور وہی مچھلی دریا میں کبھی تو پانی کے اوپر دکھائی دیتی تھی اور کبھی
وہ پانی میں ڈوبتی نظر آتی تھی۔ اس مچھلی کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت موسیٰ
علیہ السلام دریا میں جا کرے اور پھر پانی میں غوطہ لگایا تاکہ وہ اس مچھلی کو پکڑ لیں۔ پس جب انہوں
نے پانی میں غوطہ لگایا تو ایک گنبد نظر آیا جو پانی میں معلق ایستادہ اور اس میں حضرت خضر نماز پڑھ
رہے تھے۔ جب حضرت خضر نماز سے فارغ ہوئے حضرت موسیٰ نے سلام علیک کہا اور پھر ان
کے سامنے بیٹھے۔ انہوں نے احوال پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا پورا حال بیان کیا۔ حضرت
موسیٰ اور حضرت خضر میں بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آیا اور ان کے سامنے دریا سے
ایک قطرہ پانی چوچ مار کر لے چلے۔ پس حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے تئیں
سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں حالانکہ علم اول و آخر ظاہر و باطن بنی آدم کا اللہ تعالیٰ
کے نزدیک اس سے کم تر ہے جیسا کہ یہ مرث ایک قطرہ پانی سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے۔ ایسا

ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہارا اور بہارا علم کیا چیز ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے تم کو تربیت فرمائی۔ یہ بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم مجھ کو ہے تم کو نہیں اور ایک تم کو ہے مجھ کو نہیں یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قرآن تعالیٰ: قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَذَا اتَّبِعْكَ عَلَىٰ أَنْ لَنَقْلَبَنَّ مَعًا عِيَّتْكَ إِنَّكَ إِذْ تَرْجِعُ حَضْرَتِ مُوسَىٰ نے حضرت سے کہا کیا پیروی کروں میں تیری اس پر کہ! سکھا دے تو مجھ کو اس چیز کو کہ سکھایا گیا ہے تو کچھ بھلائی سے یعنی خدا نے تجھ کو علم سکھایا ہے سو تو مجھ کو سکھا۔ پھر حضرت نے ان سے کہا تو میرے ساتھ صبر کر سکے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ تو ہرگز نہ صبر کر سکے گا۔ اور کیونکر کرے گا صبر تو اس چیز کو کہ صبر کا تجھ کو علم نہیں ہے کیونکہ میرا کام باطنی ہے اور تو اس کو دریافت نہ کر سکے گا کیونکہ باطن کا حال معلوم کرنا بڑا محال ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ البتہ پاوے گا تو مجھ کو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نیری نافرمانی بھی نہ کروں گا کسی حکم میں یہ سن کر حضرت نے کہا کہ اگر پیروی کرے گا تو میری پس سوال مت کیسیو مجھ سے کسی چیز سے یہاں تک کہ میں شروع کروں تجھ کو دکھانے کو کوئی چیز پھر یہ عہد کر کے دونوں وہاں سے چلے یہاں تک کہ سوار ہونے ایک کشتی پر بھاڑ ڈالا اس کو حضرت نے تب یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تو نے کشتی ہی کو بھاڑ ڈالا ممکن ہے ہم کو ڈبو دے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے حضرت تم نے تو ایک بالکل نئی چیز پیدا کر دی تب حضرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور نہ ڈال مجھ پر میرا کام مشکل پھر دونوں چلے وہاں سے یہاں تک کہ ملاقات ہوئی اس لڑکے سے پھر اس کو حضرت علیہ السلام نے مار ڈالا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے تو اس لڑکے کو مار ہی ڈالا اے حضرت تو نے یہ فعل نامعقول کیا پھر حضرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے کہا تھا تجھ کو اے موسیٰ کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں اس کے بعد کوئی چیز پوچھی تو پھر تو ہم کو اپنے ساتھ نہ رکھنا یہ کہہ کر وہ دونوں پھر چلے ایک گاؤں کی طرف یہاں تک کہ پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس کھانا مانگا وہاں کے لوگوں سے پس ان لوگوں نے انکار کیا یہ کہ وہ ضیافت کریں۔ پس پائی ان دونوں تے ایک دیوار اس گاؤں میں کہ وہ گرنے کے قریب ہی تھی۔ پس حضرت نے ان کو سیدھا کر دیا۔ پھر یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ نے کہا اے حضرت اگر تو چاہتا تو البتہ لیتا تو اس دیوار کی مزدوری اور ہم بھوکے ہیں کیوں تو نے یعنی مزدوری کے دیوار کو سیدھا کر دیا ہم تو ان سے مزدوری طلب کرتے وہ مجبوراً اس کو مزدوری

دیتے۔ اس پر حضرت خضرؑ نے کہا کہ جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہے اس پر مزدوری ہم نہیں لیتے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضرؑ سے پہلی بار بھول کر پوچھا تھا اور دوسری دفعہ اقرار کرنے کو آپس میں اور تمسیری دفعہ رخصت ہونے کر جان بوجھ کر پوچھا تھا کیونکہ حضرت موسیٰؑ نے سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں اور میرا علم تو وہ ہے کہ جس میں خلق خدا پروری کرے تو اس کا بھلا ہوا اور حضرت خضرؑ کا علم وہ ہے کہ دوسرے کو اس کی پیروی بن نہ آوے۔ تب حضرت خضرؑ نے کہا اے موسیٰؑ تو نے عہد اپنا توڑ دیا۔ اور میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جو کام کروں گا تو تجھ سے مت پرچھو۔ اب تم سے ہماری جدائی ہے قولہ تعالیٰ: قَالَ هَذَا آيَاتُنَا لِيُبَيِّنَ لَكَ وَجَيْدِكَ مَا تَبْتَدِعُ ۝ الْح۔ ترجمہ کہا حضرت خضرؑ نے اے حضرت موسیٰؑ اب جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان اور اب پھر میں بتانا ہوں تجھ کو ان باتوں کو کہ جس پر تو صبر نہ کر سکا پہلا وہ جو کشتی تھی کتنے فقیر اور محتاجوں کے لیے کمانے اور محنت کرنے دریا میں سو میں نے چاہا کہ اس میں نقصان ڈالوں کیونکہ ایک بادشاہ ظالم لوگوں سے کشتی چھین لیتا تھا اس لیے میں نے اسی کشتی کو چھڑا ڈالا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیئے تاکہ ظالم بادشاہ اس کو عیب دار جان کرنے سے سکے اور غریبوں کے لیے کمانی باقی رہے۔ اور دوسرے وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ تھے ایمان والے ڈرا کہ وہ اپنے ماں باپ کو گرفتار کرے سرکشی اور سفر میں پس اگر بڑا ہوتا تو موذی اور بد راہ ہوتا اور اس وجہ سے اس کے ایمان دار ماں باپ بڑا ہوتے پس میں نے چاہا کہ خدا تعالیٰ اس کو جزا دیوے بہتر اجزا اور مہر کرے اس واسطے میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ ماں باپ اور مخلوق خدا اس کے ہاتھ سے امن میں رہے اور اس کے ماں باپ کو خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک لڑکی دیوے کہ اس کی نسل سے ستر پیغمبر پیدا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ دیوار تھی سو وہ یتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ماں گڑا ہوا تھا۔ اور ان یتیم بچوں کے ماں باپ صالح یعنی نیک تھے اور لوگوں کو قرضہ حسد دیتے تھے لیکن کبھی تقاضا نہیں کرتے تھے اس سبب سے خداوند قدوس نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا اور وہ اپنا قرض نہایت نرمی سے لیتے۔ اور سو دبا لکل نہیں لیتے تھے اور نہ خیانت کسی کی کرتے تھے اور نہ کسی کو آزار پہنچاتے تھے۔ اور میں نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے جب جوانی کو پہنچیں گے تو اپنے ماں باپ کا گڑا ہوا مال نکال لیں گے۔ اس دیوار کے نیچے سے تیرے رب کی مہربانی سے اور یہ میں نے کہا اپنے حکم سے پھر ہے ان چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا اور وہ دیوار گرنے

کے قریب تھی اگر وہ گرتی مال اس کے نیچے سے ظاہر ہو جاتا تو اس کو لوگ لے جاتے اور وہ یتیم
 خردم رہ جاتے اس لیے میں نے اس کی مرمت کر دی بغیر کسی مزدوری کے اور پھر حضرت خضرؑ کے
 اسے موسیٰ تم نے سچھا تھا کہ تمہارے برابر کسی کا علم نہیں اور تم نے یہ نہ سوچا کہ خدا کے بندے ایک
 سے ایک ایسے ہیں کہ تمہارا علم ان کے برابر رانی اور سرسوں کے برابر ہے پس اب تم جاؤ اور اب
 ہماری تم سے جدائی ہے اور دو تین باتیں نصیح کی بھی مجھ سے یاد رکھو، اول خوش رہو۔ خوش خلق
 لوگوں میں رہو۔ تب تمہاری عزت و وقار ہوگا۔ اور تراش روئی اور غرور کسی بات پر مت کیجیے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اور دوسرے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے حاجت مت
 مانگیو خواہ اپنے واسطے ہو یا غیر کے واسطے ہر حاجت کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،
 اگر ایسا خیال رکھو گے تو یہ دعا مقبول ہوگی۔ پس حضرت خضر علیہ السلام یہ کہہ کر ایک دم غائب ہو گئے
 وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰدِقِ ۝

وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام

ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں آئے
 تو لوگوں نے ان سے کہا اے حضرت موسیٰ آپ حضرت خضرؑ سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں وہ ذرا بیان
 تو کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو دیکھ کر یا سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے وہ
 علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب تین برس موسیٰ اور ہارون کو اس میدان تیرہ میں گزرے تو حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی اے موسیٰ فلا نے روز فلا نے وقت فلائی جگہ ہارون کو اپنے پاس بلاؤ
 گا۔ جب ارشاد ہوا موسیٰ روز موعود کے منتظر رہے۔ جب وعدہ آیا ہارون کو فرمایا اے بھائی چلو
 اس میدان سے فلائی جگہ پر۔ پس دونوں حضرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے اس کے نیچے
 ایک نہری جاری دیکھی اور اس کے کنارے ایک تخت پر تکلف دھرا پایا۔ حضرت ہارون اس پر جا بیٹھے
 اور کہا اے بھائی یہ کیا خوب جگہ ہے یہاں رہنا چاہیے تب خدا کے حکم سے ملک الموت نے آکر
 جان ان کی قبض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ بہت ہی افسوس کیا اکثر حضرات کا یہ قول ہے
 کہ حضرت ہارون کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے لیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو تخت
 سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے لیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو تخت سمیت زمین کے نیچے
 لے لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میرے بھائی ہارون نے انتقال کیا ہے

سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مرے نہیں شاید تم نے ہی مارا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں مارا اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ بڑے اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت بارون علیہ السلام کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری یا نیچے سے زمین کے نکالی تب انھوں نے حضرت بارون کی لاش کو سزتا پا دیکھا کچھ اس پر نشان نہ پایا پھر بھی ان کے مرنے پر یقین نہ کیا اور پھر کہا اے موسیٰ بارون کو تم نے ہی مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ سے اس واسطے کہا کہ وہ قوم حضرت بارون علیہ السلام کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا مانگی پھر اللہ تعالیٰ نے بارون علیہ السلام کو زندہ کیا حضرت بارون نے زندہ ہو کر کہا کہ مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا میں تو خدا کے حکم سے مریاں۔ اتنا کہہ کر پھر وہ جان بحق ہو گئے اور اسی وقت وہ غائب ہو گئے۔ تب ان سب کو یقین ہوا حضرت بارون علیہ السلام کے مرنے کا۔ پس اس تیبہ میں حضرت موسیٰ اپنی قوم کے پاس پھر آئے اور یوشع ان کے بھانجے تھے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا جب تین برس گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے ملک الموت تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو وہ بولے میں تو روح قبض کرنے کو آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا وہ بولے تمہارے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا انہوں نے کہا اچھا میں آنکھ سے نکال لوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا انہوں نے کہا اچھا ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ میں آئے اور کہا اے عزرائیل کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے کوئی نیچ میں واسطہ نہ تھا۔ پس اس کی عزت کی قسم ہے کہ میں جلدی جان دینا اپنی تسلیم نہ کروں گا۔ خداوند قدوس سے میرا اور مجھی سوال ہے ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری میں عرض کی کہ خدا یا تجھ کو معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا تسلیم نہ کروں گا میں عرض کی کہ خدا یا تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں اپنی جان دینا تسلیم

پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے۔ وہ فوراً بول اٹھے اے میرے پروردگار میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں ہزار جان میری خدا ہوتیرے کلام پر پس حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کی خدایا میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی اس کو تو اپنی رضا پر رکھو اور ان کو مال حرام سے بھی باز رکھو اور ان کو روزی حلال دیکھو کیونکہ میری امت ناتواں ہے پس ندا آئی اے موسیٰ زمین پر عصا مارو عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا پھر حکم ہوا اور پھر عصا مار جب مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ برآمد ہوا پھر حکم ہوا اس پتھر پر عصا مار جب عصا مارا تو پتھر بھی دو ٹکڑے ہو گیا اس میں سے ایک کیڑا نکلا وہ کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ رَبِّ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَعْرِفُ مَكَانِي دَنْزُرْتَنِي فِي قَلْبِ تَجِدُهُ تَرْجَمُهُ۔ اے پروردگار تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور مجھ کو میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے۔ کسی کو محروم بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا۔ اے موسیٰ قعر دریا کے تختِ الزمینی میں پتھر کے اندر کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں اس کو بھی نہیں بھولتا تو میں تیری امت کو کیونکر بھولوں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کوہ طور سے خوش ہو کر نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ سات آدمی ایک قبر کو کھود رہے ہیں ان سے پوچھا تم کس واسطے یہ قبر کھودتے ہو انہوں نے کہا یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھودتے ہیں تم بھی اور اس میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرو۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے ایک بار تم اس میں اتر کر دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی یا نہیں تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر لیٹ کر دیکھا اور پھر کہا کہ یہ کیا ثواب جگہ کاش کہ یہ قبر میرے لیے ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت حضرت حضرت جبرائیل نے ایک سیب بہشت سے لاکر حضرت موسیٰ کے سامنے لاکر رکھ دیا انہوں نے اس کو سونگھا فوراً جان بحق تسلیم ہو گئے اور فرشتوں نے ان کو پہلا دھلا کر بہشت کا کنن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ کی قبر کہاں ہے جب حضرت عزرائیل حضرت موسیٰ کی جان قبض کرنے کو آیا حضرت موسیٰ نے غصہ ہو کر ایک ہلانچہ ان کے چہرے پر ایسا مارا کہ آنکھوں کی نکل پڑی۔ انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں جا کر فریاد کی کہ الہی تجھ کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے

مجھ کو ایک طمانچہ ایسا مارا کہ ایک آنکھ میری جاتی رہی اور اگر وہ تیرا کلیم نہ ہوتا تو ہم ہر دو آنکھیں اس کی نکال ڈالتے۔ پس ندائی اے عزرائیل تم جا کہ حضرت موسیٰ کو کہو کہ تم کو حیات دینا اور منظور ہے۔ تو پھر کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی لپٹم اس میں آتی ہے اتنی ہی عمر ہم تم کو اور دیں گے اگر تم یہ چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے دل میں سوچا آخر ایک بار مجھ کو مرنا ہے۔ تب عزرائیل سے کہا کہ خدا کے حکم سے اب میری جان قبض کر و اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً ایک سو پچاس برس کی ہوئی تھی۔ پس ان کے حکم سے ان کی جان قبض ہوئی اور بعض روایات میں یوں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ

عابدِ بلیغ ابنِ باعور اور حضرت یوشع بن نون کا واقعہ

تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل اس تیرہ مذکورہ میں تقریباً سات برس تک رہے جب چالیس برس ہو جب مبعاد اللہ تعالیٰ اس تیرہ میں پورے ہوئے اور نیز یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ حضرت مریم سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبری! عنایت فرمائی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس قوم بنی اسرائیل کو اس تیرہ سے نکال کر ملک شام جباروں کے قبضے سے نکال کر تم سب مصر میں جا رہو تب یوشع ابن نون بمطابق ارشاد خداوندی کے تمام قوم بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام میں چلے گئے بعض مردودوں کو تہ تیغ کیا اور بعضوں کو رونق اسلام سے مشرف کیا۔ پس وہاں سے فحجاب ہو کر شہر ایلیا میں جا کر اکثر مردودوں کو قتل کیا اور پھر اس شہر پر قابض ہو کر پھر شہر بلقان میں آئے یہ بڑا شہر پایہ تخت بادشاہ کا تھا۔ اور اس بادشاہ کا نام بالقی تھا۔ افواج و رعیت اس کی بہت تھی۔ حضرت یوشع نے ان سب کا محاصرہ کیا بالآخر کافروں نے شہر بزمیت پائی۔ بلیغ ابن باعور کے پاس جا کر استدعا چاہی اور ان سے کہا آپ مقبول خدا ہیں ہمارے جیسے دعا کریں کہ ہم دشمنوں پر فتح پاویں۔ اس نے کہا کہ یوشع ابن نون تو خدا کا پیغمبر ہے اور اس کا شکر و سپاہ تو خدا کا فرستادہ ہے اور ہم کو کیا طاقت کہ ہم ان پر یہ دعا کریں۔ اور میری تو یہ رائے ہے کہ تم سب لوگ دین موسیٰ کو قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ اور درحقیقت وہ بنی مرسل تھے یہ سن کر ان مردودوں نے کہا کہ ہم ہرگز دین موسیٰ کا اختیار نہ

کریں گے اور تم کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ اگر تم ہمارے حال پر بددعا نہ کرو گے تو تم کو ہم لوگ
 دار پر کھینچیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ بلعم ابن باعور اس بات
 کو سن کر دل میں کچھ خوف کرنے لگا لیکن دعا پھر بھی نہ کی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بلعم
 ابن باعور کی عورت بہت خوبصورت تھی اور وہ اس پر عاشق و فریفتہ تھا اس بادشاہ نے
 اس کو بہت سارے پیسے دے کر راضی کیا اور وہ تو راہزن ایمان و گمراہ تھی روپے کے لالچے
 سے اپنے شوہر سے سفارش کی کہ تم دعا کرو ہماری خاطر بادشاہ کے لیے۔ پس بلعم باعور
 نے اپنی عورت کی خاطر اور اس بادشاہ کے خوف سے اور خدا سے ڈر کر آخر کچھ صلہ کیا
 اور وہ یہ تھا کہ ان کو ایک فعل ناشائستہ بتا دیا کہ تم ابھی اچھی عورتیں جو ان انارستان
 چودہ چودہ برس کی لاکر ان کو یوشع ابن نون کے لشکر گاہ میں بھیج دو ادغلب ہے کہ وہ سب
 ان کو دیکھ کر فریفتہ ہو کر مرتکب زنا ہوں گے اور وہ اس بد بخت سی ہزیمت پاویں گے
 اور اس میں تمہاری فتح و کامیابی ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ بالحق فاسق گمراہ نے ویسی
 ہی فاجرہ عورتیں منگو کر حضرت یوشع بن نون کے لشکر میں بھیج دیں۔ پھر وہ خدا کے فضل
 سے نیک ہو کر سب لوگ اس فعل بد سے بچ گئے اور انہوں نے ان فاجرہ عورتوں کا قطعاً
 خیال نہ کیا۔ یہ حال دیکھ کر پھر بلعم ابن باعور کی عورت نے آکر اس سے کہا کہ تم میرے کہنے سے
 بددعا نہ کرو گے تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ سن کر بلعم ابن باعور بہت پریشان ہوا اور اس
 عجوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے چاہا کہ میں ایک حجرے میں جا کر بددعا کروں ناگہاں
 اس وقت دو شیر اس حجرے میں آگئے اور ان دونوں نے بلعم ابن باعور پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر
 وہ بہت گھبرایا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی اس کو جانے دو مجھے خدا سے
 شرم آتی ہے۔ اور میں اس کو کیا جواب دوں گا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کا ہونا اس شہر
 میں بہتر ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو جب تک تم ان کے لیے بددعا نہ کرو گے
 تب تک میں تم سے بولوں گی۔ تاچار بلعم ابن باعور نے چاہا کہ کہیں غلوت میں جا کر دعائے
 پھر وہی شیر اس کو کاٹنے کے واسطے آگئے پھر اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ تو خداوند تقدوس
 سے ڈر۔ اور میں بنی پر کیونکر بددعا کروں یہ سن کر پھر اس کی عورت بولی کہ پھر تم ایک مکلائے
 ہو اگر تم میری بات نہیں سنتے ہو تو مجھ کو طلاق دے دو۔ پھر بہت ہی عجور ہو کر بلعم ابن
 باعور اپنے گھر سے نکل کر ایک گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گیا۔ اور یہ دو سر اچھا

کا محتاج کچھ دور گیا گدھا راہ چلنے سے رک گیا۔ ہر چند گدھے کو مارا تو بھی اس نے آگے
 قدم نہ بڑھایا۔ اور مفسرین نے بعض تفاسیر میں یوں لکھا ہے کہ خدا کے حکم سے گدھے
 نے اس سے یہ بات کہی کہ اے بلعم ابن باعور تم یہاں سے اپنے گھر کی طرف پھرو اور
 اپنے گھر چلو اور بد دعامت کرو اور تم اس کام سے باز آؤ ورنہ تم گنہگار ہو گے آگ میں
 ڈالے جاؤ گے۔ پس گدھے سے یہ بات سن کر وہ بہت ڈرا اور اسی وقت وہاں سے واپس
 ہو گیا۔ اتنے میں ایسے لعین بصورت آدمی بن کر اسی راہ میں اس سے بولا کہ اے بلعم ابن
 باعور تو کیوں نیک راہ سے منہ موڑتا ہے۔ وہ بولا کہ مجھے گدھا منع کرتا ہے کہ تم اس راہ
 سے باز آ جاؤ۔ اور پھر میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کام برا ہے۔ یہ سن کر شیطان
 نے اس سے کہا کہ تم کو جس نے راہ سے پھرا یا وہ شیطان تھا۔ کیونکہ تم یہ جانتے ہو کہ گدھے نے
 بھی کوئی بات کہی ہے۔ پس بھیک ہی ہے کہ تم بادشاہ بالقی کے حق میں دعا کرتا کہ وہ سب
 لوگ دور ہو جائیں اور تم ہی اس شہر میں قوم بالقی پر سرداری کرو گے۔ اگر تم ان کو خدا کی طرف
 بلاؤ گے تو وہ تم کو مانیں گے اور وہ تمہارے فرمانبردار بھی ہوں گے اور تم ان کے پیغمبر ہو گے
 اور پھر نیک عورت بھی تمہارے ہاتھ لگے گی۔ بلعم ابن باعور نے ان باتوں کو سن کر ایک پہاڑ کی
 طرف رخ کیا اور عزم بالجنہم کیا جہاں کہ اس کا چلہ تھا پایادہ وہاں گیا اور پھر وہاں
 جا کر دعا کی اور گدھا نہیں رہا۔ اس دن کی بد دعا سے بنی اسرائیل نے شکست پائی۔ یوشع ابن نون
 نے نتیجہ ہو کر گھوڑے سے اتر کر سر زمین پر رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کی یارب ہم شہر کے
 در پر آج چھ مہینے سے پڑے ہیں اس میدان میں کہ ان جباروں کا ملک فتح کر کے تیرا حکم بجالائیں
 اور تیرا شکر کریں اور جو کچھ مال و متاع ان کا ہم پاویں گے سب آگ میں جلا دیں گے اور آج
 کی لڑائی جو جیتا وہ بغیر تیری مدد کے نہیں اور ہم نے جو ہزیمت پائی ہے یہ حکم تیرے ہنسی
 ندائی اے یوشع ابن نون اس قوم میں ہمارا ایک بندہ مقبول ہے اور وہ اسم اعظم میرا پڑھتا ہے
 اس کو میں نے بزرگی دی ہے۔ اس نے وہ پڑھ کر دعا کی میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اسی وجہ
 سے تم نے شکست پائی۔ حضرت یوشع بن نون نے اپنا سر زمین پر رکھ کر عرض کی یا الہی تو اس کا مرتبہ
 اور بزرگی چھین لے تب ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم لباس و تقویٰ بلعم ابن باعور
 سے چھین لیا تب آپ نے اپنا سر سجدہ سے اٹھایا اور قوم بنی اسرائیل کو اس کی ہزیمت اس
 وقت یوشع ابن نون نے ایک دن حملہ سے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ لکر ان کا نردن کا

مخاصرہ کی اس کے بعد بلعم ابن باعور نے دعا کی لیکن وہ قبول نہ ہوئی اور دوسرے روز جمعہ
تھا۔ یوشع ابن نون اور قوا بنی اسرائیل نے مل کر ان جباروں کے ساتھ لڑائی شروع کی خدا
کے حکم سے زمین لرزے میں آئی اور صدارٹوٹ پڑا اور چاروں طرف نمازیوں کی تلواریں چلی
ڑتے لڑتے جب شام قریب آئی تب یوشع ابن نون دل میں خوف اندیشہ کرنے لگے کہ تو ریت
میں ہفتہ کے دن سوائے عبادت کے لڑائی کرنا اور دنیا کا کام وغیرہ کرنا ممنوع ہے دل میں
سوچا اگر آج کے دن فتح نہ ہوگی تو کل قوم جباروں کی اگر ایک ہی جگہ سے لے لے گی اور ہم کو
یہاں سے نکال دے گی۔ تب رو بسوئے آسمان کر کے دعا مانگی کہ اے پروردگار اس
وقت تو آفتاب کو اپنی قدرت سے حرکت دے کر اور دو گھڑی دن زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ
نے ان کی دعا قبول کی اور دو گھڑی دن بڑھا دیا اور آفتاب ٹھہر گیا۔ اس دو گھڑی کے عرصہ میں
شب ہفتہ کی شام ہوتے ہوئے قوا بنی اسرائیل فتح یاب ہو کر سجدہ شکر بجالائے اور وہ
مردود زیر شیشہ ہوئے اور توریت میں مال غنیمت حلال نہ تھا۔ ایسا مال جو غنیمت سے حاصل
ہوتا تھا وہ سب آگ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن ان کا مال کچھ نہ بھلا کیونکہ حکم ایسا تھا جو غنیمت
میں پاتے آگ لگا دیتے۔ اگر اس میں سے کچھ مال باقی رہ جاتا تو کوئی ان میں سے کچھ چراتا تو
آگ اس مال کو نہ جلاتی اور علامت مقبولیت اور ناقبولیت کی یہی تھی۔ سب کے تام قرعہ
ڈالا۔ نام چور کا جب نکلا اس سے مال کو منگو کر آگ میں ڈالا تب سب بل گیا۔ پس بلعم
ابن باعور نے آکر یوشع ابن نون کو تعظیم و تکریم سے سلام کیا آپ نے فرمایا اے بلعم ابن باعور
تمہارے واسطے بد دعا کی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری بزرگی اور مراتب چھین لیے
اور اب میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ صرف تین حاجتیں تمہاری اللہ تعالیٰ کے پاس بحال ہیں
یہ سن کر بلعم ابن باعور پر غم ہوا اور اپنی بیوی سے کہا اے بد ذات بد بخت میں نے کہا تھا
کہ پیغمبروں پر بد دعائیں چلتی یہ میں نے سخت گناہ کیا۔ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے میری
بزرگی اور کرامت سب چھین لی۔ یہ سن کر اس کی عورت بولی کہ تم نے تین سو برس فقیری کاٹی
اور اپنے اندر کمالیت حاصل کی پھر بھی تمہاری کمالیت اور مقبولیت کچھ بھی باقی نہ رہی۔ بلعم
ابن باعور بولا تین دفعہ تین حاجت کی دعا باقی رہی۔ وہ بولی یعنی اس کی بیوی اس وقت میرے
لیے ایک دعا کرو۔ باقی دو دعائیں تمہارے واسطے ہیں۔ بلعم ابن باعور بولا کہ تمہاری دعائیں
روز جزا کے واسطے رہنے دو۔ خدا سے مجھ کو اپنی نجات مانگنا ہے۔ آتش دوزخ سے

پھر وہ لڑی اے صاحب میرے لیے ایک دعا صرف کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جمال بخشے
 ہر چند بلعم ابن باعور نے کہا کہ جمال صورت تیری سب عورتوں سے زیادہ ہے۔ لیکن
 وہ نہ مانی بالآخر بلعم ابن باعور نے ناچار سو کر اس کے لیے دعا کی اس وقت اس کی صورت
 سے تمام گھر میں اجالا ہو گیا اور خدا کے غضب سے بلعم ابن باعور کی صورت تبدیل ہو گئے
 چہرے پر سیاہی آگئی۔ ادھر اس کی عورت میں جو انہر دمنگوا کر ہر روز عیش کرتی تھی۔ ایک دن
 اس نے دیکھی کہ بیگانے مرد سے عیش کرنے میں مشغول ہے اسی وقت طیش میں آ کر اپنی بیوی
 کو بد دعا کی اسی وقت اس کی بیوی کی شکل تبدیل ہو کر کتیا کی مانند ہو گئی اور جو اس سے
 اولاد تھی وہ یہ سال دیکھ کر رونے لگی۔ کیونکہ یہ اولاد کو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت
 ہوتی ہے۔ ان کی اولاد سے قوم بنی اسرائیل اور اس شہر کے لوگوں نے کہا کہ یہ تمہاری ماں
 نہیں ہے یہ تو کتیا ہے اور بلعم ابن باعور سے کہا کہ اے بلعم اپنی بیوی کے لیے دعا کرو کہ
 کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہیئت اصلی پھیر دے۔ تب لوگوں کے کہنے سے بلعم ابن باعور نے اپنی بیوی
 کے حق میں دعا کی کہ خدایا اس کی اصلی صورت بخش دے پھر خداوند قدوس کی قدرت سے
 جو صورت اس کی اول تھی وہی پھر ہو گئی۔ اے مومنو ذرا غور کرو اور دیکھو بلعم ابن باعور
 کتنا بڑا درویش تھا باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی نفس امارہ کی پیروی سے
 کی تھی اپنی بیوی کی بات سے مردود ہوا پس جو شخص نفس امارہ کا تابع ہوگا بیشک اس کی
 جگہ دوزخ ہے اور جو شخص نفس امارہ کی پیروی نہیں کرے گا تو بیشک اس کی جگہ جنت
 ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَوْلَهُ تَعَالَى: يَا مَعْشَرَ الْفٰسِقِیْنَ اِنَّ اٰمَنَۃَ النَّفْسِ
 فَاِنَّ الْجَبِيْمَ هِيَ الْمَاۤوِیۡۃُ ۗ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ
 عَنِ الْاَمْوٰی ۗ فَاِنَّ الْجَنٰتَ هِيَ الْمَاۤوِیۡۃُ ۗ ترجمہ: پس جس نے شرارت کی اور بہتر
 سمجھا دنیا کا جینا تو بیشک وہ دوزخی ہے اور وہ اسی میں رہے گا اور جو کوئی ڈرا اپنے
 پروردگار سے کھڑا ہونے سے واسطے حساب کے اور اپنی خواہش نفس کی برائی سے
 بچا لیا پس بیشک وہ جنتی ہے اور اسی میں رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یوشع بن نون
 نے مطابق الہام الہی کے قوم بنی اسرائیل کو فرمایا کہ چلو شہر بلقیا میں جا کر حیا دکرین اور خدا
 کی درگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دعائیں مانگیں تب قوم بنی اسرائیل نے سرکشی کے طور پر
 حضرت یوشع بن نون کے فرمانے سے اپنی عبرانی زبان میں حطہ حطہ کہا یعنی عنا خطا یا اے

اے رب گناہ ہمارے بخش دے اور بعض مذاق کی صورت میں کہتے حنظہ حنظہ یعنی اے
 رب ہم کو گنہوں سے ہم تقریباً چالیس برس کے بعد اس میدان میں تیرہ سے واپس آئے اور
 بعض سجدے کی جگہ چوڑے کے بل پہننے لگے اور اس طرح ہنسی کرتے تھے۔ پھر شہر میں گئے
 تو وہاں جا کر دیکھا کہ ان پر وبا آئی دوپہر کے وقت اور اس وبا میں تقریباً ستر آدمی مر گئے
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کو ذَرِّدْنَا اذْخُلُوْهُنَّ الْقَرْيَةَ نَزْجُمُ اور یہ
 کیا ہم نے داخل ہو اس گاؤں میں پس کھا ڈاس میں جو چاہو تم فراغت سے اور داخل ہو
 دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہو کہ بخشش مانگتے ہیں ہم تب بخشیں گے ہم تمہارے
 ہم تمہارے واسطے خطائیں تمہاری اور البتہ ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو پس بدل
 ڈالائیں انہوں نے بات کو جنوں نے ظلم کیا تھا سو اس کے کہا گیا واسطے ان کے پس اتارا ہم نے
 اوپر ان کے جو ظلم کرتے تھے عذاب و باکی صورت میں آسمان سے بسبب اس کے کہ تھے
 وہ فسق کرتے اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ آسمان سے نازل کی تھی ان لوگوں
 کے جلانے کے واسطے۔ غرض سب نے پھر توبہ و استغفار پڑھا۔ تب خدا نے اپنے فضل و
 کرم سے عفو فرمایا اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل میدان تیرہ میں تھی اس
 وقت لڑائی میں حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جانے کو فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے
 اور حطہ کہتے ہوئے ملک شام میں داخل ہو۔ پس شاید کے نافرمانی عین حیات میں حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے صادر ہوئی تھی۔ اب یوشع ابن نون نے ان سب
 کو لے کر اس شہر میں جا کر بت پرستوں کو قتل کر دیا اور وہاں کے بادشاہ کو تخت دار پر کھینچا
 اور پورے شہر کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ پھر کوہستان کی طرف اطراف شام میں دو شہر تھے
 ایک کا نام عماد اور دوسرے کا نام صیفون تھا جب وہاں گئے سب نے حضرت یوشع ابن
 نون کے پاس آ کر دین موسیٰ قبول کر لیا۔ پھر وہاں سے کوہ اردی اور سلم کی طرف متوجہ ہوئے
 وہاں کے حاکم کا نام بارق تھا یوشع کے وہاں جاتے ہی وہ اور اس کے تابع جتنے تھے
 دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ اور وہاں سے پھر وہ مغرب کی طرف گئے اور وہاں پانچ
 شہر تھے پانچوں شہروں کے بادشاہ حضرت یوشع ابن نون سے لڑنے کو مستعد ہوئے۔ آخر
 خدا کے فضل سے یوشع ابن نون نے ان پر نصرت پائی اور تمام کافر ہزیمت پا کر غاروں میں
 جا گئے۔ لشکر یوشع ابن نون نے وہاں جا کر ان کو واصل جہنم کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو

نکال کر تخت دار پر کھینچا۔ منقول ہے خدا تعالیٰ نے ان کے واسطے ایک شلجہ بھیجا اس شلجہ نے سب کو مار ڈالا۔ تب یوشع ابن نون نے ان پر نصرت و فتح پائی۔ پس حضرت یوشع ابن نون نے سات برس کے اندر بادشاہوں کو مار ڈالا اور تمام ملک فتح کر کے قوم بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور تمام لوگوں پر احکاماتِ تورات جاری کر دیئے اس کے بعد کالوت اپنا خلیفہ اور ولیعہد کر کے ۱۹۱۰ء تک تین ہزار آٹھ سو نوے یا دو سو بیس برس میں انتقال فرمایا کتاب المنتظم میں لکھا ہے کہ ان کی عمر ایک سو اہتر برس کی تھی۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوِبِ

طالوت علیہ السلام

جامع التوازیخ میں کتاب المنتظم سے لکھا ہے کہ طالوت ابن یوقنا اولاد شمعون بن یعقوب سے تھے اور شوہر مریم کے تھے وہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں اور طالوت پیغمبر مرسل تھے بوجہ وصیت حضرت یوشع ابن نون کے آپ نے جمیع مہمات بنی اسرائیل کے اپنے ذمے لیے تھے فراغ امور شملی وغیرہ کے محرب بادشاہ باریق ملک سلم میں گئے تھے اور وہ لوگ دین سے برگشتہ تھے اس کو اس کی بیال کو حبس کیا اور دس ہزار کافروں کو قتل کیا اور جو باقی بچ رہے تھے۔ وہ سب نے سب پہاڑوں میں بھاگ گئے تھے ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ باریق کے ساتھ ستر آدمی صاحب ملک مجبوس تھے۔ اور ان سب کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کر پھینک دی تھیں اور روٹی کو ان کے سامنے توڑ توڑ کر ڈال دیتے تھے وہ شال کتوں کے اوندھے ہو کر منہ سے اٹھا کر کھالیتے تھے اسی طرح ان کو ذلیل و خوار کر کے مصر میں لائے۔ چند روز کے بعد یوسادش نام اپنے بیٹے کو قائم کر کے انتقال فرمایا۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ تقریباً ساٹھ برس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں آئے۔ چالیس برس تک اس تیبہ مذکورہ میں رہے اور ان کے بیس بیس جہاد میں گزرے اس کے بعد مصر اور شام اور ملکوں میں جا کر سکونت اختیار کی اور اب تک ان کی اولاد ان مذکورہ ملکوں میں موجود ہے۔

فقیر عبد اللہ طاہر بنی نقشبندی

شاہ لطیف کالونی ڈانگولاٹن

کوٹلی

حزقیل ابن ثوری علیہ السلام

بعض تفاسیر کے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بذریعہ معجزے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے نام ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذوالکفل رکھا ہے پنا پڑھیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **وَإِذْ كُنَّا نَسُحِبُكَ مِنَ الْجِبْلِ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكُتُبَ وَالْحِجَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ تَدْرِجًا** اور یاد کر اسمعیل کو اور یسع اور ذوالکفل کو اور ہر ایک میری جز پھینپنا نے والوں میں سے تھے اور دراصل حزقیل کو اللہ تعالیٰ نے بنی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے ایک دن قوم بنی اسرائیل کو خدا کے فرمانے سے جہاد میں جانے کا حکم کیا۔ ان لوگوں نے مرنے کے خیال میں جہاد میں جانا قبول نہ کیا اس کی پاداش میں وہ لوگ خدا کے غضب میں وبائی امراض میں مبتلا ہو گئے یعنی طاعون کی بیماری ان میں پھیل گئی اور اس وبائی بیماری سے کثیر تعداد میں مر گئے اور بہت سے لوگ مارے ڈر کے اپنے اپنے گھروں سے نکل بھاگے۔ جب وہ ایک سو کوس پر گئے تو وہاں ایک آواز مہلک ایسی آئی کہ اس آواز سے سب کے سب مر گئے اور بوجہ مردوں کی کثرت سے ان کو شہر میں لاکر دفن نہ کر سکے اور پھر اس کی ترکیب یوں کی کہ چاروں طرف سے ایک دیوار کھینچ کر سب مردوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اور ان کو زمین میں دفن نہ کر سکے اور وہ تمام آفتاب کی گرمی سے سڑ گئے۔ جامع التواریخ میں لکھا ہے اور حضرت ابن عباسؓ نے روایت کیا ہے کہ ڈھیر میں چار ہزار لاشیں تھیں۔ اور صحن بصری نے کہا ہے کہ وہ آٹھ ہزار تھے اور وہ سب ابن مبنہ نے کہا کہ وہ اسی ہزار کی تعداد تھی جو اس وبائی بیماری سے مرے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام سات روز بعد افتکاف سے نکل کر شہر سے باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ صرف ہڈیاں ان سب کی باقی رہ گئی ہیں اور ان کا گوشت پوست سب گل گیا تھا یہ دیکھ کر دل میں رحم آیا جناب کبریا میں عرض کی تو نے میری قوم کو ہلاک کیا۔ تو پھر ان کو زندہ کر۔ نہ آئی اسے حزقیل یہ سب وبا کے ڈر سے شہر سے نکل بھاگے تھے اور انہوں نے میرے قبضہ قدرت کا خیال نہ کیا اس لیے میں نے ان کو مار ڈالا ہے۔ اور پھر تمہاری دعا کرنے سے میں نے ان لوگوں کو زندہ کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **أَلَمْ تَدْرَأِیَ الَّذِیْنَ حَدَّجَدْنَا مِنْ دِجَارِ ھٰھُمْ وَھُمْ أَلْمُؤْمِنُونَ** ترجمہ کیا نہ دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے جو نکلے آتے

عروں سے موت کے ڈر سے اور وہ تھے ہزاروں پس ان لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا مر جاؤ پھر جلا دیا ان کو تحقیق اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ فضل ہے اوپر لوگوں کے دلیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے پھر وہ لوگ جب شہر میں آئے کہتے ہیں کہ ان سب کے بدن سے اور ان کی نسل کے بدن سے جوب پسینہ نکلتا تو اس میں مروے کی بو آتی تھی اور پھر وہ اپنی اپنی میراث پر جا بیٹھے اور کبھی تو متابعت اور کبھی مخالفت حضرت خزقیل کی کرتے تھے اور انہوں نے رفتہ رفتہ دین موسیٰ چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی اور حضرت خزقیل یہاں سے ہجرت کر کے دیار شام زمین بابل میں جا لیے اور وہیں انتقال فرمایا اور درمیان وصلہ اور کوفہ کے مدفون ہوئے۔

الیاس ابن یاسین

قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: اِنَّ اِلٰهًا لَّمْ يَمُنْ اَنْهٗ سَلٰتٌ ۙ ترجمہ بیشک الیاس ہے ہمارے رسولوں سے روایت ہے کہ بعد خزقیل علیہ السلام کے ایک مدت تک قوم بنی اسرائیل میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا کہ ان کو وعظ نصیحت امر و نہی سنائے اور ہدایت کرے۔ چنانچہ یہ قوم متفرق ہو کر ملک شام و مصر اور دیگر ملکوں میں جا لیسے اگرچہ بعض علماء عصر ان کو حضرت موسیٰ کے دین کی تحریص و ترغیب دیتے تھے اور ان کو سیدھے راستے کی تلقین بھی کرتے تھے مگر اس قوم پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ بت پرستی اور زنا کاری اور فعل شنیعہ اختیار کر لیے اور بہت تھوڑی قوم حضرت موسیٰ کے دین پر رہ گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا ملک شام میں اس نے ایک بت تراش کر اس کا نام بعل رکھا تھا اور تمام لوگ اس کو ہر روز پوجتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی پوجنے کو کہتے تھے اور حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پوجنے سے مخلوق خدا کو منع کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: - وَاذْقَانِ لِقَوْمِهِمْ اَلًا تَتَّقُوْنَ اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَتَنْسُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ۙ ترجمہ: جب کہا حضرت الیاس نے اپنی قوم کو کہ کیا تم کو ڈر نہیں کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور چھوڑتے ہو بہتر

انہوں نے والے کو جو اللہ ہے رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا اسے
لوگوں جبار و خالق مالک کو چھوڑ کر بت پرستی کرنا یہ کام بنی کا نہیں۔ پھر بت پرستوں
نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی اور برابر تکذیب کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فِئْتَانًا مِمَّنْ حَمَزُوتٍ - من جنس - پس جھٹلایا اس کو پس الیاس
حاضر کیے جا میں گئے قیامت کے دن۔ روایت ہے کہ حضرت الیاس حضرت ہارون
کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر بعلبک میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو
بعل کے پوجنے سے منع کریں اور بعضوں نے کہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت
تھی اور اس کا نام بعل تھا۔ اس کی ایسی صورت تھی کہ بتان اذرتزدیک اس کے !
- رخصارہ ماہ قریب کے محض سنگ تھے۔ اسی کو پوجا کرتے تھے اور یہ دیکھ کر حضرت
الیاس وہاں کے لوگوں کو اس کے پوجنے سے ہر وقت منع فرماتے تھے اور لوگوں کو
اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرتے تھے۔ پس کچھ روز بعد وہاں کے وہ بادشاہ ایمان
لے آیا۔ اور اس نے حضرت الیاس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اور پھر انکی بہت ہی قدر منزلت
کرتا تھا۔ پھر چند روز کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ راہ ضلالت اختیار کر لی اور
اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی شروع کر دی یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے
اس سے خفا ہو کر ان پر قحط کی بددعا کی۔ جس کے نتیجہ میں تین برس تک اس جگہ پر پانی
نہیں برس سارے ملک میں قحط نازل ہو گیا اور کھانا اور جانوروں کو خوراک نہ ملنے کی وجہ
سے آدمی اور جانور سب کے سب مرنے لگے مگر لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط سالی جو ہم
پر نازل ہوئی ہے وہ حضرت الیاس کی بددعا سے ہوئی ہے لہذا اس کو جہاں بھی پاؤ
قورامارڈالو۔ اور ادھر حضرت الیاس ایک بڑھیا کے مکان میں پئے گئے اس لیے کہ وہ
بڑھیا حضرت الیاس کی مقعدہ تھی اور اس کا عرف ایک بیٹا تھا اور اس کا نام البع
تھا اس کو حضرت الیاس کی خدمت میں دے دیا اور حضرت الیاس اس لڑکے کو دے کر
شہر شہر پھرتے رہے۔ بعد تین برس کے اس بادشاہ صیغور سے کہا کہ آج تین برس
سے تم پر قحط اور تکلیف مسلط ہے لہذا تم کو لازم ہے کہ تم مجھے پوجتے ہو اس سے نکل
کہ وہ تم کو پانی دے اور اس بلا سے قحط سے تم کو نجات دے اگر اس سے نہ ہو تو خالق
ارض و سما کو پوجو اور اسی پر ایمان لاؤ تو ضرورتاً تم کو اس بلا سے نجات دیوے گا پس حضرت

الیاس کے کہنے سے انہوں نے اسی وقت اپنی بت معبود سے جا کر نجات مانگی اس سے ان کو کچھ جواب نہ ملا۔ پس انہوں نے حضرت الیاس سے آکر عرض کی کہ آپ ہمارے واسطے دعا کریں کہ ہم اس بلا سے جلدی خلاصی پاویں۔ تب آپ پر ایمان لے آویں گے۔ یہ سنا کر حضرت الیاس نے خدا کی درگاہ میں ان کے لیے دعا مانگی تو ان کی فرمائش کرنے پر اسی شب پانی برسنا تو کھاری گھاٹس غلہ زمین سے اُگنے لگا قحط جاتا رہا پھر بھی وہ جھٹلاتے رہے اور ایمان نہ لائے۔ گمراہی میں بعل کو پوجتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب ان کے لیے دعا کی تب خدا کی طرف سے ۷۰ نازل ہوئی اے الیاس تیری دعا سے میرے بند سے اس قحط میں بہت بارے گئے۔ تو پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی الہی تو نے میری دعا سے ان پر قحط نازل کیا۔ اب میری دعا سے پھر سب کے واسطے بھلائی کر۔ عرض جب حضرت الیاس نے دیکھا کہ کافروں نے آخرت پرستی نہ چھوڑی تب ایسح کو اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنا کر اس قوم سے علیحدہ نکل گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دم صورت تک دی اور ان کو بحر و بر میں رہنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسح کو نبی کیا آپ نے سب سے پہلے خداوند قدوس کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور صحیح راہ کی ہدایت فرمائی لیکن اس قوم نے ان کو بھی نہ مانا اور برابر جھٹلایا آخر وہ ساری قوم مرد و ہی رہی۔ پھر چند روز کے بعد حضرت ایسح نے انتقال فرمایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ بعد حضرت ایسح علیہ السلام کے سات سو برس تک کوئی نبی ان پر مبعوث نہ ہوا۔ صرف علماء و فضلاء تھے وہی خدا کی راہ بتاتے رہے مگر ان کی بات کوئی نہ سنتا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔

حضرت حنظلہ علیہ السلام

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے خالق ارض و سما کو پوجیں اور بت پرستی چھوڑ دیں یہ حکم پاتے ہی حضرت حنظلہ ہر روز شہر کے چاروں طرف دروازوں پر جا کر قوم بنی اسرائیل کو پکار پکار کر کہتے کہ اے لوگو! خداوند قدوس کو واحد جانو اور اس کی پوجو اور اسی کو اپنا معبود حقیقی مانو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ اے قوم یہ شیطان نے تم کو گمراہ کیا ہے۔ اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے

ڈرتے رہو اور حقیقت میں وہی تمہارا رب ہے یہ سنکر اس قوم بنی اسرائیل نے کہا جو
 مگر اسی بہت ہی بڑھ گئے تھے اے حضرت حنظلہ تمہارا یہی رب ہے جو ہم پوجتے ہیں
 حضرت حنظلہ نے ان سے کہا کہ اے تمہارے باپ دادا سے بتوں کو ہمیں پوجتے تھے
 پھر تم کیوں پوجتے ہو کیا تم کو شرم نہیں آتی خدا سے نہیں ڈرتے ہو تم پر ضرور عذاب نازل
 ہو گا جیسا کہ تمہارے آگے نافرمان لوگوں پر بلائیں اور عذاب نازل ہوا تھا اور تم لوگ
 عذاب خدا برداشت نہیں کر سکو گے ہر چند ان کو ہر طرح خوب یاد دلایا لیکن وہ ہرگز
 ایمان نہ لائے اور برابر تکذیب کرتے رہے بلکہ حضرت حنظلہ کو مار ڈالنے کے لیے مستعد
 ہو گئے اور اس شہر کا بادشاہ جس کا نام طیفور ابن طیفانوس تھا وہ بارہ ہزار اپنے غلام اور
 اور اپنے ساتھ نرانے بید رکھتا تھا اور لشکر بھی اس کا پیشوا تھا۔ اس مردود نے حکم کیا کہ
 کہ تم لوگ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو کپڑے مار ڈالو۔ اور ادھر حضرت حنظلہ علیہ السلام رات
 و دن بام قصر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت لپکار لپکار کر لوگوں کو دیتے تھے اور ان لوگوں
 کو راہ حق بتاتے تھے یہاں تک وہ تبلیغ پر اس قدر بڑھ چکے تھے کہ قوم بنی اسرائیل
 رات و دن آرام نہیں کر سکتی تھی اور نہ وہ صحیح طور پر سو سکتے تھے۔ ایک رات آپ نے
 کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل تم سب بت پرستی چھوڑ دو ورنہ کل تم پر خدا کا عذاب نازل
 ہو گا اور تم پر مرگِ مفاعیات آجاوے گی پس وہ لوگ چونکہ اپنی موت سے بے خبر تھے
 وہ نہیں جانتے تھے کہ موت کیسی ہے کیوں کہ اس قوم میں سات سو برس تک کوئی بھی ان
 میں سے نہ مرا تھا اس لیے وہ حضرت حنظلہ کی بات پر یقین نہ کرتے تھے جب ان پر غضب
 الہی نازل ہوا یعنی ان پر عذاب الہی آیا تو پیر کا وقت تھا اور اس وقت ہر آدمی اپنے
 اپنے کاروبار میں مشغول تھا کسی کو کوئی گمان بھی نہ تھا کہ عذاب الہی آج آہی جائے گا
 اس عذاب الہی سے ہزاروں آدمی واصل جہنم ہوئے اور جو لوگ باقی بچے وہ اپنے
 بادشاہ کے پاس جا کر سوختہ دل ہو کر کہنے لگے۔ اے جہاں پناہ آج مرگِ مفاعیات
 سے بیشمار لوگ ہماری قوم کے مر گئے۔ طیفور عقل کے مجبور نے ان سے کہا کہ یہ مرگ
 مفاعیات نہیں ہے۔ بلکہ تم حنظلہ کے شور و غل سے رات و دن سونے نہیں پاتے ہو
 یعنی کثرتِ بیداری سے گرمی نے غلبہ کیا یہ موتِ ہیوشی کا عالم ہے وہ سب مرے نہیں
 ہیں اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو ان کو سیخ چھو کے دیکھو وہ اپنے آپ سے اٹھ بیٹھیں گے

پس طیفور مردود کے کہنے سے ان گمراہوں نے ویسا ہی کیا لیکن ان میں کچھ حس و حرکت نہ ملی پھر بادشاہ طیفور سے جا کر کہا کہ آپ نے جو کہا تھا سو ہم نے کر دیکھا لیکن ان میں کچھ حس و حرکت نہ ملی۔ بادشاہ طیفور بے شعور نے ان لوگوں سے کہا کہ پیچھے رہو وہ مردے ہوں گے۔ پھر اس بادشاہ طیفور مردود نے ایک ایسا بلند خانہ بنوایا کہ بارہ ہزار برج اس میں تھے۔ اور پھر حکم کیا کہ ہر برج میں ایک غلام آذرہ پوش ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر متعین رہے کیوں کہ موت اس قدر پر آنے نہ پاوے اور اگر موت آئے تو اس کو مارے تلواروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور دروازے گنبد کے بند کر دو اور درمیان ان گنبدوں کے ایک کوٹھری لوہے کی بنوائی اور پھر اس میں سنگ مر مر لگایا اور اس میں ایک شاہی تخت اور ہر قسم کی نعمتیں اس میں رکھ دیں اور شمع بھی اس میں روشن کی پھر اس کے بعد وہ بادشاہ مردود اس تخت پر جا بیٹھا اور کہنے لگا اے موت اب تو میرا کیا کر سکتی ہے تو اس میں لوہے کی کوٹھری کے اندر کس طرح آسکتی ہے اب تو اس کے دروازے بھی بند ہیں وہ اسی گھنڈ میں تھا کہ اپنا تک ایک مرد بڑا ہی ہیبت والا اس گنبد کے درمیان جہاں وہ بادشاہ مردود بیٹھا تھا اس نے اس جگہ کھڑا ہوا دیکھا۔ مارے ڈر کے ایک دم چونک پڑا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی اس کی جان نفس عنقریب سے پرواز کر جائے گی۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو۔ یہاں کس طرح آئے ہو اس نے کہا میں عزرائیل ہوں۔ طیفور بادشاہ نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو۔ وہ بوسے کہ میں تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ بادشاہ طیفور بولا آج تو مجھ کو مہلت دو کل جو چاہو سو کرنا تب ملک الموت پہلے گئے چونکہ زندگی بادشاہ طیفور کی ایک دن اور باقی تھی۔ پس ملک الموت کے جانے کے بعد وہ مردود وہاں سے نکل کر ان غلاموں کو جو گردا گرد ان برجوں میں چوکیدار تھے مارنے لگا کہ کیوں تم نے عزرائیل کو یہاں آنے دیا وہیں کیوں نہیں مار ڈالا۔ انہوں نے کہا اے جہاں پناہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح آیا اس کے بعد بادشاہ طیفور اس گنبد میں جا کر گیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک سوراخ ہے وہ سمجھا کہ عزرائیل کی آداسی سوراخ سے ہوتی ہے لہذا وہ اس سوراخ کو بند کرنے لگ گیا اور جب وہ بند ہو گیا تو پھر وہ بہت ہی بے پرواہ ہو گیا۔ پھر اسی تخت پر جا بیٹھا اور وہ اس قسم سے بنوایا تھا کہ دیکھنے والا یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا دروازہ کہاں سے ہے۔ تصویریں دیکھنا بعد جب اس

نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عزرائیلؑ اسی جگہ گنبد کے اندر موجود ہیں جہاں کل دیکھا تھا پوچھا کہ تم کس راہ سے آئے ہو۔ یہ بات سن کر انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ فوراً جگر میں ہاتھ ڈال کر جان اس مردود کی اور اس کے ساتھ بارہ ہزار غلاموں کی جو اس کی حفاظت میں گرداگرد چوکپدار تھے ایک ہی پل میں قبض کر لی پھر نہ وہ قصر رہا اور نہ وہ گنبد نہ مالک رہا اور نہ وہ چشم نہ صیغہ نہ کبیر سب کے سب جہنم رسید ہو گئے اور پانی دریا چٹنے کا سکھا دیا۔ باقی جو قوم بچی تھی وہ یہ دیکھ کر بہت ہی متوجہ ہوئی اور بہت ہی حیرت زدہ ہو گئی نہ تو مالک رہا اور نہ اس کا چشم اور نہ پانی سب کا سب ویران ہو گیا پس جو باقی بچے تھے ان لوگوں سے حضرت حنظلہ نے کہا اگر تم خدا پر ایمان لاؤ گے اور میری رسالت کا اقرار کرو گے تب تو تم اس عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہو ورنہ کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے حضرت حنظلہ سے کہا کہ یہ سب بلائیں اور مصیبتیں تمہاری بدخواہی و شومی سے ہم پر نازل ہوئیں میں اگر تم ہم میں نہ سوتے تو یہ مصیبتیں ہم پر کبھی نہ آتیں یہ کہہ کر وہ حضرت حنظلہ پر دست درازی کرنا چاہتے تھے کہ اتفاق سے حضرت حنظلہ علیہ السلام ان کے بیچ سے نکل گئے اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک سانپ ایسا ان کے واسطے بھیجا کہ اس شہر کا طول و عرض چھتیس کو س کا تھا اس سانپ نے کیبا رگی چاروں طرف اس کے واسطے کر لیا اور شہر کو دبانا شروع کیا تاکہ مقامات ان پر تنگ ہو جائیں اور چیموں سے دھواں نکلا اور اس دھواں سے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے اور پھر اس کے کچھ روز بعد حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی اور جو نعمتیں بنی اسرائیل نے شام کے علاقہ سے پائی تھیں وہ سب اپنے صرف میں لائے اور علاقہ کے لوگ یہاں سے ہزیمت پا کر زمین مغرب میں جا رہے پھر ایک مدت مدید کے بعد قصد کیا اور اپنے دل میں خیال کیا کہ چلو بنی اسرائیل سے جا کر اپنی مملکت اور نعمتیں چھین لیں اور ہم لوگ کب تک اس ملک میں رہیں گے اور اسی طرح دکھ اٹھاتے رہیں گے چلو سب ملک شام میں اپنے باپ دادا کی میراث پر بیٹھیں اور اپنا دخل کریں اور یہ بہتر ہے اس زندگی سے کہ ان سے لڑ بھڑ کر مر جائیں۔ پس علاقہ قوم اس تمیز میں تھی اور قوم بنی اسرائیل اس سے غافل تھی۔ تمام دن مشق و مجاہد میں مستغرق رہتے اور اپنی بدبختی کے مارے اللہ تعالیٰ نے بھی ان میں سے پیغمبری اور بادشاہی

نو پھین لیا تب یہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ قوم عمالقمہ نے آکر ان سے لڑائی کی اور
 اس تابوت سکینہ اور مال و دولت کو ان سے پھین کر زمین مغرب میں لے گئے اور وہی
 تابوت سکینہ ایک سبب تھا ان کے اقبال بلند کی جا۔ اب ان میں نہ بادشاہی رہی کہ آرام
 سے کھاویں اور نہ اب کوئی پیغمبر رہا کہ اس کی دعا سے مقہور ہو ویں سب کے سب
 عزیز و عاجز ہو گئے اور یہاں تک کہ ان کے درمیان میں کوئی عالم و فاضل بھی نہ رہا کہ
 ان کو ہدایت کریں اور ان کو شریعت سکھائے تب گمراہ ہو گئے اور تابوت سکینہ
 جو عمالقمہ قوم نے پھین لیا تھا وہ درحقیقت آسپنی تھا اس میں قفل مضبوط لگے تھے ایک
 روایت میں ہے کہ تابوت کاسر مثل بلی رے سر کے تھا جس کے تین حاجت ہوتی تو وہ
 تابوت سکینہ کے چاروں طرف پھر کے دعا مانگتا تو وہ دعا خداوند قدوس فوراً اس کی
 پوری کر دیتا اور کسی دشمن سے لڑائی کا موقع ہوتا تو اس تابوت کو سامنے رکھتے تھے
 اور اس سے ایک آواز نکلتی مثل آواز بلی کے اور اسی آواز سے دشمنوں کے دل
 میں بیدت طاری ہو جاتی تھی اور وہ سب بھاگ جاتے تھے اور مومن لوگ اس کی
 برکت سے فیتاب ہوتے تھے اور ہر طرح کا آسائش و آرام ملتا تھا مگر اس تابوت کے
 اندر کیا چیز تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قَوْلَ تَعَالَى وَتَمَّان
 لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰیٰتِہٖ مُّکِیْمٌ اَنْ یَّاتِیَکُمْ التَّابُوتُ الّٰحِیۃُ تَرْجَمُ وَاُرْکَبُہَا اِن
 کو ان کے نبی نے نشان ان کی سلطنت کا یہ ہے کہ آدے تم کو ایک صندوق جس میں
 دلچسپی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور باقی اس چیز سے کہ چھوڑ گئی ہے موسیٰ و
 ہارون کی اولاد۔ اٹھا لادیں گے اس کو فرشتے اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر یقین
 رکھے ہو۔ جبر ہے کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت ہارون کا اعمامہ
 تھا۔ اور وہ تبرجین جو آسمان سے ان کی قوم کے لئے میدان تیبہ میں اترتی تھی جس کا تذکرہ
 اوپر ہو چکا ہے اور دو تختیاں توریت کی شکستہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تریب
 پر مار کر توڑ دی تھیں وہ بھی اسی تابوت کے اندر تھیں یہ حالات تام کتاب قصص النبیا
 میں ہیں اور انہوں نے توریت سے نقل کئے ہیں بعض تفسیر میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل
 میں ایک صندوق چلا آتا تھا اس میں تبرکات تھے۔ موسیٰ اور ہارون کو جنگ حبیبیش
 آتی اس کو سردار کے آگے لے چلتے اور پھر جملہ چیزیں لے کر آتے تو اس وقت اس کو اپنے

۴ گے دھر لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب بنی اسرائیل بنیت ہو گئے تو وہ صندوق ان سے چھین لیا گیا اور وہ غنیم کے ہاتھ لگا۔ اب جو طاقت بادشاہ ہوا وہ صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے آ موجود ہو۔ سبب اس کا یہ تھا کہ غنیم کے شہر میں جہاں اس کو رکھا تھا ان پر بلائیں نازل ہوئیں شہر و یہ ان ہو ہو گیا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص غریب میکین تھا اس کی دو بیویاں تھیں ایک نے لڑکا جننا اور دوسری نے نہیں جننا۔ لڑکے والی نے اس سے کہا کہ تم نے ایک لڑکا بھی نہ جننا اس نے کہا کہ اسے بی بی اللہ تعالیٰ کسی کو بے مانگے فرزند دیتا ہے اور کسی کو مانگنے سے نہیں دیتا اور میں تو اس کی درگاہ سے امیدوار ہوں کہ تم کو بے مانگے اس نے لڑکا دیا مجھ کو بھی دے گا۔ پس دیکھو کہ اس نے تمام شب خدا کی عبادت کی اور اپنا سر سجدہ میں رکھ کر دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ایک فرزند اس کو عنایت کر دیا اور پھر اس کی والدہ نے اس فرزند کا نام شموئیل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے اور تقریباً چالیس برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نبوت سے سرفراز کیا تاکہ وہ مخلوق خدا کو راہ حق دکھائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کریں تاکہ دنیا سے گمراہ لوگوں کا خاتمہ ہو۔

حضرت شموئیل علیہ السلام

تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے نبوت خداوندی سے سرفراز ہونے کے بعد موجودہ لوگوں کو خدا کی دعوت دی تو اکثر لوگ قوم بنی اسرائیل کے ان پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ جو تابوت سکینہ ہم سے معاملتہ چھین لے گئے ہیں سو وہ ان سے لانا ہے اگرچہ ان سے ہم کو لڑنا ہی کیوں نہ پڑے پھر سب لوگوں سے یہ عہد و پیمانہ کیا اور جو کافر باقی تھے۔ انہوں نے اس تابوت کو آگ پر لے جا کر رکھ دیا۔ لیکن خدا کے فضل سے اس کو آگ جلا نہ سکی۔ پھر انہوں نے اس کو توڑنا چاہا لیکن وہ اس کو توڑ بھی نہ سکے آخر مجبور ہو کر کہنے لگے کہ بھائی یہ تابوت تو بنی اسرائیل کے خدا کا ہے اسی واسطے تو ہمیں ٹوٹتا ہے اور نہ وہ آگ میں جلتا ہے پھر ان لوگوں نے اس تابوت کو ناپاک جگہیں لے جا کر رکھ دیا تاکہ لوگ اس پر بول و دہرا

کریں۔ چنانچہ جو مرد وہ بھی اس پر اپنا بول کرنا تو اس کے ناسور ہو جاتا اور بوا سیر کا مرض پیدا ہو جاتا اور وہ کسی طرح اچھا نہ ہوتا آخر کار وہ مرد وہی مرض میں مبتلا رہ کر مر جاتا۔ پھر انہوں نے اس تابلوت کو بت مانے میں لے جا کر اپنے بتوں کے نیچے دبا رکھا۔ لیکن وہ اس کو بھی دیاں چھپانہ سکے۔ بہر صورت وہ سب مرد وہ جب اس سے لاپا را اور پریشان ہو گئے تب اس تابلوت کو دو بیلوں پر لاد کر بیلوں کو بانگ دیا اور اسی وقت فرشتوں نے اس تابلوت کو اور دونوں بیلوں کو طالوت کے گھر پہنچا دیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ طالوت کی عداوت

ایک روایت میں ہے کہ جب طالوت نے جالوت کی لڑائی پر فتح پائی تو قوم بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ جالوت کو جو مارے گا اس کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی سے شادی کرونگا۔ لہذا اب اپنا وعدہ پورا کرو یعنی حضرت داؤد کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی بیاہ دو یہ سن کر طالوت نے کہا کہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور اس داؤد کا رنگ زرد ہے اور کبود چشم بھی ہے اس لیے میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اور جب حضرت داؤد کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی انکار کیا اور یہ کہنے لگے کہ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو میں بھی اس کے یہاں شادی نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ بالآخر طالوت نے اپنی بیٹی کو حضرت داؤد سے بیاہ دیا۔ اور اپنی نصف سلطنت بھی دیدی اس کے بعد جب طالوت نے دیکھا کہ لشکری لوگ حضرت داؤد سے بہت موافقت رکھتے ہیں تو اس نے اپنے دل میں خوف کیا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ میری سب سلطنت کو چھین لے یہ خیال ہوتے ہی طالوت نے حضرت داؤد کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ اور حضرت داؤد ایک پہاڑ کے کنارے جا کر اور وہاں ایک مسجد بنا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور تقریباً ان کے ساتھ ستر آدمی عابد تھے اور وہ سب کے سب اس مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے طالوت سے کہا کہ داؤد کے ساتھ بہت ہی عابد جمع ہو گئے ہیں اگر وہ سب کے سب بد دعا کریں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے اور ہماری سلطنت بھی چھوٹ جائے گی۔ طالوت نے جب یہ سنا تو بہت لشکر اپنے ساتھ لے کر داؤد کے پاس

کو اس پنہار کے نزدیک گیا جہاں اس کی عبادت گاہ تھی۔ رات کے وقت من کو بیا گھرا اور ننگلی تلوار ہاتھ میں لے کر چاہا کہ مسجد کے اندر گھس کر جمعہ تمام عابدوں کے حضرت داؤد علیہ السلام کو مار ڈالے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ ان کو خواب نے غلبہ کیا آخر طالوت بنہ لشکر سب سو گئے اور حبیب وہ طالوت مع اپنے لشکر کے سو گیا تو اسی وقت حضرت داؤد مسجد سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ طالوت تو جمعہ اپنے لشکر کے سو گیا۔ تب ننگلی تلوار اس کے ہاتھ سے لے کر پتھر پر ماری اور پتھر کو دو ٹکڑے کر کے اس کے پیٹ پر تلوار اور وہ پتھر بھی اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر رکھ دیا اور جو چرانج حل رہا تھا وہ بھی بچھا دیا اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھا تھا۔ اسے طالوت یہ تیری تلوار میں نے پتھر پر ماری اور پتھر کے دو ٹکڑے کر دیئے اگر تیرے پیٹ پر مارتا تو تیرے پیٹ کے بھی دو ٹکڑے کر ڈالتا اور پتھر تجھ کو خبر نہ ہوتی کوئی بھی تیری فریاد کو نہ پہنچتا۔ پس بہتری تیری اس میں ہے کہ تو اٹھ کر یہاں سے چلا جا اور ان عابدوں کے مارے جانے کا ارادہ بالکل ترک کر دے ورنہ آخرت میں بھی تو گنہگار ہو گا جب روز روشن ہوا اور طالوت اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ اپنی تلوار اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اور دو پتھر پیٹ پر رکھے ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً اپنی ان سو کر بیت المقدس میں چلا گیا۔ اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام جمعہ اپنے تمام عابدوں کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے پھر کچھ روز بعد طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پیچھے چند سپاہی بھیجے کہ تم جا کر داؤد کو جمعہ اس کی جماعت کے شہ خون کر کے مار ڈالو۔ تب وہ مردود حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھی عابدوں کے مارنے کے واسطے گئے۔ اتفاقاً اس شب کو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے تھے اور ان کی جماعت کے عابد لوگ مسجد کے اندر ہی تھے ان لوگوں نے مسجد کے اندر جا کر تمام عابدوں کو مار ڈالا جب طالوت کو خبر ہوئی کہ تمام عابد لوگ مارے گئے اور حضرت داؤد چل گئے درحقیقت مطلب اس کا حضرت داؤد سے تھا۔ اور ان عابدوں کے مارے جانے سے وہ بہت لپٹیاں

شے۔ مترجم کے بیان سے آگے معلوم ہوتا ہے کہ طالوت نے اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا اور ان کو نصف سلطنت بھی اپنی نے۔ بعد ازاں طالوت نے حضرت داؤد سے اس کی بیٹی سے نکاح کیا اور پھر تمام سلطنت پر قابض ہوئے اور ہمیشہ عدل و انصاف سے بادشاہی کرتے رہے۔

ہوا اور حضرت داؤد کو بلا بھیجا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بیاہ دے اور اپنی تقصیر کی عذر داری بھی کرے۔ جب اس کے مقاصدوں نے حضرت داؤد سے جا کر کہا کہ آپ کو طالوت بادشاہ بنانا ہے آپ ہمارے ہمراہ چلیے وہ آپ سے اپنی تقصیر کی معافی چاہتا ہے حضرت داؤد نے اس بات کو سن کر ان سے کہا کہ طالوت نے گناہ کبیرہ کیا ہے کیوں کہ اس نے بے گناہ مسلمان عابدوں کو مار ڈالا ہے اور اس نے تو میرے بھی مار ڈالنے کا قصد کیا تھا جب تک وہ لڑائی میں نہ ہائے گا اور بعوض ہر عابد کے ایک کافر کو جب تک نہ مارے گا اس وقت تک میں وہاں نہ جاؤں گا پس مقاصدوں نے یہ باتیں اپنے بادشاہ طالوت سے جا کر کہیں۔ بادشاہ طالوت یہ باتیں سن کر اپنے کہ دار پر بہت پشیمان ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حسب فرمان وہ لڑائی کے معرکے میں جا کھڑا ہوا اچانک ایک تیر دشمن کی طرف سے آیا اور اس کے سینے پر ایسا لگا کہ ایشٹ سے نکل گیا۔ پس وہیں اس کی جان نکل گئی اور یہ دیکھ کر اس کا پورا لشکر بزمیت پا کر واپس آ گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خبر پا کر طالوت کے گھر آ کر اس کی بیٹی سے بیاہ کیا اور بادشاہ طالوت کی سلطنت کے مالک ہوئے اور ان کو صبر کی پاداش میں بادشاہی اور پیغمبری ملی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَاٰتَيْنَاكَ الْوَسْطَانَ وَابْنَهُ الْوَسْطَانَ** اور ترجمہ اور دی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت یعنی پیغمبری سے نوازنا

حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت

ایہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب کی اولاد میں سے ہے۔ جب تخت پر بیٹھے اس کے چالیس برس بعد ان کو پیغمبری ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِذْ كُنَّا نَبِيًّا دَاوُدَ إِذْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرَأْتُ لَكُمْ هَذِهِ الْقَوْمَ لَأَيُّدُونَ** اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے فرمایا۔ **وَسَدَّ نَارَ الْمَلِكِ** ترجمہ اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا۔ اور اللہ رب العزت

نے ان کو زمین کا خلیفہ بنا یا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ** ترجمہ اے داؤد تحقیق ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں پس تو حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کر اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تجھ کو گمراہ کر دیوے گی خدا کی راہ سے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا خوش آواز کیا تھا یعنی جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تھے تو ان کی خوش الحانی سے بہتا پانی بھی قلم بناتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانی کتاب زبور کو بہتر طرح کے الحان سے پڑھ سکتے تھے۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے وحوش پرند و طیور و پرندہ جمع جانور ہوا پر اور زمین پر کھڑا ہو کر سنتے تھے اور پھر سنکر بیہوش ہو جاتے تھے۔ اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھیں اور پتھر موم کی مانند ہو جاتے تھے اور بڑے بڑے پہاڑ جھنڈ میں آجاتے تھے اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بیسج پڑھا کرتے تھے جیسا کہ خداوند قدوس نے ارشاد **يَا أَيُّهَا دَاوُدُ عَلَيْنَا السَّلَامُ** ترجمہ: اے پہاڑ والے جانور و رجوع سے پڑھو اور بیسج کرو اور اسی کے ساتھ کتاب زبور کی بھی پڑھا کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر البام سے وہ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ بعض کتب تواریخ سے معلوم ہوتا ہے بلکہ مترجم نے اپنے مطالعہ خاص میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ توریت اور زبور میں زیادہ تر مسائل امر و نہی وعدہ و وعید کے ہیں اور طریقہ عبارت کے کم مذکور ہیں، اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً چالیس فرسنگ تک پہنچتی تھی اس آواز سے کافر لوگ بیہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ درحقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **ذَلَّلْنَا لَهُنَّ الْحَدِيدَ** ترجمہ اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے نرم ہو جاتا تھا اور بغیر کسی آگ و دھبھار اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرہ بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے اور دیگر لوگ آگ میں پتا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی زرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ **وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ**۔ ترجمہ اور سکھائی ہم نے کارگیری اور بنایا

ایک قسم کا پبناؤ تہارتا کر بچاؤ سے تم کو لڑائی سے اور ایک ندرہ اس وقت پچار سو
درہم میں فروخت ہوتی تھی اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ دو سو درہم درویشوں محتاجوں
کو دیتے تھے اور ایک سو درہم اپنے خویش و اقارب کو دیتے اور ایک سو درہم اپنی
عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے اور اپنے جملہ اوقات کو بھی تین طرح پر تقسیم
کیا تھا اور وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور چند روز
لوگوں کا انصاف کرتے تھے اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے یہ ان کی
زندگی کا معمول بن چکا تھا

حضرت داؤد علیہ السلام کا بلا میں مبتلا ہونے کا واقعہ

روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بلا میں مبتلا ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک
روز کتاب صحیفہ پیشین پڑھتے تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت
یعقوب علیہم السلام کی بزرگی بیان بکھاپایا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ان حضرات نے
خداوند قدوس کے کیا کام کیے تھے جو یہ مرتبے اور بزرگیاں پائیں۔ اسی وقت دربار الہی
سے خطاب آیا۔ اے داؤدان پر میں نے مختلف قسم کی بلائیں نازل کیں اور وہ اس میں
ثابت قدم رہے اسی وجہ سے ان کو مرتبہ و بزرگی میری طرف سے عنایت کی گئی۔ پس
حضرت داؤد نے خدا تعالیٰ کی حضوری میں درخواست کی کہ الہی توہم کو بھی کسی بلا میں
مبتلا کر انشاء اللہ میں بھی صبر کروں گا اور ثابت قدم رہوں گا تاکہ اس کے صلہ میں مجھ کو بزرگی
ملے اور میں خدا کے پیمانے سے مرتبہ پاؤں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہ طاہرت کی سلطنت ملی اور قوم بنی اسرائیل پر
بادشاہ مقرر ہوئے تو مارے خوشی کے انہوں نے یہ اعلان کیا میں اللہ کی قسم اچھی طرح
سے عدالت کروں گا۔ اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کروں گا۔ لیکن یہ کہتے وقت انشاء اللہ
بھول گئے اور اس لفظ کو اپنی زبان سے نہ کہا اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے
کہ اتمام پر دعا کی کہ اے پروردگار تو گنہگاروں پر رحم فرما اور اپنے کو گناہ سے پاک تصور
کیا اور اس بات پر اتر آویں نے اختلاف کیا ہے حاصل کلام صرف یہ ہے کہ ایک
روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکر کہا اے داؤد خدا نے تم کو صحت اور عافیت سے

رکھا ہے اور تم اپنی خواہش سے طلب کرتے ہو۔ اچھا اگر تمہاری تمنا یہی ہے تو وہ بالکل دن قریب ہے کہ ایک روز تم پر کوئی بلا نازل ہو گئی۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ روز موعود کو دو شنبے کے دن سترویں تاریخ ماہ رجب کی آچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کے مانند اور بدن اس کا سونے کے رنگ کے مانند اور ہر پر اس کا رنگ برنگ مثل جواہر کا تھا اور ناصن اور چوہنچ مثل یاقوت سرخ کے اور اس کی آنکھیں مانند زرد کے اور پاؤں اس کے مانند فزوزے کے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عبادت گاہ اپنے گھر میں تھی اس میں ایک طاق بھی تھا۔ یہ پرندہ اسی طاق میں حضرت کے سامنے آکر بیٹھ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا سن و لطافت دیکھ کر خواہش کی کہ اس کو اپنے لڑکوں کے واسطے پکڑیں۔ جب حضرت داؤد نے اس کے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک باغ میں جا بیٹھا حضرت داؤد اس کے پکڑنے کے واسطے وہاں بھی آگئے اور وہاں جا کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باغ کس کا ہے وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد سے عرض کی کہ یہ باغ ایک عورت کا ہے اور اس کا نام بطش ہے یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام ایک بالانانے پر چڑھ کر چاروں طرف بہت دیر تک دیکھتے رہے اور اسی باغ میں بطش عیض تنگی حوض میں اپنے نہاتی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آچانک نظر اس پر جا پڑا ایک روایت سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت داؤد نے اس کو دیکھ کر بہت خواہش کی (واللہ اعلم) اور اوہر بطش کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مجھ پر بہت خواہش رکھتا ہے پس اس نے اپنے بالوں سے اپنا تمام بدن ڈھانپ لیا اور اپنے دل میں ان کے ہنال محبت کو بویا اور راہر حضرت داؤد علیہ السلام نے بالانانے سے اتر کر اس باغ کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ پرندہ کس کا ہے وہاں کے رہنے والوں نے جواب دیا کہ یہ پرندہ بطش عورت کا ہے جو اس باغ کی مالکہ ہے پھر حضرت داؤد نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کا شوہر ہے یا وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتلایا کہ ہاں ایک شخص سے چند روز ہوئے اس کا بیوا ہوا تھا اور اس کا نام اوریہ ہے لیکن اب تک اس سے اس عورت کی بے متری نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اور یا کو بلایا اور بہت ہی پیار و محبت سے کہا کہ تم جہاد میں جاؤ اور بہت روپیہ پیسہ دے کر اس کو جہاد میں جانے کو تیار کیا اور اسی

کو اچھی طرح سے خوش کر دیا اور اس کو مہیا در پر روانہ کر دیا جہاں کی جائے دشوار تھی یعنی
 وہاں جو جاتا پھر وہاں لوٹ کر نہیں آتا پس اوسریا نے وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور پھر فتح
 بھی پائی۔ پھر وہاں سے دوسری جگہ کر اس کا نام ناطقہ تھا وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور !
 در بڑے شہادت پائی۔ اس کے بعد اس لشکر نے جو حضرت داؤد نے روانہ کیا تھا اس ملک کو
 فتح کر کے اور بہت سال غنیمت لے کر حضرت داؤد کو دیا اور حضرت داؤد نے اوسریا کی
 شہادت سن کر ایک برس تک تعزیت کی۔ اس کے بعد اس بطشا عورت کو اپنے نکاح میں لائے
 اور اس کے علاوہ تنانو سے بیویاں ان کے اور تھیں جب حضرت داؤد نے بطشا سے
 نکاح کر لیا تو اب پوری ایک سو بیسیاں سو گئیں۔ ایک روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ
 حضرت سلیمان بطشا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد مخراب میں بیٹھے
 تھے اور خداوند قدوس سے مناجات کر رہے تھے اتفاقاً وہ شخص امینی اس مخراب کی
 دیوار توڑ کر اندر آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد چونک پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اے داؤد
 مت ڈرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ **وَهَلْ اَنْتَكَ بَدْرٌ اَلْخَصْمِ اِذْ تَسُوْ**
رُ وَالْمُحْرَبِ ۗ اِذْ رَخَلُوْا عَلٰی ۙ وَاِذْ اَلَا یَنْبَیْءُ ترجمہ! کیا پہنچی ہے خبر تجھ کو دلوای
 کرنے والوں کی جب وہ دیوار کو توڑ کر اندر آئے تیرے عبادت خانے میں داخل ہو گئے
 یہ دیکھ کر داؤد گھبرایا اور وہ ان سے پوچھے کہ تم مت گھبرائو ہم تو دو جھگڑنے والے
 ہیں۔ اور زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر سو تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان
 انصاف کا اور زیادہ دیر مت کر اور ہم کو سیدھی راہ بھی بتا دے یہ سنتے یہ حضرت
 داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا اپنا احوال بیان کرو۔ پس کہا اس فریادی نے حضرت
 داؤد علیہ السلام سے **قَوْلًا تَعَالَى ۗ اِنَّ هٰذَا اَعْجٰی قَفًا لِّمَا تَسْعٰۤی وَ تَسْعُوْنَ نَعۡیۡۃً**
 یہ جو ہے وہ میرا جتن ہے اس کے پاس ہیں تنانوے دتیاں اور میرے پاس ایک
 دتیا ہے پھر یہ کہتا ہے مجھ سے کہ تم اپنی دتیا بھی میرے حوالے کر دو اور اس بات میں
 مجھ سے زبردستی بھی کرتا ہے یہ بات سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے مخالف
 شخص سے کہا کیوں جو جو کچھ کہتا ہے سچ ہے یا نہیں۔ وہ بولا سچ کہتا ہے قولہ تعالیٰ
قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَتِكَ اِنِّیْ نِعَاجٌ ۙ وَ تَرَجَّحَ لِرُلَا دَاوُدَ ۙ وَ هِیَ الصَّافِی
 ایتا ہے تجھ پر کہ نامگتا ہے تیری دتیا کو اپنی دتیا میں لانے کو۔ پس حضرت داؤد سے

دونوں فرشتوں نے جو کہ آپس میں متخاصمین بن کر آئے تھے جس کو کہا کہ اسے داؤد باوجود تیری تانوسے بیویوں کے اور یا کی بیوی سے حرص کی غرض سے نکاح کیا اور پوری ایک سو عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے۔ یہ درحقیقت ایک مقدمے کی صورت میں پیش کر کے جو ہم آئے ہیں تمہارے پاس یعنی وہی کا معاملہ لے کر مگر یہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہو گئے یہ واقعات جامع التواریخ میں مذکور ہیں اور قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں اور یا ایک شخص تھا اور ایک عورت سے اس کے نکاح کا پیغام تھا اور بہت ممکن تھا کہ اس کا نکاح ہو جائے۔ لیکن اس عورت کے وارثوں کو اور یا سے کچھ خلش تھی اسی واسطے اس عورت کو اور یا کے نکاح میں انہوں نے نہیں دیا تھا پھر اس کے بعد حضرت داؤد نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا لکن ان کی تانوس میں بیبیاں موجود تھیں۔ اگرچہ یہ خلاف شرع تھا لیکن از روئے توریت، زبور کے ایسا ہو سکتا تھا لیکن بطاہر اتنا بھی پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ شاید کوئی اس میں شک و شبہ کرے کہ یہ چیز بھی شان پیغمبری میں درست نہیں ہے یہ درحقیقت جانچ تھی جو ان دو فرشتوں کے ذریعے سے کرائی گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت ہی نادام ہوئے اور اس واقعے سے ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں فرشتے اپنی وہی کا معاملہ لے کر ہم کو نصیحت کرنے آئے تھے پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جملہ تقصیر و خطا سے معترف ہو کر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور چالیس روز تک مسلسل سجدے میں پڑے رہے اور نہ اچھی طرح کھاتے تھے اور نہ اچھی طرح کوئی چیز پیتے تھے اور شب اور روز روایا کرتے تھے اور جس جگہ پر وہ سجدہ ریز تھے ان کے رونے کے آنسوؤں سے اس کے قریب دو جوازیں گھاس پیدا ہو گئی اور وہ بڑھتے بڑھتے سر سے بھی اوپنی ہو گئی۔ تب باری تعالیٰ سے ندا آئی اے داؤد اپنا سر سجدے سے اٹھا اور میں نے تیری جملہ تقصیرات کو مٹا فرمایا۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ اور پھر ایک ایسی آہ ماری کہ اس آہ سے سب گھاس جو ان کے چاروں طرف تھے جل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّهُ فَتَنَتْهُ فَأَسْتَفْضَرْتُ رَبِّيَ الْآيَةَ تَرْجُمًا! اور داؤد نے خیال کیا ہم نے اس کو جانچا اور پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے اور پھر گر پڑا اچھا کر سجدے میں

اور رجوع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف پس ہم نے معاف کیا اس کو وہ کام حضرت جبرائیل نے آکر فرمایا اے داؤد اور سیا کی قبر پر جا کر اس سے اپنی تقصیر کی معافی مانگ تا کہ کل قیامت میں وہ تم سے مواخذہ نہ کرے۔ حضرت داؤد نے حضرت جبرائیل کی اس بات کو سنا کر اس کی قبر پر جا کر پکارا۔ اور سیا تیسری دفعہ اس نے جواب دیا کہ تم کون ہو جو بار بار پکارتے ہو اور مجھے نیند سے جگا دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں داؤد ہوں وہ بولا اے خلیفہ خدا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس وقت حضرت داؤد نے فرمایا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اے حضرت داؤد آپ نے تو مجھ کو جہاد میں بھیجا تھا۔ میں ماں باک کر شہید ہو گیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہشت میں جگہ دی ہے اور اب آرام سے ہوں اور جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہو گا وہ سب میں نے معاف کیا پس حضرت داؤد نے اس سے نوش سو کر اپنے گھر کی راہ لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا اے داؤد خدا نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ پھر تم اور سیا کے پاس جا کر کہو تم کو میں نے جہاد فی سبیل اللہ میں بھیجا تھا۔ محض اپنی نفس کی خواہش سے تو وہاں جا کر شہید ہوا میں نے لبثتا سے نکاح کیا یہ تقصیر مجھ سے ہوئی تو مجھ کو معاف کر لیں بموجب ارشاد جناب باری تعالیٰ کے حضرت داؤد نے اور سیا کی قبر پر جا کر پکارا اس نے جواب دیا اے حضرت داؤد پھر کیوں آپ مجھ کو پکارتے ہو اپنا احوال کیوں انہوں نے لبثتا اس کی عورت کی حقیقت سب بیان کی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ اور سیا نے اس کا جواب کچھ نہ دیا۔ حضرت داؤد بہت گرویدہ ہوئے اور رورور کر کہا اے اور سیا میری تقصیر معاف کر میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تب اس نے کہا اے حضرت داؤد مت رو اس بار سے میں تم کو معاف نہ کروں گا جو تم نے کیا ہے۔ پھر حضرت داؤد نے رورور کر معافی مانگی پھر بھی اس نے معاف نہ کیا۔ تب درگاہِ اہی سے نہ آئی۔ اے داؤد مت رو میں نے تجھ کو معاف کیا۔ حضرت داؤد نے عرض کیا یا الہی اور سیا مجھ کو معاف نہیں کرتا ہے بے تب حکم ہوا اے داؤد حشر کے دن اس کے لیے ایک قصر یا قوت سرخ کا بناؤں گا اور اس میں حوریں بہشت کی رہیں گی۔ اور سیا کو ان پر عاشق و فریفتہ کروں گا۔ تب اس کے بدلے میں وہ تم کو معاف کر دے گا۔ روایت کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بہشت میں ایک مکان پر تکلف جو ہرات سے بنا کر اور یا کو دکھا یا اور

اور پھر اس نے فرمایا کہ حضرت داؤد کو معاف کر تو یہ قصر بہشت تجھ کو دوں گا۔ پس اس وقت وہ یہ قصر اور حوریں دیکھ کر عاشق ہوا اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا کہ اے داؤد میں نے تمہاری خطا معاف کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہو کر اپنے گھر پر آئے۔ ایک دن بنی اسرائیل جمع ہو کر کہنے لگے اے بنی اللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آپ کو تقریباً چالیس روز سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور غم دیدہ ہو کر ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں یہ سن کر حضرت داؤد نے فرمایا اے میرے صاحبو! خدا نے جب مجھ کو خلیفہ کیا اور تم پر بنی بنا کر بھیجا اور مجھ کو منع فرمایا تھا کہ دیکھو تم نفس امارہ کے پیچھے مت پڑنا ورنہ تراب ہو جائے گا۔ پس میں نے اس بات کا خیال نہ کیا اور میں بھول گیا اور اسی بھول میں میں نے امارہ کی پیروی کی تھی۔ یعنی ایک شخص جس کا نام اوسیا تھا میں نے مغلطہ دے کر اس کو جہاد میں بھیجا اور وہ وہاں شہید ہو گیا اور میری متانتی کہ بعد شہید ہونے کے اس کی عورت سے نکاح کروں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ یعنی اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے میں نے نکاح کر لیا۔ اسی پاداش میں خداوند کریم نے مجھ کو چند روز تک اسی بلا میں مبتلا کیا۔ اور اب خدا کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس سے مجھے نجات بخشی ہے اور ایک روایت و سبب ابن منذر سے ہے کہ حضرت داؤد اپنی اس خطا کی وجہ سے تقریباً تیس برس تک رویا کیے اور اس کی کثرت سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے کہ کپڑے تر ہو جاتے تھے اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والے عابد بھی تقریباً چار ہزار کے لگ بھگ تھے وہ بھی رویا کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کی اولاد سے ہیں وہ اپنے والد کی آنکھوں سے آنسو لپٹتے تھے۔ اور ایک روایت حسن بصریؒ سے بھی ہے کہ حضرت داؤد اپنے گناہ کے معاف ہونے کے بعد بھی انتہائی انکساری کی وجہ سے اپنی روٹی پر منگ چھڑک کر کھاتے تھے اور پھر بھی ہر وقت آنسو بہاتے تھے۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی خوراک ہے صاحبِ تقصیر کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کا حال تقریباً ستر برس تک یہی رہا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس میں جا کر زمین پر سر رکھ کر رورہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب باری سے یہ مشردہ لے کر آئے اور پھر کہنے لگے

قَوْلَ تَعَالَى: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَرَاتَ لَعِنْدَنَا لَنْزَلْنَاهُ وَحُسْنَ مَا يَبُذُّ
 ترجمہ پس ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام اور اس کا ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا
 ٹھکانہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن منبر پر چڑھ کر شکر خدا بجالائے اور زبور
 پڑھ کر عرض کی ابھی توبہ تو نے میری قبول فرمائی، اسی وقت عیب سے آواز آئی کہ توبہ تمہاری
 میں نے قبول کی، پھر اسی وقت عرض کی کہ اے رب میں ڈرتا ہوں کہ خطا اپنی بھول جاؤں
 تو میرے بدن پر ایک نشان خطا کا رکھ دے تاکہ اس گناہ سے اپنی تینیں نہ بھولوں اور
 مجھے نشان دیکھنے سے یاد رہے، تب بحسب خواہش اللہ تعالیٰ نے ان کی داہنی ہتھیلی
 پر ایک نشان اس گناہ کا جو مذکور ہے رکھ دیا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اس پر
 نگاہ رکھتے تھے اور اپنی خطا کو ماضی کو نہ بھولتے تھے اور بار بار استغفار پڑھتے رہتے
 تھے اور منبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھتے تھے اور اس بات کو جس پر وہ گناہ کا نشان تھا سب
 کو دکھاتے تھے اور خود اس کو دیکھ کر بہت افسوس کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی زار و قطار
 روتے بھی تھے، اسی وجہ سے خدا کے دربار میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی
 اور کبھی عدل و انصاف کے تحت پر بیٹھے تھے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک
 دن وود بھقانی منیٰ صمیم وادخواہ ان کے پاس آئے ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کی
 بکریوں نے میرا کھیت کھا لیا ہے اور آپ اس کا انصاف کر دیجئے، حضرت داؤد علیہ السلام
 نے ان سے دریافت فرمایا کہ قیمت بکریوں کی اور کھیت کی بتاؤ تب انہوں نے بکریوں
 کی اور کھیت کی قیمت ٹھہرائی تو معلوم ہوا کہ زراعت کی قیمت بکریوں سے زیادہ ہے۔
 حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ زراعت والے کو بکریاں حوالے کر دیں اور بکریوں والا
 حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے روتا ہوا نکل آیا۔ اور اس وقت حضرت داؤد کے
 بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف سات برس کی تھی وہ اپنے دروازے پر بیٹھے
 تھے اس شخص کو روتے دیکھا تو انہوں نے اس شخص سے دریافت کیا کہ بھائی تم کیوں
 روتے ہو، اس نے جواب دیا کہ بھائی حضرت داؤد نے انصاف کر کے میری کل بکریاں
 کھیت والے کو دے دی ہیں، یہ سنا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم ضعیف
 نہ اسے جا کر کہو کہ لے نیلے خدا اگر آپ ہمارے اس مقدمے کو غور کر کے انصاف فرمادیں
 تو پھر اس غریب کے حق میں بہتر ہو گا اس شخص نے بموجب ارشاد حضرت سلیمان علیہ السلام

کے حضرت داؤد سے جا کر کہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنی اور پھر فرمایا کہ یہ بات تم کو کس نے بتلائی۔ وہ بولا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھ کو کہا کہ تم پھر خلیفہ خدا کے پاس جاؤ اور ان سے گزارش کرو کہ میرے مقدمہ پر پھر غور کیا جائے تاکہ غریب کے حق میں کچھ بہتری ہو۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اباجان حضور! اگر اس مقدمہ کو اچھی طرح سے غور کر کے انصاف فرمادیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اس غریب کے حق میں بہتری ہوگی تب حضرت داؤد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ کہو تم اس کا فیصلہ کس طرح کرو گاتب دونوں حضرات نے اس مقدمہ پر نہایت غور و متوجہ کیا اور اس کا فیصلہ یوں چکا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے قولہ تعالیٰ: **وَدَاوُدُ مُسْلِمًا رَازِيًا بِحُكْمِنَا** یعنی اٹھنا نہ ترجمہ: داؤد اور سلیمان کو دی بدایت ہم نے جس وقت وہ حکم کرنے تھے دونوں بیچ کھیتی والوں کے جس وقت کچھ گئیں بیچ اس کے کہہ یاں ایک قوم کی اور روبرو تھا ہمارے ان کا فیصلہ پس سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو اور دونوں کو حکم اور علم تھا۔ بعض تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کبریوں کو دوا دیا کھیتی والوں کو بدلہ ان کے نقصان کا اور اس وقت ان کے دین میں یوں تھا۔ کہ چور کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ اسی کے موافق یہ حکم کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کم سن ہی تھے انہوں نے بھی جھگڑا اپنے پاس منگوا یا اور کہا کھیتی والوں کو کہ کہہ یاں تم ان کی رکھو اور ان کا دودھ پیا اور وہ کھیتی کو پانی دیا کریں کبریوں کے دے جب کھیتی جیسی تھی ویسی ہو جاوے تب ان کی کبریوں واپس کر دیجو اور اپنی کھیتی کو اپنے قبضہ میں کر لینا تاکہ دونوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ حضرت سلیمان نے یہ انصاف کیا اور آئندہ حضرت داؤد علیہ السلام بغیر مشورہ سلیمان کے کوئی بھی حکم لوگوں پر نافذ نہیں کرتے تھے۔

ایک دن یوں ہوا کہ ایک بڑھیا سلیمان کے غائبانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس داد خواہ آئی اور وہ آکر یوں بولی اے خلیفہ خدا میں بڑھیا ہوں اور نہایت ہی ضعیفہ عیالدار بھی ہوں ایک روز اپنے عیال و اطفال

کے لیے دکھ و محنت کر کے اپنے سر پر آنالائی تھی اسی وقت ہوا اتنی تیز چلی کہ میرے سر پر جو آنا تھا وہ سب اڑا لے گئی اور میرے لڑکے بالے بھوکے مرتے ہیں آپ اس کا کچھ انصاف کیجئے اگر ممکن ہو تو اس سے میرا آماد لرا دیجئے، یہ سنکر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا ہو پر میرا حکم نہیں چلتا اور میں کیوں کر ہوا سے تجھ کو آماد لوادوں۔ میں اس کے بدلے میں اپنی طرف آمادیتا ہوں تو اس کرے جا۔ یہ سنکر بڑھیا خوش ہوئی اور آٹا لے کر دعا کرتی ہوئی چلی۔ دروازے پر حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑھیا کو دیکھ کر پوچھا کہ اے بڑھیا ماں تو کیوں آئی تھی فریاد کرنے آئی تھی یا آنا مانگنے کو وہ بولی میں تو فریاد کرنے آئی تھی حضرت داؤد نے انصاف کیا کہ اپنی طرف سے مجھے آماد لوادیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ کیا معاملہ ہے؛ تب اس نے بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا کہ تم جاؤ خلیفہ خدا سے کہو کہ اے نبی اللہ میں تو ہوا سے قصاص چاہتی ہوں آپ سے آنا نہیں مانگتی۔ یہ سنکر بڑھیا پھر واپس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور ان سے جا کر کہا میں تو ہوا سے اپنا قصاص مانگتی ہوں آنا نہیں مانگتی یہ سنکر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا کہ اے بڑھیا تو مجھ سے دس من آٹا لے جا پر ہوا سے انتقام مت چاہ کیونکہ میری حکومت ہوا پر نہیں چلتی کہ میں اس کو پکڑ کر منگو آؤں اور اس سے تیرا انتقام حاصل کروں پھر بڑھیا ناچار ہو کر دس من آٹا لے کر اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام سے رخصت ہو کر دروازے پر چب آئی۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا۔ اے بڑھیا تو کیوں بغیر فیصلہ کے جاتی ہے پھر جا کر خلیفہ خدا سے کہو کہ میں آنا نہیں چاہتی ہوں آپ اس کو پھر لیجئے اور میرا خدا کو فیصلہ کر دیجئے یہ سنکر بڑھیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے وہی باتیں جا کر کہیں جو کہ حضرت سلیمان نے بڑھیا سے کہی تھیں وہ باتیں سنکر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں۔ وہ بڑھیا بولی کہ یہ باتیں مجھے دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتائی ہیں پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا اے بیٹے میں ہوا کی تجویز کیسے کروں وہ تو پکڑی نہیں جاتی ہاں اس کی صورت مجھ ہوتی

تو البتہ اس کو کپڑے منگواتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اباجان اس کو کپڑے
 کر حاضر کرنا بہت سہل بات ہے اور وہ آپ کی دعا کافی ہے آپ دعا کریں خدا کے
 حکم سے ہوا صورت شخص بن کر خود یہی حضرت کے حضور میں حاضر ہو وے گی۔ اور
 میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا کے پاس مواخذہ ہو۔ اگر وہ بڑھیا آپ سے انصاف
 کا مطالبہ اور شکوہ کرے اور وہ انصاف طلب کرے تو آپ اس کو کیا جواب دیں
 گے یہ سنکر حضرت داؤد نے خدا کی جناب میں دعا مانگی اور حضرت سلیمان نے ان کے ساتھ
 آئین لکھی۔ اس وقت خدا کے حکم سے ہوا بصورت شخص بن کر حضرت داؤد علیہ السلام
 کے پاس حاضر ہوئی۔ تب بڑھیا نے ہول سے اپنے آٹے کا دعویٰ کیا اور ہوانے اس کا یہ
 جواب دیا کہ یا نبی اللہ میں نے جو کیا تھا وہ خدا کے حکم سے کیا تھا۔ یہ سنکر حضرت داؤد
 نے کہا وہ کیا ہے بیان کر دو ہوانے اس کا یہ جواب دیا کہ یا نبی اللہ دریا میں ایک قوم کی
 کشتی تھی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا تھا اور وہ قریب ڈوبنے کے تھی اور دریا
 کے سیلاب کے گرداب میں آپڑی تھی اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نذرمانی تھی کہ اگر
 کشتی اس گرداب سے خداوند بچا لیں گے گا تو اس کشتی کا سب مال خدا کی راہ پر فقیروں
 اور محتاجوں کو دیں گے اسی وقت خداوند نے چھ کو حکم دیا کہ تو اس بڑھیا کا آٹے کر
 اسی کشتی کے سوراخ کو بند کر دے تاکہ یہ کشتی غرق ہونے سے بچ جائے۔ حاصل
 کلام یہ ہے کہ چند روز کے بعد وہ کشتی کنارے پر آگئی اور ادھر حضرت داؤد علیہ
 السلام کو ہیز ہوئی کہ ایک کشتی تندر کی دریا کے کنارے پہنچی ہے۔ حضرت داؤد علیہ
 السلام نے سب مال تندر کا کشتی سے منگوا کر آدہا فقروں اور محتاجوں کو دیا اور آدھا
 مال اس بڑھیا عورت کو دیا کہ جس کے آٹے سے اس کشتی کا سوراخ ہوانے بند کیا تھا ایک
 روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ تم نے خدا کی کیا اطاعت و بندگی
 کی تھی جو تجھ کو اتنا مال ملا۔ وہ بڑھیا بولی کہ میں نے خدا کی بندگی نہیں کی تھی مگر ایک دن ایک
 فقیر بھوکا پیاسا محتاج میرے پاس آیا اور اس نے کھانے کا سوال کیا اور اس وقت میرے
 پاس صرف ایک روٹی تھی چنانچہ میں نے وہ روٹی اس فقیر کے حوالے کر دی اور اس فقیر نے
 اس روٹی کو کھا کر پھر مجھ سے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں اور
 اس روٹی سے مجھے سیری نہیں ہوئی کچھ اور دیکھیں میں نے کہا تم ذرا ٹھہرو میں گہروں میں کر

برائی پکائے دیتی ہوں یہ کہہ کر آٹاپیس کو اپنے سر پر رکھ کر لارہی تھی کہ راستے میں سو اکی تیزی سے وہ سب آٹا اڑ گیا۔ اور میں جانتی ہوں کہ مجھ پر تکلیف گزری اس جھوٹے فقیر کے سبب سے بھی بہت ہی متفکر و غمناک ہو کر تمہارے پاس داؤد خواہ آئی تھی اتنا مال خدا کی نہر بانی سے تمہارے ہاتھ سے مجھ کو ملا ہے کہتے ہیں کہ اس وقت خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے آکر کہا یہ بات کہی تھی کہ اس بڑھیا کو کہہ دو اتنا مال جو تو نے پایا اس آٹے کا بدلہ ہے جو سو اسے اڑ گیا تھا۔ اور اس روٹی کے بدلے جو تو نے اس فقیر کو دی تھی اس کا بدلہ آخرت میں ستر روٹیاں ملیں گی۔ منقول ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہم احوال قیامت کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو قیامت کا یقین ہو اور یہ بھی ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ روز قیامت اسی طرح ماجرا کبیرے گایہ سنکر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عید کے دن تم کو یہ ماجرا دکھاؤں گا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سردار رئیس القوم مالدار تھا اور اس کی ایک گائے زرد رنگ خوشنما پاؤں تھا اور اس پر زری کے کپڑے ڈال کر خوب سجا کر میدان میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تہایت ہی عابدہ زایدہ تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا وہ بڑا نیک اور صالح تھا۔ دونوں نے صحرایں جا کر ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی اور وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ دونوں اپنی بنانی ہوئی عبادت گاہ میں خدا کی عبادت میں مصروف تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی اسباب نہ تھا۔ مگر اس کے کنارے ایک چشمہ قدرتی جاری تھا اور اسی چشمہ کے کنارے ایک انار کا درخت بھی تھا خدا کی نہر بانی سے ہر روز اس میں دو انار لگتے تھے اور ان کو وہ دونوں ماں دہنیا کھاتے تھے اور اسی پر قناعت کرتے تھے۔ تقریباً یہ حال ستر برس تک رہا۔ ایک روز اس کے بیٹے نے کہا کہ اے اماں شہر کے اندر تو بازار میں بہت سی چیزیں بکتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ بازار سے لا کر کھاؤں۔ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ اے بیٹے دو انار اللہ تعالیٰ نے ہم کو بغیر کسی محنت و مشقت ہر روز عنایت کرتا ہے یہی کھا کر شکر اور کسی دوسری چیز کا لالچہ مت کر لالچہ بری چیز ہے یہ کہہ کر جب درخت کی طرف نظر کی تو وہ دو انار جو روزانہ لگتے تھے اچانک غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس

کی ماں نے کہا۔ اسے بیٹا وہ دو انا رجو اللہ تعالیٰ تمہیں کو بطور روزی کے دے رکھے تھے۔ لیبب بے صبری اور ناشکری کے غائب ہوئے پس ایک رات اور ایک دن دونوں ماں بیٹا بھوکے رہے۔ اتنے میں اجنبی ایک مٹی گائے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے دونوں ماں بیٹوں کے پاس آئی اور بولی کہ مجھ کو ذبح کر کے کھا جاویں میں تمہاری حلال روزی سے ہوں۔ اس کی ماں نے کہا اسے بیٹا یہ گائے چاہتی ہے کہ ہم کو گناہ میں گرفتار کرے تب اس کو ہانک دیا پھر وہ آکر موجود ہوئی ہاتھ پاؤں پھوڑ کر زمین پر سو گئی اور اپنا سلق سامنے کر کے بولی۔ اسے میاں مجھ کو ذبح کر کے کھاؤ اور میں تمہارا رزق حلال ہوں لیکن اس پر بھی نہ مانا۔ اور پھر اس کو ہانک دیا کچھ دیر بعد پھر وہ آکر موجود ہو گئی تب، ناچار سو کر تیسرے دن ماں بیٹے نے اس کو ذبح کیا اور کباب اور میزہ بنا کر کھا گئے۔ ادھر جب وہ گائے تیسرے دن اپنے آقا کے گھر نہ گئی تو آقا نے اس کی بہت تلاش کی اور بہت سے لوگوں کو جنگل اور میداؤں کی طرف بھیجا آخر وہ نہ ملی۔ بالآخر ایک عورت دلالہ قرم بنی اسرائیل سے تھی جو سرگھر میں خرید و فروخت کے واسطے جاتی تھی اتفاقاً وہ عورت ان دونوں ماں بیٹے کے گھر گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے وہ دونوں ماں بیٹے کباب بنا کر کھا رہے ہیں۔ اس دلالہ عورت کو دیکھ کر ماں بیٹا دونوں گھبرائے اور اسی گھبراہٹ میں ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج کتنے برس سے ہم یہاں اپنے خالق کی عبادت میں مشغول ہیں اور رزق حلال بھی کھاتے ہیں آخر میری بات تو نے نہ مانی بیگانی گائے ذبح کر کے کھا گئے کیا تیرے خدایم کو کس عذاب میں مبتلا کرے اور پھر ہم کو رسوا کرے سارے مالک میں پس اس عورت دلالہ نے جا کر اس گائے کے مالک کو خبر دی اور اس کا نشان بھی بتا دیا اس گائے کے مالک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر اپنی درخواست پیش کر دی کہ فلاں شخص نے میری گائے ذبح کر کے کھائی ہے۔ حضرت داؤد نے اسی وقت حکم کیا کہ اس شخص کو فوراً میرے دربار میں حاضر کرو۔ اس حکم کو لے کر ان ماں بیٹے کے پاس گئے اور ان دونوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں لا کر حاضر کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں دوسرے کی گائے ذبح کر کے کھاتی ہے انہوں نے کہا اے خلیفہ خدا وہ گائے تین دن تک ہمارے دروازے پر آکر پڑی رہی اور بار

بار بانٹتے سے بھی نہ گئی اور وہ بولتی تھی کہ میں تمہاری صلال روزی ہوں مجھے تم ذبح کر کے کھا جاؤ اور ہم لوگ تین دن کے بھوکے تھے اس کو ذبح کر کے کھا گئے یہ بات سنا کر اس گانے کے مالک نے کہا کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو۔ گانے پیل نے بھی کسی سے بات کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کر سکتی ہے۔

افغویٰ صاحب گانے نے دونوں ماں بیٹے سے قصاص طلب کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو معاف کر دو اور اس کے عرض میں ہم سے ایک ہزار تریخیال لے لو۔ وہ بولا کہ میں ہرگز ان کو معاف نہ کروں گا۔ میں تو اپنی گائے کا قصاص لوں گا پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس گانے کا چمڑا بھر کے اشرفی مجھ سے لے لو۔ اور ان کو اس خطا سے معاف کرو۔ اس جاہل نے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہنا نہ مانا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے داؤد اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل احوال قیامت تجھ سے دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے تم ان سے کہہ دو کہ کل عید کے دن میدان میں جا کر سب حاضر ہوں احوال قیامت کو وہاں دیکھیں گے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا۔ وہ سب چھوٹے بڑے زن و مرد قوم کے اس میدان میں عید کے روز جا کر حاضر ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے منبر پر چڑھ کر کتاب زبور پڑھنے لگے اور تمام لوگ خوش الحافی کی دہ سے عیش میں آگئے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اس رئیس قوم صاحب گانے سے پوچھو کہ اس دن کو وہ یاد کرے کہ جس دن شام کی راہ سے فلاں سوداگر کے ساتھ تو نوکر ہو جانا تھا اس کے ساتھ پانچ سو اونٹ بکری اور مال و اسباب تھا۔ تو نے اس کو مار سب چھین لیا تھا۔ اور مصر میں جا کر اس کے مال و اسباب سے تو نے بہت نفع اٹھایا۔ اور اس کے بعد تو نیک شام چلا آیا تھا۔ اتنا مال و متاع تو نے جو جمع کیا۔ یہاں تک کہ تو قوم بنی اسرائیل کا سرغنہ بھی ہوا سو وہ اگر بس کہ تو نے مارا تھا اس کی یہ پیوی ہے اور اسی کا یہ لڑکا ہے جو تیری گائے کو ذبح کر کے کھا گئے ہیں اور اس وقت جتنا مال تیرے پاس موجود ہے سب اس کا ہے۔ حضرت داؤد نے یہ حقیقت جبرائیل علیہ السلام سے سنا کر صاحب گانے

سے پوچھا اس نے اس بات سے انکار کیا اور پھر کہا کہ میں نے ہرگز کسی کو نہیں اور نہ مال کسی کا میں نے چھینا لوٹا یہ بات جس کسی نے کہی ہے۔ بالکل جھوٹ ہے جو آپ نے سنی ہے۔ اس وقت خدا کے حکم سے زبان اس کی گونگی ہو گئی۔ اور پھر ہاتھ پاؤں نے اس کی گواہی دی۔ اس کے ہاتھ نے کہا سچ ہے میں نے پھری سے اس سو داگر کو ذبح کیا تھا اور اس کا شتر اور مال و اسباب سب لے گئے اور اسی طرح تمام اعضاء نے اس کی گواہی دی۔ قوم بنی اسرائیل یہ حقیقت سن کر بڑی متعجب ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی مومنو! یہی حقیقت ہو گی شتر کے دن جس نے بھی جو کچھ نیک کام اور بد کام کیا ہو گا قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو گا۔ ہاتھ پاؤں ان کے گواہی دیں گے جیسا کہ صاحب بقرہ کے ہاتھ پاؤں نے گواہی دی اور منہ سے اس دن کچھ نہ بول سکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اٰيٰتِيْهِمْ لَا يَفِيْهُمُ الْاٰيٰتِۃَۙ تَرْجَمُهُمْ اَجْرًا بِمَا كَفَرُوْا بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ۔ ترجمہ آج ہم ہر کر دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ وہ کہتے تھے۔ دنیا میں۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں مال بیٹوں کو کہا کہ تمہیں قوم جو صاحب گائے ہے تمہارے باپ کو مار کر تمام مال و دولت لوٹ لے گیا تھا۔ اب خدا کے حکم سے اسے مار کر تم اپنے باپ کا قصاص لو اور اس سے اپنا سب مال و اسباب لے لو۔ اس لڑکے نے اس بات کو سن کر اسی وقت صاحب گائے کا سر کاٹ لیا اور جو مال و اسباب تھا اپنے باپ کا سب لے لیا اور پھر ننگرند کا بچا لایا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت داؤد کی زندگی آخر ہوئی اور موت قریب آئی تو حضرت حیران بنی اسرائیل علیہ السلام نے ایک صندوق ان کو لاکر دیا اور پھر کہا اے داؤد تم اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے جو اس کے اندر کی چیز بتائے گا اسی کو خلافت و سلطنت ملے گی تب بنی اسرائیل اور پندرہ بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر ایک جگہ جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے جو کوئی بھی بتا سکے گا اس کو میں اپنا ولی عہد مقرر کروں گا اور وہ نبی بھی ہو گا اور وہ بنی اسرائیل اور سارے جہاں کا بادشاہ بھی ہو گا۔ کسی سے بھی اس کے اندر کی چیز نہ بتائی گئی حضرت سلیمان اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے وہ خدمت باپ کی بچا لائے اور کہا اے ابا جان اگر حکم ہو تو خادم عرض کرے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اے

بیٹا کہو۔ تب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر ایک انگشتری اور ایک چابک اور ایک خط یہ تینوں چیزیں اس کے اندر محفوظ ہیں اور ان تینوں کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے جب صندوق کو کھول کر دیکھا تو وہی تین چیزیں پائیں حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں معجزے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ انگوٹھی جو ہے بہشت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اور جو شخص بھی اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا جو چاہے گا اس سے حاصل ہو گا اور جب اس پر نگاہ کرے گا جو کچھ دنیا کے بیچ میں ہے مشرق سے مغرب تک مہلابز مخلوق کا پیدا ہو گا اور تمام طیور و پرند و وحوش سب کے سب اس کے تابع فرماں ہونگے اور جو چابک ہے وہ دوزخ کا ہے جو شخص بھی صاحب چابک سے باغی ہو گا یعنی اس کی اطاعت نہ کرے گا صاحب چابک اس پر ارشاد کرے گا وہ چابک خود بخود جا کر اس کو معذب کرے گا ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چابک نہ تھا بلکہ وہ دربارش تھا جو باغی ہوتا اللہ تعالیٰ سے چابک اس کو معذوب کر کے لاتا کہتے ہیں کہ کوئی اس چابک کو یوں بڑے نہ چھوٹا تھا یعنی صرف مالک ہی اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا کیونکہ اس کا خصلہ تھا کہ بغیر استعانت غیر کے لوگوں پر عذاب کرتا اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تو اس کا کوئی حال دریافت نہ کر سکا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر پانچ صلے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ ایان۔ محبت، عقل، شرم اور طاقت۔ پھر پوچھا ہر ایک کا مقام و قرار بدن میں کس جگہ ہے وہ جو مقام ایان و محبت کا دل ہے اور مقام عقل سر ہے اور مقام شرم آنکھ اور مقام قوت و طاقت ہڈی ہے جب حضرت سلیمان نے یہ باتیں کہیں تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور وہ خاتم سلطنت ان کی انگلی میں پہنائی اور وہ چابک بھی ان کے ہاتھ میں دیا اور بخوشی ان کو اس شاہی تخت پر بیٹھایا اور خود گزشتہ نیشی اختیار کر کے اپنے عبادت خانے میں جا بیٹھے اس وقت عمران کی ایک سو برس کی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر ایک سو بیس برس کی تھی۔ یہ جو الیامع التواریخ سے لکھا ہے۔ ایک دن ملک الموت آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کون ہو وہ بولے کہ میں ملک الموت ہوں، کہا آپ کیوں یہاں آئے ہیں، حضرت

عزرائیل نے کہا تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عزرائیل سے کہا کہ مجھ کو دور کومت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ اس کے جواب میں ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں ہے اور تم کو ابھی جانا ہے یہ کہہ کر ان کی جان قبض کر لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَنْقِذُوْنَ** پس جب آتا ہے وقت ان کا نہیں پیچھے رہ جاتے ایک ساعت اور نہ آگے نکل جاتے میں بعد فوت ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعزیت اور ان کی تجہیز و تکفین کی **(وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ)**

بنی اسرائیل کی صورتیں منسوخ ہونے کا واقعہ

ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے پر کچھ اپنے رہنے کے واسطے مکان بنالیے تھے اور یہ واقعہ اس وقت عمل میں آیا جب حضرت داؤد علیہ السلام بلائے ناگہانی میں مبتلا ہوئے تو ان لوگوں نے موقع کو مغیبت سمجھ کر اکثر احکام توہریت کے چھوڑ کر خلاف شرع کام شروع کر دیئے منجملہ ان امور کے ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتہ کے دن شکار نہ کہیں اور نہ دنیا کی خرید و فروخت کریں یہ سب چیزیں کتاب توہریت میں حرام تھیں مگر ان لوگوں نے کوئی پروا نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کار بند ہو گئے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ جب اس قوم نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے دریا کی پھیلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتہ کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آکر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور دونوں میں دریا میں جاریں پس خداوند تعالیٰ کے حکم سے پھیلیاں ہفتہ کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آکر پھرتی رہتی تھیں اور ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا میں جاریں جاریں تھیں آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک جیلہ کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈالے کیونکہ ہفتہ کے دن پھیلیاں دریا سے آکر کھیل کود کے شام کے وقت پھر دریا میں پٹی جاتی تھیں آخر وہ سب ہفتہ کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر یکشنبہ کو حسب ضرورت اپنی آرنہو کے مطابق کھاتے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَسُئِلْتُمْ عَنْ الْمَقْرِبَةِ الَّتِي (الایۃ) ترجمہ اور پوچھا ان**

سے اس سستی کا کہ جو تھے کنارے دریا کے جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں اور جب آنے لگیں ان پر مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو وہ نہ آویں یوں ہم آزمانے لگے اس واسطے کہ وہ لوگ بے حکم تھے اور جب بولا ایک فرقہ ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے اور وہ لوگ یہ سن کر سخت بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو ہم ہر طریقہ سے طاقت ور ہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پھر بھی نصیحت کرنے والوں نے ان کو برابر نصیحت کی جب انہوں نے کسی طرح سے بھی نہ اور برابر خداوند شرمندہ کام کرتے رہے پھر ان کو عذاب خداوندی نے آپکڑا محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے اور پھر ہم نے جن کاموں سے منع کیا تھا وہ اسی کے کرنے پر برابر کا مزن رہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بند ذلیل ہو گئے۔ قرآن مجید کے سورہ اعراف کے ترجمہ کے فائدے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد کے عہد میں یہود کو مشفقہ کے دن نیکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ٹہریوں کو بے حکم دیکھا تو پھر ان کو بطور آزمانے کے ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے اوپر پھریں اور دوسرے دنوں میں غائب رہیں ان کا جی نہ رہ سکا اور انہوں نے بالا ہنز ہفتے کے دن شکار کیا۔ اور انہوں نے اپنی دانستہ میں یہ حیلہ کیا کہ کنارے دریا کے پانی ٹاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں ہو رہیں تو بھی وہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں اور ہفتے کی شام کو وہ مچھلیاں نکل جاتیں آخر انہوں نے ہفتے کے دن بھاگنے کی راہ بند کی اور اتوار کو پکڑ لیا۔ پھر وہ لوگ بند ہو گئے اور ان میں بین فرقتے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے کہ جو شکار کرتے تھے۔ اور دوسرے لوگ وہ تھے جو بازار آگئے تھے نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے تھے اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع کرنے سے نکل گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ بیٹھے تھے۔ لیکن وہ بہتر تھے۔ جو برابر منع کرتے رہے اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بند رہی بند نظر آ رہے ہیں اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے ترابٹ والوں کے پاروں پر سر پٹا رکھتے اور پھر رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برسے حال سے تین دن میں سب کے سب گئے کہ آج تیرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم حکم تورات کا چھوڑ دو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی رہو گے اب تم غور کرو کہ جسے زمین پر بود کی کہیں بھی حکومت نہیں اور وہ غر کی رعیت ہیں پس اسے مومنو! بسبب نافرمانی خداوند قدوس بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسخ کیا گیا۔ یعنی مسخ ہو کر وہ بعورت بند ہو گئے اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں ہیں اس لئے اس زمانے میں گناہ کو نیک باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسخ نہیں کئے جھانٹے لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا زلت

مسخ سے کم نہ ہوگی یا اللہ تعالیٰ نیکوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت و قائم رکھ اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ۷۰ میں۔ یارب العالمین ۵

بیان طالوت کے بادشاہ ہونے کا

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ہم کو سلطنت عنایت فرمائے اور ہم لوگ خدا کے دشمنوں کو مار کر زیر کریں اور ایک ہمدرد بھی ہم پر مقرر کر دے کہ ہم لوگ اس کی اقتداء میں جہاد کریں۔ چنانچہ نبی بات سنکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **اَلَمْ تَدْرَاۤلِی الْفَلَآءِ مِیۡنِۡ بِنِیۡۡۤیۡۡۤیۡۤسۡرَۤاۤیۡلَ مِیۡنِۡۤیۡۤسۡرَۤاۤیۡلَ** ترجمہ کیا تو نے نہ دیکھی ایک قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد جب کہا انہوں نے اپنے نبی کو مقرر کر دیوے ہمارے واسطے ایک بادشاہ کو کہ ہم جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ بولایا بھی تو قصبے تم سے کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا تم نہ لڑو وہ بولے ہم کو کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور ہم کو نکال دیا ہے ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے پھر جب ان کو حکم ہوا لڑائی کا پھر گئے مگر تھوڑے ان کے اپنے عہد و قرار پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو ظالم ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ بعد حضرت موسیٰ کے ایک مدت تک بنی اسرائیل کا کام بہتر ہے۔ پھر جب ان کی نیت بری ہو گئی تو پھر ان پر غنیم مسلط ہوا۔ یعنی جالوت بادشاہ کافر نے ان کے اظہار کے شہر چھین لیے اور خوب اچھی طرح سے لٹا اور قیدی کر کے لے گیا۔ اور جو باقی بچے وہ بھاگ کر شہر بیت المقدس میں جمع ہوئے اور پھر انہوں نے حضرت شموئیل پیغمبر سے کہا کہ کوئی بادشاہ با اقبال مقرر کر دو کیوں کہ بغیر با اقبال بادشاہ کے ہم لڑ نہیں سکتے طالوت ایک شخص تھا قوم بنی اسرائیل میں اور وہ کسی کسی کے چوپائے چراتا تھا۔ ایک دن چوپایہ اس سے گم ہو گیا۔ مالک چوپایہ نے اس سے اس کی قیمت طلب کی۔ اور اس کو یہ مقدمہ نہ تھا کہ وہ اس چوپائے کی قیمت دیوے آخروناچار ہو کر حضرت شموئیل پیغمبر کے پاس گیا کہ چوپائے کے مالک کے لیے کچھ سفارش کریں تاکہ وہ اس چوپائے کی قیمت کو معاف کر دے۔ حضرت شموئیل پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا کہ میرا نام طالوت ہے تب شموئیل پیغمبر نے اس کو بخود دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ بہشت سے لاکر شموئیل بنی کو دی اور پھر کہا جس کا قد اس عصا کے برابر ہو گا وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو گا اور اس کا نام بھی طالوت ہو گا جب حضرت شموئیل نے طالوت کا قد اس عصا سے ناپا تو اس کے بالکل برابر نکلا۔ پھر حضرت شموئیل نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تعالیٰ طالوت کو تم میں بادشاہ کرے گا جیسا کہ ارشاد باری ہے **ذَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُ لَكُمْ رَجُلًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَدُّ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ ۗ** ترجمہ اور کہا ان لوگوں کو ان کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا تمہارے لیے طالوت کو اور انہوں نے حضرت شموئیل بنی سے کہا کہ کیوں کر

ہوگی اس کی سلطنت ہمارے اوپر اور بہار حق اس سے زیادہ ہے۔ سلطنت میں اور اس کو
 مال کی بھی کچھ کنٹائنٹس نہیں ہے اور پھر اس سے ایک چوپایہ بھی گم ہو گیا تھا اور وہ بھی اس کی قیمت
 نہ دے سکا آفر وہ کیونکر سہارہ بادشاہ ہو گیا یہ سنکر حضرت ثموئیل بنی نے فرمایا قولہ تعالیٰ: **يَقَالَ اِنَّ
 اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ الْاٰيٰتِہٖ تَرْجَمَہٗ تَحْقِیْقَ اللّٰہِ تَعَالٰی** نے اس کو پسند فرمایا تم میں سے اور اس کو
 زیادہ کنٹائنٹس علم میں دی اور اس کے بدن میں قوت طاقت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا
 ملک جس کو چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والا ہے۔ اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور قوم
 بنی اسرائیل نے طالوت کو حقیر جان کر اس پر کوئی التفات نہ کیا اور بلکہ کہنے لگے اے نبی اللہ یہ ہم کو تیار
 کہ اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے تب ہم لوگ آپ کی بات مانیں گے اور اس کے مطیع و فرمانبردار
 ہوں گے۔ یہ سنکر حضرت ثموئیل علیہ السلام نے کہا نشانی اس کی بادشاہی کی سے کہ نہ نہا جا کر تالوت
 سینکڑے دریا علاقہ سے تم کو لاکر دے گا قولہ تعالیٰ: **ذَقَالَ لِهٰذَا مَبِیْئُہٗمُ اِنَّ اٰیٰتِہٖمَ لَہٗ الْاٰیٰتِہٖ** اور
 کہا ان کو ان کے نبی نے کہ نشانی اس کی سلطنت کی یہ ہے کہ آؤ تمہارے پاس ایک صندوق جس
 میں دلچسپی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور باقی وہ چیزیں جو پھوڑ گئی موسیٰ اور ہارون کی اولاد اٹھا
 لا دیں گے اس کو فرشتے اس میں نشانی ہے پوری تم کو اگر تم لوگ یقین رکھتے ہو پس حضرت ثموئیل نے
 طالوت کو اقبال مندریکھ کر کہا کہ تم قوم بنی اسرائیل میں بادشاہ ہو گے اور اب تم میدان کی طرف جاؤ
 اور وہاں تم تالوت سینکڑے پاؤں گے وہ قوم بنی اسرائیل کو لاکر دے دو۔ پس طالوت حضرت ثموئیل
 کے کہنے سے میدان کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تالوت سینکڑے کو ایک بیل گاڑی
 پر جس میں دو بیل باندھے ہوئے تھے فرشتے لاکر لارہے ہیں۔ طالوت اس کے قریب پہنچے اور اس بیل
 گاڑی پر بیٹھ کر ہانکتے ہوئے اس تالوت سینکڑے کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے آئے۔ اور ایک روایت
 سے پتہ چلتا ہے کہ سب فرشتے خدا کے حکم سے اس تالوت سینکڑے کو طالوت کے گھر پہنچا گئے۔ بہر حال
 تالوت سینکڑے قوم بنی اسرائیل کو طالوت نے جب پہنچایا تو وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ تعجب
 میں پڑ گئے اور حیرت زدہ رہ گئے اور پھر ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور اسی وقت سے ان کے
 مطیع فرمان ہو گئے۔ اس کے بعد طالوت نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اسی قوم بنی اسرائیل سے
 کہا کہ چلو ہمارے ساتھ جہاد کے واسطے تہ انہوں نے یہ بات ان کی قبول کر لی اور حضرت ثموئیل علیہ السلام
 نے ایک زرہ آہنی طالوت بادشاہ کو عنایت فرمائی اور پھر کہا کہ یہ زرہ جس کے بدن پر راست آوے
 گی اسی کے ہاتھ سے بادشاہ جالوت جو جابر و ظالم اور کافر ہے، مارا جائے گا۔

بیان لڑائی طالوت بادشاہ کی جالوت کے ساتھ اور مارا جانا جالوت کا حضرت داؤد کے ہاتھ سے

ایک روایت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب طالوت حضرت شموئیل علیہ السلام سے رخصت ہو کر مدینے تمام غازیوں کے روانہ ہوئے تو ایک روایت میں ہے کہ طالوت کے ہمراہ اسی ہزار آدمی تھے جو جالوت کے ساتھ لڑنے کو گئے اور کچھ خیزوں نے جا کر جالوت کو تیر پہنچائی وہ یہ تیر سنتے ہی نا بجا راکر باندھ کر اور اپنا لشکر جزارے کر مستعد جنگ ہو گیا اور ادھر قوم بنی اسرائیل طالوت کے ہمراہ کوچ کرتی ہوئی چلی جاتی تھی جب کچھ دور پہنچی تو طالوت نے ان سے اسی راستے میں مخاطب ہو کر کہا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَلَّمَا فَضَّلُ الْكَاذِبُ يَا جُنُودِ الرَّجِ۔ ترجمہ: پس جدا ہوا طالوت اپنی فوجیں لے کر تو اس نے اپنی فوجوں سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آزمائے والا ہے۔ ایک نہر سے پس جس نے پانی پیا اس کا پس وہ میرا نہیں ہے اور جس نے اس کو نہ چکھا وہ میرا ہے مگر جو کوئی بھرے ایک چلو پانی اپنے ہاتھ سے؛ پی گئے اس کا پانی مگر تھوڑے ان میں سے یہ کہہ کر وہ پیلے بعد قطع منازل بیابان کے درمیان فلسطین کے وہ نہر ملی پانی اس کا نہایت صاف و شفاف مثل آب حیات کے تھا۔ کچھ لشکروں نے بوجہ مارے پیاس کے باوجود نمازت طالوت بادشاہ کے اس نہر سے پانی پی لیا۔ مگر تھوڑے لوگوں نے پانی نہیں پیا اور وہ پیاس سے رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نَشْرُ كُؤْمِنُهُ اِلَّا تَلِيًا صُنْهُ الْاِيه ترجمہ: پس پی گئی قوم پانی اس کا مگر تھوڑے لوگ جنہوں نے ان کی ممانعت نہ سنی انہوں نے زیادہ اور پیاس بڑھائی اور وہ جتنا پانی پیتے اتنی ہی اور پیاس ان پر غالب ہوتی۔ تب ناچار ہو کر طالوت نے ان کو رخصت کر دیا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پانی پیتے پیتے زبان ان کی باہر نکل پڑی تھی اور ان کے پیٹ پھول گئے پھر وہ اسی حالت میں مر گئے اور جن لوگوں نے موافق حکم طالوت کے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پیا وہ نہایت آرام سے رہے۔ قرآن مجید کے حاشیہ پر لکھا کہ کل آدمی طالوت کے ساتھ اسی ہزار تھے اور اس میں تین سو تیرہ جالوت کی لڑائی میں رہے۔ اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بھائی وغیرہ بھی لشکر کے ساتھ تھے راستے میں لشکر کے ساتھ آتے وقت تین پتھر ملے وہ کہنے لگے کہ ہم کو بھی اٹھائے جاؤ اور ہم جالوت کو ماریں گے یہ منکر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں کو اٹھایا اور طالوت کے لشکریوں نے کہا کہ ہم اس جالوت بادشاہ کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ اور جالوت بادشاہ کا لشکر بہت

زیادہ ہے اس لیے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ان میں بعض متوکل علی اللہ بھی تھے وہ کہنے لگے کہ اگرچہ ہم تھوڑے ہیں مگر ہمارا خداوند مقدس مددگار و ناصر ہے تو کہہ لو کہ تَعَالَى كَمْ مِّنْ ذُنُوبٍ قَلِيلَةٍ قَلِيلَةٍ نَّبَلْتُ مِنْ ذَنْبِي رَجَعْتُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ ترجمہ: بہت جگہ جماعت تھوڑی غالب ہوئی بڑی جماعت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب سب جالوت بادشاہ کے مقابلے میں آئے تو کہنے لگے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَكَمَا بَدَدُوا إِلَى الْكُوفَةِ وَحِينُودِهِ ۝ ایہ ترجمہ اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے بولے یعنی طالوت کے لشکری لوگ اسے رب ہمارے ڈال دے ہم میں جنہی غلطی ہے اور ٹھہرا ہمارے پاؤں اور مردد کہ ہماری اس کافر قوم پر جالوت نے جب طالوت کے لشکر کی طرف دیکھا اور ان کی دلیری پر متعجب ہوا اور پھر اس قوم کو شرم آئی اس بات سے کہ ہم ایک لاکھ آدمی جبری ہیں۔ ان تین سو تیرہ آدمی ضعیف کے ساتھ ہم کو لڑنا کچھ جو اندری نہیں۔ پھر اس نے طالوت کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جو سپاہی تو لڑنے کو لایا ہے یہ میرے لڑنے کے قابل نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ خیال باطل چھوڑ دے اور میری اطاعت قبول کر اور اگر تو یہ نہیں چاہتا ہے تو پھر میرا سامنا کر اور میدان میں آ۔ یہ لشکر طالوت نے حکم کیا اپنے لشکریوں کو کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جالوت مردود کا سر کاٹ کر جلدی لے آئے اور پھر جالوت مردود کو کھلا بھیجا کہ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے آئے ہیں تو یہ مت گمان کر کہ سپاہی میرے قلیل تعداد میں ہیں۔ اور تیرا لشکر اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھو خدا میرا بزرگ ہے وہ مجھ کو غالب کر دے گا پھر میرا دریا بہت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھوڑی جماعت غالب ہوئی بڑی جماعت پر کیوں کہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے پس ناگاہ ایک لحظہ کے بعد ایک جوان ہمیب شکل دیو بیگل تمام سلاح پوش گھوڑے پر سوار چوب نیزہ تلوار ہاتھ میں لے کر مئی لفت لشکر گاہ سے برصفت کارزار اٹھڑا ہوا اور ایک آوازہ مثل گدھے کے مارا اور کہا میں جالوت ہوں اور تم سب کو کافی ہوں تم لوگ سب میرے سامنے آتے جاؤ۔ اس بات کو لشکر طالوت نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ تم میں کوئی ہے جو اس مردود کا سر کاٹ کر لے آئے تو اس کو آدمی سلطنت اور اپنی بیٹی بیاہ دوں گا آخر کسی نے بھی اس کا جواب نہ دیا یہ دیکھ کر طالوت بہت سست ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب جالوت یعنی ہم پر حملہ کرے گا اور قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں بڑھتے نہیں یہ کہہ کر خود چاہا کہ اس مردود سے جا کر لڑے اس وقت ایک نوجوان نہایت قوی نے اپنے سر پر خود رکھ لیا اس سر پر پہن کر ایک چوب ہاتھ میں لے کر طالوت کو آکر سلام کیا اور کہا کہ تم کچھ اندیشہ مت کرو خاطر جمع رکھو اللہ تعالیٰ

کے حکم سے میں جالوت سے لڑوں گا اور انشاء اللہ اس کو مار ڈالوں گا۔ طالوت بولا کہ تم کس قوم سے ہو اور تمہارا کیا نام ہے وہ بولے کہ میں ابراہیمؑ کی اولاد ہوں اور میرا نام داؤد ہے اور میرے چچ بھائی ہیں آپ کے لشکر میں اس نے کہا کہ تم نے کبھی اول بھی لڑائی کی ہے وہ بولے اکثر میں سباع اور درندوں سے لڑا ہوں۔ اس وقت دو بردران کے طالوت کے پاس حاضر تھے انہوں نے طالوت سے کہا اے طالوت داؤد کبھی کسی لشکر سے لڑا نہیں وہ جو کہتا ہے حضور غلط ہے اس نے کبھی لڑائی نہیں دیکھی اور وہ جالوت مردود بڑا لڑنے والا، ہیکل ہے اور وہ جنگ آزمودہ ہے اس سے یہ کیوں کر لڑ سکے گا پس طالوت نے حضرت داؤد کو ایک زرہ پہنائی اور وہ زرہ ان کو حضرت سموئیل نے دی تھی کہ یہ زرہ جس کے بدن پر صحیح آوے گی وہی لڑائی فتح کر لے گا اور وہی بادشاہ ہو گا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ طالوت نے خواب دیکھا تھا کہ جس کے بدن میں یہ زرہ موافق آوے گی اس کے ہاتھ سے جالوت یا دشاہ کا فرار جائے گا پس انہوں نے ہمد مؤکد کر کے وہ زرہ پہن کر اور وہ تین بھتر جو لشکر کے ساتھ آتے وقت راہ میں ملے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کو بھی اٹھا کر لے جاؤ ہم تمہارے کام آؤ گے اور ہم ان پتھروں میں سے ہیں کہ جن پتھروں کے برساتے سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کیا۔ لہذا ان پتھروں کو لے کر حضرت داؤد معرکہ جنگ میں جالوت کے سامنے گئے جالوت نے ان سے کہا کہ تو میرے ساتھ کون سے ہتھیار لے گا۔ وہ بولے میں ان پتھروں سے تیرا سر توڑ کر مار ڈالوں گا بہن کر جالوت نے تنکرا نہ لیجے میں کہا کہ ان پتھروں سے بادشاہ کے ساتھ لڑنا چاہیے یہ سن کر حضرت داؤد نے کہا کہ تو میرے نزدیک کتا ہے۔ اور کتے کو پتھر سے مارنا جیسے جالوت نے کہا تو چلا جا اور نہ ناسخ مارا جانے گا اور میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو نہایت غریب و ضعیف ایک پتھر ہاتھ میں لے کر مجھ سے لڑنے کو آیا ہے حضرت داؤد نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے لڑنے آیا ہوں۔ اسی نے مجھ کو قوت دی ہے تجھ کو اس پتھر سے مار ڈالوں گا یہ کہہ کر پتھر اٹھا کر اس مردود پر پھینک مارا وہ مردود فوراً ہی واصل جہنم ہوا۔ اور دوسری روایت میں بہت تفسیر سے لکھا ہے کہ اس پتھر کو فلاخن میں رکھ کر مارا اور پتھر جالوت کے سینے پر چاڑھا۔ وہاں اس کو جہنم رسید کر کے وہیں پتھر کے دو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا لشکر کے داہنی جاگرا اور سب کو ہلاک کر دیا اور دوسرا ٹکڑا لشکر کے بیچ میں جاگرا وہ سب درہم برہم ہو کر کوئی کہیں جاگرا اور کوئی جہنم رسید ہوا۔ قولہ تعالیٰ - نَهَرٌ صُورُهُمْ يَأْتِيهِمْ مِنَ اللَّهِ تَفْلَاتٍ ذَا ذُجَانُوتٍ طے ترجمہ ہیں شکست دی بنی اسرائیل نے قوم جالوت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مار ڈالا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو طالوت نے حضرت داؤد سے کہا کہ ماشاء اللہ تمہاری بیڑی قوت ہے تم نے

ایک ہی جالوت کو مار ڈالا اور اس کے لشکر کو بھی شکست دی اور میں کیا طاقت رکھتا تھا کہ میں اس کو مار ڈالوں ایک تفسیر میں یوں لکھا ہے۔ کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے باپ کو بلا کر کہا تم اپنے بیٹے کو مجھ کو دکھاؤ۔ ان کے باپ نے اپنے چھ بیٹوں کو دکھلایا جو بڑے جسم اور قد اور تھے اور انہوں نے حضرت داؤد کو نہ دکھایا کیونکہ وہ زیادہ قد آور نہ تھے اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن حضرت شموئیل علیہ السلام نے پھر ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم جالوت کو مارو گے انہوں نے کہا بیشک میں ضرور ماروں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بعد وہ جالوت بادشاہ کے سامنے گئے اور وہی تین بھتر انہوں نے اپنے فلاخن میں رکھ کر مارے ادھر جالوت کا سر کھٹا اور تمام بدن لوہے کی ترہ میں غرق تھا وہ پتھر اس کے سر میں جا کر لٹکی اور اس کے پیچھے سے نکل گئے اور بعد فتح لڑائی کے طاقت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی اور پھر حضرت داؤد بھی بادشاہ ہو گئے اس واقعہ کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّرَافِ،

بیان حضرت عزیز علیہ السلام کا

بعض تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ بخت نصر کافر تھا اور مشرق سے مغرب تک اس کی بادشاہت تھی اور وہ قوم بنی اسرائیل پر غالب ہوئے اور شہر بیت المقدس کو خراب کیا اور بہت کچھ توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کو اس نے کافی تعداد میں مفید کیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تو وہ کافی مدت کے بعد اس شہر کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں جا کر اس شہر کو خراب و ویران دیکھا بہت ہی تعجب و تاسف کیا۔ اور پھر یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ اور پھر انہوں نے اس شہر کو آباد دیکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَو كَاذِبِي صَدَقَتْ عَلٰى قَدِيَّةٍ وَهِيَ حَادِيَّةٌ عَلٰى مُدَوِّشِمَا اِلخ ترجمہ یا ما تدا اس شخص کے کہ گزرا ایک شہر پر سے اور وہ شہر گر پڑا تھا مگر اپنی تمام چھتوں کے وہ بولا کہ کیوں کو زندہ کرے گا اس شہر کو بعد برباد ہو جانے کے پس مار رکھا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے سر برس پھر جلا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تو کتنی دیر سوتا رہا وہ بولا ایک دن یا ایک دن سے کم خداوند کریم نے فرمایا نہیں بلکہ تو سوتا رہا سو برس اور اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا کہ وہ نہیں سڑا اور پھر دیکھ اپنے گدھے کو اور میں تجھ کو لوگوں کے واسطے نمونہ بنانا چاہتا ہوں اور پھر دیکھ کے بڑیاں کس طرح سے جرتی ہیں پھر ہم ان کو گوشت پہناتے ہیں اور حبیب یہ چیزیں ان پر ظاہر ہوتی تو وہ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ تمام واقعات کتاب قصص الانبیاء میں مذکور ہیں اور

ایک تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ بخت نصر ایک بادشاہ کا فر تھا اور وہ قوم بنی اسرائیل پر غالب آگیا۔ اور اس نے شہر بیت المقدس کو خراب کر دیا۔ اور تمام لوگوں کو قیدی بنا کر پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا اور وہ بغرض تبلیغ اس شہر بیت المقدس سے گزرے تو اس کو دیکھا تو اتنا غور بصورت شہر کو جس کو اس بری طرح خراب و برباد کیا گیا ہے یہ کیوں کر آباد ہو گا بس اتنا کہتا تھا کہ فوراً ان کی روح اسی جگہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور پھر وہ سو برس کے بعد زندہ کیے گئے یہاں تک کہ ان کا کھانا اور پینا بھی ان کے پاس رکھا ہوا تھا۔ اور وہ جوں کاتوں ہی تھا کچھ خراب نہ ہوا تھا اور ان کی سواری کا لگدھار کر اس کی ہڈیاں بھی ان کے قریب دھری تھا پھر ان کا لگدھار بھی ان کے رو برو خدا کے حکم سے زندہ ہوا۔ اور اسی سو برس میں بنی اسرائیل قید سے خلاص ہوئے۔ اور شہر بیت المقدس پھر آباد ہو گیا اور انہوں نے زندہ ہو کر اس شہر کو آبادی دیکھا۔ یہ دیکھ کر فوراً مسجد سے میں گریڑے اور توبہ استغفار کرتے رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَجِدُهُ تَرْجُمًا پھر جب اس پر ظاہر ہوا تو توبہ لے کر میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہرحیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اس کے کام کو کوئی بھی روکنے والا نہیں اور میں اس واقعہ کو اسی پر التکا کرتا ہوں۔

بیان حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا

ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ارمیا کی اولاد میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل میں اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ذَكَرْ ذِكْرَ حَمَّةَ رَبِّكَ عَبْدًا ذَكَرِيًّا إِذْ مَا دَىٰ رَبِّهٖ ذِيْنَ اٰءَ حَفِيَّتًا تَرْجَمًا یعنی مذکور ہے تیرے رب کی مہربانی کا اپنے بندے زکریا پر جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا آہستہ یعنی اپنے دل میں ہی دعا کی یا پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر اس واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے۔ یعنی اگر ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسیں۔ جب وہ بڑھے ہوئے فرزند کے واسطے سراپنا سجدہ میں رکھ کر کہا تو کہ تعالیٰ: قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهِنَ الْعَظْمِیْنَ وَاسْتَعْلَبَ الْجَدَّ اَسْ اَلْح تَرْجَمًا کہا حضرت زکریا نے اسے پروردگار میرے تحقیق سست ہو گئی ہیں ہڈیاں مہری اور شعلہ مارا میرے سر نے بڑھاپے سے یعنی بال میرے سر کے سفید ہو گئے ہیں اور میں تجھ سے شرمنا کر فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہوں اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو طعنہ دیں اور یہ

تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی باجھ ہے۔ پس اے خدا عنایت فرما مجھے ایک صالح فرزند فرزند
 تاکہ وہ میرا ولی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو اے میرے
 پروردگار پس حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے يَا ذَكَرْنَا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيٰى۔ ترجمہ: اے زکریا علیہ السلام
 ہم خوشخبری دیتے ہیں تیرے تئیں ایک لڑکے کی کہ نام اس کا یحییٰ ہے۔ نہیں پیدا کیا ہم نے پہلے اس نام
 کا کوئی بھی۔ حضرت زکریا بولے اے رب کہاں سے ہو گا مجھ کو لڑکا اور عورت میری باجھ ہے اور میں
 بھی بوڑھا ہو گیا ہوں یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے آنے والے فرشتوں نے کہا اے حضرت زکریا
 خداوند کریم نے یونہی فرمایا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بہت ہی آسان ہے کیا تو نے غور نہیں
 کیا کہ اس سے پہلے تجھ کو نبایا اور تو حقیقت نہ تھا۔ یہ سنکر حضرت زکریا نے کہا اے میرے رب ٹھہرا
 دے مجھ کو نشانی۔ کہا رب نے نشانی تیری یہ ہے کہ تو لوگوں سے تین رات دن بات نہ کر سکے گا جلا لگے
 تو بالکل صحت مند ہو گا اور تیرے جسم کو کوئی بھی گزند نہ پہنچے گی۔ پس زکریا علیہ السلام نے تین رات
 دن لوگوں سے بات چیت نہ کی اور پورے نو مہینے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور چار برس
 تک حضرت یحییٰ علیہ السلام باہر نہیں نکلے اور نہ ہی کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے اور ان کی ماں کہا کرتی تھیں
 اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتے۔ وہ بولے اے میری ماں خداوند کریم نے مجھ کو کھیلنے کے واسطے
 نہیں پیدا کیا اس نے جس واسطے مجھے پیدا کیا ہے وہ وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے تھے اور
 پھر رات دن روتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی اے رب میرے میں نے تجھ سے
 ایک دلی چاہا تھا وہ تو نے مجھے عنایت فرمادیا تاکہ میں خوش رہوں اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے
 عنایت فرمایا ہے وہ رات دن روتا ہی رہتا ہے جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں پڑتا اور اس وجہ
 سے نیکیں رہتا ہوں جناب باری تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا چاہا تھا
 اور میں نے تجھ کو ویسا ہی دیا ہے جیسا تو نے مجھ سے طلب کیا تھا اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند
 ایسا ہو ناچاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب و روز میری
 محبت سے رویا کرے اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے اور میرے سوا کسی سے کوئی
 امید نہ رکھے یہ سنکر حضرت زکریا علیہ السلام خدا کا شکر بجالائے اور پھر قوم بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت
 کرتے رہے ایک دن کہنے لگے کہ میرا بیٹا یحییٰ بھی اگر یہ بات بہشت و دوزخ کی سنے گا تو اور بھی زیادہ روئے
 گا اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام کو عظم رسدے تھے اور حضرت یحییٰ بھی وہاں ایک کوئی

میں بیٹھے ہوئے چلے سنتے تھے اور ان سب کو معلوم تھا حضرت زکریا علیہ السلام بہشت و دوزخ کا دلفریبان فرما رہے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدٌ لَّهُمْ أَجْمَعِينَ تَبٰرَكَ الَّذِي سَخَّرَ لَهَا سُبْحٰنَ ۤأَبْوَابِہٖ ۙ كَذٰلِكَ یَبٰیۤرُ مِنْہُمْ جَزَءٌ مَّقْسُوۡمٌ اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیۡ جَنَّٰتٍ وَعِیۡنٌ اُدْحٰلُہَا یُنٰدِیۡہَا اٰمِنِیۡنَ ۙ ہٰ تَرْتَبَہَا ۙ اے دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا اور اس دوزخ کے ساتھ دروازے ہر دروازے کو ان میں ایک فرقہ بہت رہا ہے جیسے کہ بہشت کے آٹھ دروازے ہیں اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کئے ہوئے ہیں۔ شاید بہشت کے ایک دروازہ زیادہ ہے کیوں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاویں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہو گا اور باقی سات دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کئے جاویں گے اور جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمانے گا کہ اس میں سلامتی سے خاطر جمع سے رہو جب یہ نصیحت و وعظ خوف ورجائے علیہ السلام نے گوشہ میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سنا ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل سات دن رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے اور ان کی ماں پہاڑوں پر جا کر سات دن تک تلاش کرتی رہیں وہ کہیں بھی نہ ملے پورے سات دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا رہتا پھر تاپے اور شب کو فلاں نے غار میں جا کر سو جاتا ہے یہ کیا بات ہے۔ یہ بات سنتے ہی ان کی ماں ان پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہی۔ جب شام ہوئی بچی علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا پچھا کہ بھائیں ان کی ماں رو رو کر کہنے لگیں اے بیٹا ذرا اٹھ جا مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقوف کر اور مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو۔ مجھ سے کہو تو یہی وہ بولے اے اماں جان میں کیونکر خاموش رہوں مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے۔ اور مجھے یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھ کو کہاں جا کر رکھے۔ میں اسی وحشت میں پڑا ہوں آخر کیا ہو گا بہر صورت ان کی ماں نے ان کو سمجھی کہ پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر لائیں اور بچی علیہ السلام کی اس وقت عمر صرف سات برس تھی انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کی۔ اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ اور مہر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا۔ یعنی وہ لوگ بے شریعت چلنے لگے ہر چند ان کو حضرت زکریا علیہ السلام و وعظ و نصیحت کرتے رہے چونکہ ان لوگوں میں شقاوت ازلی تھی اس لیے وہ مردود کچھ نہیں سنتے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا کرتے تھے اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے درخت کے تنہ کو کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کر لی تھی اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہے**

ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کو جانتے ہوئے دیکھا دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے اور وہ مردود آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے اس کے ارد گرد بہت ہی تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر وہ حیرت زہ ہو گئے اور آپس میں پھر کہنے لگے کہ ابھی ابھی ہم لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ کہاں غائب ہو گئے یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ اس درخت کے تنے میں گھسا ہے اور دیکھ اس کے جانے کا نشان بھی ابھی تک باقی ہے مشاہین سے یہ سنتے ہی ان ظالم ! مردودوں نے ایک آ رہ بڑا لاکر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا اسی اثناء میں جبکہ وہ آ رہا چلا رہے تھے چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اندر تھے تو ان کے سر مبارک پر آ رہ جا لگا۔ حضرت زکریا ان کو اٹھے اور فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت زکریا سے کہا اسے زکریا بخدا فرماتا ہے اگر توفیق کریگا تو صابر پیغمبروں کے دفتر میں داخل تھے کہ نہ کروں گا کیوں کہ تو جاننا نہیں کہ خداوند کریم سارے عالم کو بنا ہوا بند ہے اور تو تے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی اب تو اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ و گرنہ مہر کر اس بلا سے پس زکریا علیہ السلام نے سر پر آ رہ لگنے سے ان تک نہ کی اور اپنی جان اسی طرح سے خدا کو سونپ دی اور جان بچی تسلیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ جبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی اور کچھ کافروں نے زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آ رہ سے چیر ڈال دیا مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ (۵)۔

بیان حضرت یحییٰ علیہ السلام کا

ایک روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد محترم کی وفات کے بعد بہت دنوں تک مسجد کے اندر ہی عبادت میں مشغول رہے اور بنی اسرائیل میں ملکہ تام کی ایک عورت تھی اور پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ شوہر ثانی کا اپنی بیٹی سے نکاح کر دے اور تمام قوم بنی اسرائیل کی اس بات پر متفق تھی اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے بلایا موافق شرع شریف کے اس کے شوہر ثانی سے نکاح پڑھا دیں۔ حضرت یحییٰ نے کہا کہ تمہاری بیٹی سے تمہارے شوہر کا نکاح جائز نہیں۔ اس بات کو سن کر ملکہ عورت نے غصہ ہو کر اپنے شوہر سے یہ بات کہی کہ حضرت یحییٰ اس کام سے منع کرتے ہیں کہ دختر ریبیہ سے نکاح کرنا درست نہیں اور وہ شہر کا بادشاہ تھا اس نے یہ سن کر فوراً حکم دیا کہ حضرت یحییٰ کو باندھ کر میرے پاس لاؤ تب بمرحوم حکم اس کے کافروں

نے حضرت یحییٰ کو اس طرح سے حاضر کیا۔ وہیں حضرت حیرائیل علیہ السلام نازل ہوئے فرمایا اے یحییٰ اگر تم گہو تو اس شہر کو غارت کر دوں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا۔ اے جبرائیل علیہ السلام میری تقدیر میں یہی بھی لکھا ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں وہ لوگ ہاں تب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا **رَضِيتُ بَعْضًا ؕ وَاللّٰهُ تَعَالٰی** : راضی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر۔ بالآخر اس بادشاہ مردود نے ؛ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مار ڈالا جب سر مبارک بدن سے جدا کیا تو پھر کہا اے بادشاہ اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح درست نہیں۔ فرشتوں نے یہ حال دیکھ کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا یا الہی یحییٰ نے کیا گناہ کیا تھا جو اس طرح مارا گیا حق تعالیٰ بل شانہ نے فرمایا کہ اے فرشتو! وہ میرا گہرا دوست ہے میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ الہی اپنے دوست کو اس طرح مارتے ہیں۔ نہ آئی اے فرشتو میرے خلق میں مشہور ہے دشمن کو مارنا اور دوست کو بچا رکھنا جیسا تاکہ دشمن سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اور دوست سے نفع ہو اور میں تو خدا سا رہے جہانوں کا ہوں۔ دوست کو مارتا ہوں اور دشمن کو پالتا ہوں تاکہ میری مخلوق کو معلوم ہو کہ نہ دوست سے بھڑ کو نفع ہے نہ دشمن سے بھڑ کو ضرر۔ جب یحییٰ علیہ السلام نے جان بحق تسلیم کی تب اس ملکہ کانفرہ نے اپنی بیٹی کا اپنے شوہر سے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد ہی اس پر غضب الہی نازل ہوا کس کام کے واسطے وہ اپنی چھت پر گئی تھی ہوا تیز چل رہی تھی چنانچہ ہوانے اس کو اڑا کر میدان میں پھینک دیا وہاں شیر صحرانی موجود تھا دفعۃً اس کو کپڑے پارہ پارہ کیا اور پھر کھا گیا۔ الغرض وہ اس طرح سے واصل جہنم ہوئی اس کے بعد اس کا شوہر بھی چند روز میں معہ اپنی تمام قوم کے غضب الہی سے واصل جہنم ہوا۔ اس واقعہ کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

بیان حضرت شمعون علیہ الصلوٰۃ والسلام کا

روایت ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام بڑے حق پرست زبردست شجاع و بہادر تھے۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے مانند مثال سر کے بالوں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی اور شہر کا نام عوزیہ ہے کنارے دریائے روم کے اس شہر کے بادشاہ کا نام فوطہ تھا وہ بڑا کافر تھا اس نے ایک مکان بھی عالیشان دریا کے کنارے تیار کرایا تھا اور اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے اور وہ اس میں اپنا جشن منایا کرتا تھا۔ اور حضرت شمعون علیہ السلام چار مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے اور اس کا فر بادشاہ کا چہرہ ہزار لشکر تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام سے وہ لشکر بھی لڑا کرتا تھا۔ اور حضرت شمعون علیہ السلام

چونکہ بڑے جری اور بہادر تھے اس لیے اکیلے ہی اس کافر بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً ایک ہزار اس کے فوجی مار آتے تھے اور کثیر تعداد میں مجروح - کر آتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خدا کی عبادت کرتے تھے اور چار مہینے برابر خلق خدا کی فیاضت بھی بہت کرتے تھے اور خدا تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ ان کو غالب رکھتا تھا۔ اور اسی وجہ سے تمام کافران سے عاجز رہتے تھے اور ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک بخت اور پارا تھیں ایک دن کافروں نے آپس میں صلاح کی کہ حضرت شمعون کی بیوی کو کچھ قریب دیا جائے۔ تب بادشاہ عموزیہ نے قریب کر کے کسی شخص کو مخفی شمعون کی بیوی کے پاس بھیجا اس نے کہا اے بی بی ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے ہیں اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے تم اگر ایک کام کرو کہ ان کو کسی طرح مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ عموزیہ تم سے نکاح کرے گا پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی اور تخت و سلطنت بھی تم کو ملے گی پھر تم بادشاہی کرو گی۔ پس عورت ناقص العقل نے دنیا کی طمع سے کہا کہ جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا میں بسر و چشمہ اس کو بجا لاؤں گی تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب حضرت شمعون رات کو سو جائیں تم اسے رسی سے باندھ رکھنا اور پھر ہم کو جنر کر دینا ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس لے جا دیں گے اور وہیں ان کو مار ڈالیں گے پس مردود کے کہنے سے حضرت شمعون کی بیوی نے اپنے پاس رسی چھپا کر رکھی جب رات ہو گئی اور حضرت شمعون سو گئے بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھے رسی کو توڑ ڈالا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کس نے مجھے باندھا تھا۔ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شمعون نے پھر کہا کہ تم نے مجھے کیوں باندھا تھا وہ بولی کہ میں تمہارا زور آزمائی تھی کہ تمہارے اندر زور ہے یا نہیں اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون نے کہا کہ تم خاطر جمع رکھو کوئی دشمن خدا کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھ نہیں سکتا۔ پھر چار مہینے کے بعد حضرت شمعون اس شہر میں فی سبیل اللہ کے واسطے گئے اور پھر وہاں سے لڑائی فتح کر کے واپس تشریف لے آئے۔ پھر بادشاہ عموزیہ نے حضرت شمعون کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا وہ بولی میں نے اس کو باندھا تھا لیکن وہ بڑا ہی زور آور ہے اس نے اسے رسی توڑ ڈالی تم لوگ بادشاہ سے جا کر کہو۔ چنانچہ وہ لوگ پھر واپس بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا۔ پھر بادشاہ نے بہت سال و دولت دے کر اور ایک لوہے کی زنجیر حضرت شمعون کی بیوی کے پاس بچھ دی کہ اب اس سے اس کو باندھ رکھنا اور پھر فوراً گھر کو جنر دینا پس

دوسرے دن حضرت شمعون کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا جب حضرت شمعون نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیر میں بندھے دیکھے یہ دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی پھر اس کی منبر بادشاہ کو پہنچی بادشاہ عموزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز منظور نہیں ہے آخر میں اس کے باندھنے کے واسطے کیا بھیجوں اب تو صورت یہ ہی ہے کہ اس سے کہو کہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو پھر انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی سے جا کر کہا وہ بولی بہت اچھا کچھ تدبیر کروں گی اور پھر آپ کو کیلا بھیجوں گی آپ سب حاضر جمع رکھئے ایک دن شمعون لڑائی سے واپس گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے ان کی بیوی نے کہا کہ اے صاحب تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے اب تم ہم کو یہ بتاؤ کہ ایسی کوئی چیز بھی ہے کہ اس سے تم کو بند کر کے رکھ سکیں اور تم اس کو باوجود زور آزمائی کے توڑ نہ سکو۔ یہ سن کر حضرت شمعون نے کہا کہ تمہارا اس سے کیا مطلب ہے اور یہ چیز تم کیوں پوچھتی ہو وہ بولی میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں یہ سن کر حضرت شمعون نے کہا کہ مجھ کو ایک چیز سے باندھ سکتی ہو یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے شب کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر رسی بٹ کر دست و پا ان کے منظور باندھے انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ ارے مجھے کس نے اس طرح سے باندھا ہے ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے اور میں تمہاری قوت آزمائی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ لیکن خدا کی مرضی کو میں نہیں کہتی ہوں۔ حضرت شمعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ میرے بند کھو لو وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا آپ نے اپنی قوت بازو سے کھولا تھا۔ اس دفعہ مجھے کیوں جلاتے ہو اس کے جواب میں حضرت شمعون نے کہا کہ اگر میں ہوں اور زور لگاؤں گا کہ تو میرے تمام بدن کی بیڑیاں درہم برہم ہو جائیں گی پس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت نہ رہی پھر بادشاہ عموزیہ کو خبر دی یہ سنتے ہی اس ملعون نے ایک ہزار مرد جنگی شتر سوار بھیجے انہوں نے اگر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پیر ناک کان کاٹ کر اور ان کی انگلیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر ان کافروں نے بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ اور سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم سب شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کو سیدست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی صرف ان کا دھڑ باقی تھا۔ بادشاہ عموزیہ کے سامنے لے جا کر رکھا تو کوئی شخص ان کافروں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے اور کسی نے کہا کہ میرے بھائی کو اس نے مارا ہے اور پھر ہر شخص جو

کرنے لگا اور جب دیکھا کہ ابھی دھڑ میں کچھ معمولی سی رتق باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اُس کو دریا کے کنارے سے جا کر بالاخانہ پر سے ان کو دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جیرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا اور جو کچھ اعضا ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دینے گئے تھے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آکر لضب ہو گئے پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جیرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ سے کہا کہ اے شمعون علیہ السلام خدا نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھو دو کہ اس دریا میں ڈال دیا اور اس طرح کیا کہ کوئی متفقس اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا اور پھر خدا کا شکر بخالائے اور اپنے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا خدا کے حکم سے حضرت جیرائیل آئے اور کہا کہ خدا تم کو فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی اذیت بھی مت دو کیوں کہ اس نے نادانی سے یا دشاہ عوزیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا چونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے تم اس کی یہ تفسیر معاف کرو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو خدا مالک ہے۔ یہاں تک تو یہ واقعہ قصص الانبیاء میں حضرت شمعون کا بیان کیا گیا ہے اور بعض تاریخ کی کتابوں میں اور بعض تفسیروں میں جیسے تفسیر مرادیہ اور جامع التواریخ میں شمعون کو بنی کر کے نہیں لکھا ہے بلکہ بلاد عرب میں بنی اسرائیل میں شمعون نام ایک عابد زاہد پارس تھا اولاً اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا تھا اور اس کی نیک کاری اور نیک نیتی کے سبب ثانیاً ایک ہزار مہینے کی عمر اس کو بخشی اور وہ ہزار مہینے تک روزے رکھتے تھے اور شب و روز عبادت کرتے تھے اور کافروں سے جہاد کرتے تھے اور وہ ہر وقت نیک کام کرتے تھے جو ثواب کا باعث ہوتے تھے ایک دن ان کی بیوی نے کافروں کی صلاح سے کافروں کے ہاتھوں سے ان کو مراد اللاجس کا ذکر تفسیر مرادیہ میں لکھا ہے میں اسی پر اس واقعہ کو اکتفا کرنا ہوں۔

بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بطسابتنا کے بطن سے تھے وہ بطشا اور یاکئی بی بی خین بعد شہید ہونے اور یا کے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام

نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے بطن سے ہیں اور یہ واقعہ جامع التواریخ میں مذکور ہے جب سلیمان علیہ السلام تخت سلطنت پر متمکن ہوئے اور اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھے اور اکثری سلطنت کی انگلی میں رکھی اور پھر لوگوں سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَرَسَتْ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا أَنَا نَزَّجَمَهُ: اور وارث ہوا سلیمان حضرت داؤد کا یعنی نبی اور بادشاہ ہوا اپنے باپ کی جگہ پر اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے لوگو! سکھائی گئی ہیں بولیاں ہمیں ہر جانور کی اور دیے گئے ہیں ہم ہر چیز سے یعنی جو چیز دنیا میں درکار ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو عنایت فرمائی ہیں۔ بیشک ہزرگی ظاہر بھی عنایت فرمائی ہے جب سلیمان کا تخت نکلتا اور ہو اپر بیٹا تھا تو تمام پرندے ہوا کے جھنڈ کے جھنڈ ان کے تخت پر آکر پردوں کا سایہ کرتے اور فوج انسانوں کی دہشتی طرف اور بائیں طرف ہوتی تھی اور تمام چوہش و طیور چپے راست پس و پیش گرداگرد حلقہ بندہ کر ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَحَشَرَ سُلَيْمَانُ حَبْرُودَةَ مِنَ الْجِبْتِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُدُيُوزَعُونَ ۗ ترجمہ اور اکٹھے کیے گئے واسطے سلیمان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور جانوروں سے پس وہ مثل بمثل کھڑے کیے جاتے ہیں بعض تفسیر میں یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کا تخت وہ تھا جس پر سب لشکر چلتا تھا اور ہوا اس کو لے چلتی تھی۔ جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَاسْلُمِينَ الرِّيحُ مَعَهُ وَهَاشَمُهُمْ وَرَوَاهَا شَهْرُ اللَّيْلَةِ ۗ ترجمہ! اور سحر کیا واسطے سلیمان کے ہوا کو مبع کی یعنی میر و مسافت میں سے شام کی ایک ہینہ کی تھی اور شام کی مین تک بھی ایک ہینہ کی مسافت تھی، اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا اور جنوں میں سے بھی لوگ خدمت کرتے تھے اور یہ سب پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا قرآن مجید کے ترجمہ کے خلاصہ میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ملک مین کی طرف اور اس تانبے کو سا پھرن میں ڈال کر برتن اور بڑی بڑی وگیں بناتے تھے اور اس میں شکر کے موافق کھانا دیرہ پگھلتا تھا اور پھر تقسیم کیا جاتا تھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ لَنْ فَسْخَرْنَا لَكَ الرِّيحَ تَجِدُونَهَا بِمُزَةٍ رِيحًا ۗ حَيْثُ أَصَابَ ۗ ترجمہ پھر ہم نے تابع کی اس کے ہوا جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا کہتے ہیں کہ جس جگہ مال و فینا رہتا تھا زمین دہاں کی آواز دیتی تھی کہ اے سلیمان جو کچھ مال مجھ میں ہے اٹھائے جا اور اس کو اپنے کام میں لے لو۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ زمین کے دھینے سے موتی جو ابرات دریا خشکی سے لاکر جمع کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ دَعْوَا صِ ۗ ترجمہ! اور بلع کیے سلیمان کے شیطان

ایک عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں معلوم کرتے کہ کوئی جن تانا ہے آدمیوں کو تو حضرت سلیمان اس کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے اور بعض تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جن تو اب تک قید میں ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکان نہایت عالیشان پر تکلف ایسا بنوایا تھا کہ اس کا طول عرض چھتیس کوس کا تھا۔ اور اس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں اور اس میں یا قوت زمر درجے تھے اور اس میں تقریباً سات سو کوشک سات سو صوموں کے واسطے اور تین سو کوشک تین سو بیویوں کے واسطے بنائے تھے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر شنب کو اپنی بیویوں اور صوموں کے پاس جاتے تھے اور پھر سب سے جماع بھی کرتے تھے۔ اور دوسری جانب ایک مکان نہایت عالیشان کے ساتھ ایک کوشک بھی بنوایا تھا کہ درازی بھی اس کی تقریباً بارہ کوس کی تھی۔ ایک کوشک پر آپ کے تخت کا جلوس تھا اور اس کا طول تین کوس کا تھا اور سب ہاتھی کے دانت کا تھا اور لعل و فیروزہ اور زمرد اور مر و اربد سے مرصع کیا تھا اور اس کے گردا گرد سونے کی اینٹیں لگی تھی اور اس کے چاروں طرف کوزوں پر چاند کے درخت اور اس درخت کی ڈالیاں سونے کی اور پتے اس کے زمر و سبز کے لگائے تھے اور ہر ایک ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک و غیرہ بھرا تھا اور خوشے مثل انگور کے تھے اور جو لعل دیا قوت سے بنائے گئے تھے اور نیچے تخت کے داہنے اور بائیں ایک ہزار کرسی سونے کی لگائی گئی تھی اس پر آدمی بیٹھتے تھے اور ان کے پیچھے جن و انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناج شاہی سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی بیٹیت سے تخت اس وقت حرکت میں آجاتا تھا اور طوطی اور طاؤس بھی جگمگدا اپنے اپنے پردوں کو پھیلا دیتے تھے اور پھر اس سے بڑے مشک و غیرہ نکلتی تھی اور حضرت سلیمان اس تخت پر بیٹھ کر تہریت پڑھتے تھے اور پھر خدا کی مخلوق پر حکم فرماتے تھے اور ہر ایک بولنے کو ابھی طرح سے سمجھتے تھے اور ناج شاہی جب سر پر اپنے رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے اور جہاز کو حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق فرش زربفت کا چادیں اور اس کے کنارے کنارے ہنریں جاری تھیں اور تخت گاہ کے مکان میں کئی ٹھراہیں تھیں اور سب عابد اس میں عبادت کیا کرتے تھے اور ابر کو حکم کرتے تھے کہ پانی پھر بھر کر دی جاویں اور ان کے باورچی خانے میں ہر روز کافی تعداد میں کھانا پکایا جاتا تھا۔ باوجود اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باورچی خانے سے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ کھانا تمام کا

تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زمیں سینے اور پھر اس کو بیچتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے جو کوئیں کر آتا بنتے تھے اور پھر اس کی روٹی پکاتے اور ہر شام کو بیت المقدس میں جا کر مسلمان روزہ دار اور درویش غریب کو ساتھ لے کر کھاتے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے اور ہر وقت خداوند قدوس سے مناجات کرتے رہتے تھے اور کہتے کہ یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی بادشاہوں اور پیغمبروں میں بھی ایک پیغمبر ہوں، اے میرے مالک میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں اس کی ادائیگی کی بھ میں طاقت نہیں ہے فقط۔

زیارت کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تمام مخلوقات کو

حضرت دہب ابن مہبہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان کو مشرق و مغرب اور سارے جہان کی سلطنت ملی تو انہوں نے جناب باری میں عرض کیا یا الہی مجھ کو آرزو ہے کہ ایک دن سارے عالم کی مخلوقات کی جو کہ تیری آفریدہ ہے شکلی و تیری میں انسانوں میں جنوں میں چوہوں میں طیور میں پہلنگ کو چھوٹی رکھی اور کھڑے مکوڑے الغرض جتنے بھی ذی روح ہیں سب کی زیارت کروں، عینب سے ندا آئی اے سلیمان میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں میری موجودات مخلوقات بے انتہا سے ایسے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خداوند اتونے مجھ کو بہت نعمت دی ہے تیری عنایت سے سب کو ہے اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک مکان نہایت عالیشان بناؤ اور اس کو نہایت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دواس میں آسانی سے آسکے اس مکان کی تیاری میں تقریباً ایک سال اور آٹھ مہینے صرف ہوئے اور مشرق مغرب سارے جہاں سے اس بڑے مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان و اسباب جیسا کیا اور بہت کثیر تعداد میں ویکیں بڑی لمبی چوڑی اور ایک لگن مثل تالاب کے جنوں نے تیار کی۔ اور یہ واقعات مختلف تواریخ سے لکھے گئے ہیں اور جامع التواریخ میں لکھا ہے کہ دو ہزار سات ویکیں بکوانی گئیں تھیں اور ہر ایک بڑی کافی لمبی چوڑی تھی مثل تالاب کے جنوں نے تیار کی تھیں چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

يُفْعَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَيْثُ رِئْبٌ وَتَمَاثِلٌ وَجِفَانٌ كَالْجَوَابِ وَرُقُدٌ رِئِبٌ وَرِئِبٌ رِئِبٌ

ترجمہ یعنی بنائے تھے حضرت سلیمان کے واسطے جو کچھ چاہتا تھا۔ قلعوں سے اور ان ہتھیاروں سے اور لگن مانند تالابوں کے اور ویکیں ایک جگہ پر رہی رہنے والی ایک حوالہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوت میں اس وقت بائیس ہزار گائیں ذبح ہوئی تھی اور باقی اثنا بیساف کواں پر قیاس

کر لینا چاہیے اور یہ جامع التورخ سے لکھا گیا ہے۔ چنانچہ جب کھانا تیار ہوا جن والوں اور حیوانات سب کو
 اس بڑے وسیع مکان کے میدان میں بٹھایا گیا اور پھر ہوا کو حکم کیا کہ وہ بساطِ تخت سلیمان کا دریا کے
 کے اوپر ہوا پر معلق رکھے تاکہ اس کو ہر منتقس اپنی نظر سے دیکھے۔ مثلاً ان تمام مخلوق کے اس وقت ایک
 ٹھیلی نے دریا سے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اے حضرت خداوند قدوس نے
 مجھ کو ایک دعوت میں بھیجا ہے اور تم کو بھیجی ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے واسطے کھانا تیار کیا
 ہے اور میں اس وقت بہت بھوکے ہوں، لہذا آپ مجھ کو پہلے کھلا دیجیے یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے
 اس ٹھیلی سے کہا کہ تم ذرا صبر کرو اور سب کو لینے دو ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہا کھا لینا۔ خوب آسودہ ہو کر
 کھانا اچھی طرح کھانا۔ ٹھیلی بولی کہ حضرت میں تو اتنی دیر نہ ٹھہر سکوں گی کہ میں سب کا انتظار کروں۔ یہ سنتے ہی
 حضرت سلیمان نے اس سے کہا کہ اگر تم نہیں ٹھہر سکو گی تو پھر تم کھانا کھا لو اور تمہارا جتنا چاہیے کھا لو یہ
 سنتے ہی ٹھیلی نے اس میدان میں کچھ کھانا تیار ہوا تھا وہ سارا کھانا اپنے ایک ہی لقمے میں سب کھا کر
 اور کھانا مانگنے لگی اے حضرت سلیمان بھڑ کر تو اور کھانا چاہیے یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی
 متعجب ہوئے اور اس سے کہا اے ٹھیلی میں تو تمام مخلوقات کے واسطے کھانا تیار کیا تھا تو سب کھا
 گئی اور تیرا اس سے پیٹ بھی نہیں بھرا اور پھر تو اور بھی کھانا مانگتی ہے ٹھیلی نے کہا اے حضرت ہر روز
 مجھے تین لقمے کھانا چاہیے اور جو تم نے تیار کیا تھا یہ تو میرا ایک ہی لقمہ ہوا۔ اس کے علاوہ مجھے دو لقمے اور
 بھی درکار ہیں تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا اور میں تو آج آپ کی مہمانی میں بھوکے رہی اگر تم اسی طرح
 اور لوگوں کو کھانا دے نہ سکو گے تو آپ نے ناحق لوگوں کو بلوایا اور لوگ آپ سے شنائی ہو کر جانش
 کے حضرت سلیمان ٹھیلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور یہوشی طاری ہو گئی اور کچھ عرصہ کے
 بعد ان کو ہوش آیا اور اپنا سر سجڑے میں رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کر کے رونے لگے اور کہنے
 لگے کہ الہی میں نے بہت ہی تصور کیا اور نادانی کی تیری درگاہ میں، میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ
 کرتا ہوں۔ بس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہان کو تو ہی ہے اور میں نادان و مسکین ہوں
 اور تو ہی داتا اور توانا ہے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن تمام ظلال جو مدعی تھی بھوکے
 رہی اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹھیلی وہ تھی کہ ہفت طبق زمین جس کی پشت
 پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور اس دن زمین کو اللہ تعالیٰ نے معلق رکھا ہوا تھا اور بعضوں نے روایت
 کی ہے کہ دریا کی ٹھیلیاں اگر اس دن سب کھانا کھا گئی تھیں اور اکثر علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریائی
 جانور بھیجا تھا اس نے ایک لقمہ میں سب کھانا کھا لیا تھا کہ قدرت اور عجز و توانائی حضرت سلیمان کی

خلائق کو دکھاوے۔ (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات حیوینیوں کے بادشاہ کے ساتھ

ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہو اور بار بار یہ تھے جو تخت جنوں نے بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے اور ان کے ایک ہزار سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف باہ تھا۔ وہ سب کے سب جن والوں کے درگاہ تخت شاہی کے مؤدب کھڑے تھے اور ہوا پر اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی اور وہ کہتے تھے کہ اے رب تو نے حضرت سلیمان کو جیسا ملک و شہنشاہ دیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو! میں نے سلیمان کو بہت اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے مجھی سرفراز کیا ہے لیکن ان کو مغرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اور ان کو ذرا بھی کبر ہو تا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ پس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور پھر خدا کے دربار میں سجدہ بجا لاتے اور سوانے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا۔ جہاں کہ حیوینیوں کی بستی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: حَتّٰی اِذَا اَذْعَبْنَا وَاذِ الْقَيْلِ ؕ قَالَتْ كَمْ لَمَّةٌ الْاَيَةِ نَزَّحِبْ اِيْهٰن تَكْ كَبْ حَبِ سَلِيْمٰنَ بِنِيْجِ

حیوینیوں کے میدان پر کہا ایک چوٹی نے اے حیوینیو! گس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہیں ڈالے تم سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو! پس شاہ مور سے یہ بات حضرت سلیمان نے سن کر مسکرائے کہا کہ یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَتَسْمَعُ صَوٰهٖ كَامِيْنَ قَوْلِهَا ؕ تَرْجَمُہٗنَّ بِسُكْرٍ اَنْ سَلَمٰنَ عَلِيْہِ السَّلَامِ چوٹی کی بات سن کر پھر انہوں نے شاہ مور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی پھیلی پر رکھ کر پوچھا اے شاہ مور تم نے اپنے لشکروں کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اپنے اپنے غاروں میں گس جاؤ تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا جس بات کو سن کر چوٹی نے کہا۔ اے بنی اللہ ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا مگر اس واسطے کہ سہو! آپ کے لشکروں کے گھوڑے کی ناپوں کے تلے ہم سب آجائیں اور وٹاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں یہ کلام ہم نے تو حفظاً مقدم کے واسطے کیا تھا اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسی ہی شفیقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے

کہ اس بات سے کہ بعد موت ہمیں دینا ہوا جیسی معلوم ہو گئی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا مثل ہوا کے ہے۔ پھر چوٹی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہیں پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا وہ چوٹی بولی اس کے معنی یہ ہیں کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا ہر ساعت موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان نے چوٹی سے کہا کہ تو بڑی دانا و عقلمند ہے مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے نیکو کار بنا چوٹی نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہت بھی دی ہے کہ تم رعیتوں کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد لو۔ اور میں تو بیچارہ سیضعف و مسکین ہوں اپنی رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعت کرنا چاہی۔ شاہ مور نے کہا اے حضرت سلیمان بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانے مناسب ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت اچھا تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان کے واسطے لاکھی یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے اے شاہ مور مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی اس نے کہا حضرت اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے اور اس میں بہت برکت ہے اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مع اپنے لشکر کے ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان یہ حال دیکھ کر بہت ہی متوجہ ہوئے اور پھر سجدے میں گر کر کہا اے پروردگار تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بیشک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔

وَفِي حِكْمَتِهِ لَآيَةٌ
تُدَلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور خبر لانا بدہ کا بلقیس کے شہر سے
روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوا پر پرواز کر رہے تھے اور تمام جن وانس ان کی لباط پر حاضر تھے اور پرندے سب اپنے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھے لیکر ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرنی آفتاب معلوم ہوئی جب انہوں نے اسی طرف دیکھا اور بہت عمیق نظر کی تو سب پرندوں کو دیکھا کہ حاضر ہیں مگر بدہ کو نہ دیکھا

اسی وقت آپ نے فرمایا قولہ تعالیٰ: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَمَّ هَذَا جِئْتُكُمْ كَمَا كُنْتُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ ترجمہ اور جنرلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑتے ہوئے جانوروں کی۔ پس کہا کیا ہے مجھ کو کہ نہیں دیکھتا ہوں میں ہڈی ہڈی سے کرنا وہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے البتہ عذاب کروں گا میں اس کو عذاب سخت یا ذبح کروں گا میں اس کو یا پھر لاویگا میرے پاس کوئی کوئی دلیل ظاہر۔ پس اسی وقت عقاب کو بھیجا برانے تلاش ہڈی کے عقاب نے فوراً ہی ہڈی کو لا کر حاضر کر دیا تو اس وقت حضرت سلیمان نے اس ہڈی سے پوچھا کہ تو کہاں گیا ہوا تھا اس کے جواب میں ہڈی نے کہا ایک خوشبو لایا ہوں آپ کے واسطے شہر سے اسے قولہ تعالیٰ فَقَالَ اَحْطَطُوْا بِمَا لَمْ تَحْطُ بِهٖ ۗ ترجمہ: بولا ہڈی میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں۔ اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سب ایک قوم تھی اور ان کا وطن سرزمین عرب میں یمن کی طرف تھا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب ایک شہر کا نام تھا۔ بہر حال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہڈی سے کہا کہ تو وہاں سے کیا خبر لے کر آیا ہے اور تو وہاں کس طرح گیا اس کو بھی اچھی طرح سے بیان کر۔ یہ بات سن کر ہڈی نے کہا کہ اے نبی اللہ فلانے وقت جب آپ تخت سے منہ منہ اترے تھا اس وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا کہ میرا ہم جنس ایک ہڈی دیوانہ بن گئے اور پر بیٹھا تھا چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ وہ بولا کہ حضرت سلیمان کون ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ اس وقت بادشاہ ہیں جن دانس و حوش و طیور اور جمیع مخلوقات کے اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ وہ بولا میں تو اس شہر کا رہنے والا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اس شہر کا نام کیا ہے وہ بولا کہ اس شہر کا نام سب ہے پھر میں نے اس سے کہا کہ اس شہر کا بادشاہ کون ہے۔ وہ بولا اس شہر کا بادشاہ بلقیس نام کی ایک عورت ہے اور وہی اس ملک کی ملکہ ہے اور اس کے تابع بارہ ہزار سردار قوم اور ہر سردار کے تابع ایک ایک لاکھ سوار و پیادہ ہر وقت رہتے ہیں اور تو میرے ساتھ چل میں بھر کو وہ سب دکھاتا ہوں۔ تب اس سے میں نے کہا کہ بہت دیر ہوئی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا ہوں کبھی بادشاہ کو یا لشکر کو پانی کی تلاش ہو تو اس وقت وہ مجھے تلاش کریں گے اور میں اس وقت حاضر نہ ہوں گا تو پھر مجھ کو سخت سزا دیں گے کیوں کہ پانی کے واسطے مقرر ہوں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہڈی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصارت دی تھی کہ جس زمین میں پانی ہوتا یا نہ ہوتا وہ دور دور تک دیکھ کر بتا دیتا تھا اور جہاں حضرت سلیمان علیہ کا تخت شاہی جاتا وہاں ہڈی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور پھر اس کو پانی کے واسطے بھی بھیجتے

تھے۔ جہاں وہ نشان دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کو بھیج کر تالاب و کنواں کھدوا کر وہاں سے پانی منگواتے تھے۔ الغرض اس بُدبُہنے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور وہاں جا کر بلیقیں دفتر تیز ایل کو دیکھو کہ اس کی شان و شوکت کیسی ہے اور اس کے صن و اخلاق کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے پھر میں اس کے کہنے سے اس اس جگر پر گیا اور شہر سبائیں بلیقیں کو دیکھا ایک تخت عظیم ہے کہ طول و عرض اس کا تیس گز ہے اور تمام جوارہا سے مرصع اور چاروں پائے اس کے یا قوت سرخ اور زبرجد اور زرد اور لعل کے ہیں اس پر وہ بیٹھی ہے اور وہ بے دین اور وہ آفتاب پرست ہے۔ اور وہ اپنا شوہر بھی نہیں رکھتی۔ حضرت سلیمان نے کہا تو نے جو کچھ مجھ کو برا لیکن تو نے کیونکر جانا کہ وہ بے دین ہے؟ اس نے جواب میں کہا۔ قولہ تعالیٰ: اِنِّیْ دَجَبْتُ اَصْرَکُمْ تَمَلِّکُمْ هُمْ دَاوِقِیْتُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ۔ (الایتہ ترجمہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بُدبُہنوں نے پایا ایک عورت بادشاہی کرتی اور اپنی قوم کی اور اس کو ہر چیز عنایت کی گئی ہے یعنی مال و اسباب صن و جمال اور اس کا ایک تخت شاہی بہت بڑا ہے۔ اور میں نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ اس کی قوم اس کو سجدہ کرتی ہے اور وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے تھے اور اس کو خدا مانتے تھے اور حقیقی مجبور کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ اے بنی اللہ کے مجھ کو آپ کچھ خلعت عطا فرمائیے تاکہ میرے پاس آپ کا کچھ نشان رہے اور پھر میرے بعد میرے فرزند بھی آپ کو یاد کرتے رہیں۔ یہ سکر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بُدبُہنے سے کہا قولہ تعالیٰ مَسْتَقْبِرٌ اَصْدَقْتُ اَمَّ دُکْنْتُ مِنْ اَلْکَنِیْنِیْنِ ۗ ترجمہ کیا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ ہے۔ یہ سکر بُدبُہنوں نے بنی اللہ آپ سے جھوٹ نہیں کہتا ہوں اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بُدبُہنے کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے اور پھر بُدبُہنے حضرت سلیمان سے کہا اس سے بہتر خلعت چاہتا ہوں آپ سے کہ جس میں میری اولاد کی ہنری ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کار قضا کا تجھ کو اور تیری اولاد کو میں نے دیا اور تو بلیقیں کے پاس میرا خط لے کر جا۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِذْ هَبْ بِکِتَابِیْ هٰذَا اِلَیْکَ اِنِّیْ اٰکِبْہُمْ۔ (الایتہ ترجمہ! اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ میرا خط لے جا اور وہ خط لے جا کر اس کی طرف ڈال دو اور پھر اس کے پاس سے چلے آؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا سنز مہر سلیمانی کر کے اس بُدبُہنے کے حوالے کیا۔ اور وہ خط بُدبُہنوں کو پہنچا میں نے کر شہر سبائیں بلیقیں کے در پر جا پہنچا اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلیقیں کے مکان تک دس کوس کا فاصلہ تھا اور ہفت در قصر معلیٰ بلیقیں کے بند پائے لیکن اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اس کے اندر جا کر دیکھا تو بلیقیں کو سزنا

ہوا پایا اور اس خط کو بلقیس کی چھاتی پر رکھ کر چپکے سے باہر نکل آیا۔ جب بلقیس بیدار ہوئی تو وہ خط سلیمان کو اپنی چھاتی پر پایا اور اس نے اس کے لانے والے کو معلوم نہ کیا اور اپنے دل میں کچھ خوف زہرہ سے ہو گئی پھر اس نے اپنے کارپردازوں کو بلا کر ان سے پوچھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنَّ إِلَهِي لَخَيْرٌ مِّنْ إِلَهِكُمْ وَرَبٌّ كَبِيرٌ إِنَّهُ مَن سَلِيْمَانَ أَخْتَرْتُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ** اور کہنے لگی بلقیس اے درباریوں! مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس یہ خط کس طرح سے ڈال دیا ہے اور وہ خط بڑی عزت و عظمت کا ہے اور ہے وہ حضرت سلیمان کی طرف سے اور اس خط کو شروع بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا گیا ہے جو بڑا بہر بان ہے نہایت رحم والا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنی سلطنت پر زور مت دکھاؤ اور میرے پاس مسلمان ہو کر چلی آؤ۔ بلقیس نے یہ خط پا کر اس کو بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا اور خدا کی مہربانی سے وہ دولت اسلام سے مشرف ہو گئی اور تقدیر الہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی اور خط کا مضمون دریافت کر کے کہنے لگی اپنے ملازموں سے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے **قَوْلَهُ تَعَالَىٰ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي الْآيَةَ نَزَّحْتُمْ لَكُمْ أَنَّكُمْ كَذِبُونَ** اور جو اب دیکھ لے جو حکم کرے یہ سکر بلقیس نے کہا کہ مجھ کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسلام کی دعوت دیتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ تم آفتاب پرستی چھوڑ دو اور اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اگر میں ان کی یہ بات نہ مانوں گی تو وہ میری سلطنت کو برباد کر دیں گے چنانچہ **قَوْلَهُ تَعَالَىٰ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَهْرَاقُوا سَكِّبًا وَهَارُوا كَرِيهًا وَأَخْرَجُوا أَهْلَ الْبَلَدِ مِنْ دَارِهِمْ أَكْثَرًا كَثِيرًا** کہا بلقیس نے تحقیق بادشاہ جس وقت کسی بستی یا ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح سے اگر وہ ہمارے ملک میں داخل ہونے تو پورے ملک کو خراب کریں گے اور پھر بلقیس کہنے لگی **قَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَإِنِّي مُؤْمِنَةٌ بِمَا رَّبِّي أَنزَلَ إِلَيْنَا فِي الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْلَعُنَا عَزِيمَتِي** اور اگر سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں ہے چنانچہ میں ہدیہ بھیج کر ان کی آزمائش کرتی ہوں۔ کیونکہ اگر وہ پیغمبر خدا ہوں گے تو وہ ہدیہ نہیں لیں گے اور بغیر اسلام کے وہ کسی طرح راضی نہ ہوں گے بلقیس کے وزیر نے کہا اے بلقیس تمہاری جو مرضی میں آئے وہ کرو۔ پس بلقیس نے قسم قسم کے ہدیے اور تحائف حضرت سلیمان علیہ

السلام کے پاس ایک لالچی کے ہاتھ بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور ایک ہزار وزیران کے چاندی کی کرسیوں پر ان کی ملازمت میں بیٹھے تھے تو اور جن ان کے گرد اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے مؤدب کھڑے تھے اور ہزاروں پرند ہوا کے ان کے سر پر سایہ دے رہے تھے ہم نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچانی کہ آپ کو بلقیس نے بہت سے ہدیے و تحائف اور سات اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور سات پردے زر لہنت کے حضور کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے ہیں یہ چیزیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ بادشاہی دروازے کے سامنے میدان کی دیوار سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہے وہاں سے سات اینٹیں سونے کی اور سات اینٹیں چاندی کی اور سات پردے زر لہنت کے لئے اُدُوب ان قاصدوں نے شاہی میدان کو دیکھا اور اس دیوار کے قریب آئے تو وہ قاصد یہ شان و شوکت اور حشمت و عظمت کو دیکھ کر مہر بچکارہ گئے اور پھروہ ہوئے کہ یہ ہم چند طشت سونے کی حضرت سلیمان کی تدر کیوں کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دروازوں ان کی شاہی بارگاہ کے میدان سونے اور چاندی کے ہیں اور ہماری یہ چودہ اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اور جس دیوار سے وہ چودہ اینٹیں سونے و چاندی کے ہیں اور سات پردے زر لہنت کے کھلو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوائیے تھے۔ جب اس جگہ پر بلفیسر کے بیٹھے ہوئے قاصد وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ دیکھ کر کہا کہ شاید ہم کو چور ٹھہرا کے پکڑنے کے لیے یہاں سے اینٹیں نکال کر فریب کیا ہے۔ غرض بلقیس کے قاصد نے حضرت سلیمان کے پاس آکر وہ تمام تحفے و تحائف ان کی خدمت میں پیش کر دیئے اور پھر شرطیں خدمت کی بجالائے چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ هٰكِيْمِيْ قَالَ اَتَيْتُّوْنِيْ بِمَا لَيْ۔ الايت۔ ترجمہ پس جب آیا حضرت سلیمان کے پاس بلقیس کا قاصد تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا مدد دیتے ہو میرے لیے اپنے مال سے پس جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ دیا ہے تم کو اور جاؤ تم اپنے اس تحفے سے خوش رہو اور ان کو یہ تحفے واپس کر دو پھر تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ اور اب ہم جیتے ہیں ان لشکروں کو کہ بن کا وہ سلیمانہ کر سکیں گے اور ہم ان کو اب نکال دیں گے بے عزت کر کے اس شہر سے پس وہ دلیل ہو جائیں گے یہ بھر لے کر بلقیس کے قاصد فوراً واپس ہوئے اور وہاں پہنچ کر بلقیس سے کہا کہ وہ صاحب حشمت و عظمت اور سنوت سے سرفراز ہیں۔ یہ منکر وہ بولی کہ وہ بیشک نبی ہیں گے اور ان سے کہو کہ اپنی نبرت کا کچھ معجزہ دکھائیں کیونکہ اصل دلیل پیغمبری کی معجزہ ہوا کرتی ہے چنانچہ وہ ہم کو اپنا معجزہ دکھائیں تب ہم سب ان پر ایمان لے آویں گے اور بلقیس نے ایک سولونڈی اور

غلام سب کو ایک ہی صورت کے لباس پہنا کر اور لکڑیا قوت ناسفتہ ڈیرہ میں رکھ کر اور چند مادیوں اسپ ساتھ کر کے ملا کر اور ایک شیشہ خالی واسطے امتحان و امتیاز کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے قاصدوں کے ہاتھ پھینکا اور کہا کہ تم جاؤ اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچاؤ اور پھر ان سے کہو کہ آپ العاصب غلام اور لونڈیوں میں امتیاز کر دیں اور اس یا قوت ناسفتہ کو سفتہ کر دیں یعنی آہن اور الماس کے اور اسپ اور مادیوں کرہ سے جدا کر دیں اور یہ شیشہ بھی پانی سے بھر دیں اور نہ وہ پانی آسمان سے برسا ہو۔ اور نہ وہ زمین سے نکلا ہو۔ پھر وہاں سے جلد چلے آؤ میرے پاس اس بات کی خبر لے کر جتنا چنچہ قاصدوں نے وہ سب لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اور وہ شرطیں جو بلیقیں نے چلتے وقت کہیں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیان کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سیلابی آفتاب لا کر پہلے لونڈی اور غلام کے ہاتھ دھلائے۔ لونڈیوں نے اپنا کف دست دھویا وہ لونڈیاں تھیں اور وجہوں نے سر انگشت دھویا وہ سب کے سب غلام تھے۔ اور عورت و مردوں یہی عادت ہے اور دوسرا عجیبہ کہ یا قوت چھیدار نے کو کیرے کو حکم کیا۔ چنا چنچہ کیرے نے فوراً چھیدا۔ اور تیسرا عجیبہ کہ اسپ مادیوں اور کرہ کو لیں و پیش بندھو کر سٹنے دانگھاں دیا۔ ان میں سے بعضوں نے دانہ پر جلدی سر بڑھایا اور بعضوں نے پیچھے پس اس سے حضرت نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنا منہ دانے پر بڑھایا سو وہ مادیوں کند ہیں اور جن گھوڑوں نے تاخیر کی کھانے میں وہ ناکند ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑا دو اور ان کے پسینے سے شیشہ بھرا۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلیقیں کے سوالات ناشائستہ کو بطریق شائستہ حل کے اور اس کے قاصدوں کو خلعت دے کر رخصت کیا۔ پس قاصدوں نے بلیقیں سے جا کر یہ معجزات اور کرامتیں بالشرح بیان کیں بلیقیں نے یہ سن کر اپنے ارکان دولت سے کہا کہ بہتر ہے کہ میں حضرت سلیمان کے پاس جاؤں اور ان کی اطاعت قبول کروں یہ کہہ کر بلیقیں نے اسباب سفر کا تیار کر لیا اپنے ساتھ لونڈی و غلام اور بہت سا لشکر بھی اپنے ساتھ لے لیا اور تخت و دولت کو ہفت خانے میں رکھ کر ہفت در بند کر کے گنجیاں اپنے ساتھ لے لیں، اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ معتمد الہ کے پیر و کردیں اور پھر اس سے کہا کہ تخت جزاؤ اور دولت پہ مدار سلطنت ہے اچھی طرح حفاظت سے رکھنا یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے کا قصد و غرض کیا چنا چنچہ سزا نے جلدی سے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلیقیں ملکہ شہر سے عنقریب حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہے اور سزا سے بھی پہلے جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آکر کہا۔ اور

کچھ مذہبیت بھی بلیقیں کی میان کی تھی کہ اس کی ساق پر بال بہت ہے اور کچھ کم نقل بھی ہے کیوں کہ ان کی
 ماں جنوں سے تعلق رکھتی ہے اور بہ نسبت انسان کے جن کم عقل ہوتے ہیں پس جن یہ بات حضرت سلیمان
 علیہ السلام سے کہہ کر بعد میں بہت ڈرے کہ اگر ہماری بات بھوٹ ہو گئی تو ہم کو ضرور سزا ملے گی اور حضرت
 سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلیقیں کی آمد کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے
 حوض بنا کر اس پر ایک پل شیشے کا تیار کیا۔ اور اس حوض میں پھلی و مرغابی بھی چھوڑ دیں اور وہ پل ایسا تھا کہ
 اوپر ظاہر معلوم اور بلیقیں اس کے اوپر سے آویگی تو بلیقین ہے کہ پانی ہی کے دھوکے سے پنڈلیوں کے کپڑے
 اٹھانے لگی تو پنڈلیوں کے بال ظاہر ہو جائیں گے یہ ہی حکمت اس کی آمد پر کی گئی تو لہ تعالیٰ نے قالَ يَا أَيُّهَا
 الْمَلِكُ إِنَّ كَيْدَ يَا قَتْنِي بَعْدَ شَهْمَا۔ اللاتینہ۔ ترجمہ اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار
 والو تم میں کوئی ہے کہ اے میرے پاس تخت بلیقیں کا پہلے اس سے کہ وہ اے میرے پاس
 مسلمان ہو کر کہا ایک جن نے جنوں میں سے کہ میں نے آؤں گا تمہارے پاس پہلے اس کے کہ تم اٹھو
 اپنی جگہ سے اور تحقیق میں البتہ اس پر زور آورہوں با منت اور با امانت اس واسطے کہا کہ اس کے
 تخت میں جو اہر لگے ہوئے تھے نہایت بیش قیمت۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن بر
 یانے کہا کہ اس سے میں جلدی لاؤں گا بلیقیں کے تخت کو مانند ایک پلک کے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا
 ہے۔ قالَ الَّذِي عِنْدَ عَلْمِكَ مِنَ الْكِتَابِ اَلَا تَرَجِمُهُ اَلَيْسَ اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم
 تھا یعنی اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ جانتا تھا وہ بولا کہ میں نے اؤں کا تیرے پاس تخت بلیقیں کا پہلے
 اس کے وہ پھر اُدے طرف تیرے نظر تیری یعنی کسی طرف دیکھنے سے پھر اپنی طرف دیکھے اس
 سے قبل۔ پھر آصف نے اسم اعظم پڑھتے ہی ایک ہی پل میں تخت بلیقیں کا سلیمان علیہ السلام کے پاس
 لا موجود کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ قولہ تعالیٰ۔ قالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا
 فَنظُرَا أَتَهْتَبِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَبُونَ فَوْنًا ترجمہ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ
 روپ بدل کر دکھاؤ اس عورت کو اس کا تخت تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اس میں سو جھوٹا ہے یا
 نہیں یا ان لوگوں میں اس کا شمار ہے جن کو سو جھوٹا ہے جن کو سو جھوٹا ہے جن کو سو جھوٹا ہے جن کو سو جھوٹا ہے
 تخت بڑا دکھاؤ بڑا اکھاڑ دیا گیا اور دوسرے قرینے سے اس کو جڑا گیا۔ کیوں کہ اس سے بلیقیں
 کی عقل آزمائی تھی اور پھر اپنا معجزہ دکھانا بھی تھا چنانچہ کار پر وازدن نے ایسا ہی کیا۔ غرض جب بلیقیں
 اس حوض کے کنارے پر آئی اور پل شیشے کا تھا جو کہ اعلیٰ قسم کی کارگیری سے تیار کرایا تھا اس پر اس
 کی نظر پڑی اور اس کو بلیقین ہوا کہ شاید یہاں پانی ہے تب اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ اس

سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم کیا کہ اس کی ساق پر کچھ بال نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بات جن نے اکر کہی تھی وہ جھوٹ بات تھی۔ اور جب بلیقین حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر اس نے تخت اپنے کو بھیجا نا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قَيْلًا أَهْلَكُنَّ أَعْرُسًا قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ حُجَّجٌ عَلَيْهِ. ترجمہ: جب بلیقین حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ کسی نے اس کو کہا ایسا ہے تیرا تخت۔ تب اس نے اپنے تخت کے پاس جا کر بولی گویا یہ وہی تخت ہے اور ہم کو معلوم ہو چکا ہے کسی ذریعہ سے اور ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ بلیقین عقلمند اور ہوشیار ہے اور کسی نے کہا اس عورت کو کہ اندر محل میں بے جلو پھر جب وہ محل کے اندر گئی تو دیکھا کہ محل کے اندر ہے پھر اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھولا تو پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ نو شیشے کا جڑا محل ہے پھر وہ بڑی ہی متحیر ہو کر بولی تو فرمایا: قَالَتْ ذِيَاتِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ ذِيَاتِ الْعَالَمِينَ ترجمہ: کہا بلیقین نے اے میرے پروردگار تحقیق میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور ارمیطع ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ واسطے خداوند قدوس کے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا ایک تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت اپنے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں پتھروں کی جگہ پر شیشے کا فرش تھا اور دیکھتے والے کو دور سے پانی نظر آتا تھا۔ اسی وجہ سے بلیقین نے اپنی پنڈلیاں وہاں کھول دیں اس پانی سے گزرنے کا تصور اور عقل کا کمال حضرت سلیمان نے بلیقین کو کہا کہ یہ شیشے کا فرش ہے پانی نہیں ہے اس بات سے عقل کا تصور اور عقل کا کمال حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جزل کی زبانی سنا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں بکریوں کی طرح اب معلوم ہوا کہ وہ صحیح ہے پھر انہوں نے اس کی دولت خوب بزرگی اور اس کو نورہ کہتے ہیں اور وہ دوا بہت مشکل سے تیار ہوتی تھی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام بلیقین کو اپنے نکاح میں لائے حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مین سو بیویاں تھیں اور سات حرم تھیں سب پر ان کو شرف دیا۔ اور ایک مکان نہایت عالیشان بنا کر تکلف بنا کہ اس میں اس کو رکھا تھا۔ ایک دن بلیقین نے کہا اے نبی اللہ آپ کو ہر روز تخت ہو اپر میر گتے میں اور تمام عالم کے گرد پھرتے ہیں مجھ کو بھی ایک دن اپنے ساتھ لے چلیے تاکہ میں فلاں جزیرے میں جا کر عجیب و غریب ناشاد دیکھوں یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ اس تخت کو اس جزیرہ میں لے جاؤ اس کے جزیرے میں پہنچا تب ہوانے وہاں ان کے حکم پر وہ نخت پہنچا دیا۔ بلیقین وہاں کا سبزہ اور آب رواں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہاں کے دریاؤں کے گھوڑوں کے بانوؤں پر بڑے دیکھے وہ

سب کے سب سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھ کر شمال پرندوں کے اڑنے پر بھڑکتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا جنوں کو کہ ان گھوڑوں کو پکڑ لاؤ۔ انہوں نے عرض کی اے نبی اللہ ہم ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکیں گے مگر ہاں سمندری ایک جن ہے اور وہ آپ سے بائیں ہر کو قعر دریا میں چھپ گیا ہے اگر حضور کا حکم ہو تو میں اس کو پکڑ لاؤں اور اس سے جا کر کہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں اب تم آجاؤ یہ سنتے ہی وہ ہمارے ساتھ چلا آوے گا تب اس کو پکڑ کر حضور میں لاؤں گے اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ گھوڑے پکڑے جاویں گے یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ وہ جن حاضر کیا جاوے۔ چنانچہ بہت سے جن دریاؤں میں جا کر گرد عالم کے سمندروں میں پکارتے رہے اور یہ آواز دیتے رہے کہ اے جنوں اب تم نکل آؤ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے کیوں کہ آواز اس جن کے کانوں میں بھی پہنچی وہ اس بات کو سن کر قعر دریا سے خوش ہو کر باہر نکلا۔ پس انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی ہم نے سلیمان کے عذاب و سزا سے نجات پائی اور اب ہم کو چاہیے کہ تم ہم سب وہاں جا کر اس کی سلطنت میں دخل کریں اور خوب مزے سے رہیں اور اچھی طرح سے چین و راحت حاصل کریں یہ کہہ کر جب دونوں میں خوب ملاپ ہو گیا تو انہوں نے اچانک اس پر کند ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر حضرت سلیمان کے پاس حاضر کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر غضب سے اس کو دیکھا تو اس نے فرمایا اے نبی اللہ میں نے اس کو بوسہ دیا ہے اور وہ امان دو اور جان بخشی کرو۔ اور میں آپ کا فریاد نہ دار ہوں اور جو کچھ آپ فرمائیں گے اس کو بسر و چشم بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنی جان بخشی چاہتا ہے تو دیکھ فلا نے جزیرے میں دریائی پرند گھوڑے میرے واسطے پکڑ لا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اے نبی اللہ تعالیٰ مجھے کچھ حیلہ و حکمت کے وہ گھوڑے میرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو اس وقت کیا چاہتا ہے وہ بلا لاکہ گھوڑے فلا نے چٹے سے پانی پیتے ہیں چند جنوں کو میرے ساتھ کر دیجیے تاکہ وہ اس چٹے سے پانی نکال ڈالیں اور بجائے پانی کے اس کو شراب سے بھر دیں تب وہ بمنزلہ پانی کے اس کو پیئیں گے اور پھر اس کے پینے سے ان کو نشہ ہوگا پھر اسی وقت اس پر کند ڈال کر پکڑ لیں گے اور خدمت میں آپ کی حاضر کریں گے پس حضرت سلیمان نے جنوں کو سمندروں پر ان کے ہمراہ کر دیا انہوں نے وہاں جا کر پیالیں گھوڑے دریائی پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لائے اس وقت عصر کا وقت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی لطانت اور خیریاں

نے یہاں اختلاف روایت ہے اور مترجم نے دونوں روایتوں کو نکل گیا ہے کہ بلیقہ کے ساتھ یہاں تھے یا نہیں ۱۲۰

دیکھنے لگے یہاں تک کہ عصر کا وقت بھی رخصت ہونے لگا اسی وقت حضرت جبرائیل عیناب باری تعالیٰ سے عناب لائے اور کہا کہ اے سلیمان تو دنیا کے مال و محبت میں ایسا مشغول ہو کہ کہ نماز عصر جانے پر سدئی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ الفاظ کہ فرور اسبح سے میں گر پڑے اور زار زار روئے لگے اور برابر استغفار پڑھنے لگے چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذْعُرْضِ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الْمَصْفِيَّتِ الْجِيَادُ لَا فَقَالَ اِنِّي اَجَبْتُ الْاَيَةَ بس وقت کہ رو برو لائے گئے حضرت سلیمان ؑ کے خاصے گھوڑے پس حضرت سلیمان نے کہا تحقیق میں نے دوست رکھا مال کو اپنے رب کی یاد سے یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں پھر کہا لاؤ ان گھوڑوں کو میرے پاس پس شروع کیا ہاتھ پھیر تاپاؤں اور گردن ان گھوڑوں پر ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے آفتاب ٹھہر گیا۔ اس کو ڈوبنے نہ دیا یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وقت پر نماز عصر کی پڑھ لی تب آفتاب غروب ہوا۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ ڈالے پھر ان کے پرد و بارہ پیدا نہیں ہوئے اور اسپ تازی انہیں کی نسل سے ہیں۔

بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر صیدون میں جانا اور بادشاہ عنکبوت کا راجہ جانا

تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت سلیمان ؑ کو بلقیس کے قصہ سے فراغت ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندون جن سے پوچھا کہ اے سمندون تو نے کسی جزیرے میں کوئی چیز عجیب و غریب دیکھی ہے یہ سن کر وہ بولا اے حضرت سلیمان ؑ میں نے دیکھی ہے دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر عظیم الیسا ہے کہ چاروں طرف اس کی دیواریں ہیں اور اندر اس کی ایک سو گز ہے اور اس کے اندر بارہ برج ہیں اور ہر برج پر ایک عظیم نصب کیا ہوا ہے اور اس دیوار کے نیچے میں ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک مکان عالیشان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے اور اس پر ایک ستارہ بلند ہے اور اس مینارے پر دو شیر سنگین اور لقا ب بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنا ہے اور اسی قسم کی بہت سی صورتیں ہیں اور جب میں نے اس جزیرے پر جا کر دیکھا ہے چار ہزار تھروں میں لوٹنیاں صاحب جمال پر بیٹھی ہیں اور اس کے نیچے میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک نہایت حسین ماہ لقا اور اس کے ساتھ ایک دختر برج انتر کے بیٹھی ہے اور تقریباً ایک ساعت کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ چار ہزار لوٹنیاں اپنے اپنے تھروں میں داخل ہوئیں اسی وقت میں نے ہا کر ایک لوٹری سے

معلوم کیا کہ اس شہر کا انام ہے اور ماہ لقا حسین نیک خاتون کون ہے اور اس کے ساتھ جو دفتر ہے وہ کون ہے۔ اور وہ علم خوبریج پر رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہے اور وہ شیر اور عقاب جو مینار پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں یہ سنکر وہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوا اس کے ملک کے اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس شہر کا نام صیدون ہے اور جو حسین و جمیل ماہ لقا آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ جو دفتر ہے وہ بادشاہ زادی ہے اور یہ صورتیں طلسم کی اس واسطے بنائی ہیں کہ جب کوئی دشمن اور غنیم کو دیکھیں گے تو یہ آواز دے گی پھر اس وقت ہمارے بادشاہ کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ ہمارے ملک پر کوئی دشمن اور غنیم آیا ہے تو اسی وقت مکمل تیاری کر کے اس کو مار ڈالیں گے اور وہ جو عقاب ہے یہ تو ہمارا داعی ہے اور جب ہماری پوجا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے تب ہم سب جا کر بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں اور ہماری عبادت کا طریقہ بھی چلا آتا ہے (عِبَادًا لِلَّهِ مِنْ ذَٰلِكِ) اور اس کے علاوہ دوسرے حاکم منصف ہیں جب کوئی انسان اور فریادی دونوں میں کوئی خصومت واقع ہو تو ان دونوں شیروں کے پاس ان کو بادشاہ وقت بھیجتا ہے اور جو ناحق ہوتا ہے اس کو یہ دونوں شیر چھڑا ڈالتے ہیں اور کوئی شخص بھی بے راہ نہیں چلتا۔ اور نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ جناب اس کا یہ ماجرا ہے بس سندوں جن سے شہر صیدوں کی حقیقت و ماجرا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو فرمایا کہ تم لوگ شہر صیدوں میں جہاد کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جن لوگ موجود تھے حکم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت پر آموجود ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر صیدوں میں پہنچا دے چنانچہ ہوا نے بوجب حکم جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شہر صیدوں میں قریب پہنچا دیا۔ جب تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور سے نمایاں ہوا تو وہ طبل و علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بساط دیکھ اس مینار سے اور برجوں پر سے لپکا کر آواز دینے لگے پھر اہل صیدوں کو معلوم ہوا کہ ہم پر کوئی غنیم آتا ہے تب تمام اہل شہر و سپاہ اور تمام لشکر معہ ہتھیاروں کے آراستہ کر کے جنگ کے واسطے اپنے شہر صیدوں سے نکلے تو وہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت مہم فوج کے تخت پر بیٹھی ہو چکی ہے۔ ہوا پر چلی آتی تھی یہ دیکھ کر اہل صیدوں بڑے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ اس کا لشکر سوار ہو کر ہوا پر چلے

معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بادشاہ نہایت بزرگ ہے پس وہ لوگ میدان جنگ میں آکر کھڑے ہو گئے ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو۔ بموجب حکم وہ تمام جن ان کافروں سے لڑنے لگے لکھے لکھے مردم جڑبڑہ جنوں پر غالب آئے۔ تب حضرت سلیمان نے دوسرے اور جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجے۔ چنانچہ وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدمیوں کو فرمایا کہ اب تم لوگ ان کافروں سے جا کر لڑو بموجب حکم جب مردم بسیاران سے لڑے تو ان کو زیر کیا۔ اور آخر میں ان کا بادشاہ بھی نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا اور اس بادشاہ کا نام عنکبوت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا ہوانے ایک مشت خاک اس پلیدی کی آنکھوں میں ڈال دی تو وہ اندھا ہو گیا اور فوراً غش لگا کر زمین پر گر پڑا اور اسی کے شہر نے اس پلیدی کا سر کاٹ کر کھا لیا۔ اور بعض نے کہا ہے مڈی آکر اس پلیدی کی آنکھیں کھا گئی تھیں۔ اسی طرح وہ پلیدی جہنم واصل ہوا۔ اور باقی کافروں کو لشکر سلیمان نے مار کر دریا میں بہا دیا اور شاہ عنکبوت کی بیٹی کہ وہ نہایت حسین و جمیل تھی اس کو اپنے ساتھ حضرت سلیمان نے اپنے تخت پر لٹا کر شہر کو ویران کر کے چلے آئے۔ میں اس قصہ کو اس پر اکتفا کرتا ہوں۔

بیان حضرت سلیمان کا امتیاز ہونا راجح میں بعض سہواً تقییرات کی وجہ سے

جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر صیدون سے مراجعت فرمائی تو راستے میں آتے وقت اس بادشاہ کی بیٹی سے کہنے لگے کہ اے نیک بخت تو ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے جواب دیا کہ بیشک میں مسلمان ہوں گی۔ لیکن مجھ سے میرے باپ سے ملاقات کر اؤ۔ پھر یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو تو مار ڈال لیا ہے اسے سے تم کیوں کر دیکھو گی۔ بہر کیف اس دفتر کے کہنے سے حضرت سلیمان نے اس کے باپ کا سر منگوا کر اس کو دکھایا۔ وہ دفتر بیہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر وہ کافی عرصہ کے بعد ہوش میں آئی اور بہت ہی گریہ زاری کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بہت پیار کیا اور اس کی ہر طرح پر دل داری کی۔ پھر اس کی خاطر جمع نہ ہوئی۔ آخر الامر وہ دین اسلام سے مشرف ہوئی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اپنے نکاح میں لانے اور اس کو بہت چاہتے تھے ایک دن ابلیس العین نے صورت آدمی کی بن کر اس دفتر سے جا کر کہا کہ اے لڑکی تو بادشاہ زادی ہے کیوں اپنے باپ کی صورت بنا کر نہیں پوجتی تاکہ تیرے باپ کی روح تجھ سے خوش رہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تجھ سے خوش تھا۔ اور خیر دار یہ بات حضرت سلیمان سے مت کہنا اس بات

کو چھپا کر رکھنا۔ تب وہ دختر اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں مخفی پوجتی تھی، اور اس طرح وہ اپنا دل شاد رکھتی تھی۔ اس طرح سے چالیس دن گزر گئے اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دختر سے کہا کہ تو ایمان لاکر مسلمان ہو جا پھر میں تجھ سے نکاح کروں گا منکر وہ بولی کہ میں مسلمان ہوں گی اور میں تمہاری زوجیت بھی قبول کروں گی۔ اس شرط پر کہ آپ حکم دیں کہ میں اپنے باپ کی صورت بنا کر اپنے سامنے رکھوں اور اس صورت پرستی سے اپنے باپ کا دل خوش کروں اور میں غم بھول بھول جاؤں۔ پس اس زمانے میں صورت بنانا شرع میں ممنوع تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بیبیوں سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو تصویر بنانے کی اجازت دے دی پھر وہ مخفی طور پر اپنے باپ کی تصویر کر پوجتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آبی وجہ سے چند روز مبتلا رہے اور شاہی تخت اور حکومت سے معزول رہے اور بعض نے یوں روایت کی ہے کہ دختر تنگبوند نے کہا اور نڈی کا قربانی کرنا ثواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نڈی میں گوشت نہیں ہوتا لہذا اس کو ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے تم اونٹ خدا کی راہ میں قربانی کرو تو اس میں ثواب ہے۔ وہ بولی نہیں میں تو نڈی ہی ذبح کروں گی اور نڈی سے اس کی غرض یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام شہر حیدرون میں جا کر اس کے باپ سے لڑے تھے تو اس وقت بھی نڈی نے آکر اس کے باپ کی آنکھیں کھانی تھیں اور وہی بعض اس کے دل میں تھا تاکہ اس سے وہ اپنے باپ کا انتقام لے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ تھی سہواً فرمایا کہ اچھا تم منگو آکر اس کو ذبح کرو تب اس نے ایک نڈی کو منگوایا اور عداؤت اس کو ذبح کیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے دو گناہ کیے تھے کہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں پوجتی تھی اور یہ جبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہ تھی دوسرے یہ کہ نڈی کو بے گناہ ذبح کیا تھا۔ ان دو معصیت کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام چند روز بلاء میں مبتلا ہوئے پس اسے مومنو ایہ بات متحقق ہے کہ جن نیک مرد کے گھر بدعورت ہو اور اپنے شوہر سے چھپا کر گناہ کے کام کرے خواہ وہ علانیہ خواہ مخفی تو لازم ہے اور واجب ہے کہ عورت کے گناہ کے باعث اس کے شوہر پر آفت نازل ہوگی اور اس کا خاندان بھی ویران ہوگا جیسا کہ استاد شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔

زن بدور سرائے مرد نیکو ہم دریں عالم است دوزخ او

اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے: **وَلَقَدْ قَتَلْنَا سُلَيْمَانَ وَ اٰقْتَنَانَا عَلٰی الْكُرْسِيِّ حَيْثُ اَلَّهْنَا نَابِدًا**
ترجمہ: تحقیق آزمایا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی اس کی کے ایک دھڑ

پھر اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پس معاملہ یوں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجے کو جاتے تو خاتم اپنے ہاتھ کی نکال کر ایک خادمہ حرم کے حوالے کر جاتے تھے کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ لکھا تھا۔ اس لیے وہ اس کو استنجے کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن مرضی الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن نام اس کا صحفرہ تھا اس نے صورت و شکل حضرت سلیمان کی بنا پر اس خادمہ بیندہ سے جا کر انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن کر تخت پر جا بیٹھا۔ اور جن سب کے سب اپنے اپنے عہدہ پر فائز تھے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملازمت میں کھڑے رہتے تھے ویسے ہی اس کے سامنے بھی۔ سب آکر حاضر ہوئے اور اسی طرح سے پرندوں نے بھی آکر اپنے اپنے پروں سے سایہ کیا اور وہ صحفرہ حکم و احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے استنجے سے فراغت پا کر اس خادمہ بیندہ سے اپنی انگشتری طلب کی وہ بولی کہ انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں اور تم کون ہو جو مجھ سے انگشتری طلب کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت نے جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں تم نے انگوٹھی کس کو دے دی وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئی اس نے ہر چند سے حضرت سے عرض کیا لیکن وہ یقین نہ کرتے تھے پھر بذات خود حضرت سلیمان اپنے تخت کے قریب گئے تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہی صحفرہ جن تخت پر بیٹھا ہے اور انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے سامنے تمام جن و انس دربار عام میں باادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور دیوانہ جان کر چوبدار نے وہاں سے نکال دیا اور بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں گردش آنے کا سبب یہ تھا کہ ان کے بے شمار بیسیاں تھیں ایک دن انہوں نے یوں ارادہ کیا کہ آج کی شب میں تمام بیسیوں کے پاس جا کر جماع کروں اور ہر ایک نبی بنی ایک بیٹا جسے گی تو میرے بیٹوں کی تعداد بہت ہو جائے گی اور پھر وہ جب سب کے سب جوان ہو جائیں گے تو ہم سب کو لے کر جہاد فی سبیل اللہ کریں گے لیکن یہ ارادہ کرتے وقت انہوں نے انشاء اللہ نہ کہا۔ اور پھر بموجب ارادہ انہوں نے اپنی بیسیوں سے اسی شب جماع کیا لیکن خدا کی مرضی سے کسی بیوی کو کوئی حمل نہیں ہوا۔ ہاں ایک بیوی سے اس کے پیٹ سے آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ حال دیکھ کر پھر وہ انشاء اللہ نہ کہنے کے سبب سے بہت نادم ہوئے اور بعضوں روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ ایک آنکھ اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا لڑکا پیدا ہوا۔ قصہ جب ان جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور کچھ تعظیم و تکریم بھی نہ کی اور اس تخت گاہ سے باہر نکال دیا۔ پس وہاں سے نکل کر بیت المقدس میں جا کر تین دن تک سجدہ میں پڑے روتے رہے۔ پھر بے طاقتی سے مارے بھوک کے مسجد سے نکل کر کسی بنی اسرائیل

کے گھر جا کر کھانے کو مانگا لیکن کسی نے بھی ان پر کچھ التفات نہ لیا۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر شہر میں آئے۔ یہاں پر بھی کھانے کی تمنا کی اور بہت جگہ کوشش کی اتفاقاً یہاں بھی کسی نے بھی ان پر کچھ التفات نہ کی۔ پھر نوکری کی خواہش ظاہر کی لیکن کسی نے بھی نوکر نہ رکھا پھر یہاں سے بھی بھوکے پیاسے نکل کر دریا پر گئے۔ مچھلی والوں کو مچھلیاں شکار کرتے ہوئے دیکھا ان لوگوں سے کہا کہ تمام لوگ بھوکے نوکر رکھ لو اور ہم تمہارا کام کریں تب ماہی گیری نے ان کو دو مچھلیاں دینی ہر روز مقرر کیں اور نوکر رکھ لیا آخر تمام دن گزارا رات کے وقت دو مچھلیاں پکڑی گئیں یہی دو مچھلیاں مزدوری میں ان کو ملیں ان میں سے ایک مچھلی بازار میں بیچ کر روٹی مول لی اور دوسری مچھلی کو تل کر روٹی کے ساتھ کھائی اور پھر شکر خدا بجالانے اسی طرح پر وہ چالیس روز تک اپنی روزی پیدا کر کے کچھ آپ کھاتے اور جو باقی بچی وہ محتاجوں کو دیتے اور پھر تمام رات عبادت میں مشغول رہتا اور توبہ استغفار کرتے اور چالیس دن صفرہ جن نے حضرت سلیمانؑ کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کی مگر آدمی اور جن کو اس کے طور طریقہ سے کچھ معلوم معاملہ ہوا کہ یہ جن ہے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کر رہا ہے اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ مگر یہ راز دلی کسی سے ظاہر نہیں کرنے اور آصف جن سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم و ہوشیار تھا۔ جن دن سے وہ تخت پر بیٹھا اور اپنا حکم جاری کرنے لگا۔ اسی دن سے وہ آصف جن اس بات کا متلاشی اور متردد ہوا کہ آج چالیس دن سے یہ شخص تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے کون ہے اور یہ تو یقین ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں بالآخر آصف جن نے حضرت سلیمان کی بیسیوں سے جا کر پوچھا کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں کیا تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں یا نہیں وہ ہمیںہ خادمہ کہ جس کے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے وہ بولی کہ آج چالیس دن ہوئے ہیں ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنی خاتم بھی بھوکے نہیں دیتے شاید اور کہیں تشریف لے گئے ہوں گے یا نوع دیگر ہوا ہوگا۔ پس آصف جن نے یہ سن کر ہمینہ سے کہا بہت اچھا میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں اسی وقت اس نے چالیس آدمی تو ریت خواں کو بلا کر تخت گاہ میں لے جا کر تو ریت سب کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دی جب وہ لوگ تو ریت پڑھنے لگے تب وہ صفرہ جن جو تخت پر بیٹھا تھا۔ یہ کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا وہ وہاں سے بھی بھاگا اور وہ خاتم حضرت سلیمان کی دریا میں ڈال کر چلا گیا مرضی الہی سے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان مچھلی والوں کی نوکری بجالا کر نکلے گا۔ دریا کے کنارے سو رہے تھے اچانک سانپ آیا اور ایک سبز اپنے منہ میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک ٹھیرے کی بیٹی تھی اور وہ صاحب جمال تھی۔ ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے

لایا کرتی تھی اس نے حضرت سلیمانؑ کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا اور وہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک آدمی سوتا ہے اور ایک سانپ ان پر سوا کرتا ہے وہ دفتر دراصل بالغہ تھی یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا کہ لے آجاں مجھ کو تم اس شخص سے بیاہ دو تو بہت بہنہزادریں اس کے سوا کسی دوسرے سے شادی نہ کروں گی۔ تب وہ ماہی گیر اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سوتے تھے ان کی آہٹ سے وہ جاگ اٹھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تم کو بیاہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں تو تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کر کے بیٹ پالتا ہوں اور مجھ کو روزمرہ دو چھلیاں اجرت حضور سے ملتی ہیں انہیں کو کھاتا ہوں بتائیے کہ میں آپکی بیٹی کی خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا۔ یہ سن کر وہ بولا کہ میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی ہے اور کھانے کو میں دیتا رہوں گا یعنی کھانا میرے ذمے ہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات اس کی قبول کر لئی اور اس کے ساتھ اس کے مکان پر جا کر امی کی بیٹی سے بیاہ کر لیا۔ پھر توبہ استغفار کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے نبی الجملہ اس صغیرہ جن نے جو انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر بھاگا تھا اس انگشتری کو ایک مچھلی نگل گئی تھی اور تمام مچھلیاں دریا کی اس انگوٹھی کے سبب سے اس مچھلی کی مطیع و فرمانبردار ہو رہی تھیں۔ دوسرے دن سب ماہی گیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر اس دریا میں جہاں انگشتری حضرت سلیمانؑ کی صغیرہ جن نے ڈالی تھی وہاں مچھلی کے شکار کو گئے۔ خدا کے حکم سے وہ مچھلی کہ جس نے انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام نگلی تھی وہ جال میں پکڑی گئی پس پھیرے نے اس مچھلی کو اور دو اور مچھلیوں کو لاکر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجرت دی۔ پس حضرت سلیمانؑ نے ان تینوں کو لے کر ان میں سے دو مچھلیوں کو بیچ ڈالا اور ایک مچھلی اپنی پوری کے حوالے کی کہ اس کو ذبح کر کے حاف کر دو۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ پھیرا تو وہ انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے شکم سے نکل پڑی، اس کی روشنی سے سب گھر میں اہل لاہور گیا۔ پھر سے کی بیٹی یہ عجوبہ دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پہچان کر اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ اور مرغان ہوا اگر میر پر سایہ نگیں ہوئے اور جن و انسان جمیع خلق ان کی ملازمت میں بدستور سابق اگر حاضر ہوئی اور ہوانے تخت شاہی لاکر موجود کر دیا۔ پھر حضرت سلیمانؑ نے اپنی بیوی ماہی گیر کی بیٹی سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں، اور تمام احوال اپنا دل سے آخر تک بیان کیا اور اس وقت ہو کہ حکم کیا تب ہوانے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت سمیت اپنے مکان خاص پر پہنچا دیا اور چھنے ملازمان تھے سب نے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے

دربار عام میں حاضری دی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں جا کر اس میدانِ عتکودین کی بیٹی کو کہ جس کو شہرِ عتدوں سے لاکر اپنے نکاح میں لائے تھے وہ جو کتابیں جادوگر کی تھیں جو ہر روز پڑھتے ہیں ان کو شہرِ عتدوں کے صحفرہ جن اس شہرِ عتدوں سے لوٹ کر لیا تھا اور اس جادو کے سبب سے اس نے اس نے حضرت سلیمان کی خاتم ان کی خادمہ بیٹینہ سے لے کر چالیس دن تک سلطنت کی تھی اور حضرت کو دکھ میں ڈالتا تھا اس کتاب کو بھی پارہ پارہ کر کے ڈال دیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہندوستان میں بھی پہنچا تھا اس سے لوگ اب تک جادوگری کرتے ہیں بعد اس کے حضرت سلیمان نے صحفرہ جن کو طلب کیا لیکن اس کو نہ پایا اور تمام جنوں کو حکم کیا ان لوگوں نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن معلوم نہ کر سکے۔ بہت کوشش کے بعد معلوم ہوا پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آکر کہا کہ اے نبی اللہ صحفرہ جن آپ کے خوف سے بیچ سمندر کے جا کر بھج گیا ہے اور بغیر کچھ حیلہ کیے اس کو پکڑ کر آپ کے پاس نہیں لاسکتے اگر آپ کا حکم ہو تو ہم لوگ کچھ چھوٹ بنا کر اس سے جا کر کہیں تو ممکن ہے کہ ہم لوگ اس کو پکڑ کر آپ کے حضور میں لاسکیں یہ سنکر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ۔ تب جنوں نے جا کر سمندر کے بیچ میں پکارتے تھے کہ اے صحفرہ تو کہاں ہے اب نکل آ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں اور وہ یہ سنکر سمندر کے بیچ میں سے نکل آیا پھر اس کو جنوں نے گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کیا چالیس دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عذاب و قید میں رکھا اور بعد اس کے وہ شکنجے میں پھرتے ڈال رکھا۔ کہتے ہیں کہ اب تک وہ شکنجے میں پڑا ہے اور قیامت تک اسی طرح شکنجے میں پڑا رہے گا۔

پس اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی برسوں تک حکومت کی اور بیت المقدس جو حضرت داؤد نے بنایا تھا اس کو اور بھی بڑا کر کے بنوایا پھر جنوں کو حکم کیا کہ اس کی دیواریں ننگ سفید کی بناؤ کہ وہ خوبصورت معلوم ہوتی ہے تب بموجب ارشاد ان کے جنوں نے ویسا ہی کیا اور ستون بھی اسکے چالیس گز لمبے سنگ مرمر سے بنائے اور کواڑوں درازوں کے آب نوش کے لگائے اور ایک دروازے کا نام بھی باب داؤد، اور دوسرے دروازے کا نام طوبی اور تیسرے دروازے کا نام باب رحمت اور چوتھے دروازے کا نام بنی العربی آخر الزماں رکھا اور اس کی چھت بھی سباح کی لکڑی سے بنوائی تھی اور دیوار اس کے سونے سے زراںدودھ کی تھیں اور مسجد کے اندر قندیلیں چاندی کی لگائی تھیں اور قندیل میں تیل کی جگہ لعل شپ تھا اور اس کی روشنی سے شب روشن ہو جاتا تھا اور گندھک سرخ سے قندیلوں کو ترتیب دیا تھا ایسا کہ تین کو س تک اس کی روشنی کی شعاع جاتی

تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی گدھک سرخ کیسیا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی۔ بالآخر ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام گنبد کے دروازے پر جھٹینے سے بنایا تھا اپنا عصا ٹکے کھڑے تھے خدا کے حکم سے ملک الموت حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کو یہ سن کر ملک الموت نے کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا مجھے ذرا پانی پینے کی مہلت دو اس کے جواب میں ملک الموت نے کہا میں خدا کے حکم میں اب کچھ دیر نہیں کر سکتا ہوں اور اب آپ کے پانی پینے کا حکم خدا زندی نہیں ہے۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا پر ٹکے کھڑے تھے اسی ہی ہنیت پر ان کی جان قبض کر لی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی طرح ایک برس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش بے جان عصا کے ٹکے سے کھڑی تھی اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ دو مہینے تک ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ اور تمام اجزاء اسی طرح بیت المقدس کا کام سر انجام دیتے رہے یہاں تک کہ عصا ان کا گھن کھا گیا اور لاش زمین پر گر پڑی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے روز سے بے جان کھڑے تھے اس کے بعد تخت ان کا ہوا پر گیا اور وہ آدمیوں کی نظروں سے غائب ہو گیا اور تمام جن تاسف کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس میں حکمت حکیم علی الاطلاق کی تھی کہ جن اپنی عنیب دانی سے فخر کرتے تھے کہ ہم کو عنیب کی بات معلوم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے ان کو ازباہہ اگر وہ عنیب کی بات جانتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ان کو معلوم ہوتی اور پھر وہ ذلت میں نہ رہتے۔ پس خدا کی مرضی یہی تھی کہ جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرنے کی خبر نہ ہو ورنہ وہ سب چلے جاتے اور بیت المقدس کی تیاری نہ ہوتی یوں ہی زیر تعمیر مرمت رہ جاتی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ صَوْتِهِمْ: توجہ سے: پس جب فیصلہ کیا ہم نے اس پر موت کا تو پھر ہم نے نہ خبر کی اس کی موت کی کسی کو لیکن کھاتا رہا اس کا عصا کیڑا پس جب گر پڑا پھر معلوم ہوا جنوں کو۔ اگر وہ جن خبر، رکھتے عنیب کی بات تو رہتے ذلت کی تکلف میں، اور دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے۔

بیت المقدس بنواتے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ موت آپہنچی پھر انہوں نے جنوں کو عمارت کا پرور لافٹہ تیار کر کے آپ شیشے کے مکان میں دروازے بند کر کے بندگی میں مشغول ہونے اور بعد وفات ایک برس تک جن لوگ مسجد بناتے رہے اور جب مسجد پوری ہو چکی تو جس عصا پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹک لگا کر کھڑے تھے گھن کھانے سے وہ گر پڑا۔ تب سب پر وفات حضرت سلیمان علیہ السلام

کی معلوم ہوئی اور جن آدمیوں سے غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے سب کے سب قائل ہوئے۔ بس میں اس واقعہ کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْقَوَابِ)

بیان تولد حضرت مریم علیہا السلام

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں حنہ نام کی ایک عورت تھی اور وہ بڑی ہی زاہدہ اور متقی تھی اور اس کے شوہر کا نام عمران ابن لاثان تھا اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور یہ بھی بذریعہ روایت معلوم ہوتا ہے کہ اس حنہ عورت سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس کا نام اشیاہ تھا اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام سے بیابھی تھی اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حنہ کی بہن سے حضرت زکریا کا بیاہ ہوا تھا غرض حنہ حبیب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تھی تو وہ بیت المقدس میں جا کر خدا کی بندگی میں مشغول ہوئی اور پھر نذر مانی کہ یارب میرے پیٹ سے جو لڑکا پیدا ہو گا وہ میں نے تیری نذر کیا تاکہ وہ اس بیت المقدس کی خدمت کرے اور ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے اور وہ دنیا کا کام نہ کرے۔ چنانچہ حق تعالیٰ سبحانہ، فرماتا ہے۔ اِذْ قَالَتْ اٰهْرَافَةُ عِمْدَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ فَحَرِّمْنَا عَلَیْهَا الْجَسْمَ: جب کہا عمران کی بیوی نے کہ نام اس کا حنہ تھا اے میرے پروردگار تحقیق میں نے نذر مانی ہے واسطے تیرے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا خدمت سے پس یہ مجھ سے قبول فرما، تحقیق تو ہی ہے واسطے تیرے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اس امت میں یہ دستور تھا کہ بعض لوگوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نذر دیا کرتے تھے۔ پھر تمام عمران کو دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے تھے اور وہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ پس عمران کی بیوی کو حمل تھا اس نے نذر مانی اسی حمل کی حالت میں جو لڑکا جنوں گی وہ خدا کی نذر ہے چنانچہ بعد نو ماہ کے اس نے لڑکی جنی تو اس کا نام اس نے مریم رکھا اس حنہ عورت کا دل اس واقعہ سے سست ہو گیا یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا ہوتا اور بیٹی ہونے سے وہ اپنے دل میں ناخوش ہوئی کہ میری نذر بھی پوری نہ ہوئی کیونکہ اس امت میں لڑکی کو نذر اللہ کے کرنے کا دستور نہ تھا پس اس نے پنا منہ آسمان کی طرف کر کے کہا قرآن تعالیٰ: فَلَمَّا وَضَعَهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی، اللہ نے جسے پس جب اس کو جنا تو بولی اے رب میں نے یہ لڑکی جنی اور اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ جو کچھ جنا اور نہیں ہے مرد مانند عورت کے تحقیق میں نے نام اس کا مریم رکھا ہے اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں

اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا۔ پس ندائی اے حنہ میں نے قبول کیا مریم کو اگرچہ وہ
مرد نہیں اچھی طرح قبول کرنا اور بڑھایا اس کو اچھی طرح سے بڑھانا اور تو اس کو سپرد کر دے حضرت زکریا
کے جب مریم بی بی سات برس کی ہوئیں تب ان کی ماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر — بیعت اللہ
میں حضرت زکریا کے پاس گئیں اور ان کو سلام کیا اور پھر کہا اے نبی اللہ کے میں نے نذر کی تھی کہ اگر میرے
پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت میں دوں گی۔ جب میں نے لڑکی جنی اور میں نے اس
کا نام مریم رکھا اور اس کو لے کر آپ کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی
خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا نے مسجد اقصیٰ کے مصلیٰ اور سے دریافت کیا کہ اس کی پرورش
اور ضروری کون کرے گا۔ نب وہاں کا ہر شخص کہنے لگا کہ میں اس کی ضروری کرتا رہوں گا آخر میں
سب میں نزاع پیدا ہو گیا کسی نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو اور کسی نے کہا کہ اس کو مجھ کو دو پھر
بات اس پر ٹھہری کہ ہر شخص اپنا اپنا قلم آہستی کہ جس سے توریٹ لکھی جاتی ہے ان کو ایک لگن پانی بھر
کر اس میں ڈال دو۔ جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا یعنی پانی میں نہ ڈوبے گا وہی شخص کفیل مریم ہوگا
چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: اذْیَلْقَوْنَ اَقْلَامَهُمْ یَكْفُلُ صَدِیْقُهُ تَرْجِمَہُ: جب ڈالے
قلم اپنے کو کون پالے مریم کو خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے بزرگوں نے جب حضرت مریم کا خواب سنا تو پھر
ہر ایک چاہنے لگا کہ مریم کو پالیں گے۔ آخر فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ہر ایک نے ایک طشت میں اپنا قلم پانی
میں ڈالا سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا لیکن زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر ہی تیرنے لگا۔ چنانچہ حضرت زکریا
کی طرف ان کا پالنا ٹھہرا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكَفَلَهَا ذِكْرًا تَرْجِمَہُ: یعنی کفیل ہوئے مریم
کے حضرت زکریا علیہ السلام اور پھر قلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا اے نبی اللہ اس لڑکی
کو خدانے آپ ہی کے ذمے کیا پالنے کے واسطے درحقیقت ان کی ماں نے خواب میں دیکھا اگرچہ یہ لڑکی
ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نذر میں قبول کیا اور اس کو مسجد میں سے جا کر رکھوں پس مسجد کے بزرگوں
کہا تھا کہ لڑکی کو مسجد میں رکھنا درست نہیں ہے۔ لیکن جب ان کا خواب سنا تو پھر اس کو قبول کیا اور ایک
روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی۔ چنانچہ وہی ان کو پالنے لگیں۔ ان
کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوادی گیا۔ چنانچہ دن میں مریم وہاں عبادت کرتی تھیں اور رات کو حضرت زکریا
ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو مسجد میں ایک حجرہ کے اندر
بند کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو ایک آہ ماری اور نہایت افسوس کرنے لگے کہ میں
نے کیا کام کیا کہ لڑکی کو بے گناہ جو کا پیاسا کو ٹھہری کے اندر بند کر آیا ہوں شاید مرگئی ہو۔ جلدی

سے جا کر مسجد کے حجرہ کا دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع و اقسام طرح طرح کا کھانا اور میوے ان کے سامنے دھرے ہیں اور حضرت مریم نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریا نے پوچھا اے مریم یہ کھانا اور میوے اس بند کرے میں کہاں سے آئے اور اس کو کون لایا۔ وہ بولیں یہ کھانا اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: كَلَّمَآ ذَخْرًا عَلَيْهِمَ ذَكْرِيَّا الْمَحْدَابَ الْاَيْتَهُ وَجِهًا**۔ میں وقت آئے حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں پایا اس کے پاس کچھ کھانا بولے اے مریم کہاں سے آیا تجھ کو یہ کھانا بولیں مریم کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا یہ رزق وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب حضرت مریم نے اس واسطے بے حساب کہا کہ یہ کھانا بہشت سے آیا تھا اور نعمت بہشت کی بے حساب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو تین رات دن بہشت کے کھانے سے پرورش کیا اس کے بعد فرشتوں نے کہا: **اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَطَهَّرَكِ**۔ ترجمہ اور جس وقت کہا فرشتوں نے اے مریم تحقیق اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہان کی عورتوں سے اے مریم تو بندگی کر اپنے رب کی اور اسی کو سجدہ کیا اور اسی کو رکوع کیا کہ ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ چنانچہ یہی خطاب حضرت مریم پر خاص طور پر ہوا تھا۔ چنانچہ میں اسی پر حضرت مریم کے واقعہ کا اکتفا کرتا ہوں۔ **رَوٰ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْقٰلِبِ**

بیان تولد حضرت عیسیٰ علیہ السلام

روایت ہے کہ جب حضرت مریم کی عمر چودہ برس کی ہوئی اور غسل حیض کے واسطے نکل کر اس چہرے میں کہ جس کو عین السلوی کہتے ہیں وہ گئیں اور ان کی بہن اشیاع زکریا علیہ السلام کی بی بی تھیں ان کے گھر میں غسل حیض کو گئیں۔ یہ ان کا پہلا حیض تھا اور جب انہوں نے غسل حیض سے فراغت کی تو ایک جوان خوبصورت اجنبی اپنے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا۔ یہ درحقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے: **فَاَرْسَلْنَا اٰیٰہَا رُوْحَنَا فَمَتَشٰ لَهَا بَشْرًا سُوْیًا ۙ فَهَرَبَتْ بِہِمْ نَعْمَ لَمْ یَسْـَٔلْہَا رُوْحَنَا فَمَتَشٰ لَهَا بَشْرًا سُوْیًا ۙ فَهَرَبَتْ بِہِمْ نَعْمَ لَمْ یَسْـَٔلْہَا رُوْحَنَا**۔ چنانچہ اللہ نے مریم کے پاس کو پس صورت پکڑی واسطے اس کے تندرست آدمی کے جوان خوبصورت، حضرت مریم یہ دیکھ کر نہ ڈریں اور پھر کہنے لگیں **قَوْلُهُ تَعَالَى: قَالَتْ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْکِ اِنَّ کُنْتُ نَفِیْسًا ۙ وَرَجُلًا سُوْیًا**۔ کہنے لگی مریم تحقیق میں پناہ پکڑتی ہوں ساتھ رحمن کے تجھ سے اگر ہے تو پرہیزگار اور بعض نے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص فاسق و فاجر تھا اور نام اسکا معروف و مشہور یوسف تھا اور وہ سنار کا کام کرتا تھا۔ حضرت مریم نے دریافت کیا شاید یہ وہی

شخص ہے اس لیے ڈریں، حالانکہ وہ حیرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم سے کہا تو لہ تعالیٰ: قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَيْسَ بِي بِلَاغٌ وَلَا يَدْرِي وَلَا يَخْتَارُ قَالَ كَذَّبَتْ فَذَلِكُنَّ كَذِبًا مُّبِينًا

حضرت حیرائیل علیہ السلام نے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور دے جاؤں گا تجھ کو ایک لڑکا ستھر پاک۔ پھر حضرت مریم بولیں کہ کہاں سے ہو گا مجھ کو لڑکا کہ پھر اتنا ہی نہیں مجھ کو کسی آدمی نے اور نہ میں تھی کبھی بدکار۔ پھر حضرت حیرائیل علیہ السلام نے کہا تو لہ تعالیٰ: قَالَ كَذَّبَتْ اللَّيْلُ بِمَا كَذَّبَتْ النَّهْلُ فَذُكِرْتُمْ كَذِبًا فَسَاءَ لِمُنْكَرٍ كَذِيبًا قَالَتِ الْأُولَىٰ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّيَالَىٰ بِمَا كَذَّبَتْ النَّهْلُ فَذُكِرْتُمْ كَذِبًا فَسَاءَ لِمُنْكَرٍ كَذِيبًا قَالَتِ الْأُخْرَىٰ إِن لَّمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّنَا وَمَنْ عِنْدَهُ فَلَنُنَادِيَ زَيْنَبَ وَتَكُنُنَّ مِن دُونِهَا قَالَتِ الْأُولَىٰ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّيَالَىٰ بِمَا كَذَّبَتْ النَّهْلُ فَذُكِرْتُمْ كَذِبًا فَسَاءَ لِمُنْكَرٍ كَذِيبًا قَالَتِ الْأُخْرَىٰ إِن لَّمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّنَا وَمَنْ عِنْدَهُ فَلَنُنَادِيَ زَيْنَبَ وَتَكُنُنَّ مِن دُونِهَا قَالَتِ الْأُولَىٰ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّيَالَىٰ بِمَا كَذَّبَتْ النَّهْلُ فَذُكِرْتُمْ كَذِبًا فَسَاءَ لِمُنْكَرٍ كَذِيبًا قَالَتِ الْأُخْرَىٰ إِن لَّمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّنَا وَمَنْ عِنْدَهُ فَلَنُنَادِيَ زَيْنَبَ وَتَكُنُنَّ مِن دُونِهَا

اور ہم اس کو کیا چاہیں گے لوگوں کے لیے نشانی کہ بن باپ کے لڑکا پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام قطعی ٹھہر چکا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم کی چھینک حیرائیل نے خدا کے حکم سے مریم کے بیان میں ڈال دی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ مریم کے پیٹ میں حضرت حیرائیل نے ہوا پھونکی تھی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہوا یا پھینک مریم کے پیٹ میں پھونکی اور وہ ان کے رحم تک پہنچی تھی تو آواز آئی کہ خدا واحد مطلق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے بعد حضرت مریم مسجد اقصیٰ میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئیں اور اس حقیقت کو انہوں نے کسی پر ظاہر نہ کیا اور برابر عبادت الہی کرتی رہیں اور رات دن روتی تھیں اور زبان حال سے کہتی تھیں کہ یا رب جو عبادتہ تجھ پر ہوا ہے ایسا کسی پر نہ ہو کیونکہ میں لوگوں میں رسوا ہوئی ہوں اور میرے ماں باپ بھی میرے واسطے خلق میں رسوا ہوئے۔ پس بعد چند روز کے یہ راز قوم سنی اسرائیل میں ظاہر ہوا کہ مریم کنواری باکرہ حمل سے ہے۔ یہ بات سنتے ہی یہودی حضرت مریم کو تہمت دینے لگے اور بیعت و ملازمت کرنے لگے کہ اے مریم یہ حمل تو کہاں سے لائی ہے کیا تو نے بد کام کیا ہے۔ حضرت مریم اس کا کچھ جواب نہ دیتی تھیں یہ سن کر وہ خاموش ہو رہتی تھیں۔ جب حمل توڑ پھینکے گا ہوا اور مریم تڑپ جھنکے ہوئیں تو بحجبت الہام الہی بیت المقدس سے چلنے سے نکل کر ایک میدان کی طرف گئیں۔ وہاں پر ایک درخت خشک خدا کا تھا اسی کے نیچے جا بیٹھیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلِ ۖ وَحَمْلُهَا فِيهَا قَالَتِ ابْنِ خَالَتِهَا لَئِن لَّمْ يَكُن لَّيَالَىٰ بِمَا كَذَّبَتْ النَّهْلُ فَذُكِرْتُمْ كَذِبًا فَسَاءَ لِمُنْكَرٍ كَذِيبًا قَالَتِ الْأُولَىٰ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّيَالَىٰ بِمَا كَذَّبَتْ النَّهْلُ فَذُكِرْتُمْ كَذِبًا فَسَاءَ لِمُنْكَرٍ كَذِيبًا قَالَتِ الْأُخْرَىٰ إِن لَّمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّنَا وَمَنْ عِنْدَهُ فَلَنُنَادِيَ زَيْنَبَ وَتَكُنُنَّ مِن دُونِهَا قَالَتِ الْأُولَىٰ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّيَالَىٰ بِمَا كَذَّبَتْ النَّهْلُ فَذُكِرْتُمْ كَذِبًا فَسَاءَ لِمُنْكَرٍ كَذِيبًا قَالَتِ الْأُخْرَىٰ إِن لَّمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّنَا وَمَنْ عِنْدَهُ فَلَنُنَادِيَ زَيْنَبَ وَتَكُنُنَّ مِن دُونِهَا

اور زہد میں مجھ کو شبہ ہے اور یہ حمل تو کہاں سے لائی ہے تب مریم صادقہ نے اس سے ساری حقیقت

اپنے حمل کی بیان کی اور جب وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریب ہو اوصیب الہام ابی مریم نے یوسف مذکور کو لے کر بیت المقدس سے نکل کر وہاں سے تقریباً چھ کوس بیت الملم ایک قریب ہے وہاں پہنچتے ہی دردزہ سے بیقرار ہو گئیں۔ تب وہ ایک درخت کھجور کی بوڑھی پشت لگا کر بیٹھ گئیں وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور درخت خرمافور خدا کی ہر بانی سے تر و تازہ ہو کر اس میں کھجوریں لگیں اور اس کے نیچے ایک چشمہ جاری ہوا استنہیں فرشتوں اور جنات کی حوروں نے بہشت سے آکر رفع حاجت ان کی کی۔ آب حوض کوثر سے لاکر سردن عیسیٰ علیہ السلام کا دھلایا۔ اور ایک پیراہن بہشت کا پہنا کر ان کی گود میں دیا۔ یہ واقعہ جامع التواریخ سے لیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَتَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا الْآلَاءُ رَبِّهَا لِيُؤْتِيَهَا مِنْهَا رِزْقًا وَإِنَّهَا لَكَا تَرْتَابًا۔ فرشتے نے کہ غم نہ کھا اے مریم تحقیق کر دیا تیرے رب نے ایک چشمہ جاری زمین میں جب نگاہ کی مریم نے تو ایک چشمہ دیکھا اور ان کے بیٹے عیسیٰ آہ مار کر روئے اور پھر کہنے لگے اے میری اماں جان کوئی نہیں ہے تم کو مبارکباد دینے والا یہ باتیں اپنے بیٹے سے سن کر بہت خوش ہوئیں اور جب کھانے کی ان کو اشتہا ہوئی جھوک لگی تب عیب سے یہ آواز آئی قَوْلَهُ تَعَالَى وَهَبْنِي لِي بِئْتِي مَعِ الْبَحْرَيْنِ اِلْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور اے مریم تو اپنی طرف کھجور کی شاخ کو بلاتا کہ اس سے گریں تجھ پر کھجوریں اور اب کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھ کو مسیح کی طرف رکھو پس مریم نے جب درخت حزمے کی طرف نظر کی تو انہوں نے اس پر تازہ خرمادیکھا۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی اے رب جس وقت حضرت زکریا نے بھولے سے تین دن تک بیت المقدس میں حجرے کے اندر بھوکو بند کر کے رکھا تھا۔ اس وقت بھی تو تے بے رنج و محنت مجھ کو روزی پہنچائی اور اس وقت حکم ہوا درخت سے کھجور اتار کر کھانے کو اے رب اس وقت بھی اپنی عنایت و مہربانی سے بے رنج و محنت روزی دی۔ نب جلا وعلا سے یہ خطاب آیا اے مریم اس وقت تو سوائے میرے اور کسی کو درست نہ رکھتی تھی۔ اور اب تیرا دل تیرے فرزند کی طرف مائل ہوا ہے اب تجھ کو لازم ہے کہ تو اپنی محنت اور کسب سے کھا اور پی اور اپنے فرزند سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو اور تو بیت المقدس کی طرف چلی جاؤ اور اپنی جگہ پر رہاؤ اور اختیار رکھو اور اور کسی سے مت بولو۔ جب حجرے سے کوئی آدمی پوچھے تو یہ کہہ۔ قَوْلَهُ تَعَالَى۔ فَاِمَّا نَدْبِيْ مِنْ مِّنَ الْبَشَرِ اَحَدًا اَوْ فَقُوْنِيْ اِنِّيْ فَتٰى سَرَاتٍ لِّسَ حَمَلٍ صَوْنًا اِلْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اے مریم سو کبھی تو دیکھئے کوئی آدمی تو کہنا میں نے مانا ہے اپنے رحمن کا روزہ اس وجہ سے میں بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے پس خدا کے فرمانے سے مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر آئیں مریم حضرت عیسیٰ کو اپنے لوگوں سے

پاس چنانچہ قولہ تعالیٰ: كَاتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُ الْحَرَجَ ترجمہ پس گودیں لے کر آئیں مریم حضرت
 عیسیٰ کو اپنے لوگوں کے پاس۔ پس یہودیوں نے کہا تحقیق تو لائی ہے ایک عجیب چیز بہن ہارون کی
 کہ نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار۔ اگرچہ بی بی مریم ہارون کی بہن نہ تھی۔ لیکن اس واسطے
 کہا کہ مریم حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھیں پس مریم نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ
 تم لوگ اس بچے سے پوچھو اور میں تو روزہ دار ہوں۔ اور میں آج کسی سے نہ بولوں گی جیسا کہ ارشاد ربانی
 ہے۔ فَاشْتَأْتُنَّ كَيْدًا كَيْدًا الْاِيهَ تَرْجَمَهُمْ اِسْ اِنْتُمْ لِكَلِمَةٍ عَنَّا يَوْمَ لَنَعْلَمَنَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 اشارہ دیکھ کر وہ بے ہم کیونکر بات کریں اس شخص سے کہ ابھی وہ گود میں ہے اور حال یہ ہے کہ وہ
 ابھی بچہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زبان تکلم عنایت فرمائی قولہ تعالیٰ: قَالَ اِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ
 اتَّبِعْنِى الْكِتٰبَ وَحَمِلَنِى ذِيْنَئِہٖ تَرْجَمَہُمْ عِیْسٰی بولے کہ میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا اس نے ٹھہرا کو کتاب
 دی ہے اور ٹھہرا کر نبی کیا ہے اور ٹھہرا کر برکت والا بنایا ہے اور تاکید کی ٹھہرا کو نماز کی اور ادائیگی زکوٰۃ کی
 جب تک کہ میں دنیا میں رہوں اور ٹھہرا کر حسن سلوک کی تلقین فرمائی اور جس دن میں مردوں اور جن
 روز میں اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر قبر سے جب یہ کلام ان یہودیوں نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو لڑکا بنی ہو گا اور لوگوں نے جو تمہمت دی تھی
 وہ سراسر کذب اور بہتان ہے۔ پس مریم حضرت عیسیٰ کی پرورش میں مصروف رہیں اس وقت تک کہ
 جب تک وہ بالغ ہوئے تو خدا کی طرف سے ان پر وہی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ تو قوم بنی اسرائیل
 کو اپنے خدا کی طرف دعوت دے۔ پس حضرت نے سب کو بلایا اور پھر ان کو راہ ہدایت کی دکھائی انہوں
 نے نہ مانا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے دین موسیٰ کو چھوڑ کر ایسے بے پدر کی بات کیونکر مانیں۔ یہ باتیں
 سنکر اور ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ عظیم الشان اور بزرگوار سے نکل کر گاؤں کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر
 دیکھا کہ کچھ دھوبی پکڑے دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان دھوبیوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم پکڑے کیوں
 دھوتے ہو اپنا دل پاک و صاف کرو و کفر و شرک سے یہ سنکر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کو بتاؤ کہ ہم کس
 چیز سے اپنا دل پاک و صاف کریں۔ حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ کلمہ پڑھو۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
 عِیْسٰی سُوْحُ اللّٰہِ ط پس ان دھوبیوں نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کر اپنے دل کو کفر و شرک
 سے پاک و صاف کیا اور وہ جس کا پکڑا دھونے کو لائے تھے اس کو چھیر دیا اور وہ تمام دھوبی حضرت
 عیسیٰ کی امت میں داخل ہو گئے اور وہی لوگ پھر انصار کہلانے لگے پھر دیاں سے وہ سب دریا کے
 کنارے پھروں کے پاس گئے وہ دریا کے کنارے مچھلی پکڑتے تھے ان سے بھی حضرت عیسیٰ نے

اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ وہ کہنے لگے اے عیسیٰ جو جو پیغمبر آئے ان سبھوں نے اپنے اپنے معجزے دکھائے اور تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے وہ ہم کو دکھاؤ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے فرمایا۔ قولہ تعالیٰ: اِنِّیْ مَوْحٰیٓنٌ لِّکُمْ مِّنْ اٰیٰتِیْنَ الْاٰتِیٰتِیْنَ فَتَجَسَّسُوْا اِنَّکُمْ لَمُنْکَرُوْنَ۔ حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو مٹی سے جانوروں کی صورت پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا یا نور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور چونکا کرتا ہوں جو اندھا پیدا ہو اور کوڑھی کو اور جلانا یوں مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور بنا دینا یوں تم کو جو کچھ کھا کر اڑ گئے اپنے اپنے گھر سے اور جو رکھ اڈ لٹانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اور صحیح بتاتا ہوں تو ریت کو جو کہ آسمانی کتاب ہے اور وہ بٹھ سے پہلے کی ہے اور آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر اپنے رب کی طرف سے سو ڈر اللہ تعالیٰ سے اور جو کچھ میں تم کو کہوں اس کو مانو اور بیشک اللہ ہی ہے رب میرا اور رب تمہارا اس کی بندگی کرو اور یہی سیدھی راہ ہے یہ سن کر ان مابھی گیروں نے کہا قولہ تعالیٰ: قَالَ اَلْحُوْرَیُّوْنَ یٰعِیْسٰی اَبْنُ مَرْیَمَ اَلْحَقَّ تَجَسَّسْتَ۔ اور جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تیرے رب سے ہو سکے تو وہ اتارے ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے کہا ان سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے اگر تم کو یقین ہے اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم پیوستے ہیں کہ کھاویں اس خوان سے طعام اور چین پاویں ہمارے دل اور ہم یہ بھی جانیں کہ تم نے ہم کو سچ بتایا ہے اور پھر ہم سب تیری اس رسالت پر گواہ رہیں۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ نے ان کی سنی اور پھر وہ ایک بڑے میدان کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر اپنے سر کو ننگا کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر خداوند قدوس سے دعا مانگی کہ اے رب میرے تو دانا بیٹا ہے جو کچھ کہ حواریوں نے مجھ سے کہا ہے اور جو کچھ کہ انہوں نے طلب کیا ہے۔ اگر ان کی قسمت سے روز ازل سے تو نے مقرر کیا ہے تو ان کے واسطے ایک خوان نعمت اپنے فضل سے بھیج دے قولہ تعالیٰ: قَالَ عِیْسٰی اَبْنُ مَرْیَمَ اللّٰهُمَّ رَتِّبْ لِّیْ اَخْرُوْجْ عَلَیْنَا صَاعِدًا مِّنَ السَّمَآءِ تَکُوْنُ لَنَا لَحْمٌ۔ ترجمہ: کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے اللہ اے رب میرے اتار ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے کہ وہ دن عید ہو دے ہمارے پہلوں اور زچھلوں کو اور اور نشانی ہو دے تیری طرف سے اور روزی دے ہم کو اور تو ہی ہے بہتر روزی دینے والا اسی وقت حضرت جبرائیل نے نازل ہو کر کہا قولہ تعالیٰ: قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مُنْذِرٌ لِّہَا عَلَیْکُمْ فَمَنْ یَّکْفُرْہِ الْاٰیۃِ کَمَا اَللّٰہُ نَعَمَ فَاِنَّہٗ لَمِنَ الْاٰیۃِ۔ کہا اللہ نے میں اتاروں گا تم پر وہ خوان پھر کوئی تم میں سے ناشکری کرے اس کے بعد تو میں اس کو عذاب کروں گا وہ عذاب جو نہ کروں گا کسی کو جہانوں میں سے بعد اس کے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک نہایت مہتمم بالشان خان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا حبیب ان لوگوں نے اس خوان کا سر پوش اٹھا کر

دیکھا تو اس میں پانچ روٹیاں اور ایک ٹھیلی تلی ہوئی تھی جس میں کانٹے نہ تھے اور نہ اس میں بڑی تھی اور تھوڑی سی ترکاری اور ایک ٹکڈان اور پانچ انار اور تھوڑے سے خرے اور ردقن زیتون اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی تھی یہ چیزیں تمام بنی اسرائیل کی قوم نے دیکھیں لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ نہ کھایا اور کہنے لگے اے یہی دیکھیں گے کہ اس تلی ہوئی ٹھیلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو تب ہم تم پر ایمان لے آویں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تلی ہوئی ٹھیلی پر کچھ بڑھ کر بھونکا خدا کے حکم سے وہ ٹھیلی زندہ ہو گئی اور پھر وہ ٹھیلی اس خوان میں سے کود پڑی یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ آدمی سہم کر مر گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے خلد سے دیا کیجئے یہ پھر ویسی ہی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ٹھیلی پھر ویسی ہی تلی ہوئی ہو گئی اور یہ معجزہ تمام قوم بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خوانِ نعمت پر کھانے کو بیٹھے اور بعض غریب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے اور جو مفرد تھے انہوں نے وہ کھانا ان کے ساتھ نہیں کھایا اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس غریب نے ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا وہ بہت جلد غنی ہو گیا اور جس اندھے نے کھایا تھا وہ بینا ہو گیا اور جس کوڑھی نے کھایا تھا اس کو آرام آ گیا چنانچہ وہ خوانِ نعمت سارا دن اسی طرح بھر رہا اور کھارہا اور کچھ بھی کم نہ ہوا آخر رات کو وہ خوانِ نعمت پھر آسمان پر چلا گیا لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کھانا کھایا نہ تھا وہ بعد میں بہت پشیمان ہوئے اور پھر کہنے لگے کہ ہم بہشت کی نعمتوں سے محروم رہے اس کے بعد خدا کے حکم سے دوسرے دن بھی تو ان نعمتوں سے بہشت سے آیا پھر اس خوانِ نعمت سے بہت سے لوگوں نے وہ تلی ہوئی ٹھیلی اور ترکاری وہ پانچ روٹی اور انار غرض سب کچھ کھایا اور وہ ذرا بھی کم نہ ہوا ویسا ہی وہ خوانِ نعمت بھر رہا۔ اور پھر ویسا ہی خوانِ نعمت آسمان پر چلا گیا۔ غرض جن لوگوں نے اس میں سے کھائی جو چیز وہ ان کی پسند سی پر تھیں۔ بعض نلپنے ذوق شہر میں سے کھانا چاہا اس کو دوسری مزاملا اور جسے ترشی سے ذوق تھا اس کو ترشی ہی کا ذائقہ حاصل ہوا اور جس کو نیکیں کا شوق تھا اس کو نیکیں ملتا رہا۔ الغرض اسی طرح وہ خوانِ نعمت تین دن آتا اور جاتا رہا اور شہر کے جتنے لوگ تھے سب کے سب آسودہ ہو کر کھاتے تھے اور بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ خوانِ نعمت چالیس روز تک برابر آتا اور جاتا رہا اور نام اہل شہر اس میں سے کھاتے رہے لیکن خدا کے فضل سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ قوم بنی اسرائیل یہ معجزہ دیکھ کر بعضے ایمان لے آئے اور بعض نے پھر بھی انکار کر دیا اور جو اس کے بعد بھی ایمان نہ لایا تو اس کی شکل سورا اور رتھ کی ہو گئی اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر رحمت الہی نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ سات سو آدمیوں کے چہرے

مسخ ہوئے تھے یعنی سوڑا اور ریچھ کی شکل کی صورت بن گئے اور جو لوگ کہ ایمان لے آئے تھے انہوں نے
 نور اسلام سے سعادت دارین حاصل کی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو
 کہ ایک میدان کی طرف سیر کو گئے تو وہاں ایک لوطری کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے
 آتی ہے اس نے کہا اپنے گھر سے آتی ہوں اب دوسرے مکان پر جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے کہا: کَيْسَ مَكَانٍ يَا بَنِي هَرْدَيْفَ ترجمہ کہا مریم کے بیٹے کے واسطے مکان نہیں ہے یہ مستحق ہی مجھ سے
 لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ فرمادیں
 تو آپ کے واسطے ہم ایک مکان تیار کر دیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس دولت
 نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دولت ہم دیں گے۔ حضرت نے فرمایا اے یارو گھر بنانے کو میں جہاں کہوں وہاں
 بناؤ۔ تب دوسرے دن مومنین عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت روپیہ دولت لے کر آئے اور پھر آپ نے
 فرمایا آؤ میرے ساتھ میں بتلا دوں تب دریا کے کنارے لے جا کر موج کی جگہ بتائی کہ تم لوگ یہاں پر میرے
 واسطے مکان بناؤ۔ انہوں نے کہا اے حضرت عیسیٰ یہ جگہ تو بہت مخدوش ہے یہاں پر کیونکر مکان بنے
 گا اور پھر کیسے ٹھہر سکے گا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے یارو جان لو دنیا بھی جائے تخر و شش
 ہے اور اس کو حوادث کے پھیٹھے اور موصل ہر وقت مارتی رہتی ہیں اور اس گرداب موج میں ٹھہرنا
 کر کوئی رہا نہیں اور نہ آئندہ رہے گا۔ الغرض دنیا میں عمارت بنانا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ
 وہ آخرت کی عمارت بنائے جس کو ہمیشہ بقا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 وقت میں ایک نیک بخت عورت تھی ایک دن وہ روٹی پکانے کے واسطے آگ سلگا رہی تھی تاکہ اس
 سے روٹی پکائے۔ اتنے میں نماز کا وقت آیا لہذا وہ نماز پڑھنے لگی۔ جب اس نے نماز سے فراغت
 پائی تو دیکھتی کیا ہے کہ اس کا لڑکا اس آگ کے چوٹھے کے اندر اس آگ سے کھیل رہا ہے اس نے یہ
 دیکھتے ہی جلدی سے اپنے لڑکے کو اٹھالیا۔ اور اپنے شوہر سے یہ ماجرا جا کر کہا اس نے جا کر حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام سے بیان کیا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو یہاں بلاؤ۔ اس سے
 حال پوچھ کر میں تم کو بتاؤں گا۔ پھر آپ کے فرمانے سے اس عورت کے شوہر نے اپنی بیوی کو حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو نے خدا کا کیا کام کیا جاہد تہ
 پایا کہ تیرا لڑکا آگ سے بچا۔ وہ بولی خدا عالم العین ہے میں کچھ نہیں جانتی ہوں مگر صرف چار باتیں ہیں اول
 یہ کہ اس کی لغت پر شاکر ہوں۔ دوسری اس کی بلا و مصیبت پر صابر ہوں۔ تیسری اس کی رضا پر راضی ہوں
 چوتھی آخرت کا کام دنیا کے کام پر مقدم جانتی ہوں۔ اگرچہ کار و دنیا فوت ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ

علیہ السلام نے کہا کہ بس یہی باعث ہے اس بچے کی محفوظ حفاظت کا۔ یہ عورت اگر مرد ہوتی تو اس پر وحی نازل ہوتی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کورستان کی طرف جا کر دیکھا کہ ایک شخص کی قبر سے نر چمکتا ہے۔ حضرت نے دعا کی اسی وقت وہ قبر چھٹ گئی اور ایک شخص اس قبر سے نکلا اور وہ نور کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تجھ کو یہ بزرگی کس عمل سے ملی اس نے کہا ایک میرا صلح بیٹھا تھا۔ اس نے میرے حق میں دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور جو گناہ میں نے دنیا میں کیے تھے وہ خداوند کریم نے معاف کر دیئے اور مجھ پر اپنی رحمت فرمادی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سچ ہے دعا بیٹے کی ماں باپ کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مردے سب اپنے فرزند پر نخر کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے ہمارے حق میں دعا کرے گی اس سے ہم کو نجات حاصل ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حجابہ بادشاہ سے ملاقات

کعب الاجار نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیابان شام سے جاتے تھے راستے میں ایک سر بسیدہ کی ہڈی ملی۔ چنانچہ انہوں نے جناب باری سے عرض کی یا الہی یہ کس کا سر راہ میں پڑا ہے تو اس کو زندہ کر دے تاکہ وہ مجھ سے بات کرے اور مجھے معلوم ہو کہ یہ کون شخص تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا۔ اور کس گناہ کی پاداش میں اس کی کھوپڑی راستے میں پڑی ہے اور جو بات میں اس سے پوچھوں وہ اس کا جواب دے ایسا کر دیجیے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کھوپڑی زندہ ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سر بسیدہ سے پوچھا کہ اے کھوپڑی خدا کے حکم سے تو ہم سے بات چیت کرنا لئی اے عیسیٰ تو جو کچھ اس سے پوچھے گا یہ تجھ کو جواب دے گا سب سے پہلے اس سر بسیدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھیے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو مرد تھا یا عورت۔ سعید تھا یا شقی۔ مقبول تھا یا مردود۔ تو لگو تھا یا غریب۔ نیک تھا یا بد۔ دراز تھا یا کوتاہ قد، نجیل تھا یا سخی اور مجھ سے یہ تاکہ نیز کیا نام ہے، یہ سن کر اس کھوپڑی نے کہا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بادشاہ تھا اور میرا نام حجابہ بادشاہ تھا اور میں بہت زیادہ سخی تھا اور سعید و مقبول اور نیک اور دراز قد بھی تھا اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے۔ دولت دنیا سب کچھ مجھ کو حاصل تھی اور مجھے کسی بات کا غم نہ تھا اور ہمیشہ عین و نشاط میں رہتا تھا۔ اور پانچ ہزار غلام میرے عصابدار جو ان و خوبصورت سرخ تنبا پرش باشمشیر ہندی دائیں بائیں کھڑے رہتے تھے اور پانچ سو غلام ماہر ترانہ ساز اور پانچ سو

غلام باچنگ و چغانہ میری خدمت میں مدام حاضر رہتے تھے اور ایک ہزار لونڈیاں ترکی خوش آواز گانے والی ہر وقت میری مجلس میں رہا کرتی تھیں اور ہزار لونڈیاں ہم جس ہم قدم ہم رنگ رقص کرتی تھیں اور ان کا رقص ایسا ہوتا تھا کہ مرغان ہوا اور درندے چوندے دیکھ کر کھڑے رہتے تھے اور آدنی تر سکنے کے عالم میں رہ جاتے تھے۔ اے پیغمبر خدا اگر میں اپنے تمام اوصافِ حمثت بیان کر دوں تو پھر آپ بھی تعجب کریں گے اور جب میں شکار گاہ میں برائے شکار جاتا تھا تو ایک ہزار اعلیٰ قسم کے گھوڑے معہ زین زین میرے ساتھ سہرتے تھے اور ایک ہزار میر شکار سفید بنا بوش و نالج مکمل برسرازد بہری شاہیں لے کر میرے ساتھ چلتے تھے اور ایک ہزار غلام باکر زین کلاہ گوشہ سرخ پوش میرے آگے اور ایک ہزار اسی طرح میرے پیچھے اور ایک ہزار باصلاح دہنی طرف اور ایک ہزار غلام بائیں طرف چلتے تھے اور اس کے علاوہ دس ہزار پیچھے رہتے تھے اے پیغمبر خدا اگر تم سے صفت شکار کی بیان کر دوں تو پھر آپ کو بڑا تعجب ہو گا اور مشرق سے مغرب تک میری بادشاہت تھی اور میرا لشکر بے شمار تھا اس کے لکھنے سے دہر و بیروزہ عاجز رہتے تھے اور بے شمار بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے جو میں نے ان پر بزر و ور شہنشاہ قبضہ کیا تھا اور اگر صفت اس زور اور لڑائی کی بیان کر دوں تو آپ اسکو بھی سن کر بڑے ہی متعجب ہوں گے یعنی کسی بادشاہ کو طاقت نہ تھی کہ میرا مقابلہ کر سکے اور تقریباً چار سو برس تک میں نے بادشاہی کی اس چار سو میں ایک دن بھی ٹھک و رخ نصیب نہ ہوا اور میں جو امر ذوق عالی و کمال و خوبی میں بے نظیر تھا یعنی کوئی بادشاہ وغیرہ بھی میرے برابر نہ تھا جو شخص بھی میری طرف نگاہ کرتا وہ نہایت متحیر رہتا اور میرا ہمیشہ کامعول تھا کہ ہر روز ایک ہزار دینار فقیروں اور محتاجوں کو تقسیم کرتا تھا اور ہر بھوکے کو کھانا کھلاتا تھا اور اسی طرح ایک ہزار تنگوں کو کپڑا دیتا تھا لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے حقیقی معبود اللہ عزوجل کو نہیں جانتا تھا اور میں خود بت پرستی کرتا تھا۔ پس یہ حقیقتیں حضرت علی بن ابیہ السلام نے سر بسیدہ سے سن کر پوچھا تم کو مرے ہوئے کئے دن ہوئے اور تو کس حال میں تھا کیا تو نے ملک الموت کی صورت و شکل و ہیبت کیسی تو نے دیکھی سو وہ بھی مجھ سے بیان کر۔ نب اس نے بیان کیا کہ اے پیغمبر خدا آج ایک سو برس ہوئے ہیں میرے مرنے کو اور اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ ایک دن میں موسم گرمی میں بیٹھا ہوا تھا کہ گرمی نے سر پر شدت صود کیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے جلنے ہائش گاہ پر گیا اور تمام اعضا میں میرے اس قدر سستی آئی کہ طبیعت میری بد مزہ ہو گئی پھر میں وہی سو رہا اور میرا حال متغیر ہوتا رہا اور اسی بستر شاہی پر روزیروں کو بلایا کہ نور امیر علاج کیا جاوے اور اس وقت میری سلطنت سبک ہو گیا اور میرا حکم ان سب کو بلا کر میں نے ان سے کہا کہ تم سب میرا علاج صحیح طور پر کرو۔ اس حکم

کے سنتے ہی تمام بلیبوں نے میرے واسطے دارو کی۔ لیکن ان کے علاج نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا اور کوئی دوا بھی مجھے مفید نہ پڑی اور پانچویں روز میرا حال از حد تیز ہو گیا اور میری زبان بند ہو گئی اور سیاہ ہو گئی اور بدن کا پینے لگا اور میری آنکھوں میں سیاہی چھا گئی اور روشنی جاتی رہی اور مجھے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ اور پھر مجھے بہوشی آنے لگی اس حالت میں سکرات میں عینب سے ایک آواز آئی وہ میں نے اچھی طرح سنی کہ روح ججماہ کی قبض کر کے دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک لحظہ بعد ہی ملک الموت مہیت و شمل بہم نامک ایسی کہ سران کا آسمان پر اور پاؤں تخت الثریٰ میں میرے سامنے آکر کھڑے ہوئے اور لئی منہ ان کے تھے میں نے جب ان کو دیکھا تو مارے ڈر کے ان سے میں نے بہت ہی زاری کی لیکن انہوں نے میری کچھ نہ سنی یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بادشاہ ججماہ تم نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ تمہارے اتنے منہ کیوں ہیں اس کا کیا سبب ہے۔ ججماہ بادشاہ نے کہا اے پیغمبر خدا میں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ سامنے کے منہ سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں اور دہنی طرف کے منہ سے باشندگان عالم سادات کی روح قبض کرتا ہوں اور جو منہ کہ بائیں طرف ہے اور جو پیچھے کی طرف ہے ان سے کافروں اور مشرکوں کی روح قبض کرتا ہوں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سکرات الموت تجھ پر کیسی گزری تھی اور کس طرح تیری جان نکلی تھی وہ بھی بیان کر اس نے کہا کہ میں نے حضرت عزرائیل کو دیکھا کہ کئی فرشتے ان کے ساتھ ہیں کسی کے ہاتھ میں آگ کے گوز اور کسی کے ہاتھ میں پھڑی اور تلوار ہے اور کوئی اپنے ہاتھ سے شعلہ آتش لے کر آئیں ہیں اور انہوں نے میرے بدن پر ڈال دیا۔ اس وقت مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ آتش تیر تر کوئی دوسری نہ ہوگی۔ اگر ایک ذرہ بھی اس میں زمین پر گرے تو ساری زمین کو جلا ڈالے اور اراکھ کر ڈبھر کر ڈالے، پھر وہ میرے نام بدن کا راگ دریشہ پکڑ کر جان سے تن کھینچنے لگے میں نے ان سے کہا اے فرشتو! مجھ کو چھوڑ دو اور میری دولت جتنی ہے وہ تم میری جان کے بدلے لے لو۔ پس یہ بات سنتے ہی انہوں نے میرے منہ پر طمانچہ مارا کہ اس سے تمام بدن کے جو ڈالگ ہو گئے اور پھر کہا اے بد بخت بے شرم دے جیا تو جانتا ہے کہ اللہ لعوض گناہ کافروں سے مال نہیں لیتا ہے۔ پھر میں نے کہا مجھ کو چھوڑ دو میں اپنی آل و فرزند خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ خدا رشوت نہیں لیتا ہے، اے پیغمبر خدا جان نکلنے میں ایسی تکلیف گزری کہ اگر ہزار شہر بیک وقت جھ پر ماری جاتیں تو بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ الغرض وہ فرشتے میری جان قبض کر کے لے گئے اس کے بعد لوگوں نے مجھے کفن پہنایا اور پھر قبرستان میں لے جا کر مردوں کے ساتھ گور بہتان میں دفن کر دیا اور مجھے اچھی طرح مٹی سے ڈھانک چلے آئے پھر اس قبر میں میری دوبارہ

جان آئی اور منکر نیک فرشتے آئے اور وہ فرشتے بھی جو دنیا میں میرے ساتھ تھے آئے اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جو تم نے دنیا میں بھلا اور نیکی و بدمی کی تھی سو وہ اب تم دیکھو اور کیے ہوئے کا مزہ چکھو اور جو کچھ میں اپنا کیا ہوا بھلا تھا وہ اس وقت سب یاد آگیا اور میں اپنے کیے ہوئے کو توڑوں پر آنسو بہاتا رہا اور صیب منکر نیک میرے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر میرے عقل و ہوش جاتے رہے کیونکہ میں نے ایسا کسی کو دیکھا نہیں تھا اور ان کے آنے سے زمین خود بخود پھٹ جاتی تھی اس خطرناک حالت میں اگر مجھ بد بخت کو قبر کے اندر بٹھا کر پوچھنے لگے صَنِّ دَسْ بَلْکَ یعنی تیرا خدا کون ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ تم ہو یہ الفاظ سنتے ہی گزرا آہنی سے مجھ کو مارنے لگے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی حرکت و دھمک سے تحت الثریٰ تک بل گئی ہوگی پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا مَا دِیْنُکَ یعنی کونسا دین ہے تیرا یہ سن کر اور عقل و ہوش باختہ ہو گئے اور زبان مارے خوف کے بند ہو گئی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے اے دروغ گو تیرا خدا کون ہے میں نے پھر کہا تم ہی ہو میرے خدا۔ پھر انہوں نے یہ سنتے ہی ایک گز آتش مجھ پر مارا اس وقت میں اف کر کے کہا درینا و استرنا، اگر میں پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا اب کہاں جاؤں اور کس سے فریاد کروں اور اب تو کوئی سنتا بھی نہیں صرف خدا ہی رحیم و رحمن ہے میں کچھ جانتا نہ تھا چار سو برس کی بادشاہی اور دنیا کی خوشی عذاب قبر اور سوال و جواب سے مجھ پر تلخ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ غضب اللہ کا ہو کہ نبوت خدا کی کھاوے اور پھر غیر کو پیسے۔ پھر کچھ دیر بعد مشرق و مغرب کی زمین آکر مجھ کو دبانے لگی اور اس نے ایسا دیا کہ میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم درہم ہو کر ٹوٹنے لگیں۔ پھر زمین نے کہا کہ اے دشمن خدا تو نے اتنے روز میری پشت پر دھا اور برابر کھڑا رہا اور اب تو میرے پیٹ کے اندر آیا ہے قسم ہے مجھ کو اپنے رب کی میں اب تجھ سے حق اپنا اور حق تعالیٰ کا سمجھ لوں گی۔ پھر اس کے بعد دو فرشتے آئے وہ بالکل سیاہ پوش تھے اور خشتناک معلوم ہوتے تھے۔ ایسا کسی کو میں نے اس سے قبل نہ دیکھا تھا۔ مجھ کو یہاں سے یاد کر عرش کے نزدیک لے گئے یہ دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان سا معلوم ہوا کہ میں اب شاید خدا کی رحمت کی جگہ آیا ہوں اتنے میں عرش کے کنارے سے ایک آواز آئی اس شقی القلب کو دوزخ میں لے جاؤ اور عرش کے پاس جا کر چار کرسی جو اہرات سے مرصع میں نے دیکھیں ایک پر ابراہیم خلیل اللہ اور دوسری پر موسیٰ کلیم اللہ اور تیسری پر محمد حبیب اللہ اور چوتھی کرسی پر ایک پیر مرد خشتناک بیٹھا تھا اور اس کے پاس کاغذ آتش الیتادہ تھا اور سلاسل داغلال یعنی زنجیریں اور طوق مسجراتیں اس کے پاس موجود تھے اور نام اس کا مالک تھا چنانچہ مجھ کو اس کے پاس لے گئے اور اس نے دیکھنے ہی مجھ کو ایک بھڑکی دی ایسی کہ میرے تمام بدن میں لرزہ آگیا اور میں بری طرح سے کانپنے لگا تو یہ بولا کہ اس بد بخت کو لوہے کی زنجیر سے پانچ

کر رکھیں مجھ کو قید شدید میں رکھا اور تقریباً ستر گز غبار کے نیچے بیٹھا۔ پھر میرے بدن سے کھال نکال کر
 سانپ اور چھوڑوں کے بیچ میں اس دوزخ میں ڈال دیا۔ اے پیغمبر خدا اگر اس زنجیر کا ایک حلقہ زمین پر پڑ جاوے
 تو تمام خلق روئے زمین کی ہلاک ہو جاوے اور میری زبان پر عبرت ثبت کر دی گئی اور پھر میں کسی قسم کی کوئی یاد
 نہ کر سکتا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اے حجابہ بادشاہ آتش دوزخ کیسی تھی وہ بیان تو کرو یہ
 سنتے ہی اس نے کہا اے پیغمبر خدا۔ دوزخ کے درجات سات ہیں ان کے نام یہ ہیں بادئہ، سبقر، سقر، بہنم
 نفلی، حطمہ، حادیہ۔ حطمہ اور حادیہ سب سے نیچے طبقے میں ہیں، اے پیغمبر خدا اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے
 تو کہتے کہ ان پر خدا کا غضب ہے ان کے نیچے اوپر دائیں اور بائیں آگے پیچھے دیکھتی ہوئی آگ ہے اور اس کے اندر
 بھوکے اور پیاسے لوگ جل رہے ہیں وہاں کھانا پینا اور سایہ قطعاً نہیں ہے۔ ہمیشہ سوائے غم کے خوشی اور
 راحت نہیں ہے اور منہ ان کا مانند سیاہ کرٹلے کے ہے اور ہمیشہ گریہ زاری اور توبہ زاری کرتے ہیں لیکن وہاں
 توبہ قبول نہیں ہوتی بلکہ ہر وقت آواز آتی ہے اے اہل دوزخ تمہارا اطعام ہمیشہ آتش دوزخ ہے تم تو
 دوزخ ہی کا ایندھن بنا رہے ہو پھر وہاں سے مجھ کو ایک درخت آتش کے پاس اندر دوزخ کے لیے گئے
 اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زکوم فرمایا ہے اور ہندی میں اس کو سج کہتے ہیں پس
 اس جگہ میں نے کھانے کو مانگا وہی درخت زقوم لاکر مجھ کو دیا جب میں نے اس کو کھایا تو اس سے میرا حلق
 بالکل بند ہو گیا اور اس طرح سے بند ہوا کہ وہ نہ نیچے اترتا ہے اور نہ اوپر آتا ہے مارے درد کے اور ورزش
 کے بری طرح چلاتا رہا کہ مجھ کو پانی دو تاکہ لقمہ حلق سے نیچے اترے، جب پیالہ بھر کر پانی گرم تھنم سے لا دیا
 اور جب میں نے اسے پیا تو اس کے پینے سے گوشت پوست بڑی تنگ جل کر خاک ہو گئی اس کے پیچھے ایک
 بھر کی کی آواز آئی اس آواز کے بعد پھر میری بڑی گوشت پوست بڑی تنگ جل کر خاک ہو گئی یعنی مکمل میرا
 جسم جل گیا اور پاؤں کے تلوے سے سرتک میرے آگ سے جل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مجھ کو جنتیاں
 آتشیں لاکر پہنائیں اور مجھ سے کہا اے بد بخت اپنے عمل کی جزا لیکھ اب تجھ کو سوائے عذاب کے اور کچھ
 نہیں ملے گا کیونکہ تو نے دنیا میں بد عمل کیے تھے اور تو نے خدا کو کبھی نہیں مانا تھا اور نہ اس کے عذاب
 سے ڈرتا تو نے اپنے خالق و معبود سے شرم اور اس کی عبادت نہیں کی تھی اور نہ اس کی نعمتوں
 کا شکر بجا لیا تھا اور اپنے بھائی برادر مومن مسلمانوں کا مال زبردستی سے چھین لیتا تھا اور حرام ضرری سے
 کبھی ڈرتا تھا اور برابر مسلمانوں کو ایذا دیتا تھا اور کسی برائی کے کام سے پر سیز نہیں کرتا تھا اے پیغمبر خدا
 ایسی ایسی باتیں مجھ سے کہیں اور آگ کی جنتیاں مجھے پہننے کو دیں۔ پس اس کی پیش سے مغز میرا سر سے اور کان
 اور ناک سے نکل پڑا اور اس وقت پتھر وہ ہو گیا۔ اے پیغمبر خدا میرے کھلنے کی چیز سوا آگ کے اور

زقوم کے کچھ نہ تھا۔ پھر وہاں بھڑک کر ایک پہاڑ پر لے گئے اس پہاڑ کا نام سکرات ہے لمبائی اس کی تین ہزار برس
 راہ ہے اور اس کے اندر ستر کنویں آتشی ہیں اور جتنے عذاب پھر پر گنمے سب اس میں موجود پائے اور اس
 میں سانپ ڈکھو بیٹھا رہیں اور سانپ کچھ خوب دانت اپنے بجاتے اس کی کٹاکٹ کی آواز سو برس کی راقا تک
 سنی جاتی تھی اور جب کسی کو کاٹتے تو وہ فوراً ہی خاک ہو جاتا تھا اور اگر ان کے زہر دانت کا ایک قطرہ روئے
 زمین پر گر پڑے تو دنیا جل کر خاک ہو جاوے عرض بھڑ پر ہر روز اس پہاڑ پر تین مرتبہ سکرات موت ہوتی تھی
 پس اسی وجہ سے اس پہاڑ کو سکرات الموت پہاڑ کہا جاتا ہے اور جس کو بھی اس پہاڑ پر لے جاتے ہیں تو وہ
 تلخی سکرات چھکتا ہے پھر بھڑ کو وہاں سے ایک چشے میں لے جا کر ڈال دیا گیا اور میں اس جہنم میں دوزخوں
 کے پاس جا پہنچا اور آواز اس چشے کی سو برس کی راہ تک جاتی ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے اس سر بسیدہ حجاجہ بادشاہ سے دریافت کیا کہ یہ تو بتاؤ اس چشے کا نام کیا ہے اس نے کہا اس چشے
 کو غضبان کہتے ہیں اس واسطے کہ وہ ہمیشہ غضبناک رہتا ہے۔ اے پیغمبر خدا جو شخص خدا سے ڈرے
 گا اور گناہ سے باز رہے گا تو وہ چشمہ عذاب اس پر آسان ہو جاوے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 اس چشے کی بات سنی تو بوش ان کے جاتے رہے اور بہت زیادہ روئے اور بہت ڈرے اور کہا اے
 حجاجہ بادشاہ اس چشے کا عذاب جو تم پر گزرا سو بیان کرو۔ اس نے کہا اے نبی اللہ کے اس چشے کے ذریعہ
 کا اگر بیان آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے جب پاؤں میں نے اس چشے میں رکھا تو فوراً ہی میرے جسم
 کا چمڑا اور میرا پر اور جسم اس گرم پانی سے جل گیا اور مالک دوزخ نے مجھ کو ایک بھڑ کی دمی اس کی ہیبت
 سے میں اس چشے میں گر پڑا اور اسی میں غرق ہو گیا یا نبی اللہ میں اس چشے کا کیا حال بیان کر دو کہ عذاب اس
 کا سب عذابوں سے عذاب الکر ہے ایسا کہ میرے جسم کی تمام ہڈیاں جل کر رہ گئیں اور اول جو عذاب مجھ
 پر گزرا تھا وہ تو اس عذاب سے اصغر تھا اے پیغمبر خدا اگر میں اس کو ایک سو برس تک بیان کرتا رہوں
 تو بھی اس کا بیان ختم نہ ہو گا۔ پھر مجھ کو اس چشے سے نکال کر ایک کنویں پر لے گئے اور مجھ کو اس میں
 جا کر ڈال دیا اور لمبائی اس کی ایک ہزار برس کی تھی اور اس کو بیت الاحزان کہتے ہیں۔ اور اس کنویں
 کے کنارے ایک تابوت آتشی رکھا ہوا تھا اور لمبائی اس کی تین سو کوس کی تھی مجھ کو اس تابوت کے
 اندر رکھا اور جن شیطانوں نے مجھ کو خدا کی راہ سے بھٹکا کر گمراہ کیا تھا اور مغرور میں ڈالا تھا ان کو بھڑ
 پر موٹکل مقرر کیا اور جب ہی سے میں اس تابوت آتشی میں ہوں بہت مدت کے بعد ایک آواز
 عرش سے آئی کہ حجاجہ کو آج دنیا میں برسر راہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈال دو کیونکہ اس نے کچھ تواب
 کیا تھا دنیا میں بہت نوٹھی اور غلام آزاد کیے تھے اور بھوکے لوگوں کو کھلانا کھلایا تھا اور بیاسوں کو پانی

پلایا اور تنگوں کو کپڑا پہنایا تھا اور غریبوں پر مہربانی کی تھی اور مسافروں کی بھر گیری کی تھی۔ اور روز ازل میں لکھا گیا تھا کہ ججاء کو عذاب آخرت سے ایک بار رہائی کر کے پھر دنیا میں بھیج دوں گا یہ آواتر میں نے اپنے کانوں سے سنی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ججاء بادشاہ سے پوچھا کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ وہ بولا کہ میں قوم حضرت الیاس سے ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ اور خداوند قدوس سے کیا مانگتے ہو یہ سن کر ججاء بادشاہ نے کہا یا نبی اللہ الاماں الاماں آپ کو خدا کی قسم پہنچے بے چارہ گنہگار کے حق میں آپ دعا کریں کہ مجھ کو اس عذاب سے اللہ نجات بخشے اور زندہ کر کے پھر اس دنیا میں بھیج دے میں اس کی بندگی کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا تاکہ دنیا و آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے خدا تو بے مثل و بے مانند سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سب کا پیدائندہ اور مارنے والا ہے اور تو ہی سب کی فریاد سننے والا ہے میری دعا قبول فرما اس بیچارے ججاء کو زندہ کرنا کہ یہ تیری عبادت کرے اور حق عبودیت تیرا بجالائے۔ تب حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں نے روز اول میں لکھا ہے کہ تیری دعا سے میں اس کو زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیجوں گا اور اس کی توبہ قبول کروں گا اور اپنے عذاب سے خلاصی دوں گا کہ وہ دنیا میں سخی اور دوستدار فقیر و مسکین کا تھا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام یہ کلام الہی سن کر شکر خدا کا بجالائے اور خوش ہو کر اس ججاء بادشاہ کی ہڈیوں پر کہا کہ اے ہڈیو گوشت پوست بال پر اگندہ ہوئے خدا کے حکم سے ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ تب خدا کے حکم سے اس وقت جتنی ہڈیاں تھیں اور جتنا گوشت و پوست و بال ججاء کے تھے سب تہ امت اصلی پر جسم مرکب بن گیا اور زندہ ہو کر یہ کلمہ کہا: اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ عِيسٰى سُوْحُ اللّٰهِ۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد مطلق ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولِ برحق ہیں اور بہشت و دوزخ اور لعنت و نشریح ہے۔ پھر ججاء بادشاہ نے تقریباً اسی برس زندگی پائی اور اس زندگی میں قیام و صیام یعنی روزہ عبادت الہی میں بہت تن مصروف رہا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف توجہ دلاتا رہا، اور بجز عبادت الہی کے کچھ بھی دنیا کا کام نہیں نہیں کرتا تھا۔ آخر پھر بھی جاوہ مسلمان پر رہ کر شربت موت کا پیا۔ خدائے کریم غفور رحیم نے اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت نصیب کی۔ ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ اِنَّ عَقُوْرَ رَحِيْمٍ ۝ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ

حضرت مریم کی وفات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو لے کر بیت المقدس سے ملک شام کو جلتے تھے چنانچہ راستے میں حضرت مریم بیمار ہو گئیں اور وہ جگہ جگہ ایسی تھی کہ جنگل دکھاس کے سوا کچھ نہ تھا اس وجہ سے وہ بیخ گیاہ کے علاوہ اور کچھ استعمال نہیں کر سکتی تھی مجبوراً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لے میرے بیٹے کو وہی لادو وہ اسی وقت اپنی ماں کو اس جگہ چھوڑ کر اس جگہ کو لینے گئے چنانچہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اسی جگہ پر حضرت مریم نے وفات پائی اور خدا کے حکم سے اسی وقت بہشت کی حوروں نے آکر ان کو غسل دیا اور پھر بہشت کے کپڑوں سے کفن بہتایا اور وہ حوریں اسی جگہ دفن کر کے چلی گئیں اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غم موزوںگی میں ہوا کیونکہ وہ ان کے واسطے اس قبیل ارشاد کی تکمیل میں گئے ہوئے تھے اور ان کے انتقال کی ان کو کچھ خبر نہ تھی جب وہ اسی جگہ پر واپس آئے جس جگہ پر اپنی والدہ کو چھوڑ کر گئے تھے تو انہوں نے آکر کئی مرتبہ پکارا لیکن ان کو کوئی جواب نہ ملا آخری آواز میں بوجہ ملاکہ لبیک اے میرے فرزند تم مجھے کیوں بلاتے ہو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے امی جان میں نے آپ کو تین دفعہ پکارا۔ اب تک آپ کہاں تھیں یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنکر حضرت مریم نے کہا اے بیٹے پہلی بار پکار میں فردوسِ اعلیٰ میں تھی اور دوسری پکار میں سدرة المنتہیٰ میں تھی اور تیسری پکار میں آسمانِ اول پر آکر میں نے جواب دیا یہ سنکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اماں جان اپنا حال بیان کرو حضرت مریم بولیں اے بیٹے جس کو اللہ تعالیٰ فردوسِ اعلیٰ نصیب کرے اور وہ اپنی مزاد کو پہنچے اس سے بہتر اور کیا چیز ہے اس کے متعلق کیا پوچھتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے یہ باتیں سن کر آبدیدہ اور گریاں سینہ پریاں واپس بیت المقدس آگئے اور لوگوں کو خداوند قدوس کی دعوت دیتے رہے ایک دن منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے کہنے لگے اے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہاری تورات میں فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ کو ہفتہ کا دن مبارک ہے اور اس روز سوائے عبادت کے کچھ اور دنیا کا کام کرنا حرام ہے اب اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے اور ہماری کتاب انجیل میں فرمایا ہے کہ اتوار کا دن بہت مبارک ہے اس دن کو مانو اور اس کا احترام کرو اور اس دن نمازیں پڑھو اور کچھ کام دنیا کا اس دن نہ کرو اور مطابق انجیل کتاب کے چلو بس قوم بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ سے اس بات کو سن کر اپنے دل میں کینہ لاٹے اور پھر کہنے لگے کہ کتنے ہی پیغمبر بنی اسرائیل میں بعد حضرت موسیٰ کے آئے کسی نے بھی حضرت موسیٰ کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا اور یہ لڑکا وہ بھی بے پردہ بھول التبت آکر ہماری

کتاب موسیٰ کو منسوخ کرتے ہیں لہذا اس کو اردو اننا چاہتے تھے تاکہ ہمارے بنی موسیٰ علیہ السلام کا دین جاری رہے اور
 ان میں مومن یہودیوں سے کہہنے لگے اے قوم! تم نے زکریا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ان کو مار کر
 عذاب اٹھایا تھا اور تم پر خدا کا غضب نازل ہوا تھا۔ سو تم بھول گئے اور اب حضرت عیسیٰ جو کہ اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے مرسل نبی ہیں ان کو مارنے کا قصد کرتے ہو۔ تم لوگ خدا سے ڈرو اور اس سے پناہ مانگو اور اس کے
 حضور میں توبہ کرو کیوں کہ ہم نے تم کو براہ اختیار کرتے ہو ہیں تم لوگ ان پر اور ان کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ بہت کہا
 مگر ان کافروں نے نہ مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی فکر میں لگے رہے اور طرح طرح کی تدبیریں کرتے
 رہے اور کہنے لگے کہ جب کبھی ہم لوگ ان کو تہا پائیں گے تو ان کو مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں ان کافروں کی
 مومن لوگوں نے سنی تو وہ ہر دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی ہر وقت خبر داری
 کرتے تھے کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا نہ جانے دیتے تھے۔ اگر کہیں جانے کا اتفاق ہوتا تو خود ان
 کے ساتھ جاتے تھے ایک دن ایک عورت نے حضرت عیسیٰ کے اصحاب حواریوں سے پوچھا کہ تم لوگ ہر دم
 ہر ساعت حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو رہتے ہو تم لوگوں نے اس سے کیا معجزہ دیکھا ہے یہ سن کر ان حواریوں
 نے اس سے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح رسول خدا ہیں اور وہ خدا کے حکم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اندھے کو بینا
 کرتے ہیں اور کور بھی اور لنگڑے کو اچھا کرتے ہیں۔ تب اس عورت نے کہا کہ مبارکبادی اس شکم کو ہے کہ
 جس نے اس کو پیٹ میں رکھا یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے سنی اور پھر کہا مبارکبادی
 تو اس نبی کی امت کو کہے جو قرآن پڑھیں گے یہ سن کر اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا
 کہ اے حضرت عیسیٰ مجھے بتاؤ کہ قرآن کیا چیز ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں سنا یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 فرمایا کہ قرآن وہ چیز ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گا چنانچہ جیسا کہ اللہ
 فرماتا ہے: **وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
 يَدَيْهِ مِنَ الذِّكْرِ آتٍ وَمُبَشِّرًا بِدَسْوَئِلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَى اللَّهُ الْأَمْمَةَ أَحْمَدًا** ترجمہ اور جب کہ عیسیٰ
 بن مریم کے بیٹے نے اے بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف سچا کتابوں اس
 کو جو پھر سے آگے تھی یعنی توریت کو اور خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو آدے گا مجھ سے یہ سچے اور
 اس کا نام احمد ہو گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہمارے حضرت کا نام رکھا گیا۔ دنیا میں خدا اور فرشتوں
 کے درمیان احمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت میں حافظ قرآن بہت ہوں گے اور
 اور دوسرے پیغمبروں کی امت قرآن حفظ نہ کر سکے گی اور کتاب توریت اور انجیل کو بھی ان کے
 زمانے میں حفظ نہ کر سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خوشخبری سنائی کہ پیغمبر آخر الزمان

اور ان کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی۔ تب سب یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مار ڈالنے کا مشورہ کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ رہے گا تو ہمارا دین موسیٰ کا بالکل باطل و منسوخ کرے گا اور اس زمانے کا بادشاہ وقت کافر تھا۔ اس ظالم نے ان مردودوں کے ساتھ اتفاق کیا اور پھر ان کو حکم دیا پھر ان لوگوں نے جمع ہو کر ان کی ہلاکت کا قصد کیا پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حواریوں نے اس بات کو معلوم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ خاطر جمع رکھو اور بالکل مت ڈرو میرے دشمن کیا کر سکتے ہیں۔ **شعد** - دشمن پر کنہ چہرہ مہربان باشد دوست۔ پس تم لوگ اپنے دین اور نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لاؤ۔ اور اسی پر ثبات قدم رہو۔ تب تم نجات پاؤ گے۔ الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام حواریوں کو لے کر ایک مکان پر گئے جس کا نام عین السلوک ہے یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اس مکان کی چھت میں شگاف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لے گئے اور ان کو فرشتوں کی صحبت میں رکھا اور ان یہودیوں کے سردار کا نام شیوع تھا اور وہی سب سے پہلے مارنے کے واسطے اس مکان میں گھا تھا اس نے حضرت علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا اور جب اس ملعون کے اس مکان سے نکلنے میں کافی دیر ہوئی تو جو باقی یہودی مکان کے باہر کھڑے تھے بہت حیران ہوئے اور اسی حیرانی میں وہ اس مکان میں سب کے سب داخل ہو گئے اور جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے واسطے گھا تھا وہ اپنی قوم کا بہت بڑا سردار تھا مکان کے اندر ان لوگوں نے اپنے سردار شیوع کو دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بن گیا ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کیا تھا کیونکہ ان یہودی لوگوں نے جو طیش میں آپ کے تھے ان کے قتل کرنے کی مکمل تدبیر کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھایا تھا اور ان کی جگہ ان کے سردار شیوع کو انہی کی شکل و صورت کا بنا دیا تھا۔ ان یہودیوں نے جا کر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھ کر بے عزت و شہینہ پکڑ لیا ہر چند اس نے فریاد کی کہ میں شیوع ہوں تم لوگ مجھ کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ لوگ ہرگز نہ مانے اور پھر کہنے لگے کہ تم ہی عیسیٰ ابن مریم ہو تم نے اپنے جادو سے شکل شیوع کی بنا رکھی ہے پھر وہ غرور کر کے کہنے لگے اچھا ہم نے مانتا شیوع ہے نہ یہ تاؤ عیسیٰ ابن مریم کدھر گیا آخروہ تم کے تمام اس بڑے شہینے میں پڑ گئے اور اپنے سردار شیوع کو حضرت عیسیٰ جان کو پکڑ لیا اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے چوتھے آسمان پر اٹھالیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَمَا قَتَلُوا وَلَا مَاصِلُوا وَلَا كُنْ مَشْبُوكَ لَهْمُ الْخِزْيِ جَسَدًا وَإِنْ كُنْتُمْ مَارِئِيًا أَوْ نَرًا اس کو
سولی پر چڑھایا گیا۔ لیکن وہی صورت بن گئی ان کے سامنے اور جو لوگ اس میں کئی باتیں نکالتے
ہیں وہ اس جگہ شبہ میں پڑے ہیں اس کی بھراں کو نہیں مگر انکل پر چلنا اور اس کو مارنا نہیں بیشک اس کو
اٹھالیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا ہے کیونکہ میری حکمت زبردست
حکمت ہے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا یہ غلط ہے چونکہ
اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا ذکر فرمائی ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہرگز اس کو نہیں مارا اور اس کی صورت کو
صولی پر چڑھایا گیا اور نصاریٰ بھی ادل سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح کو مارا نہیں وہ زندہ ہیں لیکن تحقیق
وہ نہیں سمجھتے کئی باتیں کہ بدن کو مارا لیکن ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس گئی اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ
مارا تو تھا لیکن تین روز بعد وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے تھے لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور
نہ کسی دوسرے طریقے سے ثابت ہوئی ہے کہ ان کو مارا گیا۔ یاد رکھو یہ ضرور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس
نے ہم کو بتایا کہ اس کی اصلی صورت کو نہیں مارا اور ان کے پکڑنے کو وہ نصاریٰ لوگ ان کے قریب سے دور
بھاگ گئے تھے اور کچھ یہودی بھی نہ پہنچے تھے اس لیے صحیح خبر ان لوگوں کو ہے اور نہ ان یہودیوں کو ہے
ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سردار شیعہ کو پچاس برس تک ناز و نعمت سے پالا تھا اس
داسطے کہ جب حضرت عیسیٰ یہودیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں گے تو اس وقت اپنے سردار شیعہ کو ان کے
صدقے میں دے کر خلاص کریں گے اور فرعون ملعون کو اللہ تعالیٰ نے چار سو برس تک ناز و نعمت سے پال
کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دریائے نیل میں ڈل دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم
نیمیت بجات دی اور چار ہزار برس دنہ بائبل کافر دوس اعلیٰ میں پال کر اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت سے اس
داسطے پالا تھا کہ بعض گناہ مومنوں کے ان کو دوزخ میں ڈال دے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت
سے اس داسطے پالا تھا کہ بعض گناہ مومنوں کے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا اور مومن سب اس
دوزخ سے بجات پاویں گے۔ ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ قرب قیامت کے وبال ملعون خروج
کر کے ساری خلایق کو گمراہ کرے گا اور حضرت امام مہدی آخر الزمان مومنوں کے بیت المقدس میں
رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی کے ساتھ ہو کر سب کافروں کو مشرق
سے مغرب تک اور دجال کو مار ڈالیں گے مشرق سے مغرب تک تمام عالم کو مسلمان کریں گے۔ اور
دین محمدی میں سب کے سب داخل ہوں گے ایک متنفس کافر جہاں میں باقی نہ رہے گا اور اس روز

عدالت پوری ہوگی اور عدل و انصاف صحیح معنی میں ہوگا کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہوگی یعنی شیر و بکری ایک ایک گھاٹ پانی پئیں گے اور جو لوگ ظلم پر آمادہ ہوں گے ان کو دور کر دیا جاوے گا۔ اسی طرح سے چالیس برس حضرت عیسیٰؑ کی بادشاہیت اور تبلیغ محمدی جاری رہے گی۔ اس کے بعد حضرت امام ہدی انتقال فرمائیں گے اور ان کو اس وقت کے مومن لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے پاس دفن کریں گے اور بعد میں حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اور مومن لوگ ان کے اپنے ہاتھوں سے ! تجبیز و تکفین کریں گے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

بیان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رحم میں آنیکا

ایک روایت سے یہ چیز واضع ہو جاتی ہے کہ اجماع اہل سنت اور آئمہ اسلام ہے کہ جناب رسالت مآب علیہ وسلم اپنی زبان نبیض ترجمان و لسان معجز بیان سے خود فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے: **أَدَّلْ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور تھا۔ الغرض یہ چیز بالفاق ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا اور پھر ان کے نور سے تمام فرشتے عرش و کرسی لوح و قلم بہشت و دوزخ من و انس اور ساری مخلوقات پیدا کی چنانچہ اس کا ذکر کتاب کے اول میں آچکا ہے اسی واسطے یہاں پر مختصر کیا ہے کتاب روضۃ الاحباب و کتاب الاحیاء میں لکھا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی پر ظہور کیا ایسا کہ ان کی پیشانی اس نور محمدی سے عرش تک چمکتی تھی۔ پھر حضرت آدمؑ کی پیشانی سے حضرت شیثؑ کی اور حضرت شیثؑ سے حضرت ادریسؑ کی اور حضرت ادریسؑ سے حضرت نوحؑ اور حضرت نوحؑ سے اسی طرح درجہ بدرجہ منتقل ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا اور ان سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو نصیب ہوا۔ بعد اس کے نسل "بعد نسل عبد المناف تک پہنچا اور عبد المناف کے چچا بیٹے تھے ان کے نام یہ ہیں۔ عبد الشمس، ہاشم، ابوالمطلب اور ابو نفل اور ہاشم رسول خدا کے دادا تھے اسی واسطے رسول خدا کو ہاشمی کہتے ہیں اور ابوالمطلب امام شافعی کے دادا کا نام تھا۔ اور عبد الشمس ابوہبل کے باپ کا نام تھا اور ابو نفل لاولد تھے۔ وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المناف سے ہاشم کو ملا اور بعد فوت ہونے عبد المناف کے ہاشم کو مکہ کی ریاست اور کنجی خانہ کعبہ ملی۔ اتفاقاً انہی ایام میں مکہ میں قحط پڑا اور اکثر آدمیوں کو رات دن فاقہ گزرتا تھا چنانچہ ہاشم کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی برکت کاملہ سے تو نگر گیا تھا انہوں نے تمام مکہ والوں کی حیثیت کی اور حبیب دسترخوان

پھاتے تر و تریاں توڑ توڑ کر اور پارہ پارہ کر کے دسترخوان پر رکھ دیتے کہ کھاتے وقت کوئی کسی کو معلوم نہ کر سکے کہ کس نے کتنی روٹیاں کھائیں۔ اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم رہا اور ادل نام ان کا عمر تھا اور ابو سے عبد المطلب پیدا ہوئے اور پھر عبد المطلب سے کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ حبیب انہوں نے نذرمانی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میرے دس بیٹے پیدا ہوں گے تو ان میں سے ایک خدا کی راہ پر قربان کر دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاشم کو مکہ معظمہ کی ریاست ملی تو رضی علیہ السلام نے چاہا کہ وہ زم زم میں اسماعیل ذبیح اللہ نے خزانہ جمع کر رکھا ہے تو چاہا کہ اس کے اندر سے نکالیں پھر انہوں نے وہ چاہا کھو دا تو اس کے اندر خزانہ نہ پایا اور خدا کی مرضی سے پانی بھی اس کا سوکھ گیا پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظرمانی کہ اگر خزانہ خجھر کو مل گیا تو میں اس چاہ کو از سر نو تعمیر کروں گا اور پھر ایک لڑکے کو بھی تیرے نام پر قربان کر دوں گا تب پھر وہ چاہ کھو دا۔ خدا کے فضل سے بہت خزانہ اس سے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس خزانہ میں سے دروازے خانہ کعبہ کے لوہے اور فولاد سے بنوائے اور چاہ زم زم کی درسگی کرادی اور پھر کاتبوں کو بلایا کہ اپنی نذر کا سال بیان کیا۔ ان لوگوں نے بالاتفاق کہ ایفائے نذر واجب ہے۔ لازم ہے کہ ہر بیٹے کے نام پر قرعہ ڈالو جس کا نام نکلے گا اسی کو قربان کر دو یہ سن کر عبد المطلب کے بارہ بیٹے تھے چنانچہ ہر بیٹے کے نام پر قرعہ ڈالا اس میں نام عبد اللہ پیدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلا اور عبد اللہ کی پیشانی پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا۔ اسی سبب سے ان کی صورت اپنے یقینہ بھائیوں سے بہت زیادہ حسین تھی ماں باپ اور اقربان کو بہت چاہتے تھے اور حبیب انہوں نے قربانی کی سنی تو ان کی ماں اور اقربان نے عبد المطلب سے کہا کہ ہم لوگ عبد اللہ کی قربانی نہ دیں گے تو دوسری قربان کر دو یہ سن کر عبد المطلب نے مجھوں کو بلوا کر ان سے استفتاء چاہا انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تب ان کے عوض دس اونٹ قربان کیے۔ اور اس زمانے میں خداوند کریم کا یہ حکم تھا۔ تقدیر قبولیت کے آتش آسمان سے آکر قربانی کو جلا کر چلی جاتی ہے۔ اور اس وقت علامت قبولیت کی یہی تھی پس وہ دس اونٹ قبول نہ ہوئے۔ پس پھر اور دس اونٹ قربان کیے یہ بھی منظور نہ ہوئے آتش آسمان سے نہ آئی۔ پس اسی طرح پانچ سو تک اونٹ عبد المطلب نے ذبح کیے اور بعض روایت میں ہے کہ ایک سو اونٹ ذبح کیے پھر وہ بھی قبول نہ ہوئے۔ پھر سب خولیش و اقرباء نے مل کر خدا کی درگاہ میں تضرع و حاجت کی اسی وقت ایک آتش سفید مثل دودھ کے آسمان سے نازل ہوئی اور تمام قربانیوں کو جلا گئی۔ تب وہ قربانی خدا کے دربار میں قبول ہوئی۔ پھر سب خوش ہو گئے اور ہر ایک ان میں سے خدا کا شکر بجالایا۔ اسی واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انا نبی ذبیحی

یعنی میں بیٹا دو ذبح کیے ہوؤں کا ہوں یعنی اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ ابن مطلب اور حضرت محمد صلی اللہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب ابن عبد المناف تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ عبد اللہ کہیں کسی کام کو جاتے تھے راستہ میں خرابی رقبہ بنت نوفل سے ملاقات ہوئی اور وہ عورت کتب سماویہ سے بہت واقف تھیں اور بہت خوبصورت اور صاحب عصمت ناک تھا انی اور مال دار مکہ میں مشہور معروف تھیں جب نظر ان کی عبد اللہ پر پڑی تو بوجہ جو حکایات اور علامات نور محمدی کی توہمیت اور انجیل میں دیکھی تھی وہ عبد اللہ کے پہرے پر چمکتی دیکھیں اور پھر دیکھتے ہی وہ عاشق و سیرقا بنواں وصال جمانی عبد اللہ کی ہوئی اور پھر بولی تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے وہ سن کر بوسے میرا نام عبد اللہ ہے اور میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ وہ بولی کہ تمہیں کو تمہارے باپ نے نذر قربانی کی تھی۔ کہا ہاں بے شک نذرمانی تھی اور وہ بولی کہ میں دفتر نوفل ہوں اور خرابی رقبہ تاجرہ ہوں اگر تم مجھ سے نکاح کر دو گے تو ایک سو اونٹ کے اور مال اور خزانہ تم کو دوں گی۔ اور یہ معلوم نہ تھا کہ عبد اللہ نے شادی کی ہوئی ہے یا نہیں۔ پھر عبد اللہ نے ایک بہانے سے اس کو جواب دیا اور کہا بہت اچھا اپنے باپ سے پوچھ کر ان سے اذن لے آؤں۔ تب عبد اللہ اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی آمنہ سے ہم بستر ہوئے تب وہ نور محمدی عبد اللہ سے منتقل ہو کر آمنہ کے رحم میں۔ اور آمنہ حضرت کی والدہ حاملہ تھیں اس کے بعد صبح کو اٹھ کر عبد اللہ اس عورت کے پاس گئے جس سے کل وعدہ کر آئے تھے جا کر اس سے کہا کہ کل جو تم نے مجھ سے نکاح کی بات کی اب میں آیا ہوں۔ وہ عورت بڑی عقلمند تھی عبد اللہ کے پہرے کی طرف جو نظر کی تو وہ نور تبرک نہ دیکھا پھر عبد اللہ سے پوچھا کہ شاید گھر میں جا کر تم اپنی بیوی سے مباشرت کر کے آئے ہو کیونکہ جو نشانہ میں نے تمہاری پیشانی پر دیکھی تھی وہ آج نہیں دیکھتی ہوں۔ وہ بوسے ہاں جو تم نے تجویز کی وہ سچ ہے۔ تب وہ بولی اب مجھ کو نکاح کی ضرورت نہیں کیونکہ جس لیے میں نکاح کرنا چاہتی تھی سو وہ بات اب ہو چکی ایک روایت میں ہے کہ جب حدف شکم آمنہ کے درمیتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بار آور ہوا عبد اللہ نے وفات پائی آمنہ بیوہ ہوئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے پہلے ایک مہینہ بائیس دن ابرہہ نام ایک بادشاہ یمن میں تھا وہ مردود خانہ کعبہ کے توڑنے کو بڑے بڑے باغی اور بہت سا لشکر لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ببرکت قدوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا پس قصہ ابرہہ کا اس کتاب کے مولف نے یہاں مختصر کیا ہے کیونکہ یہ فقہ اصحاب فیل کا ہے اور تمام ماہوں کو اچھی طرح سے سورۃ فیل میں معلوم ہے اس واسطے فقیر نے بھی مختصر کیا اکثر مفسروں نے بہت روایات لکھی ہیں بضعیف پائی گئی وہ چھوڑ دی گئی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بیان بادشاہ ابرہہ ملعون مردود کا

تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابرہہ بادشاہ حاکم ولایت یمن کا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ہر حال نظر
 و جوانب سے لوگ مکہ معظمہ کی زیارت کو جاتے ہیں تو اس نے تم حمد ملعون نے اپنے دل میں بویا اور ایک
 مکان نمونہ کعبہ کے بنا کر اس کا نام بھی کعبہ رکھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ حلق اللہ کو بیت اللہ کے حج سے باز رکھیں۔
 اپنے بنائے ہوئے مکان جو نمونہ بیت اللہ کے بنایا تھا سب کو لا کر اس کا حج کرائے۔ ہر چہ اس نے اپنی
 جہد بے فائدہ اور کوشش بیہودہ کی کہ خانہ مذکور کو بیت اللہ قرار دیوے لیکن یہ صورت پذیر نہ ہوئی نچھار ہو
 ہو کر پھر اس نے بیت اللہ کو سمار کرنے کا ارادہ کیا ان ایام میں ایک شخص قریشی وہاں گیا اور اس بنائے ہوئے
 کعبہ کا خادم ہوا۔ اس نے ایک شب فرصت پا کر اسی گھر میں غلط و بول کیا اور جو کچھ مال و اسباب پایا لے کر چلا
 گیا۔ جب صبح ہوئی تو ابرہہ بادشاہ نے اس قریشی کی یہ حرکت دیکھی تو فوراً طیش میں آیا اور پھر بیت اللہ کو لشکر
 کثیر و فیل اور بان لے کر آئے۔ اس کا قصد کیا اور جہد از جہد بیت اللہ کی طرف سے اپنے لشکر کے روانہ ہو گیا
 اور راستے میں جو قوم بھی بیت اللہ توڑنے کی مزاحم ہوتی اس کو قتل کرتا۔ جب متصل بیت اللہ شریفین کے
 مویشی اور باغی کے جا پہنچا تو ان مقامی قریشیوں نے یہ حسرت دیکھ کر تمام اہل قریش متحد قبائل اپنا اپنا گھوڑ
 کر پہاڑوں میں چھپ کر دیکھتے تھے ہر چند فیل بالوں نے جا ہا کہ اپنے ہاتھوں سے کعبہ کو سمار کریں لیکن خوف
 الہی سے کوئی ہاتھی بھی آگے نہ بڑھا اور ایک نام کا محمود تھا جو خاص سواری بادشاہ ابرہہ کی تھی اس ہاتھی نے
 اس کو اپنی پیٹھ پر یعنی بلیڈ کو سوار نہ کیا تب اس مردود نے دوسرے فیل پر سوار ہو کر کعبہ پر تاخت کی اس
 نے جا ہا کہ میں کعبہ کو سہدم کر دوں اتنے میں ہزاروں کی تعداد میں پرند ابابیل حکم رب جلیل تین تین کنکریاں
 مثل دانہ سور کے ایک ان کے منہ میں اور ایک ایک پنچوں میں لے کر آئیں اور سب اصحاب فیل اور فیل پر
 اور گھوڑوں اور شتر پر مثل گولہ بندوق کے مارنے لگیں۔ ایک ایک کنکری ہر سوار کے سر سے گھس کر نیچے
 سے نکل گئی اور بعض سوار کے پشت سے گھس کر پیٹ سے باہر ہوئی ایک ہی بل میں خداوند قدوس نے
 سب کو جہنم رسید کیا اور بادشاہ ابرہہ پلیدیہ حال دیکھ کر بھاگا اپنے گھر میں جا کر لوگوں سے حال بیان کر رہا
 تھا کہ اتنے میں خدا کی مرضی سے ایک ابابیل اس مردود کے پاس گئی۔ اس نے لوگوں کو دکھایا کہ اس قسم کے
 جانور پرند سے تھے یہ کہتے ہی بادشاہ کے سر پر ایک کنکری مارا وہیں اس مردود کو واصل جہنم کیا۔ ایک روایت
 میں ہے کہ ہر پتھر پر نام اس شخص کا لکھا ہوا تھا کہ جس پتھر سے وہ مارا گیا۔ اور اللہ نے سورۃ فیل میں اس کا
 بیان فرمایا ہے قَوْلَ تَالِي أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا بِكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ لَمَّا تَرَاهُمْ يُكْسِرُونَ كَيْفَ كُنَّا بِكُمْ لِيَوْمِ الْحَمِيمِ كَيْفَ كُنَّا بِكُمْ لِيَوْمِ الْحَمِيمِ كَيْفَ كُنَّا بِكُمْ لِيَوْمِ الْحَمِيمِ كَيْفَ كُنَّا بِكُمْ لِيَوْمِ الْحَمِيمِ

رب نے ہاتھی والوں سے کیا نہ کر دیا ان کے مکرو فریب کو بیچ کر اسی کے اور بھیجے ان پر جانور پرندے
جماعت پھینکتے تھے لکنگر تھر مند سے پس کیا ان کو مانند بھس کھائے ہوئے کے۔ اس قصہ کو میں اسی پر لکھتا
کرتا ہوں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰدِقِ۔

بیان جانا عبدالمطلب کا واسطے تہنیت بادشاہ سیف ذکیازن

ابن دوران ملک زادہ حمیر کے پاس بعد موت مسروق بیٹے ابرہہ کے

حوالہ تاریخ بنایا گیا ہے کہ جب سیف ذی یزن تخت شاہی پر بیٹھا۔ قبائل عرب کے واسطے تہنیت کے ان کے
پاس جاتے تھے وہ سب پر نوازش کرتا تھا اور قوم قریش میں عبدالمطلب چونکہ محافظ بیت اللہ کے تھے اور اللہ
نے ان کو عرب کے درمیان معزز کیا تھا وہ بھی سیف ذی یزن کی تہنیت کو گئے بعد حمد و ثنا خداوند مطلق کے
اور ازلے آداب بادشاہی کے کہا کہ میں آپ کی تہنیت کو آیا ہوں یہ سن کر اس نے کہا کہ تم کون ہو اور کس قوم
سے تمہارا تعلق ہے اور تمہارا کیا نام ہے یہ سن کر کہا کہ میرا نام عبدالمطلب ابن ہاشم ہے اور میں قوم قریش سے
ہوں تب یہ سن کر بادشاہ نے تعظیم و تکریم سے جائے مکلف میں رکھا اور تقریباً ایک ماہ تک ان کی ضیافت
کرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ نے ان کو بلا کر کہا اے عبدالمطلب ہم تم سے ایک بات کہیں اس کو آپ کسی سے نہ
کہیں اور وہ یہ ہے کہ میں نے قریش میں اور انجیل میں اور دیگر صحیفوں میں اگلے زمانے کے دیکھا ہے کہ کہناری
قوم قریش میں ایک شخص پیدا ہوگا اور ان کی بادشاہی بھی قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ سن عبدالمطلب نے کہا
اے صاحب بھر کو آپ نے بہت خوش کیا وہ کون شخص ہے آپ ذرا اس کی تشریح فرمائیں۔ اس نے کہا دیا رب
میں حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا اور ان کے دونوں مندرہوں کے پیچ میں ایک نشان
میرنوت کا ہوگا اور وہ پیغمبر آخر الزمان ہونگے اور قبل بلوغت ان کے ماں باپ مر جائیں گے اور واد اوچیان
کی پرورش کریں گے اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور بہت دشمن ان کے ان ہلاکی پر رہیں گے
مگر خدا کے فضل سے ان کا کوئی کچھ نہ لگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دشمن کے مکرو فریب سے محفوظ
رکھے گا اور ان پر ایک نئی آسمانی کتاب قرآن مجید نازل کرے گا اور ان کے اصحاب اور امت سب اولیاء اور
بزرگ ہوں گے اور ان کے تمام دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور روئے زمین کی تمام مخلوقات ان کا دین
محمدی قبول کرے گی اور وہ سب کے سب خدا پرست ہوں گے۔ یہ سب شیطاں سے دور ہونگے
اور ان کی آمد کے بعد تمام بت خانے توڑے جائیں گے اور آتش کدہ فارس کچھ جائے گا اور ان کے

اور کر دیا سب صحیح و درست ہوں گے اور ان کے مانتے والے ام الہی کی تکمیل میں ہر وقت لگے رہیں۔ ان کاموں سے وہ باز نہیں گئے جن سے ان کو منع کیا جاوے گا۔ پس عبدالمطلب یہ سن کر سجدہ شکر بجا لگے اور درگاہ کبریا میں بلبلی ہوئے اور بادشاہ نے ان کو ایک سوادنٹ اور دس غلام اور دس لونڈیاں دس رطل نئے اور دس رطل چاندی اور کافی مشک و عنبر اور دیگر بہت سی چیزیں دے کر ان کو خوش کیا اور جو لوگ ان کے ساتھ بننا آئے تھے ان کو بھی خلعت فاخرہ دے کر معزز و سرفراز کیا۔ اور پھر کہا اے عبدالمطلب جس وقت لڑکا پیدا ہو تو فوراً مجھ کو خبر دینا اس کے واسطے جناب باری تعالیٰ میں دعا کروں گا اور میں ان پر اعتقاد لایا ہوں حالانکہ پیغمبر خدا اس وقت تولد ہو چکے تھے اور اس وقت آپ کا دوبرس کا سن مبارک ہو چکا تھا۔ عبدالمطلب یہ باتیں کسی سے ظاہر نہیں کرتے تھے اور اس بادشاہ سے بھی نہیں کہا بلکہ اس سے بھی چھپا رکھا تھا اور اپنے مکان پر لکے میں واپس آگئے ایک روایت میں ہے کہ کئی بیٹیاں تھیں سب سے فخرزند تولد ہوئے تھے آخر میں خواب دیکھا کہ فاطمہ بنت عمر کو نکاح میں لاؤتب ساٹھ اونٹ سرخ بال کے اور چنڈا دینا زرد سرخ اس کے ہر میں دے کر اپنے نکاح میں لائے اور ان کے بطن سے ابوطالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد پیدا ہوئے سب ملا کرتیرہ بیٹے تھے ان کے نام یہ ہیں: عارث، ابوطالب، ابولہب، عینذاق، امیر حمزہ، عباس، ضرار، زبیر، عبداللہ، مقوم، قثم، عبدالکعبہ، مجل اور ان کے علاوہ چھ بیٹیاں: ام سلمہ، صفینہ، برہ، عائشہ، اردی ایہ اور عارث کے تین بیٹے تھے، ابوسیفان اور معیرہ اور نوفل، ابوسیفان جس سال مکہ فتح ہوا اسی سال میں وہ مسلمان ہوئے اور ابولہب کے دو بیٹے تھے عقبہ اور عقیبہ اور اس کی بیوی حضرت معاویہ کی چھوٹی تھیں اور عینذاق اور امیر حمزہ اور ضرار اور زبیر یہ چاروں لا ولد تھے اور ابوطالب کے بیٹے تھے۔ عقیل اور طالب اور جعفر طیار اور حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے علاوہ دو بیٹیاں بھی تھیں ایک ام ہانی اور دوسری حمزہ سب فاطمہ بنت اسد کے بطن سے تھے اور عبداللہ اپنے سب بھائیوں سے صورت اور بزرگی میں زیادہ تھے چونکہ ان کے صلب سے سیدالکونین سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت عباس کے چھ بیٹے تھے عبداللہ، نضل، عبید اللہ، اور قثم اور سعید اور عبد الرحمن اور بیٹی کا نام صفینہ تھا اور حضرت عباس نے اسی سال کی عمر میں اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کے زمانے میں انتقال فرمایا یہ تمام واقعات جامع التواریخ میں لکھے ہوئے ہیں لہذا میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

فقیر عبد اللہ طاہری نقشبندی
شاہ لطیف کے لونی نا نگولائن
ک۔ و۔ ٹری

ذکراحوال عبداللہ والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بعض باتیں آنحضرت کی اپنی ماں کے شکم مبارک میں رہنے وقت جو وقوع میں آئی تھیں

بعض راویوں نے یوں روایت کی ہے کہ توریت میں مذکور ہے اور اہل توریت کو اچھی طرح معلوم تھا کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو یحییٰ بن زکریا کا سفید ریشی جیڑہ ہے۔ جب عبداللہ عبدالمطلب کے گھر میں پیدا ہوں گے تب اس سفید جیڑہ سے خون نکلے گا۔ اور جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا تب ان سب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ عبدالمطلب کے گھر میں یعنی مکے میں پیدا ہوئے اور ان کی پشت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی آخر الزماں پیدا ہوں گے اور وہ ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ پس یہ معلوم کر کے چند یہودی متفق ہو کر عبداللہ کو مار ڈالنے کو مکے میں آکر ایک مدت تک رہے آخر عبداللہ کا کچھ بھی نہ کر سکے اور سخت ہزیمت پا کر یہاں سے شام میں جا بسے اور عبداللہ بڑے ہوئے تب کبھی کبھی مکے سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو چلے جاتے تھے اور اس میں یہ دیکھتے تھے کہ اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا دیا ہوا ہو کر ایک مشرق کو جاتا ہے اور ایک مغرب کو جاتا ہے۔ پھر ایک لحظہ کے بعد پشت میں آ رہا۔ تب عبداللہ نے اپنے باپ سے جا کر یہ حال بیان کیا تو عبداللہ نے کہا کہ مدت ہوئی ہے میں نے ایک خواب دیکھا کہ سلسلہ زوری میری پشت سے نکل کر چار حصے ہو کر چار طرف گیا ایک حصہ آسمان کی طرف اور ایک حصہ طرف زمین کے اور ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو پھر کچھ دیر بعد ایک درخت سبز بن گیا۔ اور ایک شخص کو دیکھا کہ ہنایت پاکیزہ اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو وہ بڑے میں پیغمبر خدا بنی ہوں آخر الزماں ہوں۔ یہ سن کر میں خواب سے بیدار ہوا اور صبح کو جا کر کابھنوں سے اس کی تعبیر پوچھی انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے ایک نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے اور جیتے بنی اور بنی آدم ہیں سب ان پر ایمان لائے گے اے بیٹا اس نور نے میری پشت سے تمہاری پشت میں نقل کیا ہو گا۔ تم خوش رہو۔ جب یہ بات لوگوں میں منتشر ہوئی تو یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم عبداللہ کو نہ مار ڈالیں گے تب اور کچھ کام نہیں کریں گے یہ کہہ کر وہ مکے میں آکر مدتوں رہے۔ ایک دن عبداللہ کو میدان میں تنہا جاتے دیکھا۔ تب سب دشمن فرصت پا کر عبداللہ کے مارنے کو ننگی تلوار لے کر میدان کی طرف چلے اچانک وہب ابن عبد المناف جو پیغمبر خدا کے نانا جان تھے وہ ان کے تریب تھے جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ کو سب یہودی

مارنے آتے تب پشت پتاہ ان کے ہوئے اور اسی وقت آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک جماعت فوف کی فوج آسمان سے بصورت آدمی اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں وہ لے کر ان یہودیوں کو مارنے کے قصد سے آتی ہیں پس ایک لحظہ وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا انہوں نے آکر ان یہودیوں کو مار ڈالا جو عبد اللہ کو مارنے آئے تھے اور وہ اب ابن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہا کہ تم اب جا کر کہو کہ میری بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹے عبد اللہ کی شادی کر دو۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب سے جا کر یہ بات کہی کہ میری بیٹی آمنہ کا بیاہ اپنے بیٹے عبد اللہ سے کر دو یہ سن کر عبد المطلب نے یہ بات منظور کر لی اور عبد اللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا اور پھر اپنے ہی گھر میں رکھا اور قریش کی عورتیں جو عبد اللہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھی وہ سب عبد اللہ کے نکاح کی خبر سن کر مارے غم کے بنیاد ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس غم میں تقریباً چالیس عورتیں مر گئیں اور جو زیب و زینت اور پار سائی و پر سیز گاری آمنہ کو تھی وہ کسی عورت میں قریش کے نہ تھی۔ وہ نور جو محمد مصطفیٰ کا عبد اللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا پھر وہ لڑ بار ہویں تاریخ حجازی الاخریٰ کی شب جمعہ میں عبد اللہ کے صلب سے حضرت آمنہ کے رحم میں آیا اور اسی شب رضوان کو حکم ہوا کہ دروازے بہشت کے کھول دے اور اسی شب تمام بنت روئے زمین کے سرنگوں ہوئے اور تخت ابلیس کا الٹ گیا۔ یعنی بالکل پامال ہو گیا اور سب کا سردار شیطان لعین مشرق سے مغرب کو ہا کر دامن کوہ میں چلا چلا کر رونے لگا اس کی آواز سن کر تمام شیاطین وہاں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے سردار ہمارے تم کیسے روتے ہو آخر کیا مصیبت تم پر آ پڑی ہے۔ وہ معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی اور اب تک محمد آخر الزمان کا زمانہ نہیں تھا اور اب ان کا ظہور بالکل قریب ہونے والا ہے اور جب وہ پیدا ہوں گے تو سارے جہان کی مخلوق ان کے تابع ہوگی اور پھر جو ان کا قیامت تک جاری رہے گا اور ہمارے ماننے والے یعنی لات و عزریٰ کو باطل کرے گا تمام مخلوق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوگی اور ان ہی کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو بہشت سے نکال دیا اور مردود کر دیا اب اگر میں سر پتھر پر پتھر سر پیاروں کا تو بھی کچھ نہ ہو سکے گا۔ میں سر جہوں کی جماعت نے کہا کہ تم خاطر جمع سے رہو ہم جس طرح بھی ہو سکے گا بنی آدم کو گمراہ کریں گے اور اپنے لات و عزریٰ کی عبادت ان سے کروائیں گے ہم اپنی پوری طاقت خرچ کریں لیکن ہرگز خدا کی راہ پر چلنے نہ دیں گے۔ یہ سن کر اس سردار شیطان لعین نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بہکاؤ گے وہ لوگ تو نیک راہ اختیار کریں گے اور ہمیں المنکر سے باز رہیں گے جہرات و زکوٰۃ صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے وہ حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب ان شیطان جنوں نے کہا کہ کچھ پردہ اہ نہیں ہم ان کے عالموں کو کسی کام میں مداخلتہ دیں گے تاکہ وہ اس میں فریقہ ہو جائیں گے اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے

اور صاحب اطاعت کو ربا کاری کی خواہش دلا دیں گے۔ پھر سردار شیطاں نے کہا کہ حیب وہ علم اور زہد میں مستغرق ہوں گے تم کس طرح ان پر غالب آؤ گے ان کو کس طرح سے راہ راست سے بہکاؤ گے۔ جنوں نے کہا ہم ان کو ہواؤ حوص کی راہ میں شہوت دلائیں گے پھر اسی طرح وہ ہماری متابعت کریں گے اور جو ہم کہیں گے اس پر عمل کریں گے تب اس سردار لعین نے کہا کہ اب مجھ کو خاطر جمع ہوئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس زمانے میں مکہ کے ملک میں قحط تھا اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر جاتے تھے۔ حیب آمنہ حاملہ ہوئیں تب خدا کی رحمت سے پانی برسنا زمین سراب ہوئیں تمام درخت تر و تازہ ہو گئے اور ہر درخت اپنے اپنے پھل لایا اور لوگ اچھی طرح سے میوے کھانے لگے اور تمام تنگی قحط کی جاتی رہی۔ بہت زیادہ گلہ وغیرہ کی فراوانی ہو گئی۔ جتنے خوش و طیور مور و مرغ اور خانہ کعبہ جو امان دونوں جہاں کا ہے ہر ایک سردار کائنات کی بشارت دینے لگا کہ اب ظہور نبی آخر الزمان کا قریب ہوا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آمنہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے کہ اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو ہیں وہ سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حیب وہ تولد ہوں گے نام ان کا محمد رکھنا اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہو **قَدْ جَاءَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ كَلِّ حَاسِدٍ تَرْجِمَهُ: پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شر سے کل حاسدوں کے۔** پس یہ خواب آمنہ نے اپنے سسر عبدالمطلب سے جا کر کہا اور لعینہ من وعن بیان کر دیا۔ انہوں نے یہ خواب سنا اس خواب کی تعبیر بیان کی اور پھر کہا کسی سے یہ راز مت کہنا کیونکہ یہ خواب بالکل سچا ہے اور فی الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر پیدا ہوگا۔ **وَاللَّهِ اعْلَمُ بِالْغُصْبِ**۔

بیان تولد ہونا جناب سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بارہویں تاریخ ربیع الاول شب دوشنبہ وقت صبح صادق تولد ہوئے اور جو جنابات غریبہ آمنہ نے اس شب تولد میں دیکھے وہ تحریر کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کہ کہ بوقت جنم کے آمنہ اکیلی تھیں اور کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی اس آواز کو سن کر وہ ڈر گئیں اور بڑی میسر ہوئیں اور پھر بوسیں الہی یہ کیا ماجرا ہے اور اسی وقت ایک مرغ ہوا سے اُگر آمنہ کا سر ملنے لگا پھر وہ دہشت جاتی رہی اور پھر آمنہ کہتی ہیں کہ کچھ شرمین لاکر مجھ کو دی وہ میں کھا گئی پھر ایک نور میں نے دیکھا کہ مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا اس کے بعد پھر کئی عورتیں دیکھیں جو بہت خوبصورت میں نے سمجھا کہ شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور میں نے دل میں خیال کیا کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد معلوم ہوا وہ نہیں ہیں اور کوئی اجنبی ہیں وہ میرے پاس آکر مجھ کو

تسلی دینے لگیں۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ عورتیں بی بی مریم اور آسیہ خاتون فرعون مامون کی بی بی مومنہ تھیں وہ دونوں خدا کے حکم سے بہشت سے حوروں کو لے کر میری تہنیت کو آئی ہیں۔ اور اسی وقت ایک آواز میں نے کہا کہ اس لڑکے کو آدمیوں کے چشم سے فی الحال پرشیدہ رکھنا۔ اور پھر دیکھا کئی آدمیوں کو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے سلاچی آفتاب چاندی کا اور عطریات خوشبودار و عطرے کر آئے اور ہوا پر معلق کھڑے ہیں اور بہت سے پرند ہوا پر اڑنے والے نہ معلوم کہاں کہاں سے میرے گھر پر آئے جب میں نے ان کو دیکھا تو جو چہیں انکی زرد سبز کی تھیں اور پران کے باقوت سرخ کے تھے ان کو دیکھتے ہی آنکھیں میری روشن ہو گئیں اور اس وقت تین علم بادشاہی میں نے دیکھے ایک مغرب کو ایک مشرق کو ایک کعبہ پر کھڑے ہوئے اور اسی وقت دروزہ میرا غائب ہو گیا۔ اور پھر یہ آواز آئی کہ نور سلطان آخر الزمان نے عالم خلوت سے عالم صورت میں سسل فرمایا اور اس وقت آفتاب سعادت سے برج اقبال سے طلوع ہوا اسی وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے اور اپنی پیشانی روشن زمین کے اوپر رکھ کر سجدہ گزار ہوئے اپنے خالق کائنات کے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کچھ نجات کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلمہ پڑھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مَسْنُونٍ اللَّهُ ط اس کے بعد ایک ابر سفید ابر میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا۔ باوجود اس تاریکی کے گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں دھا کہ پروسکتا تھا۔ اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا پھر اسی وقت صبح سے اب آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ اور ان کو وہ تمام حالات دکھاؤ تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو جائے اور پھر اسی وقت ایک ابر سفید نمودار ہوا اس سے آواز آئی کہ اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلوہ ہوا اور ایک دوسرے سفید ابر سے یہ آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں۔ ہر دو جہان کے حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ ایک روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غیبی آواز سے آمنہ نہایت ہی متعجب ہوئیں۔ اس کے پھر تین شخصوں کو اور ان کا جہرہ مانند آفتاب کے روشن تھا اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں آفتاب چاندی اور دوسرے کے ہاتھ میں طشت سونے کا اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید اور اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور پھر اس ریشمی کپڑے سے ایک اٹوٹھی نکالی اور پھر اس آفتاب کے پانی سے سرتن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھلا کر ان کے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں اس خاتم سے ہر بنوت کر دی۔ پھر آپ کو اس ریشمی کپڑے سے لپیٹ کر میری گود میں دیا اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت کچھ کہا۔ اس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا اور دوسرے دونوں آنکھیں چوم کر

کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تم کو علم لدنی بخشا ہے جسے پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو اور زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کر جیسا کہ کبوتر اپنے پیچے کو دانا کھلاتا ہے ویسے ہی منہ پر منہ رکھ کر کہا یا رسول اللہ باجیب اللہ تم کو بشارت ہے کہ علم اور پر دباری اللہ تعالیٰ نے سب تم کو عنایت کیلئے پھر کئی شخص آئے اور میری گود سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے اور میں اکیلے گھر میں بہت متفکر رہی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی وہ واپس آپ کو لے آئے چہرہ ان کا مانند آفتاب کے چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی اے آمنہ اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ اور اپنے دل میں کچھ اندیشہ مت کر ہم لوگ ان کو حضرت آدم کے پاس لے گئے تھے۔ خدا ان کا حافظ و ناصر ہے پھر میں نے دیکھی کہ ایک شخص نے ان کے منہ پر بھوسہ دے کر کہا کہ بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی آپ پر ایمان لاوے گا وہ شتر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب و دوزخ سے خلائی پاوے گا۔ یا اللہ ہم گنہگاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار کر آہن یا یارب العالمین۔

بیان عبدالمطلب کا پیدائش میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کرامات کا جو انہوں نے دیکھی تھیں

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک ہر ایک ہند میں جو پیغمبر ہوتے تھے۔ وہ اپنی امت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور فضائل ضرور بیان کرتے تھے اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر آسمان سے نازل کیں ان میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب و فضائل ضرور بیان فرمائے پھر وہ پیغمبر حضرات اپنے وقت کے لوگوں کو ان مراتب و فضائل سے روشناس کراتے رہے۔ روایت ہے کہ عبدالمطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ میں تھے۔ عبدالمطلب کہتے کہ جب آدھی رات ہوئی تو غیب سے ایک آواز آئی اور اسی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے جب میں نے آسمان کی طرف نظر میں اٹھا کر دیکھا کہ سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں اور پھر میں نے اپنی نظریں ان کی طرف کی تو دیکھی کہ وہ سب کے سب زمین پر گر کے ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد دوسری آواز آئی اور اس آواز میں یہ کوئی کہتا تھا کہ بشارت پاؤ اسے اہل زمین بنی آخر الزمان پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کے دھلائے کو لایا گیا اور ضامن کعبہ ہے۔

اس وقت حرکت میں آیا پھر سجدہ کیا مگر میں اس وقت خواب شکر میں تھا فوراً نیند سے اٹھا اور دل میں کہا دیکھنا چاہیے یہ کہا۔ براہے نب میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا مردہ کو دیکھا وہ بھی لرزے میں ہے۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ کو لرزہ آیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ اے قریش مت ڈرو پس اس سے میں ہولناک ہوا اور پھر چپکا ہوا رہا اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیونکر جاؤں بہر صورت ان کے مکان پر گیا ہا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا کہ آمنہ کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے مکان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے یہ دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں اور وہاں جا کر دیکھا کہ کیا ماجرا ہے یہ دیکھنے کی میں تے بہت کوشش کی بہت دشواریوں سے میں اس کے دروازے پر گیا تو اس جگہ میں نے خوشبو مشک و عنبر و عود کی پائی اور پھر ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھلا دو چشم کے درمیان پیشانی پر ان کی نظر میری پڑی کیونکہ وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تختی اس وقت میں چاہتا تھا کہ میں اپنا گریبان پارہ پارہ کروں میں نے اسی آئیناں آمنہ سے پوچھا کہ تم سوتی ہو یا جاگتی ہو آمنہ یہ سن کر بولی میں جاگتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے آمنہ بتاؤ کہ وہ نور جو تمہاری دو چشم کے درمیان تھا وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبدالمطلب نے آمنہ سے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں وہ بولی کہ میں آج اس کو نہ دکھا سکوں گی عبدالمطلب نے کہا کیوں نہیں دکھا سکوں گی۔ آمنہ نے کہا جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص عینب سے کہہ رہا تھا کہ اے آمنہ اس لڑکے کو تین دن تک کسی کو مت دکھانا یہ سنتے ہی میں نے اپنی شیمڑھیاں سے کہنے لگا کہ کس نے تم کو منع کیا ہے اس کو میرے پاس لاؤ ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا اور لڑکے کو مجھے دکھاؤ جلد از جلد۔ تب وہ بولیں بہت اچھا آپ مالک ہیں آپ اس حجرے میں آکر اس لڑکے کو دیکھیے۔ صرف اور پارچہ حریر میں سلار کھا ہے تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہیں حجرے میں سے ایک مرد وہیب شکل نکل آیا۔ وہ ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کہاں جاتے ہو اس کے جواب میں میں نے کہا کہ میں اس لڑکے کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ بولا تم اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ کیونکہ اس وقت اس کو دیکھنے نہ پاؤ گے کیونکہ اس وقت اس کے پاس فرشتے ان کی ملازمت میں آئے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ نہ فرشتے ہو جاویں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے عبدالمطلب کہتے ہیں کہ یہ بابت سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور وہ شبیشر بھی میرے ہاتھ سے گر پڑی اور میں اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے نہ پایا اور میں نے چاہا کہ یہ بات قریشوں سے جا کر کہوں چنانچہ اسی وقت میری زبان بند ہو گئی اور میری زبان

اسی بری طرح سے بند ہوئی کہ میں پھر سات دن تک کسی سے بات نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ موغ سب اور ابرہہ سفید جو آمنہ کے گھر میں سایہ کیے ہوئے تھا وہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس میں میرا ہی مضمحل تھا عبدالمطلب نے کہا کہ میں نے اس وقت سنا کہ آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی مضمحل الخلاق محمد حبیب خدا اشرف الانبیاء ہے مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے اس وقت تمام بت جہان کے شکستہ ہو گئے اور آتش کدہ فارس کا جو کہ ایک ہزار برس سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا اور نوشیروان کے بالاخانے پر بارہ برج تھے سب ٹوٹ پڑے اور لات و عزنی گر پڑے۔ مگر تنزل در یوان کسری قتادہ۔ معارج النبوة میں لکھا ہے کہ نوشیروان کی سلطنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تولد تک بیالیس برس سے اوپر گزری تھی اور زمانہ حضرت عیسیٰ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سو برس سے اوپر گزرا تھا اور زمانہ اسکندر رومی آٹھ سو ہتھ برس ہوئے تھے اور حضرت داؤد کا زمانہ ایک ہزار آٹھ برس اور بعض روایات میں تین ہزار ستر برس گزرے تھے اور زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تین ہزار آٹھ سو برس۔ اور بعض روایات میں تین ہزار ستر برس گزرے تھے اور زمانہ حضرت نوح کو چار ہزار ایک سو نو برس اور بعض روایات میں آیا ہے کہ چار ہزار چار سو نو برس گزرے تھے اور زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھ ہزار ایک سو تریسٹھ برس گزرے تھے یہ تمام تواریخ کے حوالہ جات کتاب السیر میں لکھے ہیں اور بعض روایات میں چھ ہزار سات سو برس گزرے تھے۔ حضرت آدم سے ہمارے رسول خدا صلی اللہ وسلم خاتم النبیین رسول رب العالمین کے پیدا ہونے تک اور کرسی نملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے۔ محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن قصى ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نصر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان یہاں تک محدثین کے نزدیک محقق ہے اور عدنان سے حضرت آدم تک روایت میں بہت اختلاف ہے اور بعض روایت میں یوں ہے کہ عدنان ابن اد بن داد بن یسح ابن یسح ابن سلمان ابن حمل بن قینہ ابن حضرت اسماعیل ابن حضرت ابراہیم خلیل بن تارخ مشہور آذر بن ناوڑ بن مبارذ ابن راعو ابن فالغ ابن مامر ابن شائخ ارفند ابن سام ابن نوح ابن مالک ابن مؤشلیغ ابن اخوخ ابن باذن حضرت ہلائیل ابن قینان ابن الوش ابن شیت ابن حضرت آدم اور آنحضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ شریفہ کا نام آمنہ بنت وہب ابن عبد المناف ابن قصى ابن کلاب ابن مرہ اور پھر مرہ سے حضرت آدم تک حضرت والدہ محترمہ کاتب نامہ بھی پہنچتا ہے جیسا کہ میں اوپر لکھ چکا ہوں اسی واسطے دوبارہ یہیں لکھا۔ فقط۔ (واللہ اعلم بالصواب)

بیان حضرت حلیمہ دانی جنہوں نے دودھ پلایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال عرب میں قحط تھا۔ حلیمہ دانی کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سب نے سب بھوکے تھے اور بوجھ بھوک کے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لاکر اسے بیچ کر قوت حاصل کرتی اور خدا کا شکر بجالاتی اور اس وقت میں حمل سے تھی اور جب میں نے بچہ جنا اور اس کا نام بہیمہ رکھا اور اس وقت میں لڑکے کے دودھ کے واسطے حیران پریشان رہتی تھی اور یاد جو دکوشش شدید کہ کچھ کھلے نہ کو نہ پاتی تھی یہاں تک میں سات دن دراز فلتے سے بھوکی رہی اور فلتے سے بیتاب ہو گئی کچھ ہوش نہ تھا ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ ہے پانی اس کا نہایت سفید دودھ سے زیادہ اور اس میں خوشبو مشک عین کی آ رہی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس چشمہ سے جو پانی چاہو پانی پو تب تمہارا دودھ زیادہ ہو گا اور جب میں نے اس کے کہنے سے اس چشمہ کا پانی پیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم بھوک جانتی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا کہ میں شکر ہوں کہ تم نے حالات قحط میں تکلیف اٹھائی بغیر کھانے اپنے خدا کا شکر بجالائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بصورت آدمی تمہارے پاس بھیجی تاکہ تم کو خوش کروں تم کے میں جاؤ تو تمہاری اور زیادہ کشادگی ہوگی یہ بات کسی سے مت کہنا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس نے میری چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور کہا خدا تمہاری روزی زیادہ کرے گا اور دودھ بھی تمہارا زیادہ ہو گا تم کے چلی جاؤ اسی وقت میں اپنی نیند سے بیدار ہوئی اور دیکھتی کیا ہوں کہ میری چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی اور مثال مشک کے شکلی تھی نبی سعد کی عورتوں نے جب یہ حال میرا دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں کہ اس قحط سے سب کی جان لبوں پر آئی ہے قریب الہلاک ہوئے اور تم کو اس کے خلاف دیکھتے ہیں تم کیا کھاتی ہو۔ اس کا جواب میں نے کچھ نہیں دیا کہ خواب میں مجھ کو مخالفت تھی کہ یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا پھر دوسرے دن اپنی عادت پر گھاس پھیلنے کے لیے میدان میں گئی اسی وقت ایک آواز غیب سے آئی کہ ایک لڑکا تریش کی قوم میں پیدا ہوا ہے وہ بڑا مبارک اور سعادت مند ہے اور حقیقت میں سعادت اس کی بھی ہوگی جو اس کو گود میں لے کر اپنا دودھ پلائے۔ یہ آواز سن کر قوم نبی سعد کی عورتیں فوراً پہاڑ سے نیچے اتر آئیں اور پھر وہ اپنے اپنے شوہروں کے پاس جا کر یہ احوال کہنے لگیں پھر سب نے متفق ہو کر کے چلنے کا مشورہ کیا اور وہاں پر چلنے کا ارادہ مصمم کر لیا۔ پس ایک دن موقع غنیمت جان کر وہ سب کی سب چلیں اور میں بھی ان کے ہمراہ پیچھے گدھے پر سوار ہو کر چلی اور میرا شوہر بھی میرے ہی ساتھ تھا لیکن جو میرا گدھا تھا وہ رفتار میں سست تھا اس واسطے کہ گدھا میرا بہت لاکھڑ تھا۔ چنانچہ میرے ساتھ

سب کے سب آگے نکل گئے اور میں جس کوہ اور میدان سے گزرتی تھی یہ آواز برار سنتی تھی کہ اے حبیبہ تم کو
شرف مبارک ہو۔ میں اسی طرح چلتے چلتے تیسرے مقام پر جا پہنچی وہاں ایک شخص کو دیکھا تو وقامت میں بلند اور
ایک راہی اپنے ہاتھ میں بے ہوشہ نورانی چہرہ ایک غبار نکل آیا یہ کیفیت دیکھتے ہی میری آنکھیں مند ہو گئیں
وہ میرے پاس آکر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ اے حبیبہ سعادت دارین تم کو حاصل ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ
نے رضاعت پسر قریش تم پر مبارک کی۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تجو میں دیکھتی سنتی ہوں غیب سے
تم کو معلوم ہے کہ کھڑے لگے کیا ہوا ہے جنہ تو ہے کیا تم دیوانی زمین ہوئی ہو۔ اس اندیشہ کرتی ہوں راہ
میں چلی جاتی تھی کہ ہمارے ہمراہ کے لوگ ہم کو ایسے یا ایسے جگہ میں لے کے قریب جا پہنچی یعنی اتنے قریب
جا پہنچی تھی کہ مکہ چہرہ کو سب باقی رہ گیا تھا اور مجھ سے پہلے جانی والی قوم بنی سعد کی عورتیں مکہ میں پہنچ چکی تھی اور میں نے
ایسا کیا کہ اپنا تمام مال و اسباب سواری کا گدھا میں چھوڑ کر صرف اپنے شوہر کو لے کر مکہ شہر کے میں داخل
ہو گئی۔ اور وہاں جا کر میں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھا وہ شہر مکہ سے واپس آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت
ہی مترا ہوئی اور پھر زبان حال سے کہنے لگی کہ یا الہی مجھ کو بھی وہ دولت نصیب ہوگی یا نہیں جو تم نے
پہنچا۔ اتنے میں عبدالمطلب کو دیکھا کہ وہ چلے آتے ہیں دانی دودھ پلانے والی تلاش کرتے ہوئے
انہوں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھ کر کہا اے عورتو! قوم بنی سعد کی کیا تم میں کوئی دودھ پلانے والی
دانی ہے میں نے کہا میں ہوں۔ عبدالمطلب نے کہا تم کون ہو اور تم کس قوم سے ہو اس کے جواب میں میں نے
کہا کہ میں قوم بنی سعد سے ہوں۔ بولے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے پھر یہ سن کر انہوں نے کہا
اے حلیمہ یہ بہت نیک اور اچھی بات ہے کہ ایک لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام ہے اور وہ ہے بھی یتیم
تم اس کو دودھ پلاؤ گی اور میں اس کی اجرت تم کو دوں گا۔ پھر میں نے تمام قوم بنی سعد کی عورتوں سے کہا تو
کسی نے بھی اس کو قبول نہ کیا اور کہتے لگیں کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے کا کیا فائدہ۔ تم ہی اس کو دودھ
پلاؤ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا۔ شاید اس کے بعد تم عزیز و مکرم ہو جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا میں اپنے
شوہر سے پوچھ لوں پھر دودھ پلاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر سے دریافت کرنے کو جانے لگی تو عبدالمطلب
نے مجھ کو قسم کھا کر کہا کہ تم ضرور واپس آنا اور دودھ پلانا نیک کام سے مت پھرو اور میں بہت خوش ہوں
شاید مجھ کو اس سبب سے فیض پہنچے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب بنی سعد کی قوم اس سے باز آئی کہ یتیم
لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ ہو گا۔ پس اس وقت بھی میرے دل میں آ گیا کہ نہ دودھ پلانے
جاؤں یا نہ جاؤں اور ایک بھانجا بھی میرے ساتھ تھا اس نے کہا اے خالدہ وہ سب عورتیں قوم بنی سعد کی
بے نصیب ہو گئیں تم ابھی مت جانا اور ادھر مجھ کو بھی بات پسند آئی کہ جب سب محروم ہو کر چلی گئیں تو میں بھی

نہیں جاؤں گی لیکن میرے دل نے پھر مجھ کو مجبور کیا کہ تم ضرور جاؤ سعادت پاؤں گی اگر یہ لڑکا یتیم ہے
 تو کیا ہوا اس کو اپنی گودوں میں پالوں اور یہی چیزیں نے اپنے خواب میں دیکھی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ
 ہرگز جھوٹ نہ ہو گا چنانچہ یہ خیال کر کے میں عبدالمطلب کے پاس گئی اور وہاں جا کر اس نئے وطلب
 کر لیا۔ عبدالمطلب نہایت ہی خوش ہو کر مجھے آمنہ کے گھر لے گئے وہاں جا کر میں نے آمنہ کو دیکھا۔ اتنا
 ماہناب کے گھر میں بیٹھی ہیں اور اپنے لڑکے محمد صلعم کو سفید تیرے کپڑے میں لپیٹ کر سلاٹھ
 پس میں یہ چاہتی تھی کہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لوں۔ تو ان کے بیٹنے پر جب پناہ تو رکھا اس وقت آنحضرت
 خواب سے فوراً جاگ اٹھے اور اپنی آنکھیں کھولیں اور لب مبارک بھی خداں ہوئے اسی وقت
 میں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ چشم مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف گیا اور ادھر میں نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں
 لیا اور وہ اپنی طرف کا دودھ اپنا دھو کر ان کے منہ مبارک میں دیا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا
 اور پھر اپنی بائیں طرف کی چھاتی بھی ان کو پیش کی تو آپ نے نہیں پیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے
 کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کی کی دوسری چھاتی اس واسطے نہ پتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا
 تھا کہ اب وہ دودھ حلیمہ کا لڑکا پینے لگا دونوں طرف تم مت پیو تاکہ حصہ متاوی رہے۔ پس بہ نظر عدل دونوں
 طرف کا دودھ حضرت نے نہ پیا۔ حلیمہ سعیدہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول خدا اول دودھ نہ پیتے تب تک میرا
 بیٹا بھی دودھ نہ پیتا یہاں تک کہ وہ اپنا منہ نہ بھی دودھ پر رکھتا تھا۔ اول وہ پیتے پیتے میرا بیٹا پیتا اور وہ اپنی
 چھاتی سے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیتے تھے اور بائیں چھاتی سے میرا بیٹا پیتا تھا۔ ایک وقت
 کا ندھ پر میں آنحضرت صلعم کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی اس نے لڑکے کو دیکھ کر فوراً اجنباب کبریا میں سجدہ
 کیا اور پھر مجھ کو کہا کہ اے حلیمہ تو خوش ہو جا اب کوئی آدمی ملک عرب میں ایسا لیب آدریم سے زیادہ نہ
 ہو گا۔ حلیمہ کہتی تھیں کہ جب رات ہوئی مکہ کے پاس بطنی ایک جگہ ہے وہاں میں چار شب رہی اور پانچویں
 شب کو خواب میں دیکھا ایک شخص لڑائی چہرہ حضرت کے پاس سر ہانے آ بیٹھا اور حضرت کا منہ جو ماہیہ دیکھ
 کر میں نے اپنے شوہر سے اس نے کہا خوشی یہ بات کسی سے مت کہنا یہ علامت اقبال لمبدری کی ہے اور اس کے
 بعد دوسرے دن جو جو رتیں تو مبنی سعد سے مکہ میں آئی تھیں سب کی سب نے پھر اپنے گھر کی طرف رجعت
 کی اور میں بھی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول خدا کو لے کر اپنے گھر پر سوار ہو کر سب کے ساتھ چل دی اور
 میرے گدھے نے تین مرتبہ کعبہ کی طرف سجدہ کر کے رو بسوئے آسمان کیا اور مثال ہوا کے مجھے لے کر
 چلنے لگا۔ اور جو لوگ میرے ہمراہ تھے وہ وہ دیکھ کر متحیر ہوئے اور پوچھنے لگے اے حلیمہ یہی گدھا
 ہے جو میرے ساتھ آیا تھا اور تم لوگ دیکھتے تھے کہ سب سے پیچھے چلتا تھا اور پھر گدھے نے بھی بحکم خدا

کہا اے لوگو! میں وہی گدھا ہوں جو بالکل لاغر تھا اور اب میں بالکل تازہ دم ہو گیا ہوں کسی بات کی تم کو
 بھرنہیں ہے تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میری پیٹھ پر کون سوار ہے اور یہ میرے لیے بڑی سعادت
 ہے اور فخر مندی ہے یعنی میری پیٹھ پر خاتم الانبیاء ہیں اور میں ان کا بار بردار ہوں اسی وجہ سے پھر
 میں زور زیادہ ہو گیا ہے خلیفہ سے روایت ہے وہ کہتی تھیں کہ گدھا میرا سب سے آگے آگے نکل
 گیا تھا اور جہاں ہم منزل کرتے تھے اس جگہ آنحضرت کے طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہوتی تھی اور پھر
 تمام چوپائے جانور اس گھاس کو کھاتے تھے۔ اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو آنحضرت کی برکت سے بکریاں
 جو دہلی تھیں وہ سب موٹی تازی ہو گئیں۔ اور دوسروں کی بکریوں سے ہماری بکریاں زیادہ بچے دینے
 لگیں اور پھر بہت دودھ ہوا پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں سے اپنی بکریاں باندھ دیتے
 تھے پھر ان کی بکریاں بہت زیادہ دودھ دیتی تھیں اور بچے بھی بہت زیادہ دینے لگیں۔ کہتے ہیں
 کہ یہ سب خلیفہ کی خدمات کا صلہ تھا اس واسطے کہ سرور کائنات کی دائی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے خلاق
 کے دل میں محبت ڈالی تھی۔ کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ بہت پیارا و محبت کرتا
 تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے تو سب سے اول کلمہ
 آپ نے یہ پڑھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین ط۔ لوگ یہ سن کر بڑے ہی متعجب
 ہوئے۔ پھر خلیفہ نے کہا اس سے بھی اور عجیب و غریب بات واقع ہوئی ہے۔ جس وقت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے روز ایک بار پیشاب کرتے اپنی عادت معین پر اور ٹھہر کر پیشاب پاک کرنے
 کی حاجت نہ ہوتی تھی فوراً پیشاب خشک ہو جاتا تھا اور اثر بھی نجاست کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور جب
 پیغمبر خدا بڑے ہوئے تو میدان کی طرف بذات خود تشریف لے جاتے تھے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیتے
 تھے الگ جا کر ایک کنارے بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے جب عمر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چار
 برس کی ہوتی تو چھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے خویش و اقرباء کو نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں میں نے
 کہا وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہتے ہیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں رسول خدا یہ سن کر کچھ رونے
 لگے اور پھر کہنے لگے کہ میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا تم مجھ کو میرے خویش و اقرباء کے پاس بھیج دو۔ میں
 نے کہا اے جانِ نادر کیا تم باہر پھر جا چاہتے ہو پھر میں نے ان کے بالوں میں تیل ڈال کر اور شانہ و دینارہ کو
 کے اور آنکھوں میں سرمہ و دینارہ لگا کے اور پھر ایک پیرا بن پاکیزہ پہنا کر گلونیدیا مانی گلے میں باندھ دیا تاکہ
 ان پر کوئی اثر و زحمت کا نہ پہنچے اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے بیٹوں کے ہمراہ باہر گئے۔ اور پھر
 اسی طرح ہر روز باہر میدان میں جاتے اور پھر بہت ہی خوش رہتے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا میرا میدان

سے ڈرتا ہوا اور آنسو بہاتا میرے پاس آیا اور اس نے آکر مجھ کو کہا کہ اے اما جان میری اور چل کر مجھ کو دیکھ کر کیا ہوا۔ اب تک تو وہ مر گئے ہوں گے یہ سن کر میں بہت ہی گھبرائی اور اسی گھبراہٹ میں اٹھی اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تو کیا ہوا ہے۔ وہ لڑکا بولا کہ اے اماں جان ہم سب بھائی کھل رہے تھے۔ اس وقت ایک شخص نے اچانک آکر ہمارے سامنے پہاڑ پرے ہمارے کونٹا دیا اور پھر ان کا بیٹ چھاتی سے ناف تک چیر ڈالا اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اور میں ابھی کہہ نہیں سکتا کہ وہ شخص اب تک ہے یا نہیں۔ اور اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ دو جانور گدھ کی شکل کے تھے آکر کہنے لگے یہ وہی لڑکے دو سرا بولا ہاں تب دونوں جانور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گئے اور آنحضرت انکو دیکھ کر ڈر گئے اور پھر رونے لگے تب ان جانوروں نے سینہ مبارک چاک کر دیا۔ اور دل بے کینہ کے اندر سے جو خون مردہ سیاہ تھا نکال ڈالا اور کہا یہ خون سیاہ زہرہ شیطان ہے اور ہر شخص کے دل کے اندر یہ خون سیاہ رہتا ہے اور اب سے دوسرے شیطان مردود کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اثر نہیں کرے گا پھر اس کے بعد دل مبارک آپ برف سے دھو کر اسی جگہ پر رکھ دیا اور سینہ مبارک بھی سی دیا اور اور سینہ جو ایک قسم کا مرہم ہوتا ہے وہ اس پر رکھ دیا اس سے بہت جلد آرام ہو گیا اور مہر نبوت کو جیسا تھا دیا سب کر دیا اور اس عرصہ میں علیہ کے بیٹے جو سب گھر کھا نا کھانے گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی آکر یہ ماجرا دیکھا پھر نہایت ہی سرا سیمہ ہو کر دوڑتے ہوئے اپنی ماں سے جا کر یہ ماجرا کہا۔ پس علیہ کہتی ہیں کہ اس بات کو سنتے ہی اس وقت دوڑی، جا کر کیا دیکھتی ہوں تم اپنی پہاڑ پر بیٹھے ہیں آرام سے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جانتے ہی ان کے سر و چشم چوم کر کہا کہ اے میری جان تمہارے بیٹے تصدق جاؤ مجھ سے کہو کہ آج تم پر کیا گزری ہو بے یقین ہے سب بھائی گھر میں کھا نا کھانے کے واسطے گئے تھے اور میں ایلا تھا۔ اچانک دو جانور آئے اور مجھ کو دواں سے لے کر یہاں آئے اور مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جانور شکل میں دو فرشتے تھے ایک کے ہاتھ میں آفتابہ پانی کا اور دوسرے کے ہاتھ میں طشت زریں تھا اور انہوں نے پھر مجھے لٹا کر میرا پیٹ سینے سے لے کر ناف تک چیر ڈالا لیکن اس سے مجھے کچھ بھی درد و الم نہیں ہوا اور جو کچھ میرے پیٹ کے اندر تھا اس کو نکال کر طشت میں رکھ کر دھو ڈالا اور پھر اس کے بعد اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے آکر میرے پیٹ کے اندر سے لٹا کر میرا دل نکالا اور اس کے جو سیاہ خون تھا وہ نکال ڈالا۔ پھر میرا دل بھی اسی جگہ اس طرح نصب کر دیا اور میرے جسم کو درست کر دیا پھر وہ بہت جلد غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ علیہ وائی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ماجرا سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں اس وقت درگاہ خدانہی میں سجدہ ریز ہو گئی اس کے بعد یہ بات

جب تمام خلافت کو معلوم ہوئی تو وہ سن کر سستے لگے کہ محمد کو آسیب ہوا ہے یا پھر کوئی بڑا مرض ہوا ہے ان کو تو
 کاہنوں کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ ان پر وہ کچھ پڑھ کر مچھوئیں یا پھر کچھ نہ کچھ دعا کریں تب کچھ لوگوں کے کہنے
 سے ان کو کاہنوں کے پاس لے گئی اور اول سے آخر تک اس قصہ کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 ظہور میں آیا تھا بیان کیا یہ سن کر سب کاہنوں نے اپنی اپنی گود میں لے لیا اور آپس میں کہنے لگے اے لوگو
 اس لڑکے کو زندہ مت چھوڑو اگر یہ بڑا ہو گا تو تمہارا سے تمام ہتوں کو توڑ ڈالے گا اور تم کو بہت ذلیل و خوار
 کرے گا۔ سوائے خداوند قدوس کے اور کسی کو نہ مانے گا۔ اور جو تمہارا رادہ ہے اس کو بھی باطل کرے گا۔ اور
 پھر ایک ہی خدا کی طرف تم سب کو بلائے گا اور تم سب اپنے دین کو بھول جاؤ گے پس اے صاحبو اپنا دین جس
 سے قائم رہے وہی تم فکر کرو۔ حلیہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنی گود میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پھر
 میں نے کاہنوں سے کہا کہ تم لوگ دیوانے ہو جو تم بات کہتے ہو۔ اگر میں ایسا ہی جانتی ہوتی تو پھر ہرگز تمہارے پاس
 اس لڑکے کو کبھی نہ لاتی۔ پھر کچھ دیر کے بعد جاتم النبیاؑ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آئی اور ان کے زور سے اور
 تشدد سے میرا گھر روشن و معطر ہو گیا یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکے کو جلد اب عبدالمطلب
 کے حوالے کرو تاکہ تم امانت سے خلاصی پاؤ پھر میں ان کو لے کر اپنے گھر پر سوار ہو کر مکے کو جاتی تھی کہ ایک
 راستے میں ایک عینب سے آواز آئی کسی نے مجھ سے کہا اے حلیہ تم کو مبارک ہو۔ پس یہاں تک کہ میں آہستہ
 آہستہ مکے کے پاس بطمی میں جا پہنچی وہاں میں نے ایک گروہ جماعت کی دیکھی اور وہیں فیصلہ کو بٹھا کر میں اپنی حالت
 کو گئی وہاں بھی ایک آواز میں نے سنی اور پھر تجھے کی طرف میں نے اپنی نظر کی تو میں نے اس جگہ پر محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو نہ دیکھا۔ پھر میں نے اس جماعت سے پوچھا کہ صاحبو یہاں ایک لڑکا بٹھا تھا وہ کہاں گیا انہوں نے
 ہم جواب دیا کہ ہم نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا اور ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ لڑکا کون تھا اور اس کا کیا نام
 ہے پھر میں نے ان سے کہا کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ہے پس میں چاروں طرف بہت دوڑی
 اور کافی دیر تک دیکھتی رہی لیکن ان کو نہ پایا۔ اور رو کر میں یہ کہتی تھی کہ یا الہی تو نے ان کی برکت سے ہی مجھے
 فائز اہرام کیا ہے اور ہم کو فرغت ہوئی اپنا دو دھڑلا کر اور اب وہ بڑے ہو گئے ہیں اس وجہ سے میں نے
 جن کا لڑکا ہے دینے جاتی ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں سے خلاصی پاؤں نہ جانے اب اس لڑکے کو اس جگہ
 کون اٹھالے گیا ہے۔ پھر وہ قسم اپنے لات و عزائی کی کھا کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو نہ ملے گا تو میں اس پہاڑ پر جا کر
 پتھروں سے اپنا سر چھوڑ دوں گی یہ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہم سے ہستی کرتے ہو جو ایسی بات کہتی ہو اور
 تمہارے ساتھ تو ہم لوگوں نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں تم کیوں جھوٹ بولتی ہو۔ حلیہ کہتی ہیں کہ یہ بات سن
 کر میں بالکل ناامید ہو گئی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر دادیلا کرنے لگی اور بار بار اپنے منہ سے کہنے لگی کہ لے

خد صلعم تم کہاں ہو۔ یہ کہتی تھی اور برسرِ روتی جاتی تھی اور میرا رونادیکھ کر اور لوگ بھی رونے لگے۔ پھر درپردہ
 ایک بوڑھا صہرہ دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک عصا بھی تھا وہ میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ اے دخترِ سعیدم
 کیوں روتی ہو میں نے کہا کہ میرا لڑکا یہاں سے گم ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ جس جین نے تمہارا لڑکا لیا ہے
 میں اس کو تباہ دیتا ہوں تم فلاں سے پاس جاؤ اور روؤ مت تمہارا لڑکا اس کے پاس سے ضرور ملے گا تم
 اپنی خاطر جمع رکھو اور اس سے جا کر اپنا لڑکا لے لو وہ اللیثہ فرود تم کو لڑکا دے گا پھر میں نے یہ سن کر دیاں
 جا کر آواز دی جس جگہ اس نے مجھ کو بتایا تھا اور میں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ جس دن لڑکا پیدا ہوا تھا وہ مجھ
 کو معلوم نہیں ہے کہ لات وغزری پر اس دن کیا صدمہ گزرا تھا۔ تب اس نے کہا کہ میں اپنے سردار کے پاس جاتا
 ہوں کیونکہ تمہارا لڑکا تو وہی دے گا تب اس نے اپنے سردار سے جا کر کہا اے سردار ہمارے آپ کی ہر بانی
 تو قوم قریش پر بہت ہے اور اس وقت دخترِ سعید علیہ یہ کہتی کہ ایک لڑکا جس کا نام خد صلعم ہے وہ گم ہو گیا ہے
 اگر تم اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی تو قریش پر ہوگی۔ علیہ کا یہ کہنا میں نے دیکھا کہ اس وقت سبلت
 نے دوسرے بتوں کو پکارا۔ وہاں سے یہ آواز آئی کہ سبلت ہم سب یہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم سب
 اس لڑکے کے ہاتھ سے مارے جائیں گی پھر کہتی ہیں کہ میں نے ایک شخص کو رانی چہرے والے کو دیکھا
 اور وہ بھڑ سے آ کر کہنے لگا۔ اے علیہ! وہ لڑکا درحقیقت خدا دوست ہے اور وہ نہایت اچھی طرح سے ہے
 اور تم کو اندیشہ مت کرو۔ اور بھڑ کہ اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر عبدالمطلب کو یہ خبر پہنچی کہ خد صلعم گم ہو گئے ہیں۔ تو
 میرا جینا محال ہو جائے گا اور میں سن کر چلی ہی تھی اور کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ راستے میں عبدالمطلب سے ملاقات
 ہو گئی۔ انہوں نے میرا حال پوچھا اور میری کیفیت دیکھ کر کہنے لگے کہ اے تم کیوں مضطرب نظر آ رہے ہو
 آخر کیا بات ہے میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس لاتی تھی کہ مقامِ بطنی میں وہ بھڑ سے
 گم ہو گئے۔ یہ بات سن کر عبدالمطلب کہنے لگے کہ شاید ان کو کسی نے مار ڈالا ہو گا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار
 اپنے ہاتھ میں لی اور بہت ہی غصہ میں بھرے آتے تھے اور کوئی شخص بھی مارے ڈر کے ان کے سامنے نہ آتا
 تھا بس اسی طرح نکلے تلوار ہاتھ میں لے کر ایک بلند آواز دی اور پکارا اے اہل قریش سب حاضر ہو۔ چنانچہ اسی
 وقت تمام اہل قریش سب کے سب حاضر ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ تباہ کیا بات ہے عبدالمطلب نے
 ان تمام اہل قریش سے کہا میرا پوتا خد صلعم جو کہ جو کہ علیہ دانی کے پاس تھا وہ واپس لا رہی تھی میدان
 بطنی میں گم ہو گیا۔ سن کر ان سب لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک خد صلعم ہم کو نہیں ملے گا اس وقت
 تک ہم لوگوں پر کھانا پینا سب کچھ حرام ہے پھر اسی وقت سب کے سب عبدالمطلب کے سہراہ نکل
 پڑے اور ان میں سے ایک سو آدمیوں نے کہا کہ چلو ہم سب خانہ کعبہ میں جا کر خدا سے التجا کریں۔

سننے ہی عبدالمطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے کے آستانے پر جا کر اپنا سر زمین پر رکھ کر کہا۔ یَا رَبِّ مَدِّ
عَنِّي وَ لِيِّنِي مُحَمَّدًا اِجِبْ اِهْتَمُّوا بِمَهْتَبِي فَرِيَادِي كِي تَرْغِيبٌ سِيْ اِيْكَ اَوَاذِ اَتَىٰ۔ اے عبدالمطلب
کچھ اندیشہ مت کر محمد صلعم کو اللہ تعالیٰ نے آرام سے رکھا ہے اور کچھ ڈر نہیں ہے۔ پھر یہ تسلی سن کر عبدالمطلب
خانہ کعبہ سے نکل آئے اور با شمشیر برہنہ وادئی تہامہ کی طرف گئے اور آگے درقہ اور نفل اور مسود اور نفی
جاتے تھے۔ جب وہ مقام بطنی میں جا پہنچے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک سایہ دار درخت
کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مسود نے پوچھا کہ اے لڑکے تم کون ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ محمد
ابن عبد اللہ ابن عبدالمطلب ابن ہاشم ابن عبدالمطلب ہوں یہ سنتے ہی عبدالمطلب سید الکونین کو اپنی گود
میں لے کر وہاں سے چلے آئے اور پھر کعبہ میں آکر طواف کیا اور کہا: نَعُوْذُ بِكَ يَا اَبِيْ سَيِّدِي مِنْ حَاسِدِيْ اَوْ
مَكِيْ كَيْ سَهْمِيْ مِنْ جَنَّةِ قَرِيْشِي تھے آنحضرت کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور عبدالمطلب نے بہت ہی
انعام و کرام دے کر حلیہ دائی کو خوش کر کے ان کے دطن رخصت کر دیا۔

بیان جانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماموں کے گھر میں

اپنی والدہ آمنہ کے ساتھ و آمنہ کا راستہ میں فوت ہونا عبدالمطلب کا

اور ہمراہ جانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے ساتھ شام

کے سفر میں تجارت کو اور ملاقات ہونا ایک راہ سے راستے میں

بیان کیا جاتا ہے کہ جب دائی حلیہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدالمطلب کے حوالے کیا اور
آمنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر دو برس رہیں۔ پھر میں آتے وقت اثناء راہ میں
قصا الہی سے فوت ہوئی اور اس وقت آنحضرت صلعم کی عمر شریف صرف سات برس کی تھی اور اس کے
بعد حضرت نے اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس پرورش پائی اور سن شریف آنحضرت صلعم کا آٹھ برس
دو مہینے کا ہوا تو اس وقت عبدالمطلب بھی بیمار ہو گئے اور ان کی زندگی کی امید بھی منقطع ہو گئی تب
اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر یہ وصیت کی کہ پرورش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ذمہ ہے میں
اس بات کو تاکید و وصیت کرتا ہوں تم اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ اے اباجان

وہ میرا بھتیجا ہے میں اس کو اپنے قریبی کے برابر جانتا ہوں۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے انتقال کیا اور پھر اس کے بعد ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ان ایام میں اکثر ذکر خدیجہ البکری کے تھے اور تمام قریشی شام کی طرف بغرض تجارت جایا کرتے تھے اور اس وقت ابوطالب نے بھی ان کے ساتھ شام جانے کا عزم کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شتر کی ہمار پکڑتے تھے اور اس کو لے کر جیتے تھے چوں کہ اس وقت آپ کی عمر شریف کم تھی ابوطالب چاہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بھیجیں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان مجھ کو آپ اکیلا گھر نہ بھیجیں آخر میں کس کے پاس رہوں گا۔ بس آپ اپنے پاس ہی رکھیے یہ سن کر ابوطالب کے دل میں رحم آیا۔ اور پھر آنسو بہا کر کہا اے جان تم کچھ ڈرو مت کوئی اندیشہ نہ کرو تم سلامت رہو تم کو مکان پر نہ بھیجوں گا۔ پھر ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھالیا۔ اور دونوں چچا بھتیجے کا کارواں چل دیئے جب سب کارواں وادی شام میں پہنچے وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی اور اس بستی میں درخت سایہ دار تھا جو قافلہ سوداگروں کا اس راستے سے جاتا اور اس کے نیچے اترتا اور اس راہب سرخیش نے تربیت میں لکھا ہوا پڑھا تھا کہ فلاں روز فلاں وقت ایک پیغمبر کے سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آکر قیام کریں گے اور ان کی پشت پر مہربانوت سے ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے اس امید پر حضرت کے آنے کا وہ منتظر تھا اور اسی وجہ سے جو قافلہ بھی گئے سے آتا وہ سب کی خاطر مدارت کرتا تھا۔ اور سب کو بخور دیکھتا تھا۔ پس ابوطالب بھی اسی راستے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اسی وادی میں پہنچے اور وہ سرخیش راہب اس دن بالائے بام جا کر دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ کے سے آتا ہے اور ایک ننگر ابھی ابر کا ان کے سر پر سایہ کیے چلا آتا ہے پھر سب اسی درخت کے نیچے اکر اترے درخت نے تعظیماً کچھ جنبش کی اور ادب بجالایا۔ چونکہ اس قافلہ کے نیچے میں سید الکونین تشریف لائے تھے اس سرخیش راہب نے یہ حال دیکھ کر ان سوداگروں کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ بکیوں سے ہم محبت ہی محبت رکھتے ہیں جو سوداگر کے سے یہاں اکر اترتے ہیں ہم ان کی خاطر کرتے ہیں اور ہم نے سب کی دعوت کی ہے تم بھی ہمارے ساتھ پیر آؤ۔ یہ سن کر ابوطالب نے ان کی دعوت قبول کرنی اور رسول خدا کو ایک کے نوکر کے ساتھ اسباب کے پاس پھر ڈکر اس درخت کے نیچے بٹھا کر سب کے سب راہب کے گھر میں چلے گئے اور راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سب کو دیکھا۔ اور پھر اپنے معبد خانے کے اوپر دیکھنے لگا اور کوئی باقی تو نہیں رہا اور پھر دیکھا کہ جو ننگر ابر کا جہاں تھا وہیں موجود ہے پھر اس نے سب سے کہا کہ ابھی تمہارے قافلے کے دو آدمی باقی ہیں جن کو درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے ہو۔ وہ بولے ہاں ہم لوگ ان کو اپنے اسباب کے

پاس چھوڑ کر آئے ہیں اور ان میں ایک تو ہمارا لڑکر ہے اور ایک ہمارا لڑکا ہے۔ پھر راہب بولان دونوں کو بھی جاکر ہمارے یہاں لے آؤ۔ ایک مرتبہ پھر راہب بام پر جا کر دیکھتا ہے کہ اتنے میں کوئی جاگر پیغمبر خدا کو لے آیا اور وہ اب بھی رسول خدا کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے آیا راہب نے یہ حال دیکھ کر کہا اے اللہ یہ ابراہیم کا سایہ سوائے پیغمبروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا یہ کہہ کر رسول خدا صلعم کو اپنی جگہ پر لے گیا کہ بہت ہی تعظیم و تکریم کی اور طعام و تحائف سب کے لیے حاضر کیے۔ جب سب نے کھانا کھانے سے فراغت کی تب راہب نے سب سے کہا کہ یہ لڑکا کس کا ہے سب نے ابوطالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے کہا تم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یتیم ہے اور ماں باپ اس کے مر گئے ہیں یہ سن کر ابوطالب بولے کہ تم نے بہ بات بالکل سچ کہی ہے حقیقت یہی ہے اور میرا بھتیجا ہے اور میری گود میں پرورش پا رہا ہے۔ پھر راہب نے ابوطالب سے کہا کہ دیکھو میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ لڑکا نبی آخر الزماں ہو گا اور اس کے دو منڈوں کے درمیان میں جہر نبوت ہو گی اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس کی حفاظت اچھی طرح سے کرنا اور روم اور شام کی طرف اس کو منت لے جانا کیونکہ وہاں ان کے دشمن بہت ہیں کیونکہ یہودی ان کو مار ڈالنے کو ہر وقت مستعد ہیں بلکہ ان کا تو نام و نشان لے کر ڈھونڈا کرتے ہیں اور وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی پاویں گے مار ڈالیں گے یہ باتیں راہب نے ابوطالب سے کہیں اور دست مبارک حضرت محمد صلعم کا پکڑ کر کہا کہ یہ سید الکوثر ہیں اور سب سے بہتر خلائق زمین و آسمان کے ہیں یہ سن کر ان سو داگروں نے کہا کہ یہ باتیں آپ کو کس طرح معلوم ہوئی ہیں اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کی صفت جو اس وقت میں ان میں دیکھ رہا ہوں وہ سب میں نے تو ریت میں پڑی ہے اور یہی علامت نبوت کی ہوتی ہے جو آپ میں پائی جاتی ہیں انہوں نے اس راہب سے پوچھا کہ تیاؤ وہ علامت کیا ہے جس سے تم نے پہچان لیا۔ کہا اس نے کہ تم ان کو چھوڑ کر میرے یہاں آئے ہو اور میں نے دیکھا کہ تمام اشجار اور جمادات نے ان کو سجدہ بھی کیا ہے اور جتنے نباتات اور حیوانات اور حجر اور درخت ہیں وہ سجدہ سوائے خداوند قدوس کے اور کسی کو نہیں کرتے مگر پیغمبروں کو تعظیم کرتے ہیں اور تم یقین جانو کہ یہ پیغمبر برحق ہے۔ سب کے سب اس گفتگو میں شریک تھے اس قافلے میں سے سات آدمی اجنبی اپنا تک راہب کے معبد خانے کے دروازے پر کھڑے ہوئے ان سے پوچھا کہ تم سب کون ہو اور کہاں جاؤں گے بولے کہ ہم سب ملک روم سے آتے ہیں اور بادشاہ روم نے ہم سب کو بھیجا ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم سب نے سلبہ کہ پیغمبر آخر الزماں کا کہنے میں حزرہ حج ہوا ہے ہم سب ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور پھر ان کو مار ڈالیں گے ہم لوگ ان کو دریافت کرنے کو آئے ہیں۔ راہب نے یہ سن کر کہا کہ یہی وہ رنج اٹھانے والا ہے اور تم ان کو ہرگز نہ مار سکو گے

کیونکہ خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پس راہب نے یہ بات کہہ کر ان کو کہنے کی طرف بھیجا اور کہا تم بہت آرام سے چلے جاؤ اور تم کیوں ناہق آئے ہو۔ اور پھر ابو طالب سے کہا کہ تم اس لڑکے کو شام اور روم کی طرف مت لے جاؤ یہ بہتر ہے کیونکہ وہاں کے یہودی تم کو اذیت پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب پھر رسول خدا کو کہنے میں اپنے گھر پر واپس لے آئے اس کو میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔

بیان دوسری دفعہ چاک کرنا سینہ مبارک آنحضرت کا اور نکاح کرنا خدیجہ البکری سے اور اقوال و افعال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل نکاح کے جو وقوع میں آئے تھے

ایک روایت میں ہے کہ جب سن مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دس برس کا ہوا ایک دن اتفاقاً بطور گل گشت میدان کی طرف تشریف لے گئے اس وقت دو فرشتے بطور آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے آنحضرت فرماتے ہیں کہ ان کے پھر سے نورانی تھے اور ایسی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور جو جو شہوان کے بدن سے آتی تھی اس جیسی خوشبو مشک وغینہ و عطریات بھی میں نہ تھی اور ان کے کپڑوں کی جو صفائی تھی وہ دنیا کی کسی چیز میں نہ تھی اور یہ دو فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے ان دونوں فرشتوں نے میرے مونڈھے پکڑ کر مجھے زمین پر لٹا دیا۔ اور پیٹ میرا چیر ڈالا لیکن کچھ خون بھی میرے بدن سے نہ نکلا۔ ان میں سے ایک فرشتہ ایک طشت میں پانی بھر کر لایا اور دوسرے نے میرے پیٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر سب کچھ دھو ڈالا اور کہا کہ سینہ ان کا چاک کر کے دل کے اندر سے خون سیاہ جو صمد اور بغض بشریت کا ہے نکال بجا اس کے رحم اور شفقت رکھ دو واسطے رحمت عالم کے پس ایسا ہی کیا گیا اور میرے پیٹ کو پیرنے سے مجھے کچھ درد و الم نہ ہوا اور مزید ایک چیز مثال چاندی کے میرے دل پر رکھی اور ایک دوائے خشک مانند سفوف کے اس پر رکھی اور ایک دوائے خشک مانند سفوف کے اس پر رکھی اور انگیلیاں ہاتھ کی ہمیری پکڑ کر کہا کہ اب جاؤ سلامت رہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی دن سے میرے دل میں مہربانی اور شفقت خلق پر زیادہ ہوئی اور غیض و غضب سب کچھ جاتا رہا اسی وجہ سے دوسری مرتبہ دل مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک کر کے پاک و صاف کیا۔ اور گندے خیالات سے محفوظ رکھا اور ان کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان پر جا کر اپنے چچا ابو طالب سے اس حقیقت کا ذکر کیا

بیان کیا اور یہ باتیں سن کر ابو طالب نے لوگوں سے مخفی رکھا کسی کو اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے میرے پیارے بھتیجے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مگر پھر مجھے شرم
 آتی ہے یہ بات سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چچا جان جو آپ کے دل میں ہے وہ دل
 کھول کر کہیے اور میں تو آپ کے بر خور دار کے برابر ہوں۔ پھر ابو طالب نے کہا تمہارے باپ تو مر گئے اور تمہاری
 مال بھی مر گئی ہیں اور دونوں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑ گئے۔ اور میرے پاس بھی دولت نہیں ہے کہ تم کو کہیں بیاہ
 دوں اب صلاح یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ دختر خویلدہ بہت مال دار ہے۔ اور نوکر چاکر بھی بہت رکھتی
 ہے اور نہایت مناسب سمجھ کر اجرت بھی دیتی ہے اگر اس کے پاس تم نوکری کر دو گے تو اس کے روپے
 سے جو تم کو منافع ہوگا پھر میں تم کو بیاہ دوں گا اور اس طرح سے اپنی چشم روشن کروں گا۔ بتاؤ اس امر میں
 تمہارا کیا خیال ہے اور تم کیا چاہتے ہو مجھے اپنے پاک خیالات سے آگاہ کیجئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ میں تو آپ کے بطور بر خور دار کے ہوں اور آپ کی بات بسر و چشم قبول ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا
 ہے کہ میں آپ کی بات نہ مانوں اور مجھے یقین ہے جو کچھ آپ میرے حق میں کریں گے انشاء اللہ وہ بہتر ہوگا
 پھر ابو طالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خدیجہ الکبریٰ کے در پر گئے اندر سے ایک غلام نے
 اگر پر چھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ سے کہو کہ ابو طالب تمہارے دروازے
 پر کھڑا ہے اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہے یہ باتیں سن اس غلام نے جا کر خدیجہ سے کہا وہ بولیں کہ
 ان کو اندر سے آؤ پھر ان کا وہی غلام آیا اور ابو طالب سے کہا کہ تم کو اندر بلاتی ہے پھر ابو طالب نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اندر گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ خدیجہ ایک تخت پر بیٹھی تھی۔ تہہ پستان
 کینڑیوں ان کی خدمت میں کمر بستہ کھڑی تھیں۔ خدیجہ نے ابو طالب سے کہا کہ آپ نے یہاں آنے کی
 کیوں تکلیف برداشت کی اور اس وقت آپ کا کیا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے میرا دروازہ
 ہے اور اس کا نام محمد ابن عبد اللہ ہے اگر آپ ان کو اپنی سرکاریں بطور نوکر رکھیں تو فیض عام سے آپ کے
 یہ بھی جہرہ مند ہوں گے اور پھر دعا کریں گے۔ یہ سن کر خدیجہ نے کہا اس سے اور کیا بہتر ہے بہت اچھا آج
 سے میں نے ان کو نوکر رکھا ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے
 کہ خدیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فخریہ رشتہ دار تھیں لیکن ان کا شمار مر گیا تھا اور وہ بیوہ تھیں اور
 بہت زیادہ دولت مند تھیں اسی وجہ سے وہ ہر سال تاجر لوگوں کو مال و اسباب دے کر شام و بعیرہ
 کی تجارت کو بھیجتی تھیں اور ان کا ایک غلام میرہ نامی تھا اس کو انہوں نے آزاد کیا تھا۔ اور تجارت کے
 واسطے ان کو بھیجتی تھیں اور باقی جتنے نوکر خدمت گار تھے سب اس کے حکم کے تابع تھے ایک دن

خدیجہ نے بالاخانے سے دیکھا کہ حضرت کے سر پر ایک ابرسیاہ دار ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 چلے جاتے تھے یہ دیکھ کر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نزدیک بلا کر کبیر لڑکی پاسبانی پر مقرر کیا تو خدیجہ
 تھوڑے دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکت سے خدیجہ کی بکریاں آگے سے زیادہ ہونے لگیں اور بہت
 دودھ بھی دینے لگیں پس خدیجہ کی نگاہ ہمیشہ رسول خدا پر تھی وہ ہر روز دیکھتی تھیں ایک ابراہیم آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ ڈالے جو تانھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ہر درخت
 و جمادات سلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کرامات و علامات کتاب توریت میں دیکھ
 کر کہتے تھے: "یون قوم قریش میں بڑا بزرگ ہوگا اور آپ چونکہ بہت زیادہ دیانت دار امانت دار اور
 راست گفتاری میں مشہور و معروف تھے اس لیے آپ کو محمد امین کہتے تھے اور جب سن شریف آپ کا بیس
 برس کا ہوا تو خدیجہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم اس سال میرے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام
 کی طرف تجارت میں جا سکو گے یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا میں جاؤں گا۔ ایک رفاقت
 میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اجرت مقرر کر کے تجارت کو بھیجا اور اکثر قول یہ ہے کہ خدیجہ نے آنحضرت
 کی کچھ اجرت مقرر کر کے تجارت کو بھیجا اور خدیجہ نے آنحضرت کو اپنا مال مختار بنا کر اور اپنے شوہر کی پوشاک
 پہنا کر ملک شام کی طرف بھیجا اور غلام میسرہ کو کہا کہ جو حال راہ میں گزرے یا در کھنا اور پھر بلا فرق مرمو
 کے مجھ کو آکر بیان کرنا اور جو کام محمد امین کرنا چاہیں اس میں تم مانع مزاحمت ہو تا عرض ہو جو سود اگر ذکر
 چاکر خدیجہ کے تھے وہ سب کے سب رسول خدا کے ساتھ گئے اور جب وہ مکے سے باہر نکلے تو وہ لوگ
 البوسفیان کے قافلہ کے ساتھ مل گئے۔ البوسفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مہنس کر کہنے لگے
 کہ خدیجہ بہت نادان ہے کیونکہ جس شخص نے اپنی عمر میں تجارت نہیں کی اور راہ رسم و فرید و فروخت کی
 نہ جانے اس کو مختار کر کے تجارت میں بھیجا ہے یہ تو محض نادانی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رسول خدا
 کا قافلہ سب سے آگے نکل گیا اور راہ میں کرامات بھی ظاہر ہوتی رہیں۔ جب آفتاب گرم ہوتا تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ابراہیم کو سیاہ کرنا تھا یہ کیفیت اپنی آنکھوں سے میسرہ غلام دیکھتا رہا
 پھر حیوانات اور اشجار اور جمادات سب کے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم سجدہ کرتے تھے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر برابر طے کرتے چلے جاتے تھے۔ جب ملک شام کے متصل نزدیک
 معبد خانے رابیب کے پہنچا اور اس کا نام بیکرہ رابیب تھا۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک
 درخت کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے ہیں جب آفتاب طلوع ہوا یعنی دھوپ نکلی اس وقت

درخت نے بھی جھک کر سایہ کیا۔ پھر وہ راہب نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے سے عبادت خانے سے نکل کر سو اگردوں کے پاس جا کر پوچھتا تھا جو ان اس درخت کے نیچے سوتا ہے وہ کون ہے۔ میسرہ غلام نے کہا کہ میرا مختار بنا ہے یہ ہے۔ اس راہب نے اس غلام میسرہ سے کہا کہ خبردار تم ان کو بطور سو اگردوں اور مختار بنا کے نہ جانو بلکہ یہ تو پیغمبر خدا نبی آخر الزمان ہیں اور تمام موجودات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تب راہب اور غلام میسرہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے راہب نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک چوم کر کہا کہ مجھ کو نشان پیغمبری کا معلوم ہے اور سب سے اول وقت امید قومی کرتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو حضور کا کتف مبارک دیکھ چوں کہ آپ کی آمد کی خبر میں نے توریت میں پڑھی ہے اور اسی طرح کی نشانی کتاب انجیل میں بھی موجود ہے کہ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان ہر نبوت ہوگی پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دونوں مونڈھوں دکھائے جب چشم راہب کی اس سے روشن ہوئی اس وقت کہا: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُهُ اور کہا کہ آپ کے آنے کی بشارت توریت و انجیل نے دی اور میسرہ غلام سے کہا کہ اے میسرہ محمد آخر الزمان کو یہودیوں سے بچاؤ اور ابوسیفان کو ناکید کی۔ ابوسیفان نے کہا کہ وہ میرا چچا بھائی ہے ان کی نگہبانی اور جزداری مجھ پر واجب ہے العرض بجزیرہ نے مختلف اقسام کے تحفہ جات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاکر حاضر کیے اور پھر سب کو دعوت دے کر کھلایا۔ اس کے بعد ان سو اگردوں نے وہاں سے کوچ کیا آگے جا کر دو راہ پر جا پڑے۔ ایک راہ نہایت خوف کی تھی اور دوسری راہ بے خوف و خطر لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کی راہ اختیار کی اور اسی راہ میں خوف تھا اور ابوسیفان نے دوسری اختیار کی اور اس میں کوئی خطرہ نہ تھا یہ دیکھ ابوسیفان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسنے لگے اور کہنے لگا کہ کیا خدہ بجز کمال سب برباد کر دے گا اور اس راہ سے اپنے کو بھی ہلاک کر دے گا۔ تم اس راہ میں مت جاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خدا حافظ ہے یہ کہہ کر شریف فرما ہوئے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل راہ طے کی جس مقام میں پانی نہ تھا وہاں منزل کی میسرہ نے حضرت سے عرض کی اے حضرت قافلہ ہمارا بغیر پانی کے ہلاک ہونے کو ہے یہ آواز سن کر حضرت اپنے غم سے نکل کر بہت متحیر ہوئے اور پھر ایک درخت ہبز کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے مناجات کی کہ یا اللہ مجھ بندہ یتیم پر تو رحم و کرم فرما میری فریاد سن لے اور کسی نہ کسی صورت سے آج شہر میں ہم کو عنایت فرما چنانچہ اس کے بعد ایک آواز غیب سے آئی کہ میرے پیغمبر کئی قدم آگے بڑھو اور آفر قدم پر ایک کنواں کھودو وہاں سے آج شہر میں ملے گا یہ خبر سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ایک کنواں کھودا خدا کے فضل و کرم سے پانی صاف

پانی صاف اور شیر میں نکلا اور سب قافلہ نے آسودہ ہو کر پانی پیادوسرے دن پھر وہاں سے چل دیے چلتے چلتے ایک مقام پر کیا دیکھتے ہیں کہ کئی بیمار اونٹ بدن میں کڑے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فریاد کی یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھاری عبادت کے لیے بھیجا ہے آپ ہم پر مہربانی کیجیے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فریاد سن کر اور اپنی تیمی کو یاد کر کے بہت روئے اور اپنے اونٹ پر سے اتر کر ان اونٹوں کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھر اٹھا کے فضل سے وہ سارے اونٹ اچھے ہو گئے اور جو ان کو بیماری تھی وہ جاتی رہی۔ پھر آپ نے وہاں سے کوچ کیا بجرصہ قلیل آپ شام جا پہنچے وہاں پہنچ کر آپ نے سارا مال فروخت کر ڈالا اور اس مال میں منافع بھی بہت ہوا۔ اس کے بعد آپ نے پھر مال خرید اور مکے کی طرف مراجعت فرمائی اور تقریباً بیس دن کے بعد البوسفیان ملک شام پہنچے اور البوسفیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا بھیجا کہ آپ چند روز میاں اور ٹھہر جائیے کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے میں دیر نہ کی اور آپ مکے میں تشریف فرما ہوئے جب مکے کے قریب جا پہنچے میسرہ غلام نے آنحضرت سے کہا کہ محمد امین آج کئی برس ہوئے ہم خدیجہ کے مال سے تجارت کرتے ہیں اب کی دفعہ جیسا منافع کئی برس سے نہ ہوا آپ جائیں سلامتی اور نفع کی خبر خدیجہ کو دیکھیے تاکہ ہم سب کو مسرہ کار سے کوئی خدات بطور انعام کے ملے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی پھر اس میسرہ غلام نے آنحضرت صلعم کو اچھی طرح سے زیبائش و آراستہ کر کے ایک اونٹ پر سوار کر کے مکے میں بھیجا ادھر خدیجہ بھی آپ کا انتظار کر رہی تھیں اور آپ کے آنے والے راستے کو دیکھتی رہتی تھیں۔ اسی اثناء انتظار میں ایک شتر سوار دیکھا اور سے آتا ہے اور ایک کٹر ابر کا ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے ہیں ہدیت اور شکوہ ان کے چہرے پر سویرہ ہے دیکھ کر خدیجہ نے کہا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اِلٰہِیْ دَارِیْ اور جب شتر مان خدیجہ کے دروازے پر آیا تو معلوم ہوا کہ محمد امین اپنے سفر تجارت سے واپس آئے ہیں۔ خدیجہ نے لوگوں سے کہا کہ جا کر دیکھو یہ وہی سوار ہے جو ہم نے دور سے دیکھا تھا وہ لوہے ہاں جی یہ وہی شتر سوار ہے جس کو آپ نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس جا کر منافع تجارت اور سلامتی راہ اور قافلہ کی خوشخبری دی۔ خدیجہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جا کر میسرہ غلام کو بھی منے آئیے کیونکہ اس کو خوب معلوم ہے حقیقت اس کی کہ جب مکے سے سوداگروں کے ساتھ سفر میں تشریف لے گئے تھے خدیجہ اس کو دیکھ رہی تھیں اور جب میسرہ اور سوداگروں کے ساتھ تشریف سفر سے لائے تھے تب بھی دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی صورت و سیرت پائی اور باقی دوسرے لوگ اس سال سے غافل تھے اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لائے اور باقی لوگ بھی سفر سے واپس آ گئے پھر

خدیجہ نے میسرہ غلام سے سب احوال راہ کا اور منافع خرید و فروخت کا پوچھا۔ اس نے کہا اے میسرہ ہم نے
 کبھی آسائش و راحت نہیں دیکھی جو حضرت محمد امین کے ساتھ ہے میں ان کی کیا صفت بیان کروں وہ تو ایک
 صاحب کمال مرد کامل ہیں میں نے دیکھا کہ تمام اشجار و جمادات نے ان کو تعظیماً سجدہ کیا۔ غرض ہر اسب کا وہ
 کرنا اور سیاہ دینا برابر کا آنحضرت کے سر پر اور پانی نکالنا کنواں کھود کرہ اور اچھا کرنا خدا کے حکم سے اونٹوں
 کو جو شدید بخر و جاتہ صورت میں پڑھے تھے۔ اور بہت زیادہ منافع ہونا تجارت میں یہ سب باتیں میسرہ غلام
 نے خدیجہ سے کہیں یہ سنتے ہی خدیجہ ایک دل سے ہزاروں ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آئیں
 اور بہت زیادہ قدر و منزلت کی اور جس قدر مشاہرہ سرکار سے مقرر تھا اس سے دوگنا کیا۔ اور پھر تمام اپنے
 نوکر چاکروں سے اور جو شخص ان کے تابع دار تھے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں ہر وقت حاضر رہیں اور ان کی خدمت دل و جان سے ہر وقت کرتے رہیں اور کسی وقت بھی ان کی خدمت
 سے غافل نہ رہیں پس جب اسی طرح سے چند روز گزرے تو ایک دن خدیجہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 پوچھا کہ اے حضرت آپ نے بیاہ کیلئے یا نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہیں پھر وہ بولیں اگر
 آپ مجھ عاجزہ سے نکاح کریں اور اپنی خدمت میں لاویں تو میں اپنی باقی عمر آپ کی خدمت میں صرف کر دوں
 اور پھر سعادت داریں حاصل کر دوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یہ کام بدوں اجازت چچا
 ابوطالب کے ہم نہیں کر سکتے اگر تم یہ چاہتی ہو تو اس بات کا پیغام میرے چچا ابوطالب کے پاس کرو اور
 مجھ کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ یہ باتیں سن کر خدیجہ نے بہت سے ہرایا اور تحائف ابوطالب کے پاس بھیجے اور ساتھ
 ہی خواستگاری اپنے کام کی اور کئی دفعہ جداگانہ اچھی اچھی پوشاکیں نفیسہ اور اجناس لطیفہ ابوطالب کی
 بی بی کے پاس اس کام کے واسطے بھیجیں۔ اور ابوطالب نے خدیجہ کو جواب دیا کہ عمر شریف محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کی تمہارے سن سے بہت کم ہے یہ کام کیونکر ہو سکے گا۔ خدیجہ نے جب یہ بات سنی پھر ابوطالب
 کے پاس بہت سامان و اسباب بطور ہدیے کے بھیجا۔ آخر ابوطالب نے آنحضرت رسول کریم کو بلا کر
 خدیجہ کے ساتھ نکاح کا اذن دیا۔ تب حضرت نے فرمایا اول شرط یہ ہے کہ جتنی مال و دولت تمہاری ہے
 وہ خدا کی راہ پر مسکین محتاجوں کو دے دینا۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے غلام لونڈی باندی سب کو آزاد
 کر دینا اور میری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا بھر لائق فقیر ہی اختیار کرنا۔ پس خدیجہ نے یہ شرطیں منظور کیں۔ جتنا
 مال و اسباب دولت تھی سب خدا کی راہ پر تقسیم کر دیا۔ اور حضور مال ابوطالب کو بھی دیا۔ اور غلام اور لونڈی
 باندی سب کو آزاد کر دیا اور پھر درویشی اختیار کر لی۔ اور بعض روایتوں میں یوں بھی آئی ہے کہ خدیجہ نے
 دو آدمی قریش کے جو معتبر سمجھے جاتے تھے ان کو بلا کر گواہ کیا اور انہیں کے سامنے مال و اسباب، نقد و وظیف

باقی جتنا تھا سب کا سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور اپنا مالک و مختار کیا اور پھر کہتے لگیں کہ بھئی ان چیزوں پر کچھ دعویٰ نہیں تم لوگ اس بات کے گواہ رہو اب چاہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ اپنے واسطے رکھیں یا پھر اس کو راہ اللہ میں دے ڈالیں اس کا کچھ دعویٰ مجھ کو نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابوطالب خدیجہ کے کہنے سے درقبن نوفل جو خدیجہ کا چچرا بھائی تھا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے پاس گئے اور وہ اس وقت وہ چند آدمیوں کے ساتھ عیش و نشاط میں مست تھا۔ اس پر سلام علیک کیا سب نے جواب دیا اور ابوطالب کی تیظیم کرتے ہوئے بٹھایا اور قبن نوفل رسول خدا کو دیکھ کر اس وقت بولا اے محمد امین میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں اور میں تم کو دوست رکھتا ہوں اگر کسی چیز کی ضرورت مطلوب ہو تو آپ ضرور فرمائیں۔ یہ سن کر ابوطالب نے کہا کہ میں اس وقت اس واسطے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم بہن خدیجہ کے ساتھ میرے بھتیجے محمد صلعم کو بیاہ دو۔ اس وقت وہ نشے میں مدہوش تھا اور اس کے حاضرین مجلس سے کہا کہ اے قریشیو! تم لوگ سب کے سب اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیاہ دیا اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو قبول کیا۔ بصر میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار مثقال زہر عوض میں دے کر خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے۔

اس وقت عمر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پچیس سال کی تھی اور خدیجہ کی عمر چھالیس برس کی تھی۔ پھر دوسرے دن درقبن نوفل فجر کے وقت خواب مستی سے اٹھ کر خدیجہ کو گالیاں دینے پر متعد ہوا خدیجہ نے کہا اے بھائی تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا نیب دیکھا اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو ان کے برابر نیک نیت صلاح پسند اور زاہد و تقویٰ میں کوئی نہیں اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور کسی بات کی ارزو نہیں ہے پھر درقبن نوفل نے کہا کہ اچھا کیا تم سے راضی ہیں؟ بولی ہاں وہ راضی ہیں۔ پھر کہا تم بھی مجھ سے راضی ہو لو لیں ہاں میں بھی اچھی طرح سے راضی ہوں۔ تب درقبن نوفل نے کہا کہ اچھا اب میں بھی راضی ہوں۔ پس خدیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہیں۔ جب پیغمبر خدا نے نیک کاری میں کم باندھی انضال باری سے اس سال پانی بہت برسایا تک کہ دیوار کعبہ پر بھی نقصان آگیا۔ یہ دیکھ کر قریشیوں نے بھی ارادہ کیا کہ کعبے کی چار دیواری توڑ کر ازسرنو پھر بناویں مگر وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے اور اس میں متردد رہتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے چاہا کہ کعبے کے اندر عود دھلا دیں خدا کی مرضی سے اس پر آگ یغیب سے آکر گری بعض جگہ جو کعبے کے اندر کی تھی وہ سب جل گئی۔ اہل قریش نے پھر اتفاق کیا کہ کعبے کی دیوار توڑ کر ازسرنو تعمیر کریں لیکن وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے اور اس وقت قوم کا سردار دیمان بن مغیرہ تھا وہ بولا کہ ہاری نیت خدا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کعبے کو توڑ کر دوبارہ بناویں گے اور یہ تو مجھ آبادی

ہے نہ کہ ذرا ان اس بات میں قبائل عرب چار فرقے ہوئے اور بات یہ طے پائی کہ ہر ایک فرقہ کا ایک ایک رکن کعبے کو توڑ کر تعمیر کرے پس چاروں فرقوں نے متواتر دور سے کھڑے ہو کر دیوار کعبے کو دیکھا کہ اس کو کس طرح سے توڑا جائے اور پانچویں ولید بن میسرہ تبرا پنا تھا سے لے کر دیوار کعبے کے پاس گیا اور اس کے ساتھ مخزوم بھی تھے ولید ابن میسرہ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو خوب جانتا ہے یہ کہہ کر کعبے کی دیوار پر تبرا مار کر اس کو گرادیا۔ جب اور لوگوں نے دیکھا کہ ولید ابن میسرہ نے کعبے کی دیوار توڑ دی پھر سب قبیلے متفق ہو کر کہنے لگے کہ ہم سب آج دیوار پر تبرا نہیں لگا دیں گے دیکھیں آج کی شب ابن میسرہ پر آفت نازل ہوتی ہے یا نہیں پھر ہم مل کر تینوں دیواریں توڑ ڈالیں گے۔ جب انہوں نے ولید ابن میسرہ کو سلامت دیکھا تو پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کی دیوار جو مقرر کی تھی توڑ ڈالی۔ اور بہ اندازتہ آدم زمین کھو دکنہ سے پتھر لگا کر دیواریں کعبے کی اٹھائیں تاکہ حد مہ میل سے محفوظ رہے اور حجر الاسود کو دیوار پر اٹھاتے وقت سب قبیلوں میں تنازعہ ہوا یعنی ہاشم اور بنی امیہ اور بنی زہرہ اور بنی مخزوم ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ان میں سے ہم کو فضیلت زیادہ ہے ان لوگوں سے یہاں تک کہ سخن درازی ہوئی اور پھر ایک مدت تک براہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دوسرے پر پتھر مارنے لگے۔ آخر میں یہ بات اس پر ختم ہوئی کہ ایک روز لڑائی کا وعدہ کیا جائے کہ فلاں دن آپس میں لڑائی ہوگی لیکن دانشمندیوں سے اس بات سے منع کیا کہ اس سے باز آؤ اور آپس میں لڑائی کو نہ لپٹھی بات نہیں اور ہم تمہیں اعلیٰ قسم کی تدبیر بتاتے ہیں جس سے تمہارا آپس کا جھگڑا ختم جائے گا۔ اگر تم لوگوں نے مل کر اس پر عمل کیا اور وہ ہے کہ اول جو شخص صبح کو کعبے کے دروازے پر آئے تم اس کو منصف مقرر کرو جو وہ کہے وہ مانو اور پھر اسی پر عمل کرو۔ یہ بات جب سب نے سنی اور بہت غرور و فکر کرنے کے بعد سب نے راضی ہو کر کہا بہت اچھا وہ جو کہے گا ہم اس کو ضرور مانیں گے چنانچہ صبح کو سب سے اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حرم شریف میں حاضر ہوئے پھر سب کوئی کہنے لگے کہ صبح سے اول محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہم ان کو ہی اپنا حاکم و منصف مقرر کرتے ہیں۔ اور جو کچھ ہمارے واسطے فرمائیں گے ہم اس کو ضرور تسلیم کر لیں گے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ حکمت عملی کی ایک چادر زین پر بچھا دی پھر حجر الاسود کو اس چادر پر رکھا اور چار قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی کو طلب کیا۔ اور ان سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہر ایک کو تہ چادر کا پکڑ کر کعبے کی دیوار کے پاس لے جاؤ۔ اسی طرح سے چاروں قبیلے اس پتھر کے اٹھانے میں مساوی ہوں گے۔ پھر سب نے اس طرح سے چادر پکڑ کر حجر الاسود کو اٹھا کر اس رکن کے پاس کہ جہاں اب ہے لے گئے اور کہنے لگے کہ ایک متبرک بزرگ چاہیے کہ وہ تنہا حجر الاسود کو اٹھا کر دیوار کعبے پر رکھ دے اور

چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کے سب راضی تھے کہنے لگے کہ اگر کوئی حجر الاسود کو تہا اٹھا کر کعبہ پر رکھے تو اس وقت محمد بن عبد اللہ سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چار قبیلوں نے کہا کہ آپ خود ہی اس حجر الاسود کو تہا اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر الاسود کو اکیلے ہی اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیا جہاں اب بھی اسی جگہ پر نصب ہے جب خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر سے فراغت ہوئی اور چھت اور دروازے باقی رہے اس واسطے کہ کتبے میں لکڑی ملیں نہ تھی اور اس وقت کوئی وہاں بخار بھی نہ تھا ان ایام میں نجاشی بادشاہ حبش نے ارادہ کیا کہ ایک معبد خانہ بنا کر عبادت کرے تب لکڑی اور پتھیا اور بخار استاد اور کاریگر کشتی سے ملک شام میں بیچھے خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ دریا میں کشتی آتے وقت راہ میں ڈوب گئی اور آدمی بننے کشتی پر تھے کوئی لکڑیوں پر بیٹھے ہوئے تھا اور وہ بہتے بہتے موج دریا نے ان سب کو لکڑی سمیت کنارے پر لگا دیا۔ قوم قریش نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً ہی ابوطالب کو لکڑی خریدنے بھیجا حبیب ابوطالب لکڑی والوں نے ان سے کہا کہ جب تک ہم اپنے بادشاہ کو اس بات کی اطلاع نہ کریں گے تب تک ہم کو اختیار نہیں کہ ہم لکڑی وغیرہ بیچیں پھر انہوں نے ایک نامہ بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس کا جواب بادشاہ نے یہ لکھا کہ مال خزانے میں جتنا تھا اسے پاس ہے وہ سب لے جا کر کعبے میں خرچ کرو۔ تب بادشاہ کا حکم پانے سے لکڑیاں کعبے کی چھت اور دروازوں میں لگائیں پھر خانہ کعبہ بفضل خدا درست ہو گیا میں اس واقعہ کو اسی پر لکتا کرتا ہوں۔

بیان اسماء وخصائل حمیدہ آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم

ایک لمبی حدیث میں یوں آیا ہے کہ قدم مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ تھا اور گندمی رنگ تھا اور کشادہ پیشانی اور دونوں آنکھوں جھوس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پتلی باریک نہیں آسینتہ بھی نہ تھیں بلکہ بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ تھا اور درمیان دونوں جھوس کے ایک رگ تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں آتے تو وہ پھول باتیں اور ناک مبارک آپ کی دراز اور اونچی تھی اور اس کے اوپر ایک نور چمکتا تھا اور چہرہ مبارک آپ کا ملائم اور برابر تھا اور دہن مبارک کشادہ تھا اور دانت مبارک آپ کے صاف و روشن تھے اور اوپر کے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا سا شکاف تھا اور ریش اور سر مبارک میں تقریباً بیس بال سفید تھے اور بال آپ کے پچھلے تھے میدھے نہ تھے اور شکن بالوں کی میانہ تھی اور چہرہ مبارک آپ کا ماتہ چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا اور درمیان دونوں مونڈھوں کے پارہ گشت ماتہ بیضہ کبوتر کے تھے اور اس میں نقش رنگ برنگ کے تھے ایک روایت میں ہے کہ وہی مہر نبوت

تھی اور محمد رسول اللہ اسی پر لکھا ہوا تھا اور بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیر بنوت اٹھالی اللہ تعالیٰ نے اور سینہ مبارک بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کشادہ تھا اور آپ کی چھاتی سے ناف تک ایک خط باریک سا تھا اور بازو اور مونڈھے اور چھاتی پر بال نہ تھے اور ہڈی مونڈھے کی اور گھٹنے کی اور زانوں کی موٹی تھیں اور ہر دو بند و لبنت اور ہر دو کف دست و ہا پر گوشت اور نرم تھے اور جسم مبارک نورانی و پاکیزہ تھا اور لطیف اور معتدل تھا اور جب خاموش بیٹھے ہوتے تو ایک بیہیت اور شکوہ بشرہ پر ظاہر ہوتا اور جس وقت بات کرتے نراکت اور لطافت معلوم ہوتی اور جو شخص آپ کو دور سے دیکھتا وہ جمال اور تازگی پاتا اور جو نزدیک آکر مشاہدہ کرتا ملاحظہ اور شہرت حاصل ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوک اور پیاس کا شکوہ منہ پر نہ لاتے بلکہ جب کبھی جھوکے پیاس سے زیادہ ہوتے تو آب زم زم کے پانی سے قناعت فرماتے تھے اور جو چیز آپ کے پیچھے پرہے میں ہوتی تو وہ چیز مثل سامنے کے نظر آتی اور یہ آپ کو معجزہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا اور شب تاریک میں مانند روز روشن کے دیکھتے تھے اور آنحضرت کے لعاب دہن مبارک سے آب شور شرابیں ہو جاتا تھا اور اگر کوئی اس لعاب کو چاٹ لیتا تو تمام دن اس کو دودھ پینے کی حاجت نہ ہوتی اور بلبل مبارک میں آپ کے بال نہ تھے اور سایہ جسم مبارک کا زمین پر نہ پڑتا تھا اور ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کی آواز سے دور جاتی تھی اور آپ دور ہی سے بات کہہ لیتے تھے۔ اور جب سوتے آنکھ ظاہر میں آپ کی غنودہ اور چشم بطن کشودہ انتظار رہی کی رہتی تھی۔ اور آپ اور آپ کے جسم مبارک سے بوئے مشک اور عنبر کی ظاہر ہوتی یہاں تک کہ اگر کوچہ و بازار میں تشریف لے جاتے تو لوگ معلوم کرتے تھے کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے۔ اور جب جائے ضرورت کو جاتے تو نشان غافلہ بول کوئی بھی نہ دیکھتا تھا۔ کیونکہ زمین کو سلم تھا کہ وہ فوراً اپنے اندر فروگے اس وجہ سے نشان لوگوں کو نظر نہ آتا تھا اور بوئے عطر اس سے نکلتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نجاست سے آپ کا بدن بالکل پاک صاف تھا اور آپ قدرتی مختون پیدا ہوئے تھے اور گہوارے میں بات کرتے تھے۔ اگر چنانچہ طرف نظر کرتے تو چاند بھی متوجہ ہو کر آنحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا تھا۔ اور ابرہہ ہمیشہ سر مبارک پر ماتہ پھرتی کے سایہ دار ہوتا اور اگر کسی درخت کے قریب جاتے تو درخت خود ہی جھک کر سلام کرتا اور اپنا سایہ جہاں تک ہوتا کرتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں جوئیں نہ پڑتی تھیں اور آپ کے جسم مبارک پر کبھی بھی نہ بیٹھتی تھی اور جو ادب و تعظیم کے اور جب آپ دروازہ کوش گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہوتے تو اس وقت وہ بول و برباز نہ کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب کہ ساری مخلوق کو پیدا کر کے فرمایا اکتب بربکم یعنی

ترجمہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا پروردگار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آنحضرتؐ نے کہا اور تمام فلقوں نے بھی کہا۔ قالوا نبی! یعنی تو پروردگار میرا ہے۔ اور شب معراج میں براق پر سوار ہو کر آسمان پر جاتا قاب و قوسین کے نزدیک اور دیدار الہی سے مشرف سونایہ تمام خصوصیات کسی اور نبی کو حاصل نہ ہوئیں۔ غصہ نوشنودی آنحضرتؐ کے مطابق احکام قرآن مجید کے تھے اور چہرہ مبارک آپ کا ہمیشہ نشاں و خرم رہتا تھا۔ اور جس امر میں رضائے الہی نہ ہوتی اس میں غفلت برتتے تھے۔ اور شجاعت و سخاوت میں سب سے پہلے تھے۔ ایسا کہ کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہ جاتا اور اگر موجود نہ ہوتا تو عذر خواہی کہہ کے اس کا دل خوش کرتے اور بات جلدی نہ فرماتے تھے تا مل اور غور و فکر کے بعد بیان فرماتے تھے اور غریب بجاہل مسائل دینی پوچھنے میں سخن درشت یا سخت بات سے پوچھتا یا الحاح و زاری کرتا تو سن کر دل میں صبر فرماتے تھے اور اس کو کسی طرح سے ناخوش ہونے نہ دیتے تھے۔ الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم تھا جو کوئی صحیح گرامی میں بیٹھتا تو وہ ہرگز وہاں سے برداشتہ خاطر نہ ہوتا اور راست گوئی اور ایقانے وعدہ اور بردباری آپ میں بیحد تھی۔ اور کثرت سے تمام خلائق سے شفقت فرماتے تھے سوائے جہاد کے کبھی کسی کو اپنے دست مبارک سے آزاد نہیں کیا۔ اور دعوتِ مبنی خواہ فقیر خواہ آزاد خواہ غلام سب کی قبول فرمایا کرتے تھے اور ہر منقض کا بدیہ و مخالف قبول فرماتے تھے اور بعض اس چیز کے مثل اس کے یا اس سے بہتر اسے بھیج دیتے اور اپنے اصحاب سے ہمیشہ دوستی رکھتے تھے اور ان کی ولداری بھی کیا کرتے اور ہمیشہ ہر شخص سے صبر و عافیت دریافت کرتے تھے اور اگر کوئی سفر کو جاتا یا پھر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے اور دعا بھی فرماتے اور اگر کوئی مسلمان مرجاتا تو اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ط پڑھتے اور نماز جنازہ پڑھ کر اس کے واسطے دعا تیر و مغفرت کی فرماتے تھے اور لپساندہ کے پاس جا کر تعزیت و تنہیت فرماتے تھے اور ہر حال میں اپنے ہمسایوں کی خبر گیری رکھتے تھے اور جب کسی مومن مسلمان سے ملاقات ہوتی تو پہلے اسلام علیکم کرتے اور جو لوگ اپنے کسی معاملات میں معذرت پیش کرتے ان کی عذر خواہی کو سنتے۔ اور آپ کے یہاں جو کوئی بیحیثیت مہمان کے آنا اس کو بہت عزیز و دوست رکھتے اور حتی المقدور اس کی خدمت کرتے تھے اور اپنے پاس سے کھلانا وغیرہ کھلاتے تھے اور جس وقت وہ مہمان واپس سوار ہوتا تو کچھ دوزنک یا پیلوہ چلتے اور اگر ان کے سواری نہ ہوتی تو اپنی طرف سے اس کو سواری کا انتظام فرماتے اور جو شخص حضرت کی خدمت اقدس میں آنا اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا آپ بھی اس کی خدمت کرنے میں کوئی عیب نہ سمجھتے تھے خواہ وہ لونڈی ہو یا غلام ہی کیوں نہ ہو

اور بکچر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے لوگوں کو بھی کھلاتے پلاتے اور اصحاب کبار کے ساتھ اکثر کاموں میں شریک ہوتے تھے اور جس مجلس میں اور جماعت میں تشریف لے جاتے خالی جگہ پر بیٹھتے اور کبھی آپ نے صدر مجلس اور سنی کی نمائندگی اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ کیا کرتے تھے اور جو لوگ برائیاں یا بدی کرتے ان کے ساتھ آپ ہمیشہ نیکی اور بھلائی فرماتے تھے اور غریب مسکینوں پر مہربانی فرمایا کرتے تھے اور ان کو کسی وقت بھی پشم حقارت نہیں دیکھتے تھے اور اپنے دست مبارک سے اپنے گفٹ اور پارچہ بیٹے تھے اور اکثر اوقات کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے اور نماز بسیار اور خطبہ کم پڑھتے تھے اور آپ کے سینہ مبارک سے حالت نمازیں آواز مثل جوش دیگ کے آتی تھی اور قیام نماز میں بہت دیر تک کرتے تھے ایسا کہ پاؤں مبارک پھول جاتے۔ اور نماز عشا کی اول شب پڑھتے پھر سویا کرتے اور پھر نصف شب کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کرتے تھے اور صبح کے وقت دو رکعت نماز قرأت قصر سے ادا فرمایا کرتے باقی نماز فرض باجماعت ادا فرمایا کرتے اور ہر جمعہ میں روزہ دو شنبہ اور پینچ شنبہ اور جمعہ کو عاشورہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے اور سیا و شمر آپ میں بہت زیادہ تھی اور کبھی کبھی خوش طبعی بھی فرماتے تھے مگر سوائے سخن راست کے نہیں فرماتے تھے چنانچہ ایک دن ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کسی جانور پر سوار کرو لیئے یہ بات سنکر آنحضور صلعم نے فرمایا کہ بچہ ناقہ پر سوار کر اوں گا اس نے کہا یا حضرت بچہ ناقہ کیونکر ہم کو ساری دے گا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ شتر کو بھی بچہ ناقہ کہتے ہیں اور ایک دن ایک عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا حضرت میرا شوہر بیمار ہے اور وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا ترا شوہر ہے اور اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے اور سفیدی سے کنارہ چشم مراد تھی اس عورت نے جانا کہ سفیدی روشنی چشم کو دور کرتی ہے وہی ہو گی پھر اپنے گھر میں اپنے شوہر سے جا کر یہ بات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی بیان کی اس نے یہ بات سنکر کہا کہ سفیدی تو سارے جہاں کی آنکھ میں ہے اور ایک دن ایک بڑھیا نے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر عرض کی اے حضرت میرے حق میں دعائے یسر فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بہشت نصیب کرے آپ نے فرمایا کہ بڑھیا عورتیں بہشت میں تر جاتیں گی پس یہ بات سنکر حضرت کی بہت ہی آبدیدہ ہوئی حضرت کے سامنے سے چلی گئی پھر آنحضرت نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ اس بڑھیا سے کہو کہ کوئی حالت تیری میں ہمیشہ نہیں جانتے گا بلکہ سب کے سب نوجوان ہو کر بہشت میں داخل ہوں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات ہر امین سہتر پہنتے تھے اور جمعہ کے دن چادر سرخ اور نماز میں ہر روز دستار سناتے ہاتھ باندھتے اور عیدین میں چودہ ہاتھ باندھتے تھے اور حضرت نے

فرمایا کہ ایک رکعت نماز با تدارا دکرنا بہت فضیلت رکھتی ہے یعنی سترہ نماز پڑھنے کے برابر ہے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور چاروں سے نماز پڑھا کرتے تھے اور کسی وقت آپ نے ایک کپڑے سے بھی نماز
 ادا کی ہے اور ہر شب سرسہ داہنی آنکھ میں تین بار اور بائیں آنکھ میں بھی تین بار لگاتے تھے اور کبھی حالت زور
 میں بھی آنکھوں میں سرسہ لگایا کرتے تھے اور تیل بھی سر میں ڈالا کرتے تھے اور ڈاڑھی وغیرہ لنگھی سے صاف
 اور ٹھیک کیا کرتے تھے اور عطریات سے بہت خوش ہوتے تھے اور بدبو سے سخت نفرت تھی اور بہت
 ناخوش ہوتے تھے اور اکثر اوقات نعلین و موزے پہنتے تھے اور پہلے جو کام بھی کرتے داہنی طرف
 سے شروع کرتے تھے حتیٰ کہ وضو و مسواک اور دخول مسجد اور نعلین پہننا بسم اللہ پڑھ کر داہنی طرف سے
 شروع کرتے انگوٹھی چاندی کی کبھی داہنے ہاتھ اور کبھی بائیں ہاتھ میں چھوٹی آنکھی میں پہنتے تھے اور انگوٹھی
 کے نیچے پر اللہ محمد رسول تین لفظ لکھے ہوئے تھے اور جہاد میں اکثر اوقات زور پہنتے تھے اور بیشتر
 اپنے جسم سے لٹکالیتے تھے اور چھوٹا آپ کا کھجور کی پی اور چڑے کا تھا اور کھانے میں کچھ تکلف نہ فرماتے
 تھے اور شدت بھوک میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے حالانکہ زمین کے قرآن کی چابیاں اللہ تعالیٰ
 نے آپ کو عنایت فرمائی تھیں لیکن آپ نے اسکو قبول نہ کیا اور آخرت کو اختیار کیا اور اگر اتفاقاً دینار یا درہم
 بسبب نہ آنے کسی سائل کے گھر میں رہ جاتا تو اس شب کو گھر میں تشریف فرما نہ ہوتے اور روٹی مرغ کے
 گوشت کے ساتھ یا پھر سرکہ کے ساتھ اکثر تناول فرماتے اور اس کو بہت دوست رکھتے اور بکری کا گوشت
 خنزیرے کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ کھاتے اور کبھی صرف فرما ہی تناول فرماتے آپ کو شہدا و شہیرین
 سے بہت ذوق تھا۔

بیان ازواج مطہرات آنحضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے آنحضرت سلمۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ
 سے نکاح کیا تھا اور وہ ہجرت کے تقریباً پانچ برس پہلے فوت ہوئیں اور حضرت المعلیٰ میں مدفون ہوئیں
 اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح کیا اور جب وہ ضعیف ہوئیں
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو طلاق دیوں جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے اپنی بارگاہ
 حضرت عائشہؓ کو دیدی اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بولیں یا رسول اللہ میری دل میں کسی چیز کی
 آرزو نہ رہی مگر صرف ایک بات کی آرزو باقی ہے کہ میں ہجرت کے دن آپ کی ازواج مطہرات میں شامل
 ہوں انہوں نے یہ ہے میں وفات پائی اور تیسری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیقؓ چھ برس

کے سن میں قبل ہجرت کے تین برس ماہ شوال میں کیا تھا۔ اور توبرس کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیلۃ الزفاف کیا۔ اور جب رسول خدا نے وفات پائی تو اس وقت عمر عائشہ صدیقہ کی اٹھارہ برس کی تھی اور رمضان المبارک کی مترھویں تاریخ ۵۸ھ مدینہ منورہ میں انہوں نے انتقال کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں اور چوتھی بیوی ہفصہ بنت فاروق سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور ان کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق رجعی تھی لیکن بحکم الہی باحضرت عمر فاروق کی شفقت سے یا اس وجہ سے کہ وہ بہت روزے رکھتی تھیں اور بہت زیادہ نمازیں پڑھتی تھیں اس لیے ان سے حضرت نے پھر رجوع کر لیا اور انہوں نے ماہ شعبان ۶۵ھ میں وفات پائی اور پانچویں بیوی زینب بنت قریبہ سے نکاح کیا وہ بھی دو یا تین ماہ کے بعد آنحضرت کے سامنے ۶۵ھ میں وفات پائیں چھٹی بیوی ام سلمہ بنت سہیل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا اور آنحضرت کی چھوٹی بیوی کی بیٹی تھیں جن کا نام بنت عاتکہ بنت عبدالمطلب تھا۔ انہوں نے ۶۹ھ میں وفات پائی اور آپ کی ساتویں بیوی زینب بنت جحش سے آپ نے نکاح کیا اور وہ بھی آنحضور کی چھوٹی بیوی کی بیٹی تھیں یعنی وہ امیہ کی بیٹی تھیں اور امیہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی تھیں اور زینب بنت جحش سے پہلے نکاح زید ابن حارث سے ہوا تھا اور بعد طلاق کے جو زید بن حارث نے دے دی تھی اس کے بعد وہ نکاح میں آئیں اور ۷۳ھ میں فوت ہوئیں اور آٹھویں بیوی حبیبہ بنت سفیان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا اور یہ نکاح چار سو دینار کے عوض میں اور نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے مہر مزقومہ کو بصرہ بھیجے کے ادا کیا اور انہوں نے ۷۳ھ میں وفات پائی اور نویں بیوی حضرت بویرتہ بنت حارث نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح یہ کیا اور انہوں نے ۷۳ھ میں وفات پائی دسویں بیوی حضرت حفصہ بنت جحش سے آپ نے نکاح اور یہ حضرت ہارون کی اولاد سے تھیں اور جنگ خیبر میں گرفتار ہو کر آئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جوڑی آزادی کے مہر مثل مقرر کر کے اپنے نکاح میں لائے اور انہوں نے ۷۳ھ میں وفات پائی۔ اور گیارہویں بیوی حضرت مہمونہ بنت حارث عامریہ سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور یہ نکاح آنحضرت قریبہ ہجریں کیا تھا اور قریبہ سرف ایک کاؤں کا نام ہے اور یہ کاؤں کے کے فواجی بستیاں ہیں شمار ہوتے ہیں اور انہوں نے ۷۳ھ میں وفات پائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پانچ چار بیوی تھیں پہلی ماریہ قبطیہ بنت شمعون اور حاکم اسکندریہ نے ان کو آنحضرت کی خدمت میں بھیجا تھا ان کے بطن سے ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اور ماریہ قبطیہ ۷۳ھ میں فوت ہوئیں اور دوسری ریحانہ بنت زید کی وہ داخل جاریہ نبی نصیرہ یا نبی نصیرہ یا نبی نصیرہ تھیں اور وہ ۷۳ھ میں فوت ہوئی۔

ہوئیں اور تیسری ام ایمن اور چوتھی سلمہ اور پانچویں برصوی تھیں اور یہ تمام حوالجات جامع التواریخ سے لکھے گئے ہیں اور تمام ازواج مطہرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچ سو درم تھا مگر ام حبیبہ اور صفیہ کا ہر طرف چار سو درم اور تمام ازواج مطہرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شیبہ تھیں صرف حضرت عائشہ صدیقہ دینارہ باکرہ تھیں۔ اور سب ازواج مطہرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت وصال آنحضرت کے بقید حیات تھیں مگر خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت زینبؓ دونوں آنحضرت کے سامنے ہی فوت ہو گئی تھیں چنانچہ میں اس بیان کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

بیان اولاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بروایت جمہوریہ مؤرخین حضرات کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرزند ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ اور لقب ان دونوں کے طیب و طاہر ہیں اور چار بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں۔ زینب اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہن اور یہ چھ اولاد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہیں اور کتاب روضۃ الاحباب میں یوں بھی لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ایک بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم تھا۔ ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور بعد از ولد سولہ مہینے کے وہ فوت ہو گئے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کا صرف دو مہینے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اور قاسم اللہ قبل زمانہ اسلام کے فوت ہوئے۔ الفرض بیع اولاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی گزر گئی مگر حضرت فاطمہ الزہراء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چھ مہینے بعد فوت ہوئیں مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح ابراہیم بن زینع سے ہوا تھا اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھانجا تھا اور حضرت رقیہ کا نکاح عقبہ بن ابی لہب سے کیا تھا۔ اس نے عقبہ کے وقت کم نہیں کے باعث رقیہ کو طلاق دیدی اور اس کے بعد حضرت عثمان سے ہوا اور حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی عقبہ بن لہب سے ہوا تھا۔ عقبہ ابن ابی لہب کے مرنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا جبکہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی واسطے حضرت عثمان غنی کا لقب ذی النورین ہے یہ دونوں صاحبزادیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوت ہو گئیں تھیں ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ الزہرا کا نکاح جب وہ پندرہ برس چھ مہینے کی عمر میں تھیں حضرت علیؓ کو رحمہ اللہ وجہہ سے جب کہ وہ اکیس برس پانچ مہینے کے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب

نہر کا مجھ کو پہنچا۔ اور جب عمر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس برس اور ایک دن کی ہوئی تب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اور نزول وحی کا سلسلہ قائم ہوا سب سے پہلے وحی کا نزول اسی غار حرا میں ہوا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر سال ایک مرتبہ اس غار حرا میں تشریف لے جاتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے پھر ایک مہینہ عبادت کرنے کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے جاتے اور سات بار طواف بیت اللہ کا کر کے مکان میں تشریف لاتے اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں غار حرا میں عبادت الہی میں مشغول تھا ایک شخص نورانی چہرہ پر نہایت خوبصورت مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ تجھ کو اسے مجھ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جبرائیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کو اس امت کا آخری نبی آفرینا بنا یا ہے اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میں میدان میں جاتا تو دو ہاں پر ایک آواز سنتا تھا اسے محمد اور دو ہاں پر ایک شخص نورانی چہرہ والے کو دیکھتا تھا کہ وہ سونے کے تخت پر زمین و آسمان کے درمیان معلق کھڑا ہے اور میں اس آواز اور صورت کو دیکھ کر بھانگتا تھا۔ جب کئی دفعہ ایسا ہی معاملہ ہوا تب وہ رقبہ نوافل جو حج پر ابھائی خدیجہ البکری کا تھا اور وہ شخص توریت اور انجیل کے علم سے خوب واقف تھا۔ اس سے میں نے یہ بات بھی یہ سنکر اس نے کہا کہ جب تم وہ سنو تو مت بھاگو اور کان لگا کر سنو کہ اس آواز میں کیا کہا جاتا ہے چنانچہ ایسا ہی میں نے کیا پھر جب آواز آئی یا محمد پھر میں نے لپیک کہا اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور تم اس امت کے نبی ہو۔ اور پھر یہ کلمہ بیٹھا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ پھر پڑھی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَاٰخِرُ سُوْرَةِ۔ اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ۔ خود جس یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے جو مجھ پر نازل ہوا قرآن مجید سے وہ صورت فاتحہ ہے اور یہ مناجات کی تعلیم کے واسطے اور ہر نماز کی رکعت میں پڑھنے کے واسطے نازل فرمائی اور اسی طرح جو حاجت جس وقت ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت وحی نازل ہوتی تھی اور اَقْرَبُ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَهٗ مُحَضَّرًا تَعْلِمُ اَوْ رَطَا قُرْاٰتِ كِهٖ وَاسَطَهٗ نَاٰزِلٌ هُوْنِيْ اُوْرَاسِ كِهٖ نَزُوْلُ كِهٖ كِبِيْفِيْتِ بَرَبِّ كِهٖ اَنَّ اَلْحَضْرَتِ كُوْسَبِ تَبِيْحِيْلَهٗ وَهٖ تَبَرُّكٌ كِهٖ عَلٰمَتِ وَحِي كِهٖ سَا نَاٰزِلٌ هُوْنِيْ اُوْرَاسِ كِهٖ سَبِيْحَةُ اَكْرَامِ كِهٖ تَمَامِ خَرَابِ سَمِيْحِيْ دِيْكِهٖ لَمَكِيْ اُوْرَاجُوْ كِهٖ رَاٰتِ اَكْرَابِ مِيْنِ دِيْكِهٖ تَهٗ اَسِيْ طَرَحِ دُنْ كُوْ مَصْحَفِ صَادِقِ كُوْ دَرَسِيْ جِيْنِ ظَاہِرِ هُوْ جَا تِيْ تَهٗ اَسِ كِهٖ بَعْدَ اَلْحَضْرَتِ صَلِي اللّٰهِ عَلَيْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ غَارِ حَرٰ اِيْنِ جُو كِهٖ مَكْفِيْہٗ كِهٖ مُتَّصِلٌ بِہٖ تَشْرِيْفِ فَرَمَا ہُوْتِيْ تَهٗ اُوْرِ پھر چند روز کے کھانے پینے کا سبب پینے بہرا لے کر تھا اس مکان میں بسح و تھلیل اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے اور جب کہ کھانے پینے کا سبب

اپنے ہمراہ لے کر تنہا اس مکان میں تسبیح و تحمیل اللہ تعالیٰ کی کرتے ہی اور جب کہ کھانے پینے کا اسباب تمام ہو جاتا تب پھر وہ دولت خانے پر تشریف لاتے اور دو ایک روز دولت خانے پر ہی تشریف رکھتے اور پھر اسی غار میں ایک مہینے سے کم رہتے اور کبھی ایک مہینہ بھی رہتے۔ ایک دن خلوت کے ایام میں اس غار سے باہر تشریف لائے بغرض طہارت کے پانی کے کنارے کھڑے تھے ایک ایک جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی یا محمد۔ آنحضرت نے اوپر کی طرف نگاہ کی تو کسی کو نہ دیکھا۔ پھر اسی طرح سے آواز دو تین بار آئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت متحیر ہوئے اور دایں بائیں نگاہ کرنے لگے دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص نورانی چہرہ ماتہ اکتاب کے روشن اور نور کا تاج اپنے سر پر رکھے ہوئے اور لباس سبز پہنے ہوئے شکل آدمی کی سی جب وہ نزدیک آنحضرت کے پہنچے اور کہا پڑھ اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں ایک نلکا احریر سبز کا تھا کہ اس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا اور پھر کہا کہ پڑھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حرف کی صورت کو نہیں پہچانتا میں اور میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل نے کہا پڑھ اور پھر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زور سے دیا یہاں تک کہ دہانے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی اور پسینہ بدن مبارک میں آگیا اور اسی طرح تین مرتبہ کیا اور پھر کہا: اَقْرَأِ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ پانچ آیتوں تک اور ان آیتوں کو خوب یاد کر لیا۔ اور بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ بعد تعلیم ان آیتوں کے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمیں پر مارا اس سے ایک چشمہ پانی کا جاری ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طرہ تیز طہارت وضو اور استنجا کا سکھایا اور دو رکعت نماز کی تعلیم و تلقین کی اور سورۃ فاتحہ سکھائی کہ پر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا کرو۔ اسی واقعہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترساں و لرزاں اپنے گھر پر آئے اور خدیجہ البکری سے فرمایا کہ جلدی میرے بدن پر کب لڑال دو تا کہ میرے بدن سے لرزہ دفع ہو پھر جب لرزہ جاتا رہا تو حضرت خدیجہ البکری نے کیفیت دریافت کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ماجرا ان کے آگے بیان کیا خدیجہ نے کہا آپ ہرگز کچھ خوف نہ کیجیے اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے صفیٰ رحمت کے آپ پر ظاہر کیے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ مسافروں کے ساتھ حسن سلوک اور مہمانوں کی ضیافت اور محتاجوں کے کام میں یاری اور ضعیفوں پر رحم اور اپنے اقرباؤں پر احسان کرتے تھے اور راست گفتار اور امانت دار ہیں اور جب کوئی اس مرتبہ میں خلق اللہ پر رحم کرے وہ منتحق رحمت الہی کا ہوتا ہے اور ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ البکری کے گھر میں بیٹھے تھے اتنے ہی حضرت جبرائیل آئے تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ البکری سے کہا کہ دیکھو جو شخص اس دن ہمارے پاس آئے تھے وہ یہ

ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعل میں آجبتیں اور کہا کہ آپ کو ان کی صورت معلوم ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تک موجود ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں۔ تب حضرت خدیجہ نے سر
اپنا برہنہ کیا اور حضرت سے کہا کہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تب
خدیجہ البکری نے فرمایا کہ وہ فرشتہ ہے آپ کو تو بخبری دینے آیا ہے اگر وہ جن ہوتا تو سر برہنہ سے شرم نہ کرتا
اور غائب نہ ہوتا پھر حضرت خدیجہ البکری نے اپنے چہرے سے بھائی ورقہ بن نوفل سے جو کہ دین حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کا رکھتا تھا اور توریت اور انجیل سے خوب واقف تھا اور عبرانی زبان سے ان کتابوں کا ترجمہ کرتا
تھا۔ حضرت خدیجہ نے تمام احوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بیان کیا۔ اس نے کہا جبرائیل نام
کا ایک بڑا فرشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتے ہیں کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے
پاس بھی آئے تھے اگر تم سچ کہتی ہو کہ محمد عربی نبی ہیں ان کی صفت میں نے دیکھی ہے آسمانی کتابوں میں
کہ وہ عرب سے نکلیں گے جہلا کہو تو حیرانیں علیہ السلام نے ان کو دعوت اسلام کے لیے فرمایا ہے یاہیں !
حضرت خدیجہ نے کہا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اَسْوَابًا سِدْرًا دَلِیًّا سیکھا یا ہے ورقہ بن نوفل
نے کہا کہ ان پر حکم دعوت اسلام کا ہوتا تو میں اول اسلام میں داخل ہوتا۔ پس ورقہ بن نوفل نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے کہا کہ آپ منت ڈریں اور اپنے دل میں کسی قسم کا اندیشہ بھی نہ کریں لیکن آپ کی قوم کے لوگ
اس مرتبہ اعلیٰ کو جو ان کے لیے نعمت عظمیٰ ہے نہیں پہنچائیں گے یہاں تک کہ تم کو اس شہر سے نکالیں گے
کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی اس وقت تک زندہ ہوتا۔ میں ضرور آپ کی مدد کرتا اور سعادت دارین حاصل کرتا۔ پس
اس کے چند ہی دن بعد ورقہ بن نوفل نے انتقال کیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں دیکھا
کہ وہ جامعہ سفید پہنچے ہوئے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر لوگوں سے بیان کی
کہ یہ علامت بہشتی ہونے کی ہے اور اس کے سورۃ نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِدُوًّا لِّمَن آتَىٰكُمْ مِنَ اللَّهِ بِبُرْهَانٍ**
مِّنْ عِندِ رَبِّهِ يَأْتِيكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ بِرَزْقٍ مِّنْ رَبِّهِ يُزِيْدُ مَن يَشَاءُ مِنْهُ رِزْقًا اور تمام مخلوقات کو خواب
الہی سے ڈرا دیکھے پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبل اپنے بدن سے اتار ڈالا اور فوراً اپنے منبر
سے اٹھے۔ حضرت خدیجہ البکری نے کہا اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ سوئے نہیں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ اب میں نے سوتا نہیں ہے کیونکہ حضرت جبرائیل میرے پاس
دوسری مرتبہ آئے اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لائے اور پھر مجھ کو کہا کہ مخلوق خدا کو اسلام
کی دعوت دو اور خدا کی طرف بلاؤ تاکہ وہ لوگ بت پرستی چھوڑ دیں اور خداوند قدوس کی عبادت کرنے لگیں
اب میں سوچتا ہوں کہ کس کو کہوں کہ کون میرا کہنا مانے گا اور یقین کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی بنا

کر بھی گیا ہوں یہ سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ آپ سب سے پہلے مجھ کو ایمان کی راہ بتائیے تاکہ میں
 ایمان لے آؤں۔ پھر یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ایمان کی تلقین فرمائی۔ اس طرح
 وہ اول ایمان لائیں اور مسلمان ہوئیں اور اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب کی عمر سات برس کی تھی تمام
 دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے جب دیکھا کہ رسول خدا اور خدیجہ کو نماز پڑھتے کہنے لگے
 یہ کیا کام کرتے ہیں اور اسی طرح کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خدا کے
 عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب نے کہا تمہارا کوئی خدا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں دست قدرت میں تمام زمین و آسمان اور سارا جہان ہے۔
 اور اس نے مجھ کو جملہ خلائق پر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو ایمان بالالہی طرف بلاؤں اور نیک کاموں
 کی ہدایت کروں اور میں تم کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس راہ خدا پر آؤ اور اپنے باپ دادا کی رسم کو چھوڑو
 یہ سن کر انہوں نے کہا کہیں بے اجازت اپنے باپ کے کوئی بھی کام نہیں کرتا ہوں اس بارے میں اپنے باپ سے
 پوچھوں گا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تیرا یہ بات سوچا جاوے اور کوئی نہ سننے پاوے
 اب علی ابن ابی طالب حضرت خدیجہ کے گھر سے نکل آئے اور اپنے دل میں سوچا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان بخشے
 اور راہ نجات کی دیوے وہ کیوں دین اسلام سے پھرے اور کیوں اپنے باپ سے اس بارے میں صلاح
 پوچھ لے یہ سمجھ کر وہیں سے پھرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا آپ ایمان
 لائے اور پھر نماز بھی ادا کی۔ اس طرح حضرت خدیجہ اور حضرت علیؑ اللہ عنہ دین السلام سے مشرف ہوئے اور
 ادھر حضور اکرم صلی اللہ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ تمام رات آرام نہیں فرماتے تھے اور دل میں یہ خیال فرماتے رہتے
 تھے کہ کہیں یہ راز کسی اور پر نہ ظاہر ہو جائے۔ ایک دن آپ کے خیال مبارک میں آیا کہ ابو بکر مرد بزرگ اور عقلمند
 ہیں اور مجھ سے کافی دوستی بھی رکھتے ہیں ان سے جا کر یہ راز کی بات کہوں اور پھر ان سے صلاح کروں اور دیکھوں
 وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں چنانچہ فجر کی نماز کے بعد ان کے پاس جانے کا مقصد مصمم کیا۔ ادھر صحن اتفاق
 سے ابو بکر صدیق بھی مرضی الہی سے ساسی شب اس میں مترو ہو رہے تھے کہ بت پرستی جو ہم لوگ یا ہمارے
 باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم اس میں کچھ فائدہ مضور نہیں کرتے کیوں کہ بتوں سے نہ کچھ ضرر ہے اور نہ کچھ
 شریہ تو محض فضول اور لالچنی شے ہے کاش اگر کوئی ہوتا اور راہ ہدایت کی بتاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا اور میں
 اس وقت اس آفت سے بچتا اور دل میں یہ خیال بھی آیا کہ محمد امین برادر ذادہ ابوطالب ہیں وہ مرد عاقل
 اور دانا ہیں اور ہماری ان سے حیاتی محبت و الفت ہے اور وہ بت پرستی بھی نہیں کرتے ہیں صبح ان کے
 پاس جانا چاہیے ممکن ہے کہ وہ ہم کو راہ خدا بتادیں اور اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے

پاس آنے کا عزم کیا تھا کہ ابوبکر کے پاس جا دیں اور اپنا راز بیان کریں۔ اتفاقاً راہ میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آتا تاکہ آپ سے کچھ مشورہ کروں اور ابوبکر صدیق نے بھی عرض کی کہ یا حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) میں بھی آپ کے پاس آتا تھا تاکہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوں اور پھر راہ دین معلوم کروں یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ ہی فرمائیں کیا بات ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت نزول جبرائیل کی اور ان کا وحی لانا خدا کے پاس سے اور حقیقت خواب کی سب کچھ ابوبکر سے بیان فرمائی سنتے ہی ابوبکر صدیق نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے کہ آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں میں بھیجا ہے۔ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کجھ فوراً ہی ایمان بالاکبریٰ راہ بتائیے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو راہ ہدایت بتائی اور فوراً ہی اسلام و ایمان سے مشرف بہ اسلام ہو گئے انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کسی کو ایمان کی دعوت دیتا تھا وہ فی الفور ہی انکار کر دیتا تھا لیکن ابوبکر صدیق نے انکار نہیں کیا اور فوراً ہی مشرف بہ اسلام ہو گئے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں اور لڑکوں میں حضرت علی ابن ابی طالب ایمان لائے اور نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان سے مشرف ہوئے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی ایمان لائے تھے اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارث ایمان لائے تھے اور یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کیوں کہ یہ مرتبہ اور کسی اصحابوں کو میسر نہ ہوا پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد ابن وقاص اور حضرت ابی عبیدہ ابن الجراح اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہم ایمان لائے تقریباً انیس آدمی ایمان لائے تھے لیکن پھر بھی اپنا دین پوشیدہ رکھتے اور نماز خفیہ پڑھتے تھے ایک دن کہ حوا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کی دعوت کی اور ان کو راہ ہدایت کی توجہ دلائی لیکن اس کے جواب میں ابوطالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہ پھوڑوں گا ہاں تم کو جو کچھ خدا نے فرمایا ہے تم اس پر قائم رہو اور میں ہمیشہ تمہارا پناہ پشت رہوں گا اور کوئی ایذا نہ دے سکے گا۔ ابوجہل کو جب خبر اسلام کی پہنچی تو وہ مردود کہنے لگا کہ میں اگر ایسا جانتا کہ لوگ محمد ابن عبد اللہ پر ایمان لا دیں گے تو میں ان کا سر پھڑ سے پکڑتا اور اگر محمد ابن عبد اللہ مسجد میں سواتے ہیں تو میں ان کے اور کسی کو سجدہ کرے گا تو اس کا سر پھڑ سے میں پکڑوں گا کہ منفر بھی اس کا باہر نکل پڑے گا۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کانٹوں نے تین سو ساٹھ بت چڑھنے کے واسطے رکھے تھے اور سب سے بڑا بت بیل کا تھا اور لات اور منات دوسری جگہ پر

رکھے ہوئے تھے اور جب اہل مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی بات سنی اور بہت زیادہ
 برہم ہوئے اور اس کی پاداش میں بہت ظلم کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی کی اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بہت تباہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دی یہاں
 تک کہ اہل بیت کو موعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان شعب کے محاصرہ کیا اور اس محاصرہ میں تقریباً تین برس
 رہے پھر محاصرہ سے باہر تشریف لائے اور ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مشغول تھے کہ
 عقبہ بن ابی معیط نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر کپڑا ڈالا اور دونوں کنارے اپنے ہاتھ میں لے کر
 زور سے پھینچنے لگا پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکر پھینچ لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک
 دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ابو جہل یحییٰ نے آکر مسی مٹی ٹوکری مبارک پر ڈال دی وہ اور
 حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی
 دن جنگ لڑنے سے زیادہ تکلیف ہوئی جس روز آپ کے دشمنوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے
 تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں کافروں کی جماعت کو ہدایت کر رہا تھا اور انہوں نے
 میری تصدیق نہ کی اور مجھ کو کئی قسم کی ایذا دی اور مجھ پر ظلم کیا یہاں تک کہ پاؤں کے تلوے تک میرے خون
 سے تر ہو گئے اس حالت میں میں نے درگاہ باری تعالیٰ سے دعا کی چنانچہ دربار الہی سے ایک فرشتہ ہو
 پہاڑوں پر سونکل ہے اس نے آکر مجھ کو سلام کیا کہ آپ کی آرزوگی موجب سلال ہے تمام فرشتوں کے لیے اگر
 آپ مجھ کو حکم فرمائیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جگمگاہی جو کہ مکے کے ارد گرد واقع ہے ملا دوں اور تمام زمین مکے
 کی اٹھا کر الٹ پلٹ کر دوں کہ اس کو پہچان بھی نہ ہو سکے آپ کا جو حکم ہو بجا لاؤں۔ تب میں نے کہا کہ اللہ
 تعالیٰ نے تو مجھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے نہ کہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کے واسطے چنانچہ ارشاد باری
 تعالیٰ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ طہ ترجمہ نہیں بھیجا ہم نے تم کو اے محمد صلعم مگر واسطے رحمت
 عالمین کے ایک روایت میں ہے ترقی اسلام کی مکے کے کافروں نے دیکھی عقبہ بن ربیعہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس بھیجا عقبہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر عرض کی کہ اے میرے بھتیجے محمد ابن عبد اللہ تم حسب نپ
 میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہو پھر بھی تم نے ایسا کام اختیار کیا ہے کہ اس سے اپنے ماں باپ کا کفر لازم آتا
 ہے اور ایذا و جوارح پر طعن ہو تا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک کا بن قریش میں ظاہر ہوا ہے اور ہم کو ہر طرح
 سے طعن کرتے ہیں اگر بسب شہوت کے آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو جس عورت کی قریش میں سے خواہش ہو
 اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں اور اگر آپ کو مال حاصل کرنے کی تمنا ہے تو مال دوں گا کہ آپ بہت اچھے
 تو مکر ہو جائیں گے اور اگر آپ کو حاجت مال کی نہ ہو اور حاکم بننا چاہتے ہو تو تم کو ملک کا والی بنا دوں گا اور

اگر خلل دماغ ہو تو آپ کے واسطے طبیب حاذق مقرر کروں تاکہ آپ کا صحیح طور پر علاج ہو جائے یہ باتیں عقیدہ
 ابن ربیعہ کی سنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** **هٰذَا تَنْزِیْلٌ مِّنَ**
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ **کَلِمَاتٌ فَصَّلَتْ اٰیٰتُهٗا قَدْ اُنزِلَتْ عَلٰی قَلْبِکُمْ لِتَعْلَمُوْنَ تَرْجُمَہُ اِتّٰمٰرِی ہُوئی**
 بخشتے دئے مہربان کی طرف سے کتاب ہے کہ جدا جدا کی گئیں آیتیں اس قرآن عربی کے واسطے اس قوم
 کے جو عقلمند ہیں پھر اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی **قَوْلَہٗ تَعَالٰی اِنَّا اِنزَلْنٰہُ عَلٰی**
اِنْسَانٍ دَلِیْمٍ مِّثْلَ صٰیغَةٍ مِّنْہٗا وَ اَنزَلْنٰہُ عَلٰی قَلْبِکُمْ لِتَعْلَمُوْا تَرْجُمَہُ پس اگر وہ منہ پھیریں پس تو کہہ میں نے
 جبر سنائی تم کو عذاب آسمان سے مانند عذاب قوم عاد کے اور قوم ثمود کے پھر عقبہ بن ربیعہ نے کہا کہ سوا اس
 کے اور کچھ یاد نہیں اتنا چاہا ہو کہ عقبہ بن ربیعہ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے ایک بڑا حکام محمد بن عبد اللہ
 سے سنا کہ وہ کبھی کسی سے نہیں سنا۔ پس اب ان کی اصلاح میری ممکن ہے کہ ان کو ایذا دینے میں کوشش نہ کریں
 اور ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دو اگر ان سے تم لڑنا چاہتے ہو تو بے فائدہ ہو گا کیوں کہ اگر ان پر غالب ہو گئے
 تو کوئی چیز بھی تمہارے ہاتھ نہ آدے گی اور اگر وہ تم پر غالب ہوئے تو جو ملک تمہارا ہے وہ ان کے ساتھ
 آجائے گا پس عقبہ بن ربیعہ سے یہ سنکر مشرکوں نے کہا کہ شاید تجھے اس نے جلا دیا ہے اسی وجہ سے تو اس کی
 طرف داری کرتا ہے عقبہ بن ربیعہ نے کہا کہ جو میرے عقل میں آیا وہ میں نے تمہارے سامنے کہہ دیا آگے
 تم لوگ تمہارا ہو عبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ قریش کے حق میں کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا
 سین کی مگر ایک دن قریب مکہ معظمہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ابو جہل لعین نے تجارت
 کی ٹوکری عقبہ بن معیط کے ہاتھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے پر حالت سجدے میں ڈلوای
 بعد فارغ ہونے نماز کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ملعونوں کے واسطے یہ دعا فرمائی جس کا نتیجہ
 حضرت عبد اللہ ابن مسعود قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے ان کفاروں کو بددعا کر لڑائی میں دیکھا کہ ان کی حالت
 یرسی ہوئی یہ بہانہ تک کہ لوگ ان کے بال کپڑے زمین پر پھینچتے ہوئے گزرتے ہیں دالتے تھے ایک روایت
 میں آیا ہے کہ جس وقت انیس صحابہ مشرف باسلام ہوئے نبی البکرہ صدیق نے رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم سے التماس کی کہ یا رسول اللہ کیوں اب ہم اسلام کو چھپائیں اور اب بہتر ہے کہ اعلیٰ الاعلان
 عبادت الہی کریں اور لوگوں کو دعوت اسلام کی دیں۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت البکرہ صدیق
 کے کہنے سے مسجد الحرام میں جا بیٹھے اور البکرہ صدیق نے گھر سے ہو کر خطبہ پڑھا تو اس وقت مشرکین
 اور عقبہ نے مل کر حضرت البکرہ صدیق کے بازوئے مبارک پر سخت ضرب پہنچی جس کی وجہ سے حضرت البکرہ
 صدیق یہوش ہو گئے اور پھر نبی تیمم ان کو وہاں سے اٹھا کر گھر میں لائے اور ساری رات بیقرار رہے جب

تھوڑا سا ہوش آیا پھر رسول خدا کے پاس تشریف لائے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابوبکر تم نے بہت تکلیف و رنج و محنت میں اٹھایا۔ یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کہا یا رسول اللہ جو بڑھنے والا اور رسول مقبول مجھ پر گزرنے میں اس سے ناراض نہیں ہوں بلکہ خوشی مانتا ہوں اور راحت و عافیت کی تمنا ہر وقت دل میں موجزن ہے مگر بائیں جانب سے مجھ کو درد رنج بہت پہنچا کیونکہ ضرب شدید کی وجہ سے میرے تمام اعضاء بجم میں درد پیدا ہو گیا ہے جس کو دیکھ کر دین کے دشمن ہنستے ہیں یہ سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت ابوبکر صدیق کے تمام اعضاء پر چھرا دیا وقت درو اور صدمے سے صحت پائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پانچویں برس عمر فاروق ابن خطاب ایمان لائے اور ان کے سبب اسلام میں تقویت اور عزت زیادہ ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت اور شجاعت میں اور بولندگی اور جنت میں عرب کے درمیان مشہور و معروف تھے اور تمام عرب ان سے ڈرتے تھے جب حضرت امیر حمزہ ایمان لائے تب ابوجہل نے ولید بن مغیرہ اور یوسفیان اور ابولہب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باپ و غیرہ مردان کو پیش کو لا کر کہا کہ اے قریش کے سردار و امیر حمزہ تو محمد بن عبد اللہ پر ایمان لا کر گیا کیا یہودہ اور خرافات بتائی کرتا ہے ایسی کبھی کسی نے نہیں کیں اور نہ کسی سے ایسی باتیں سنی یہ سن کر ابولہب نے کہا کہ اے ابوالحکم میری بات سنو پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن عبد اللہ کا سر کاٹ لو بعد اس کے یاروں کا تدارک کیا جاوے گا۔ ابوجہل نے یہ بات سن کر کہا کہ قسم ہے مجھ کو لات و عزیٰ کی کہ جو کوئی محمد بن عبد اللہ کا سر کاٹ لاوے گا میں اس کو ایک شتر کا بوجھ سونے اور چاندی اور دس غلام اور نو بڑی بیس دوں گا۔ عمر ابن الخطاب نے کہا کہ یہ کام تو میرا ہے ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو محمد بن عبد اللہ کی تائید میں تمام بنی ہاشم ہیں یہ کام کیوں کر ہو سکتا ہے یہ سن کر عمر ابن الخطاب نے لات و عزیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ اگر بنی ہاشم انکی تائید میں آویں گے تو انکو بھی اس تلوار سے قتل کر دوں گا یہ کہہ کر تلوار اٹھا کر چلے، اتفاقاً اثنائے راہ میں ایک عربی سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا اے عمر کہاں جا رہے ہو کہا میں اک وقت محمد بن عبد اللہ کا سر کاٹنے کو جا رہا ہوں یہ بات سن کر اس نے کہا اے عمر حمزہ کے ہاتھ کیسے خلاصی پاؤ گے وہ تو محمد بن عبد اللہ پر ایمان لا چکے ہیں یہ بات سن کر عمر بولے اگر وہ محمد ابن عبد اللہ پر ایمان لا چکے ہیں یہ بات سن کر عمر بولے اگر وہ محمد ابن عبد اللہ کی تائید میں ہیں تو میں اس کا پھر کاٹوں گا پھر اعرابی بولا اے عمر کیا تم اپنے گھر کی بھی تہہ رکھتے ہو بولے نہیں۔ اس نے کہا تیری بہن فاطمہ اپنے خاوند کے ساتھ محمد بن عبد اللہ پر ایمان لا چکی ہے۔ اور نیز ادا مد سعید بھی ایمان لایا ہے۔ عمر نے کہا کہ ان کی اسلامیت کیونکہ معلوم ہو گی کہ ان کو کھانے کی وقت اپنے یہاں بلاو گے، کاتو وہ نہ آئیں گے اس طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایمان لاتے ہیں پس عمر یہ باب سن کر اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیئے راہ میں پھر ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی اس نے کہا اے عمر تو کہاں جاتا ہے بولے اس کے

ابن عبد اللہ کا سر کاٹتے جا رہا ہوں اعرابی بولا بھلا ایک بات تو سن کہ جو تیرے سامنے بکری ہے تو اس کو پکڑ
تب معلوم ہو گی تیری شجاعت، پس عمر اس بکری کے پیچھے اس قدر دوڑے کہ تمام بدن میں پسینہ آگیا آخر عاجز
ہو گئے لیکن بکری نہ پکڑ سکے۔ اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے پھر اعرابی نے کہا اے عمر بکری کو تو پکڑنے سکا
اور وہ محمد ابن عبد اللہ تو شیر خدا ہیں ان کو تو کیوں پکڑے گا۔ پس عمر وہاں سے مجالت پا کر غصہ ہو کر اپنی بہن کی
کی طرف چلے اور وہاں جا کر یہ کہا کہ اے بہن مجھ کو بہت بھوک لگی ہے پھر کھانے کے واسطے لاؤ، تب ان کی
بہن نے جلدی سے کھانا تیار کر کے ان کو لا کر دیا اور عمر نے کھاتے وقت اپنی بہن کو اسی دسترخوان پر کھانا
کھانے کو بلایا اس نے انکے ساتھ کھا کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے جانا کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے پس
اسی وقت بال اپنی بہن کے پکڑ کر چا گیا کہ سر اس کان سے جدا کر دے۔ تب زید نے جو ان کے شوہر تھے
عمر کے ہاتھ سے پھر لیا اور پھر کچھ حیلہ کر کے غصہ ان کا ٹھنڈا کیا اور پھر اطمینان سے ان کو کھانا کھلایا یہاں
تک کہ جب رات ہوئی تو عمر سو گئے تو ان کی بہن سورۃ طہ پڑھنے لگی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی۔
لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الْاَرْضُ وَمَا عَلَيْهَا خٰلِفَةٌ بَعْدُ اِنْ اَرَادَ اللهُ بِالنَّفْسِ
آسمانوں کے ہے اور زمین کے ہے اور جو دونوں کے درمیان میں ہے اور جو تخت الشری میں ہے!
جب اس آیت کا مطلب عمر کے کان میں پہنچا تو دل عمر کا اسلام کی طرف مائل ہوا۔ پھر وہ اپنے بستر سے اٹھ
کر اپنی بہن فاطمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے تم کیا پڑھتی ہو۔ وہ بولیں کہ میں کلام اللہ پڑھتی ہوں جو محمد ابن عبد اللہ
پر نازل ہوا ہے اس جگہ بعض نے کہا ہے کہ عمر کے ڈر مارے اس کاغذ کو جس پر کلام اللہ لکھا تھا تنور کے اندر
ڈال دیا مگر وہ خدا کے فضل سے نہ جلا عمر نے کہا کہ وہ لا ڈ کہاں ہے یعنی تم اس کاغذ کو لاؤ جس پر وہ کلام اللہ
لکھا ہوا ہے کیونکہ میں بھی اس کو پڑھوں گا۔ تب ان کی بہن فاطمہ نے کہا تو کہ تعالیٰ۔ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
ترجمہ۔ جو کوئی مشرک ہے وہ نجس ہے اور ناپاک ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہو تو پاک
صاف ہو کر باطہارت پڑھو کیونکہ اس کو چھونا بغیر پاکی کے درست نہیں پھر اس وقت عمر نہاد ہو کر پاک
پاک باطہارت ہو کر ہاتھ میں اس صورت کو لے کر پڑھنے لگے اور پھر اس کے معنی اور مطالب دریافت کر کے
رونے لگے اور پھر ان کو اسلام کی طرف خواہش ہوئی پھر سو رہے جب فجر ہوئی ابو جہل وغیرہ مشرکوں کی
بات یاد پڑی پھر تلوار لٹکا کر بارہ کار موعودہ کے روانہ ہوئے پھر آٹنا سٹہا میں ایک اعرابی سے ملاقات
ہوئی وہ اعرابی بولا اے عمر تو کہاں جا رہا ہے بولا کہ محمد ابن عبد اللہ کا سر لانے جا رہا ہوں وہ بولا کہ محمد کہاں
ہیں تو جانتا ہے وہ امیر حمزہ کے پاس ہے پھر وہاں سے امیر حمزہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت
اللہ تعالیٰ نے جبرائیلؑ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل ہمارے رسول

مقبول علی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو کہ عمر تیری طرف آتا ہے تم اس سے مت ڈرنا بلکہ تم اسکو اسلام کی دعوت دینا جب وہ تمہارے پاس آوے تو تم نبوت کی قوت سے اس کا سچے سچے پکڑو جب تک وہ ایمان نہ لاوے اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا لیس آدمی تھے عمرؓ امیر حمزہؓ کے دروازے پر آئے اور دستک دی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں عمر بنیہ خطاب کا بیٹا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دروازہ کھول دیا۔ جب عمر نے اپنا پاؤں دروازے کا نذر رکھا تو حسب تعلیم ہر ایبل کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی قوت سے اس وقت عمر کو پکڑ لیا اور تکیہ پر ٹھہرا دیا اور دعوت اسلام دی عمر اسی وقت ایمان لائے اور کہا یا رسول اللہ لعنت خدا کی اس پر ہے جو درپے ایذا آپ کے رہے پس رسول خدا نے کلمہ شہادت عمر کو تلقین کیا اور عمر دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ اس وقت رب جلیل کی جناب سے حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر آئے تو لہ تعالیٰ یا ایہا النبی حبیب اللہ وصن ائبتک من الہم مینین تبھم کہا اللہ تعالیٰ نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفایت ہے نبھ کو اور ان لوگوں کو جتنے تھہر پر ایمان لائے ہیں! کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے اس وقت عالم سفلی سے عالم ملکوت تک خوشی حاصل ہوئی اور اس وقت بنی کریم نے فرمایا اے عمر تو جس جگہ خواہش کریگا۔ غالب ہوگا حضرت عمرؓ نے عرض کی یا رسول اللہ دعوت اسلام سنو کو دینا چاہیے اور اپنے اصحاب کو فرمایا کہ وہ کوچہ دبانہ میں جا کر دعوت اسلام لوگوں کو علی الاعلان دیں اور اگر کوئی شخص اس میں کوئی بات ناشائستہ کہے تو اس کو پکڑ لاؤں اور میں خود بھی تمام قریشیوں کو دعوت اسلام دیتا ہوں یہ کہہ کر سب کو حضرت عمرؓ نے جمع کر کے کہا اے معشر قریش اب میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اور حلقہ محمدی میں پہنچ چکا ہوں۔ اب اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کھڑا ہوگا تو میں اس کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ اے ابو جہل! دین محمدی حق ہے اور دین تم سب کا باطل پرستی بالکل بھوٹ ہے۔ یہ سنکر ابو جہل نے اور خطاب نے کہا کہ اے بیٹا تو دیوانہ ہوا ہے یا مجھ صلعم کے جاوونے نچھہ پر اڑ گیا ہے جو تو ہمارے معبودوں کی تکذیب کرتا ہے۔ اب میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے باپ کفر کا کلام چھوڑو۔ خدا اور رسول پر ایمان لاؤ اور سچے مسلمان ہو جاؤ۔ خطاب نے ان بازن سے طیش میں آکر کہا اے عمر تو یہی وہ باتیں جو کرتا ہے اس کے سبب آج تیری شہادت آئی اور موت تیری قریب آگئی ہے جو تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ جب عمرؓ نے وہیں شیشہ میان سے نکالی تو یہ دیکھ کر ابو جہل تو ہلکا اور خطاب بھی چاہتا تھا کہ بھاگے لیکن حضرت عمرؓ نے وہیں کام اس کا ایک ہی وار میں تمام کر دیا یعنی آپ نے باپ کا سر کاٹ لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں پہنچی تو حضرت عمرؓ کے رعب سے مکے کے گدو و نواح میں اور دیگر ملکوں میں اور جملہ کفاروں میں زلزلہ آگیا لیکن تمام مسلمان نہایت خوش و خرم رہے صدمہ میں دن یہ واقعہ ہوا

اس روز طائف اور مکے میں کوئی نہ رہا کہ دعوت اسلام اس تک نہ پہنچ ہو۔ نماز اور اذان جا بجا آشکارا ہوئی جماعت باقاعدہ ہونے لگی اور ادھر حضرت عثمان بن عفان بھی ایمان لے آئے اور پورے طور پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے سہ فرماز ہونے کے بعد دس سال تک اپنی قوم کو دعوت اسلام دی۔ جب دیکھا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناامید ہو کر غیر قوموں کی ہدایت کی طرف مشغول ہوئے اور مکے سے طائف کی طرف تشریف لے گئے وہاں جا کر راہ خدا کی ہدایت و تلقین کرنے لگے۔ وہاں کے سردار تین آدمی تھے وہ کوئی ایمان نہ لائے اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی کی اور پھر اپنے شہر سے بھی نکال دیا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ میں تشریف لائے اور اثناء راہ میں مقام نخالیہ میں منزل کی جب رات ہوئی تو اپنے ساتھیوں کو لے کر غار حرا میں مشغول ہوئے اور قرأتِ بھر سے پڑھنے لگے اس عرصہ میں نو شخص قوم حرم نے شہر نصیبین سے کہ وہ فرشتہ نہ ہو شیطان ہے کہ عمدہ ترین قبائل جنوں میں سے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ ان کا سیر کرنا اس واسطے تھا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اسی وقت سے جنوں کا آسمان پر جانا موقوف ہو واجب کبھی اوپر جاکے کا قصد کرتے شعلہ آتش ان پر گرنا شروع ہو جاتا اسی واسطے تمام جنوں نے ایک جگہ جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ تلاش کرو مشرق سے مغرب تک دنیا میں کون ایسا شخص پیدا ہو ہے کہ اس کے سب سے ہم سب کا آسمان پر جانا موقوف ہے تاکہ ہم سب اس کا تدارک بخوبی کر سکیں۔ پھر تمام جن تہا منہ کی طرف پلٹے جب یہ مقام نخلہ میں پہنچے تو وہاں آنحضرت کی زبان مبارک سے کلام الہی کو سنا تو پھر کہنے لگے کہ ہم سب کے آسمان پر نہ جانے کا سبب یہی ہے تاکہ کوئی اس کلام کو چر کر نہ لے جاوے اور پھر وہ بے نقصان پہنچاوے اس کے بعد تمام قرأتِ قرآن مجید کی سنکر تمام جنات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لائے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ تم سب اپنی قوم کو جا کر اس کی خبر کرو تب انہوں نے اپنی قوم کو جا کر اس کی خبر کی تب جنوں سے وہ بہن کا نام روویہ اور عودہ جو ان کے سردار تھے اور مزید نوے جنات ان کے ہمراہ شہر نصیبین سے اور شہر مینو سے گروہ گروہ ہو کر روانہ ہوئے تاکہ وہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور قرآن مجید بھی سنیں ادھر سابق جنوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عرض کی کہ جنات آپ کو دیکھنے کے لیے اور کلام الہی سننے کے لیے سب منتظر فرمان واجب الادعا ہیں جس وقت اور جس مکان میں حکم ہو وہ سب اس جگہ حاضر ہوں تب جنات سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر کے باہر شب کے وقت شعب الثجون کی نواح میں جو کہ متصل مکہ معظمہ کے ہے۔

ہوں تاکہ اہل شہر کو ڈرا اور ہیبت نہ ہو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عشاء کے عبد اللہ بن مسعود کو براہ
 لے کر وہاں دیکھتے ہیں کہ جنات نے مارے اشتیاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے لیے بہت بڑا
 ہجوم کیا ہوا ہے پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن مسعود کو باہر شعب الجون کے کھڑا کیا ہے
 اور ایک دائرہ چہار طرف عبد اللہ بن مسعود کے پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبردار تم اس
 دائرے سے باہر مت جانا ممکن ہے کہ جنات تم کو تکلیف دیوں پس عبد اللہ بن مسعود اس دائرے کے
 اندر رہے اور دیکھتے تھے کہ تمام جنات کی شکل مثل وحوش کے مختلف تھے ان میں سے کسی کی شکل مثل گدھ
 کے ہے اور کسی کی گردہ جٹ کے جو متصل بعرہ کے ہیں، اور کسی کا سر اور پاؤں ننگا اور ستر عورت کا ایک کپڑے
 سے چھپا ہوا ہے اور کسی کے بدن کا سیاہ رنگ ہے اور بعض ان کے اور دوسری شکل و صورت کے ہیں
 وہ سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم لاکر صبح تک حاضر رہے اور نبی اکرم صلی اللہ وسلم تمام
 رات ان کی تعلیم و تلقین روزہ نماز، طہارت وغیرہ احکام میں مشغول رہے اور پھر جنوں نے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بطور تبرک کچھ توشہ عنایت فرمائیں یہ سنکر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توشہ تو ہم نے تم کو ایسا دیا نسلًا بعد نسلًا کے ہمیشہ کام آوے گا جنوں
 نے کہا کہ حضرت وہ کیا چیز ہے فرمایا کہ جس جگہ ہڈی یا مینگیٹی اونٹ یا کبوتری کی یا گوبر گائے جھنس کا گری ہوئی پاؤ
 وہی تنہا توشہ ہے اور اب چیز جو تم کھاتے ہو اس سے بہتر شہر بنی اور لذت اس میں ملے گی اور یہ لذت !
 میری دعا سے پیدا ہوئی ہے اور بعض روایت میں کوئلہ بھی آیا ہے۔ پھر جنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ
 تمام آدمی تو ان پر نجاست گراتے ہیں اور ان کو شراب کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں
 کو منع کروں گا کہ وہ ان کے پھرے پر نجاست نہ ڈالیں اور شراب نہ کریں اسی وجہ سے استنجا کرنا ہڈی اور
 سخت گوبر سے اور مینگیٹی سے اور کوئلے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اپنی ایام میں جنوں
 نے ایک دوسرے کا خون کڑا لٹھا۔ آنحضرت نے حکم الہی اتصاف کیا اور اس میں سب راضی ہو کر اپنے
 وطن کو چلے گئے پھر اسی طرح جنات کو حرمیں جمع ہوئے سب جزائر میں سے آئے تھے اور اس وقت
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہا تشریف فرما ہوئے اور تمام رات وہاں رہے۔ صبح کے وقت
 صحابہ نے آگ کی نشانی اور دوسرے اسباب جو جن چھوڑ گئے تھے وہ سب پاٹے اور یہ تمام واقعات
 صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ بس میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔

معراج مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ایک روایت میں آیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس برس اور تین مہینے تک پہنچی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ دل مبارک میں قوت پیوست کر دی جائے تاکہ آسانی سے عالم ملکوت کی سیر کر سکیں اور تجلیات الیہ کو دیکھ سکیں اور ماہِ رجب کی ستائیسویں تاریخ میں درگاہ الہی سے حبرائیلؑ کو یہ حکم ہوا کہ وہ رضوان سے کہیں کہ بہشت کی آرائش کریں اور حور و غلمان سے کہو کہ وہ اپنے تئیں زیب و زینت کریں اور ملائکہ سے کہو جو کہ قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں آج کی شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھالیں اور مالک داروغہ کو کہو کہ وہ دوزخ کی آگ بجھا دیوے پس یہ حکم حضرت حبرائیلؑ نے اپنے پروردگار کا لے کر رضوان اور حور و غلمان اور ملائکہ عذاب کو اور مالک و دوزخ کو پہنچا دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں درمیانِ حیطم کے سو رہا تھا کہ اچانک حبرائیلؑ اور میکائیل علیہ السلام نے آکر مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر دل میرا نکالا اور ایک سونے کی طشت میں آب زم زم سے اس کو دھو کر ایمان و حکمت سے بھرا پھر اس کو اسی مقام پر رکھ دیا۔ اور روایت ہے کہ حبرائیلؑ کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے حبرائیلؑ ہر غزار بہشت سے براق اور ستر ہزار فرشتے لے کر مکے میں جاؤ اور میرے حبیبِ قریشی کو میری درگاہ عالی میں پہنچاؤ حضرت حبرائیلؑ بوجہ ارشاد جناب باری تعالیٰ کے براق اور ستر ہزار فرشتے لے کر حضرت ام ہانی کے گھر میں جو جو ابہر حضرت علیؑ کی تھیں پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب کو ام ہانی کے گھر میں بعد نمازِ شہاء کے سو رہا تھا کہ حبرائیل علیہ السلام نے آکر مجھ کو نیند سے اٹھایا اور وہ کہتے تھے کہ اے حبیب اٹھو آج شب آپ کی معراج ہے۔ ان کے اٹھانے سے میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ مجھ کو آب زم زم کے کنوئیں کے پاس لے گئے آب زم زم سے وضو کرایا اور دو رکعت نماز پڑھو اگر مسجد کے دروازے پر لائے تو وہاں میں نے ایک براق کھڑا ہوا دیکھا ایسا وہ گدھے سے بڑا اور چرخے سے چھوٹا اور منہ اس کا مانند آدمی کے تھا اور سر میں اس کے مانند گھوڑے کے اور پاؤں اس کے مانند شتر کے اور سینہ اس کا مانند شیر کے اور دونوں پر اس کے مانند پروں کے تھے اور زمین اور لگام اس کی یا قوت اور مردارید سے! مریض بڑا ڈرتی۔ پس سوار ہونے میں میں نے ذرا مائل کیا بس اسی وقت حکم الہی پہنچا اے حبرائیل علیہ السلام میرے حبیب سے پوچھو کہ توقف کرنے کا سبب ہے تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبرائیل آج کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمتِ عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور میری ساری کو براق بھیجا لیکن یہی

اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کے بوجھ گروں پر
پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے اور پچاس ہزار برس کی راہ قیامت کے دن آگے رکھی ہے
اور تیس ہزار برس کی راہ پھر اٹھ کی دوزخ پر رکھی ہے اور وہ کیونکر طے کر کے منزل مقصود تک پہنچیں
گے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اسے حیب میرے کچھ غم نہ کیجئے۔ جن طرح آج میں نے تمہارے
یہ براق بھیجا ہے اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براق بھجوں گا اور سب کو براق
پر سوار کر کے پھر اٹھ سے پارا آنا روں گا اور میں اپنی ثقاف کے مطابق تیس ہزار برس کی راہ ایک پل میں طے
کر دو کہ منزل مقصود پر پہنچاؤں گا جب یہ حکم ہوا تب پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے
لگے اور براق کو دے پھانڈنے لگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے کہا کہ اے براق تو نہیں
جاننا کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ یہ سن کر براق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت براق میرے سوا پیدا کیے
ہیں اور وہ سب داغ ٹھہری رکھتے ہیں۔ اب غرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہوں تاکہ قیامت کے دن سب براقوں پر فخر کو فخر حاصل ہو سکے
پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تب براق نے فخر سے اپنی بیٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے حاضر کی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اپنے بائیں جبرائیل و
میکائیل علیہما السلام سے ستر ہزار فرشتوں کے رکاب میں حاضر تھے مکہ معظمہ اور آب زم زم اور مقام
ابراہیم کے پاس جا کر ایک ہی ٹھٹھے میں بیت المقدس میں پہنچے فرماتے ہیں اثناء راہ میں ایک آواز دہنی
طرف سے ایک آواز بائیں طرف سے سنی کہ اے فخر گھر سے رہو۔ تم سے کچھ سوال کروں گا میں نے
اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھا پھر دیکھا کہ ایک بڑھیا کو اپنے تئیں زیورات
اور لباس سے آراستہ کر کے خوبصورت بن کر میرے سامنے آکھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے فخر میری
طرف دیکھو سو میں نے اسکی طرف نہیں دیکھا اور آگے بڑھا اور جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا
وہ آواز دہنی اور بائیں کسی آواز آئی تھی اور بڑھیا سنا کر کیسے کون تھی۔ جبرائیل نے کہا کہ آواز دہنی طرف
یہودیوں کی تھیں اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی یہودی ہو جاتی اور جو آواز بائیں طرف
سے آئی تھی وہ نصرانیوں کی تھیں اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی نصرانی ہو جاتی اور وہ بڑھیا
سنا کر والی دنیا تھی اگر آپ اس کی طرف دیکھتے تو سب امت آپ کی غلبہ دنیا میں ہلاک ہو جاتی۔ اس کے
بعد تین پیالے لائے گئے ایک پیالہ شہد کا دوسرا شراب کا اور تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا یہ تینوں
پیالے میرے سامنے لائے گئے۔ میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کا سا راد دھنی گیا

اور باقی کی طرف کچھ خیال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے بہت خوب کیا جو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور اس کا دودھ پی لیا اس دودھ سے مراد دین اسلام ہے اور پھر وہاں سے دوسرے مقام میں آگئے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ اس جگہ دو رکعت نماز پڑھیے کیوں کہ یہ جگہ طور سینا ہے اسی جگہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے باتیں کی تھیں نتب میں نے اس جگہ اتر کر وہاں دو گانہ نماز پڑھ لی پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آگے چلا تو ایک جگہ نظر آئی پھر جبرائیل نے کہا کہ یہاں پر پھر دو رکعت نماز پڑھیے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پیدا ہوئے تھے اور پھر اس جگہ سے میں بیت المقدس میں گیا اور تمام ملائکہ نے آسمان کے نیچے اتر کر کہا السلام علیکم یا نبی آخر الزماں کہ تو لہ تعالیٰ اٰمِنُ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیْ بَدَلْنَا حَوْلَہٗ۔

تو جہاں بہت پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کے اندر اور تمام انبیاء وہاں جا کر جمع ہوئے اور پھر سب نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ پھر تمام نبیوں کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی اور امامت کرائی اور تمام انبیاء منتہی ہوئے ایک روایت میں ہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس میں مینے کی راہ ہے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو قدم میں وہاں پہنچے یہ آپ کو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک پتھر بیت المقدس کے سامنے تھا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا تو اس پتھر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو اس جگہ پر ستر ہزار برس ہوئے ہیں کسی کا قدم مجھ پر نہ پڑا آپ میرے لیے دعایا کیجئے کہ ہوا پر مخلوق رہوں قیامت تک تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں دعا کی اور فوراً ہی مستجاب ہوئی چنانچہ اب تک وہ پتھر ہوا پر مخلوق ہے اس جگہ میں عجائب و غرائب دیکھتے ہوئے براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے دروازے پر جا پہنچا اس جگہ جبرائیل نے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو بولے میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد سفیر آخر الزمان ہے۔ تب فرشتوں نے کہا ہر جا یا رسول اللہ اور فوراً دروازہ کھول دیا اور درمیان کے داخل ہوئے اور وہاں پر اسماعیل فرشتوں کے سردار موجود تھے وہ اپنے ہمراہ سب فرشتوں کو لے کر ہمارے پاس آئے اور پھر سب نے ہم سب سے معافیہ کیا پھر وہاں سے آگے بڑھے آدم باغ رضوان سے میرے استقبال کو آئے اور کہا ہر صبا یا نبی الصالح پھر وہاں سے آگے بڑھے دیکھا کہ ایک سفیر من عظیم نشان ہے جس کا سولے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور ایک پاؤں اس کا عرش تک اور دوسرا پاؤں تخت النبی تک ہے اور ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور پراس کے نور سے بنے تھے اور غذا اس

کی حمد و ثنا ہے۔ یہ رائیل سے میں نے پوچھا یہ کون مرث ہے کہا کہ یہ مرث نہیں ایک فرشتہ ہے بصورت مرث کے جب رات ہوتی ہے تب اس وقت یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور تسبیح اس کی سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّسِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اور اس کی تسبیح کی آواز سے دنیا کے مرث بیدار ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک فرشتہ آدھا جسم اس کا آگ کا اور آدھا جسم برف کا ہے نہ آگ برف کو جلا دے نہ برف آگ کو بجھا دے اور وہ تسبیح پڑھتا ہے اور دلہنے اور رائیل اس کے بہت فرشتے کھڑے ہیں میں نے پوچھا یہ رائیل سے یہ کون فرشتہ ہے وہ بولے کہ یہ بہتر سرد ہے اور دنیا میں پانی اور برف برسا مٹھے بس یہی کام اس کا ہے پھر وہاں سے گزر کر لب دریا گیا اور وہاں سے آگے بڑھ کر دیکھا کہ کچھ لوگ زراعت کرتے ہیں وہ اسی وقت بولتے ہیں اور اسی وقت وہ زراعت تیار ہو جاتی ہے اور اسی وقت وہ کاٹتے ہیں اور ایک ایک دانے کے بدے سات سواٹھاتے ہیں پھر یہ رائیل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش و محنت خدا کی کی ہے اور لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے اور محتاج لوگوں کی حاجت بر لاتے تھے دل اور زبان سے ہاتھ اور مال سے خدمت کرتے تھے اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی ہے اس کے بعد دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پھڑ سے کوٹتے ہیں اور پھر وہ درست ہو جاتا ہے پھر کوٹتے ہیں دم بہ دم اسی طرح ہوتا ہے میں نے یہ رائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تارک جماعت بیچکانہ نماز ادا کرنے میں سستی کرتے تھے اور نمازوں کو وقت پر نہیں ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتے سب مانند چارپایوں کے ان کو ہانکتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں اور نہایت شدید پیاس اور جھوک کے ان کو کانٹے ضربت کے کھلاتے ہیں میں نے یہ رائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ رائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سبھوں نے زکوٰۃ کا مال اور صدقہ فطر اور قربانی ادا نہیں کی تھی اور صدقہ فقیر و محتاج کو نہیں دیا تھا۔ اور نہ اس پر رحم کیا پھر کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ مرد اور عورتیں ہیں کہ ان کے آگے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف گوشت اور مردار رکھا ہوا ہے اور وہ نعمتیں سب چھوڑ کر گوشت مردار کھانے میں اور نعمت پاکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں میں انہیں دیکھ کر بڑا ہی متحیر ہوا۔ میں نے یہ رائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہا سب جور و خضم ہیں مرد اپنی جور کو چھوڑ کر اور عورتیں کو چھوڑ کر اور بے حیائی کا کام کرتے تھے اور حلال کسب نہیں کھاتے تھے۔ چوری و غنا بازی اور فریب سے کھاتے تھے اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا ہے اور وہ سب خوب چلا رہے ہیں میں نے یہ رائیل

سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں بولے یہ حال ان سبھوں کا ہے جو سر بازار اور راہ میں بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے اور لباس اور شکل پر محض و تشنیع کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے نام خراب لے کر پکارتے تھے اور ایک گروہ کو دیکھی کہ ان کو اپنی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اپنے بھائی مسلمان کی عینیت و شکوہ اور عیب کرنے والوں کا حال ہے اور پھر ایک گروہ کو دیکھی کہ ان کے آگ کی قینچی سے ہونٹ اور زبان کاٹی جا رہی ہے میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ سب بسبب طمع کے بادشاہوں اور امیروں اور دولت مندوں کو قہر کے واسطے جھوٹی بات کیا کرتے تھے اور یہ سب ایسے ڈر اور داخل ہوتے ہیں یہ لوگ دوسروں کو نوحق بات کی نصیحت کرتے تھے لیکن خود بد عمل کرنے کے مرتکب ہوتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے تھے۔ پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ منہ ان کے سیاہ اور آنکھیں ان کی نیلی اور نیچے کا ہونٹ ان کے پاؤں پر اور اوپر کا ہونٹ ان کے سر پر ہے اور لہو پیپ اور بخاست ان کے منہ سے بہتی ہے اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل نے کہا کہ یہ حال نشہ پینے والوں کا ہے اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ زبان انکی پیچھے کی طرف کھینچ کر نکالی ہے اور شکل ان کی مانند سور کی ہے اور وہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل نے کہا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والوں کا حال ہے اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا مانند گنبد کے اور رنگ ان کا زرد اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں اور گردنوں میں طوق آتشی ہے اور ساپ بچھو ان کے پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں اور یہ وہ لٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیٹ کے بوجھ سے گر پڑتے ہیں اور آتش کے اندر جلتے ہیں !

جبرائیل نے کہا کہ یہ حال سود اور رشوت خوروں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ عورتوں کا دیکھا ان کے منہ سیاہ اور آنکھیں نیلی پیلی اور آتشی کپڑے پہنے ہیں اور فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہیں اور وہ مانند کتیتوں کے چلاتی ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ کا ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی نافرمان تھیں اور اپنے شوہروں کو نافرمانی رکھتی تھیں اور بے حکم شوہروں کے ادھر ادھر پھرتی رہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے حکم کے خلاف کام کیا کرتی تھیں۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اٹے بوائیں لٹکے ہوئے تھے اور فرشتے ان کے گرزوں سے ان کو مارتے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل نے کہا کہ یہ حال منافقوں کا ہے پھر اس کے بعد ایک فرقہ کو دیکھا کہ وہ آگ کے جھنگل میں قید ہے

اور آگ ان کو سختی سے جلاتی ہے اور تمام بدن میں زخم مانند جزام کے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ ہے اور اور کھانے پینے اور رہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف دی اور اپنے ماں باپ سے بے ادبی کرتے تھے ناشائستہ گفتگو کرتے تھے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایک میدان بہت بڑا دیکھا کہ اس سے مشک و عنبر کی خوشبو اور اس کے ساتھ ایک آواز بھی آتی تھی اس مضمون کی۔ یا الہی جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے پورا کر میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ بوئے خوشبو اور آواز کہاں سے آتی ہے تو جبرائیل نے کہا کہ یہ خوشبو اور آواز بہشت کی ہے نعمتیں اور میوے رنگ برنگ اور مکان سونے اور پامانی اور یاقوت اور مرواریدہ وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھے ہیں اور اس کی آواز کے جواب میں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاوے گا۔ اور بحکم قرآن و حدیث کے پئے گا اور شرک اور بدعت سے دور رہے گا تو میں اس شخص کو تجھ میں داخل کروں گا اور بہشت کہنتی ہے یا الہی میں راضی ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک میدان میں گھسے اس میں سے بدلو اور آواز گریہ کی آئی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ بدلو و وزخ کی ہے اور وہ زنجیر آواز طوق اوسانپ اور بچھو کی ہے اور دوزخ فریاد کرتی ہے یا الہی وعدہ میرا پورا کر۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص شرک اور کفر اور بدعت کرے گا اور صحیح طور پر میری پرستش نہ کرے گا اور میرے رسول کی تکذیب کرے گا اس کو میں تیرے حوالے کر دوں گا اور دوزخ کہنتی ہے یا الہی میں راضی ہوں پھر وہاں سے دوسرے آسمان کے دروازے پر گئے اور دروازے پر جبرائیل نے دستک دی ملائکہ نے پوچھا تم کون ہو کہا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد حبیب اللہ ہیں۔ اسی وقت فرشتوں نے دروازہ کھولا اور نہایت تعظیم و تکریم سے لے گئے ان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے آکر السلام علیکم کہا اور پھر مجھ سے آکر معافی کیا اور پھر سب کے سب کہنے لگے کہ مر جبار رسول اللہ آپ کی تشریف آوری سے آسمان روشن ہو گیا پھر میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہاں حضرت یحییٰ یمنیغیر اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نے آکر با تعظیم و تکریم السلام علیکم کہا اور پھر کہنے لگے مر جبار یا اخی الصالح و نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ مہیب شکل ہے اور اس کے ستر ہزار سر ہے اور ہر سر میں ستر ہزار منہ ہیں اور ہر منہ میں ستر ہزار زبانیں ہیں یہ دیکھ کر میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ مہترقا سم ہے کہ اس کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کی روزی ہوتے تھے تعالیٰ نے اس کے سپرد کی ہے اور ہر روز اور ہر وقت جس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں

کیا ہے اسی قدر اس شخص کو پہنچاتا ہے۔ پھر وہاں سے تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے وہاں ہتر مائیل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے آکر السلام علیکم مرحبا یا رسول اللہ کہہ کر معانقہ کیا پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آکر چھ سے ملاقات کی اور سلام کی تعظیم دی اور پھر کہنے لگے مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے آتے ہی السلام علیکم پیش کیا اور پھر کہا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے دیکھا کہ ایک فرشتہ سیدت ناک اور ہر دو طرف اس کے فرشتے کھڑے ہیں اور چار چار منہ ان کے تھے اور دایا ہاتھ ان کا مغرب میں اور بایاں ہاتھ ان کا مشرق میں ہے اور آسمان و زمین ان کے دونوں پاؤں کے نیچے پر ہیں اور سامنے ان کے لیے ایک تخت عظیم ہیں حضرت ہیرائیل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہا یا رسول اللہ یہ ہتر عزرائیل ہے۔ تب میں ان کے سامنے گیا اور کہا سلام علیکم یا ملک الموت اور انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اسی وقت حکم ہوا کہ اے عزرائیل جواب سوال کا میرے جیب کو دے اور جو کچھ وہ تجھ سے پوچھے اس کا جواب تجوی دینا۔ تب اس وقت عزرائیل نے اپنا سر اٹھا کر کہا **وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ يَا حَبِيبَ اللَّهِ** اور مجھ سے نہایت شوق و جذبہ سے معانقہ کیا اور نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے پاس بٹھایا۔ اور پھر کہا کہ یا حبیب اللہ جیب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جیب ہی سے خلق اللہ کے بہت کام میرے سپرد کیے ہیں۔ ایک لمحہ کی بھی فرصت نہیں ملتی کہ میں کسی سے بات کروں اور آج تجھ پر حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا اس واسطے میں بات کرتا ہوں میں نے کہا اے عزرائیل تم رحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے یہ جو درخت ہے اس کے پتوں کے شمار کے موافق غلائق ہیں اور ہر ایک کا نام ہر ہر پتے پر لکھا ہوا ہے جیب موت قریب ہوتی ہے چالیس روز آگے اس پتے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور جس روز موت واقع ہوتی ہے اس روز یہ پتہ درخت سے نیچے گرتا ہے اور میں اس پتے پر نکلا رکھتا ہوں اگر وہ بندہ اہل رحمت ہے تو دایہ طرف کے ملائکہ رحمت کو بھیجتا ہوں اور اگر وہ بندہ بدلو لغتی ہے تو بائیں طرف کے ملائکہ عذاب کو بھیجتا ہوں پھر میں نے پوچھا اے عزرائیل حقیقت روح کیلئے بیان کرو یعنی وہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا روح کیا چیز ہے لیکن وقت قبض کے ایک بو جھ سا مبریٰ بتیلی پر معلوم ہوتا ہے پھر میں نے پوچھا کہ تمہارے چار منہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ کہا سامنے کا منہ ہونور سے ہے ان سے مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں

اور دہنی طرف کامنہ جو غصہ سے ہے اس سے جان گنہگاروں کی قبض کرتا ہوں اور بائیں طرف کامنہ جو قہر سے ہے اس سے منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں اور پیچھے کامنہ جو دوزخ آگ سے ہے اس سے جان مشرکوں اور کافروں کی قبض کرتا ہوں۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس دن فرمان حق تعالیٰ کا مجھ پر لیا ہوا ہے کہ جان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی سے انکا جو جیسے پیر سوئی ہوئی ماں سے دودھ پستان کھینچ کر پیتا ہے اور اس سے ماں کو پھر ضرر نہیں پہنچتا میں یہ سنکر سجدہ شکر بنجالا پھر پوچھا اے عزرائیل کبھی تم کو اسی کرسی سے اٹھنے کی نوبت پہنچی یا نہیں کہا یا رسول اللہ تین مرتبہ اٹھنے کی نوبت پہنچی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کو اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو اور تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو پھر میں نے پوچھا اے عزرائیل تم نے روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم کیا ہے یا نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کے واسطے میں نے بہت غم کھایا۔ پہلی مرتبہ اس عورت پر کہ وہ دریا پر کشتی میں بچہ بنتی تھی اس کے بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا۔ اور دوسری مرتبہ شدا ماحون کی جان قبض کرنے پر کہ جب اس نے چار سو برس کی مدت میں باغ آرام اور اس کے دیکھنے کے واسطے ایک پاؤں اس کا چھو کھٹ کے اندر اور دوسرا چھو کھٹ کے باہر تھا اس وقت اس کی جان قبض کی گئی پس وہ بادشاہ شداد معد اپنی بیس لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلاک ہوا۔ اور اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھنے نہ پایا۔ پھر وہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان کے دروازے پر گئے اور اس دروازے پر امائیل علیہ السلام سب ملائکہ کے سردار ہیں انہوں نے آکر مجھ کو السلام علیکم کہا اور پھر معانقہ کیا اور پھر کہا کہ جبا یابی الصالح پھر وہاں سے آگے بڑھا بارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے بھی کہا یا انخی الصالح پھر وہاں سے چھٹے آسمان کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ وہاں ہنتر ہائیل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے بھی آکر سلام پیش کیا اور مرصا کہا اور پھر معانقہ کیا پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اسلام علیکم کہا اور پھر معانقہ کیا پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رب العزت کی طرف سے آپ کی امت پر فرض کیا جاوے آپ نوب سمجھ کر قبول کیجئے اس واسطے کہ آپ کے امتیوں کی عمر فحورئی اور بہت ضعیف اور ناتوان ہیں پھر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے ایک فرشتہ پھر بیعت نامک دیکھا کہ جس کو دیکھنے سے عقل و ہوش گم ہو جاوے اور وہ ایسا تھا کہ اس کے واسطے مونڈھے سے بائیں مونڈھے تک ایک برس کی راہ ہے اور بہت سے فرشتے بد صورت گرداگرد اس کے حاضر ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ کون فرشتہ ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام مالک ہے اور یہ انیس ہزار فرشتوں کا سردار ہے اور دوزخ کا داروغہ ہے جس طرح حکم الہی ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح بجا لاتا ہے تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو السلام علیکم کہا جو اب سلام کا اس نے دیا۔ پھر اسی وقت حکم الہی ہوا۔ اے مالک یہ محمد مصطفیٰ قائم الانبیاء میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تم نے ان کو سلام کا جواب نہ دیا اور ان کی تعظیم نہ کی تب مالک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اٹھا اور تکبیریم سے بٹھایا اور پھر کہا جبریا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مقام انبیاء پر آپ کو افضل کیا ہے اور تمام پیغمبروں کی امت تمہاری امت کی پیروی کرے گی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے مالک یا بیعت دوزخ کی بیان کر تا کہ میں اس سے بزدار رہوں۔ مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے اور سننے کی طاقت نہ ہوگی۔ اتنے میں درگاہ الہی سے حکم ہوا اے مالک جو کچھ میرا حبیب تم سے پوچھے اسی کو اچھی طرح بیان کر۔ تب مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و غضب سے پیدا کیے ہیں اور اس کا طول عرض ہر ایک کا ماتمہ زمین آسمان کے ہے اور اس میں آتش گوناگون اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور درمیان دوزخ کے ستر ہزار میدان آگ کے ہیں اور ہر ایک کے میدان کے بیچ میں ستر ہزار پہاڑ آگ کے ہیں اور ہر ایک پہاڑ کے ستر ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے میں ستر ہزار مکان آگ کے ہیں اور ہر ایک مکان میں ستر ہزار کوٹھڑیاں آگ کی ہیں اور ہر ایک کوٹھڑی میں ستر ہزار صندوق آگ کے ہیں اور ہر ایک صندوق میں ستر ہزار سانپ اور چھو آگ کے ہیں اور وہ آگ ہے کہ اگر ایک ذرہ اس سے روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی پہاڑ اور درخت وغیرہ کو جہم کر ڈالے معاذ اللہ منہا۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مکانات اور میدان وغیرہ میں ذکر کیے دیئے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر ہیں اور ایک دوزخ تو برف سے پیدا کی ہے اور ہر سال دو مرتبہ اپنی سانسیں چھوڑتی ہیں اسی واسطے پھر مینے سردی اور پھر مینے گرمی دینا میں رہتی ہے اور اسی طرح گونا گون عذاب ذلت کا بیان کیا پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنکر بہت ٹمکن ہو کر

ساترہ آسمان کے دروازے پر گئے تو وہاں دیکھا کہ کثیر تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں یہ مشاہدہ کر کے کہا مر جیایا نبی الصالح اور وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے بعد سلام کے کہا مر جیایا نبی الصالح اور وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ نیک و صورت خوش خلق عظیم والشان کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے ہر چار طرف نور چمکتا ہے اور دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے نیک و صورت جمع ہیں ہیرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کا نام رضوان ہے اور بہشت کا دار و نہ ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم یا رضوان الجنۃ اس نے جلد سلام کا جواب دیا اور فوراً ہی معاف کیا اور پھر کہا مر جیایا یحییٰ اللہ اتنے میں حکم الہی ہوا کہ اے رضوان میرے حبیب کو مالک دوزخ تے، دوزخ کی باتیں سنا کر غلگین کیا ہے تم ان کو بہشت کی باتیں سنا کر خوش کر دو۔ تب رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت اور ثنا آپ کی اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے اور امت آپ کی اور پیغمبروں کی امت سے پہلے بہشت میں داخل ہوگی یہ کہہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر صحت الفردوس میں واسطے سیر کرانے بانٹوں کے لیے گئے تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح اور اقسام اقسام کی نعمتوں سے آگاہ ہوئے۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی اے حبیب میری امتوں کے واسطے یہی سب نعمتیں بہشت کی ہم نے تیار کی ہیں۔ اور امت تیری ابدالآباد بہشت میں خوش و محفوظ و معزز و مکرم رہے گی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شکر قاضی الحاجات بجالا کر آگے بڑھے اور وہاں سے بیت المعمور میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو یاقوت اور موتی اور ہنر زرد سے بنایا ہے اس میں تیرہ ستون یاقوت سرخ کے ہیں اور صحن اس کا موتی کا ہے اور اس جگہ پر دو رکعت نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ پڑھی اتنے میں تین پیالے بھرے ہوئے دودھ، شراب شہد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ چھوٹھا پیالہ پانی کا بھی تھا۔ تب ہیرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو آپ کی خواہش ہے قبول کیجیے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دودھ کا پیایا یہ دیکھ کر پھر سب فرشتوں نے آفرین کہی اور پھر کہتے لگے یا حبیب اللہ اگر آپ پیالہ پانی کا پینا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی پانی میں غرق ہوتی۔ اور اگر آپ پیالہ شراب کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی نشے میں مشغول ہوتی اور اگر شہد کا پیالہ اختیار فرماتے تو سب امت آپ کی لذت دنیا میں مستغرق ہوتی۔ لیکن آپ نے پیالہ دودھ کا اختیار فرمایا اس لیے

آپ کی امت آفت و بلا سے نجات پاوے گی۔ لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے پیالہ میں چھوڑا ہے اس سبب سے تھوڑا سا گناہ آپ کی امت سے ضرور ہوگا پھر آپ نے چاہا کہ جو دودھ باقی رہا ہے اس کو بھی پی جاؤں۔ تب جبرائیل نے عرض کیا کہ اگر آپ اس وقت پیئیں گے تو کچھ مفید نہ ہوگا اور اب جو کچھ ہو سوسو یا کیونکہ حکم الہی رد نہیں ہوا کرتا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ٹہکین ہو کر سدرۃ المنتقیٰ کو گئے جو جبرائیل کے رہنے کی جگہ ہے اس جگہ پر پیغمبر خدا اپنی براق سے اترے اور پھر جبرائیل وہاں سے رخصت ہوئے اور کہا کہ میرا مقام یہاں تک تھا اور اب آپ خود ہی آگے تشریف لے جائیے اور مجھ کو سر موبر ابر آگے جانے کا حکم نہیں۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجی جبرائیل مجھ کو اس جگہ تہا چھوڑ کر جاؤ گے جبرائیل نے کہا یا حبیب اللہ اور دوسرے فرشتے آگے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے آپ کسی طرح سے رنجید خاطر نہ ہوں اور میری صرف ایک التماس ہے کہ آپ جناب تعالیٰ سے عرض کیجئے اور میرے حسب خواہش جواب دیجئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کیا بات ہے تب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو آرزو ہے کہ قیامت کے دن اپنے پروں کو پلٹرا پڑ پچھاؤں اور اسکی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتار دوں۔ اتنے میں اسرافیل نخت لڑائی لے کر حکم الہی سے آئے جس کو رفت رفتہ ہیں اسکو نذر سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس میں مترنار پر دوسے جواہرات کے تھے اور مسافت ایک ایک پردہ کی پانچ سو برس کی راہ تھی آرزو رہ طے کر کے مقام رفت رفت میں جو اسرافیل کی جگہ ہے پہنچے اور پھر عرش نے وہاں سے بدلی اٹھایا خطاب آیا جناب باری تعالیٰ سے کہ اے حبیب آگے آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نعلین پاؤں سے اتاریں تب عرش مجید جنبش میں آیا۔ حکم ہوا اے حبیب نعلین مت اتارو مع نعلین کے آؤ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا الہی موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ وہ چالیس روزے رکھیں اور اپنے پاؤں سے نعلین اتار کر طور سینین پر آئیں اور یہ مقام تو اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کیونکہ میں نعلین سمیت آؤں پھر حکم ہوا اے حبیب موسیٰ کے اس واسطے نعلین اتارنے کا حکم دیا تھا کہ خاک طور سینین ان کے پاؤں میں لگے جس میں ان کو بزرگی حاصل ہو اور تیری خاک نعلین سے عرش کو بزرگی دوں گا۔ چنانچہ آپ نے وہاں دیکھا کہ داینی طرف کے تین سو بارہ ممبر ہیں اور بائیں طرف ایک ممبر بڑا عظیم والشان بڑا اونچا جواہرات سے مرصع نظر آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ممبروں کا احوال دریافت کیا خطاب آیا کہ داینی طرف کے سب ممبر اور پینچھروں کے لیے بنائے گئے ہیں وہ بائیں طرف کا ممبر صرف تمہارے واسطے بنایا گیا ہے کیونکہ عرش کے دائیں طرف بہشت ہے اور

اور بائیں طرف دو زخ ہے جس وقت کہ تو بائیں طرف نمبر پڑھیے گا تو ضرور ہے کہ دو زخوں کا
کاگز اسی طرف سے ہو گا اسی وقت اگر کوئی تیری امت میں سے دو زخوں میں شامل ہو جائے گا
اور تو اس کی شفاعت کرے گا تو میں اس کو نوحشوں کا بغرض کوئی گنہگار تیری امت میں سے ہمیشہ
دو زخ میں گرفتار نہ رہے گا پھر روف روف نے آکر مجھ کو اٹھایا اور حجاب کبرائی تک پہنچا کر وہ بھی
غائب ہوا اور میں اس جگہ تنہا رہا۔ بیب جھ کو خوف کبرائی ہوا تب ناگاہ مانند آواز ابو بکر صدیق کے یہ آواز
میں نے سنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توقف کر کہ بیشک پروردگار تیرا صلوة میں مشغول ہے اس دم
میں نے اس آواز سے متعجب ہو کر اپنے جی میں کہا یا الہی اس جگہ آواز ابو بکر صدیق کی کہاں سے
آئی لیکن اس آواز سے وحشت میری جاتی رہی اور میں نے عرض کی جناب باری تعالیٰ میں یا الہی
تو نماز پڑھنے سے پاک ہے اور آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی حکم ہوا اے میرے حبیب صلوة
میری رحمت ہے تجھ پر اور تیری امت پر اور آواز ابو بکر کی سی اس واسطے تھی کہ وہ تیرا بار
غار ہے اور انیس ودف دار ہے پس ایسے مولس کی آواز سننے سے وحشت تیری اس مقام
میں دفع ہو گی اس واسطے میں نے ایک فرشتہ بصورت ابو بکر کے پیدا کیا اور اس کی آواز
مثل آواز ابو بکر کے ہے اسی نے آواز دی تھی چنانچہ اس سے تیری وحشت جاتی رہی اور بعض
یوں بھی روایت کی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا اس وقت ایک قطرہ پانی کا کثیر
زیادہ شہد سے اور زیادہ ٹھنڈا برف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا اور اس علم اول
و آخر کا معلوم ہوا تب وحشت دل سے جاتی رہی پھر ستر بزار پر ردہ فور سے گزر کر قاب قوسین
میں پہنچے اور وہاں پر احديث کا ظہور پایا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور احديث کا
دیکھا فوراً اپنا مبارک سجدہ میں رکھا اور پھر ایک آواز آئی اے دوست میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے
اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ تَرْجَمَةُ يَعْنِي
بر قسم کی عبادت خواہ وہ مالی ہو یا بدنی یا روحانی اللہ کے واسطے ہے پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا: أَسَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ یعنی سلام ہے
تجھ پر اے نبی اور رحمت اللہ تعالیٰ کی اور برکتیں اس کی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
أَسَلَامٌ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ یعنی سلام ہو ہم پر اور سارے نیک بندوں پر
پھر اسی مقام میں فرشتوں نے کہا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بندے اس کے اور رسول اس کے ہیں اور

وَصَحَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اس مقام میں اس واسطے نہ کہا کہ وہاں کوئی مشرک نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب جو کچھ میں نے اور تو نے اور فرشتوں نے اس وقت کہا کہ اس کو ہر نماز کے قعدے میں پڑھا گئیے اور پھر فرمایا اے میرے حبیب عروش و کرسی لوح و قلم زین و آسمان نباتات و جمادات بلکہ جزو کل مخلوقات پھر ہزار عالم خشکی اور بارہ ہزار عالم تری کے اور آفتاب و مہتاب اور ستارے بروج اور بہشت اور دوزخ تیری محبت کے سبب سے میں نے بنائے ہیں اور اس وقت تیرے واسطے اجازت ہے جو چاہے سو مانگ اور میں تیری منہ مانگی مراد پوری کروں گا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر خداوند قدوس سے عرض کی میں امت گنہگار رکھتا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، اے خدا تو میری امت کے گناہ بخش دے اور اس کو دوزخ کی آگ سے پناہ دے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تہائی گناہ تیری امت کے بچتے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا یا الہی تمام گناہ میری امت کے بخش دے پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ تیری امت کے اچھے گناہ بخش دیجئے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ پیش کرتے ہوئے عرض پیش کی تو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ جو کوئی حقیقت دل سے کلمہ طیب ایک بار پڑھے اور اس کے مضمون پر کامل اتماد کرے گا اس کو میں ضرور بخشوں گا اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو اور اگر وہ کفر و شرک تک پہنچا ہو گا تو اس کو ہرگز نہ بخشوں گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے نجات نہ دوں گا پھر حکم ربانی ہوا کہ اے دوست تو نے دنیا کے درمیان فیکری اور غریبی اختیار کی اگرچہ دنیا فانی ہے مگر دنیا چاہے تو تمام جمادات اور نباتات وغیرہ وغیرہ کو سونا چاندی بنا دوں۔ اور دنیا کو دار الغرار کر دوں اور یا قوت اور زہد اور لولو اور مرجان جان بجا پیدا کر دوں تاکہ اپنی امت کو بے گناہ بنا دوں اور یا موت کے گزران کروں اور نعمتیں بہشت کی وہیں موجود کروں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر مناجات کی خداوند دنیا تو مردار بخش ہے۔ انبیاء حقیقہ و طاب لہما کلا۔ یعنی دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتنے ہیں اور میرے لیے تو دنیا سے اجازت بہتر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا اے حبیب سوال حیرانگی کا تو بھول گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا الہی تو دانا و بینا ہے اور سوال اس کا تو خوب جانتا ہے۔ جناب تعالیٰ سے یہ حکم ہوا اے حبیب سوال حیرانگی کا تیرے دوستوں اور اصحابوں کے واسطے میں نے منظور کیا۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ میری امتا ہے کہ قیامت

کے دن اپنے بازوؤں کو پل صراط پر بچاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتار دوں
اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی معفرت کے واسطے حکم کیا تب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نعمتیں بہشت کی دیکھیں اور جو مکان اہل بیت اور صحاب کبار کے
واسطے تیار ہوئے ہیں جدا جدا دیکھ کر حمد و ثناء خالق کون و مکان کی بجا لائے اور جناب باری تعالیٰ
سے حکم آیا ہے دوست تو مکان اپنی امت کا دیکھ کر خوش و راضی ہو تب آنحضرت صلی اللہ علیہ
نے عرض کی خداوند اہل بیت سے کیا طاقت ہے کہ اپنے خدا کی نعمت سے ناراض ہو تب جناب باری
سے حکم ہوا کہ یہ سب نعمتیں بہشت کی میں نے تیرے دشمن کے واسطے حرام کی ہیں اس کے بعد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم طبقات دوزخ کے دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے اور دوزخ کے طبقات
ملاحظہ کرتے رہے۔ پہلے طبقات میں یہ نسبت طبقات دوسرے کے رنج و عذاب کم تھا پھر
دیکھا کہ اس کے اندر ستر ہزار دریاں آتشی ناپیدا کناریں جیسے جوش خروش سے بہتے تھے کہ اگر
تھوڑا سا بھی شور اس دنیا میں پہنچے تو خلقت زمین کی زندہ نہ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے مالک سے جو دوزخ کا دار و عنبر ہے پوچھا کہ یہ طبقہ کس خلقت کے واسطے بنا یا گیا ہے اس نے
یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا کچھ جواب اس کا نہ دیا۔ حضرت حیر اہل نے فرمایا کہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے
آپ سے عرض نہیں کر سکتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سان کر و شاید آج اس کا
تدارک ہو سکے تب پھر مالک نے رو کر عرض کی کہ یہ طبقہ آپ کی امت کے گنہگاروں کے واسطے
تیار ہوا ہے لہذا آپ اپنی امت کو بہت زیادہ نصیحت فرمائیے اور اچھی طرح سمجائیے تاکہ وہ گناہوں
سے باز رہیں قیامت کے دن مجھے مجال تخفیف عذاب و رنج کی مطلق نہ ہوگی تب آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اور اپنا عمامہ اپنے سر مبارک سے اتار کر باپ دیدہ مناجات
کرنے لگے کہ خداوند ارحم الراحمین کو اس کے دیکھنے سے ایسا خوف آیا ہے کہ مجھے تاب و طاقت اس کے دیکھنے
کہ نہ رہی اور امت تو میری بہت ہی ناتواں اور ضعیف ہے وہ کیونکر اس عذاب کو برداشت کرے
گی خداوند اتقوا عذاب جہنم ہے اور جہنم کو تو نے امت کا پیشوا بنایا ہے اور عزت و ابر و بھی میری تیری
قدرت کے قبضے میں ہے پس پھر حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے میرے حبیب تو کچھ علم نہ کر قیامت
کے دن میں تمہاری شفاعت سے اتنے لوگ بخشوں گا کہ تم اس سے راضی رہو گے تب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا قسم ہے تیری ذات پاک کی میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک
ایک شخص کو میری امت میں سے بہشت میں نہ لے جائے گا۔ اسی طرح سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ نوے ہزار کلمات راز و نیاز اور امر و نہی کے ارشاد کیے پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ روزِ پچاس وقت کی نماز اور پھر مہینے کے روز سے ہر سال تم پر اور تمہاری امت پر میں نے فرض کیے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر الحاح زاری کی پھر کہا یا الہی میری امت ضعیف و ناتواں ہے اور عمر بھی توڑی ہے اس قدر بارگراں نہ اٹھا سکے گی۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ ہر روز پچیس وقت کی نماز اور تین مہینے کے روز سے فرض کیے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدہ میں رکھا اور اپنے دل میں آراہہ کیا اگر ات دن میں پانچ وقت کی نماز اور ایک سال میں ایک مہینے کے روز سے فرض ہوویں تو پھر مجزبی ادا ہو سکیں گے چنانچہ باری سے حکم ہوا کہ میں ارحم الراحمین ہوں اس وجہ سے اے میرے حبیب جو دل میں تو نے آراہہ کیا ہے وہ میں نے قبول کیا اور پچاس وقت کی نماز اور پھر مہینے کے روز کی کا ثواب تجھ کو ملے گا میں نے تجھ کو یہ بختا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی کہ یا الہی میری امت پر چھ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بدیہ و تحفہ ہمارے لیے عنایت فرمایا تو میں ان کو کیا خوشخبری دوں گا جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اول نماز پنج وقت کی اور روزے ایک مہینے رمضان المبارک کے اور تیس ہزار کلمات دینی و دنیاوی لگو دنیا اور تیس ہزار کلمات جہد سازداری کے ہیں اس کا کسی سے نہ کہنا اور باقی تیس ہزار کلمات جو ہیں اس کو کہو یا نہ کہو تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور پھر اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر عرض کی کہ یا الہی جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے یہ میں کس کو کہوں اور کون میری اس بات کا اعتبار کرے گا جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ پہلے تم ابو بکر صدیق سے کہو وہ تمہاری بات کو سچ جانے کا پیچھے اس کے پھر ہر ایک مانے گا۔ آنحضرت سجدہ شکر بجا لائے اور پھر بارگاہ الہی سے رخصت ہوئے اور رفت رفت پر سوار ہو کر سدۃ المنتہیٰ تک پہنچے اور وہاں پر حضرت جبرائیلؑ منتظر تھے براق لے کر آگے بڑھے۔ پھر وہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر بیت الاقصیٰ میں پہنچے اور نبی مرسل وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے ان سبھوں نے دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور معانقہ مصافحہ کیا پھر حضرت جبرائیلؑ نے آذان دی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور جملہ انبیاء کو امام مقتدی ہو کر نماز پڑھی اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے نبی نبی امہانی کے گھر میں تشریف لائے اور حضرت جبرائیلؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان پر پہنچا کر اور براق لے کر اپنی جگہ پر چلے گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لائے تو لبتہر کو گرم پایا اور جس جگہ پر وضو کیا تھا وہاں سے نماز

کو بہتے اور حجرے کی زنجیر کو پتے دیکھا اس واقعہ کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی حقیقت بیان کرنا اور یہودی کا مسلمان ہونا وغیرہ

ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر کے کچھ واقعات معراج ^{بعثت} کے حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان فرماتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات صداقت آیات سنتے ہی کہا کہ۔ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اس سبب سے ان کا لقب بھی صدیق ہوا۔ اور حجب البجہل وغیرہ نے یہ سن کر کہا کہ کُنْتُ بَدْتُ اس واسطے خطاب ان کو کافروں کو کذاب و زندیق و ملعون کا دیا گیا۔ اور جو کوئی حضرت ابوبکرؓ کے موافق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر تصدیق کرے گا وہ بیشک مثل ابوبکر صدیق کے صدیقیوں کے مرتبے میں ہے اور جو کوئی منکر معراج ہو گا وہ یقیناً مطابق البجہل کے یعنی اور مردود ہو گا۔ اور اس محفل میں ایک یہودی گنوار نے معراج کا حال سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوٹا کہا اور حضرت کے پاس سے اٹھ کر بازار میں آکر ایک بڑی چھلی مول لے کر اپنی بیوی کو دی اور اس سے کہا کہ جلدی اس چھلی کے کباب بنا میں بھوک سے مبتاب ہوں اور مجھے سخت بیقراری ہو رہی ہے اتنا دن آیا اب تک ہنارہن ہوں۔ جب میں دریا سے نہا کر آؤں گا تو پھر کھانا کھاؤں گا۔ وہ یہودی یہ کہہ کر لب دریا پہلا گیا اور اپنے کپڑے کنارے پر رکھ کر پانی میں غسل کرنے کو اترا اور پھر اس نے غوطہ لگایا جب اس نے اپنا سر اٹھایا اپنے نیش ایک عورت جو ان صورت پایا اور کپڑے کنارے پر رکھے تھے وہ بھی اس کو نہ ملے یہ ماجرا عجیب و غریب دیکھ کر بہت گھبرایا اور پھر اس نے اسی گرداب تخر میں غوطہ کھایا کنارے کے پاس آکر پاس آبرو کے سبب آنکھوں سے اپنی آبرو پر سرور و کرا سو بہا یا۔ بار بار تھہرنا تھہرنا اور اپنے منہ سے بہات بہات پکارتا اور اپنا ننگا بدن دیکھ کر اس کو شرم آئی تو اس نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرم گاہ چھپائی اور اتنے میں ایک گنوار جو گھوڑے پر سوار تھا اس طرف سے گزر کر ایک عورت حسین خوبصورت ننگی بیٹھی ہے اس نے نہایت خوش اور شیدا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اور پھر اس کو اپنے گھر میں لایا۔ عرض سات برس اس کو اس جوان کی خانہ داری میں گزرے اور تین فرزند بھی اس سے تولد ہوئے ایک دن وہ عورت اپنے ہمسایہ کی عورتوں

کے ساتھ دیا پر نہانے کو گئی اور جس جگہ پر اس نے پہلے کپڑے رکھے تھے اسی جگہ پر اب کی باز بھی اتار کر کپڑے رکھے اور اپنے خیال سے وہ واردات بھول کر نہانے میں مشغول ہوئی جب اس نے غوطہ مار کر اپنا سر اٹھایا تو اپنے تئیں صورت اصلی پر دیکھا اور کنارے پر جو مردانے کپڑے پہلے رکھے ہوئے تھے وہاں پر وہیں پائے۔ اور جب وہ اپنے کپڑے پہن کر اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ وہ چھلی باز اسے لاکر اپنی بیوی کو دی تھی وہ اب تک زندہ تڑپ رہی ہے اور اس کی عورت کے ہاتھ میں جو کام تھا وہی کام کر رہی تھی اور بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ اس کی عورت سوت کات رہی تھی اور ابھی تک وہ پونی اس کے ہاتھ میں تمام نہ ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی عورت سے جا کر کہا کہ تم نے ابھی تک چھلی نہ پکائی اتنی دیر تو نے پکانے میں کیوں کی ہے۔ اس کی عورت بولی کیا فیروز ہے کچھ پی کر آئے ہو ابھی چھلی لائے ہو۔ ایک لمحہ میں کہیں چھلی کپتی ہے پھر اس نے اپنی بیٹی ہوئی واردات کو اس سے بیان کیا۔ وہ بولی اجی ابھی بہت دور ہے اور معلوم ہوتا ہے تم نشے میں چور ہو۔ اس نے یہ بات سن کر جی میں جانا کہ میں نے حال معراج کا سچ نہ بانا تھا۔ اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوٹا سمجھا تھا اسی سبب سے یہ حال بھر پر گزرا اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ پس میں نے یقین کامل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اور دین اسلام برحق ہے۔ الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ اس یہودی کو دین اسلام کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ وہ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا دیکھا کہ معراج شریف کا حال بیان فرماتے ہیں اس نے اگر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں جھوٹا جانتا تھا اس کی تفسیر پائی اس کے کہنے پر صحابہ کرام نے اس سے پوچھا کیا کرنے کوئی تعذیر پائی۔ تب اس یہودی نے سب حقیقت چھلی اور غفل اور صورت بدلنے اور نکاح اور اولاد اور سات برس گزرنے اور پھر اصلی صورت پر آنے کی کیفیت بیان کی پچاس بات سن کر تمام صحابہ کرام سجدہ شکر جناب رب العالمین کا بجالائے اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ خاص کرم آپ کے واسطے ہے ایسا معجزہ عنایت ہوا۔ آخر وہ یہودی ایمان لایا اور ابو جہل کو کچھ اثر نہ ہوا اور پھر اس نے کہا کہ یہ سب فریب بازی سے اور افترا سازی ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَوْلَ تَعَالَى - مَنْ يَهِنِ ي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ط ترجمہ جس کو اللہ تعالیٰ راہ دے پھر کوئی نہیں بہکانے والا اس کا اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے پھر اس کو کوئی راہ دینے والا نہیں۔ اور جب بضر معراج شریف کی کمی محظوم میں ہوئی تب اکثر اہل مکہ متفق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر تمام احوال بیت المقدس کا ہم سب سے بیان کریں تو ہم آپ کے معراج کے حال پر ایمان سے آدیں گے

اور صدق دل سے مسلمان ہو جائیں گے کیونکہ ہم لوگ بیت المقدس کی علامات کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر آپ آسمان پر گئے ہوں گے تو وہاں کا حال بھی آپ کو معلوم ہو گا اگر تم پیچھے ہو تو نشانات بیت المقدس کے بیان کرو۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تامل سا ہوا اس واسطے کہ احوال بیت المقدس کا بیان کرنا اس وقت کچھ ضرور نہ تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے بیت المقدس اپنے پروں پر اٹھا لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت جو لوگ احوال بیت المقدس کا پوچھتے تھے تو سب ہمہ خدا اس کو بیان کرتے اس کے بعد جو لوگ اصلی اور مسجد ازیلی تھے وہ تو ایمان سے آٹے اور انہوں نے فوراً صدقت یا رسول اللہ کہا اور جو لوگ بد بخت ذاتی تھے انہوں نے جسم خاکی کو آسمان پر جاننا مختلف قیاس کیا اور قدرت کاملہ سے غافل ہو کر انکار کیا۔ پس اسے نیک مہربان نصیحت اس وقت کی بدرجہ اعلیٰ جانو کہ عالمان بیت و نجوم نے رصد اور بند سس کی دلیل سے ثابت کیا ہے کہ ماہ تاب اگر تاروں سے بھونا ہے مگر حرم اس کا زمین میں بہت بڑا ہے اور اسباب گردش فلک کے ہزاروں برس کی راہ ایک ہی لمحظ میں طے کرتا ہے اور اپنی حرکت سے مشرق و مغرب تک سینکڑوں برس کی راہ ایک ہی لمحظ میں طے کرتا ہے۔ یہ سب لہرعت یا بتاب کی عند النقل محال نہیں ہے تو پھر آفتاب بنوت کا جس کے نور سے سب کچھ پیدا ہوا ہے اگر تھوڑی سی رات میں عرض تک جاوے اور پھر آدے تو کیا کوئی عجیب بات ہے۔ اور پھر شیطان بدترین خلق اللہ سے ہے وہ ایک لمحظ میں مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک جا سکتا ہے۔ اور جو شخص بہترین مخلوقات ہو اگر تھوڑی رات میں آسمان پر جائے اور پھر واپس آئے تو کیا محال ہے اسے نیک بخت ذرا غور کر کہ فرشتے جبرائیل وغیرہ ہزاروں بار زمین پر آتے ہیں اور جلتے ہیں اگر ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تمام فرشتوں سے اور تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہیں۔ زمین سے آسمان پر تشریف فرما ہو دیں تو کیا بعید معلوم ہوتا ہے اسے لوگو! ہوشیار دیندار سمجھو کہ جو نور الیوم سے پاکیزہ ہو دیں اگر ایک رات میں طاقت الہی سے آسمان پر پہنچے کیا عجیب ہے اسی طرح ہزاروں دلیلیں ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی صداقت کی حد میں اس جگہ پر طوالت کلام میں نہیں دیتا بس اہل ایمان کے واسطے جو قدر دان ہیں ان کے لیے اس قدر ہی کافی و کافی ہے لہذا میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ خداوند ہم سب کو پکا مسلمان بناٹے اور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔



معجزات اور بزرگی اور خصائل حمیدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

معجزہ (۱)۔ حضرت ابو بکر صدیق بن تمیذہ سے روایت ہے ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم سے قریشیوں کے گھر چھوڑ کر میدان میں جا کر ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے اور اور آپ نے اپنی تلوار کو اس درخت کی شاخ پر لٹکا دیا تھا۔ اچانک ایک یہودی اعرابی نے وہ تلوار لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے اٹھائی فوراً درخت نے اپنی شاخ سے اس یہودی کو ایسا مارا کہ اس کا مغز منہ سے نکل پڑا اور پھر عذاب ابدی میں گرفتار ہوا۔ معجزہ (۲) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رکان بن عنین اسفندیار مثل ہمتیں بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بولا اے محمد تو ہمارے معبودوں کو باطل کہتا ہے حضرت نے فرمایا ہاں بے شک تب اس نے کہا ہم تم دونوں امتحان کریں۔ تو اپنے خدا کو پکار اور میں اپنے معبودوں کو پکارتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے جیتتا تو میں تجھ پر اور تیرے خدا پر ایمان لاؤں گا اور میں جیتتا تو تمام معبود میرے بزرگ ہیں۔ یہ بات کہہ کر رسول خدا کو پکڑ کر ایسا زور کیا کہ اگر پہاڑ ہوتا تو اس کو بھی اپنی جگہ سے اٹھا دیتا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے مبارک کوچہ نش نہ دے سکا پھر اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زور نبوت سے اس کو اٹھا کر ایسا پٹکا کہ جیسے دھو کر پٹا پاٹ پر اتارنا ہے۔ تب اس نے جانا کہ محمد صادق ہیں اور ان پر جو نازل ہوا ہے وہ سب سچ ہے اور ہمارے معبود سب جھوٹے نہیں۔ بالآخر مسلمان ہو گیا اور ایمان لایا۔ معجزہ (۳)۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک منکاٹھی کا حضرت نے مالک بن انس کی ماں کو عنایت کیا تھا کہتے ہیں کہ اس منکاٹھے نے تقریباً پینتالیس برس تک گھی خرچ کیا لیکن وہ خالی نہ ہوا اگر بعد میں اس کو ایک دھکا بگٹنے سے وہ منکاٹھا ہوتا۔ اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ معجزہ (۴)۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو چند خرمے بخشے تھے اور میں

نے ایک بانڈی تقریباً بیس برس تک رکھا تھا۔ اور میں بھی ان میں سے کھاتا تھا۔ اور دیکھ لوگوں کو بھی خدا کی راہ میں دینا تھا لیکن وہ کم نہ ہوتے تھے مگر حضرت عثمان ذوالنورینؓ کی شہادت کے دن سے وہ برکت جاتی رہی۔ معجزہ (۵) جس دن مکہ فتح ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوئے آپ کے دست مبارک میں ایک چابک تھا اور اس چابک سے بتوں کی طرف جو کعبے کے اندر تھے اشارہ کرتے تھے اور پھر یہ آیت پڑھتے۔ **فَلَمَّا جَاءَ الْحَمِيَّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ طِيعَتِي حَقَّ آيَا اور جھوٹ لکل**

بھاگا، اسی وقت سب بتوں سرنگوں ہو کر پڑے۔ معجزہ (۷۱) ایک شخص باپس ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم داہنے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو اس نے مکر وہانہ سے سے کچھ غذا پیش کیے اور کہنے لگا اسی وجہ سے میں داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو نہ کھا سکے گا پھر تا عمر وہ شخص اپنے داہنے سے کھانا نہ کھا سکا۔ معجزہ (۷۲) حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پتھر بھی کہتے تھے السلام علیک یا رسول جب کسی سنگریزے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ تسبیح پڑھنے لگتا تھا معجزہ (۸۱) ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے بعد چند روز منبر تیار ہوا اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اس وقت اس ستون سے آواز فریاد و زاری کی نکلی۔ اس واسطے کہ حضرت کی پشت سے وہ محروم ہوا یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاف کیا تب اس کو قرآن آیا۔ معجزہ (۹۱) ایک دن ایک ہزار چار سو آدمی کاشکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تمام کاروریات کے واسطے سب کے عاجز و مجبور تھے اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی زمین پر ٹیک دی اسی وقت سے اس سے پانی جاری ہو گیا۔ پناچ تمام لشکر وضو اور غسل اور کاروریات سے فارغ و آسودہ ہوا معجزہ (۱۰۱) ایک دفعہ خندق کی لڑائی کے دن چار سیر جو کہ روٹی سے ہزار آدمیوں کے لشکر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کرایا اور پھر وہ اسی قدر موجود رہی معجزہ (۱۱۵) ایک دفعہ جنگ تبوک میں تیس ہزار آدمیوں کے لشکر میں ایک آدمی کے لائق پانی نہ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیر اسی میدان میں کھڑا ہوا فوراً اس جوش و خروش سے پانی نکلا کہ سارا لشکر آسودہ ہوا معجزہ (۱۲۰) ایک مرتبہ کئی شخص انصار سے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اونٹ بہت شوخی کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ پر سے بوجھ بھیچے ڈال دیتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کے پاس جا کر کچھ پڑھا پھر ان اونٹوں نے کبھی سر کشی نہ کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول سب میوان آپ کو سجدہ کرتے ہیں کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں۔ اگر سجدہ کرنا آدمیوں کو روا ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں معجزہ (۱۲۵) ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اپنے مالک کا شکوہ کیا کہ وہ مجھ سے بہت محنت لیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں دیتا اور آپ رحمۃ للعالمین ہیں لہذا آپ مجھ کو اس نئے فیڈیجے یا پھر میری طرف اس سے سفارش کیجیے۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کہا تو اونٹ کو بقیت و اجبی بیچ دے ورنہ تو اس کو پیٹ بھر

کو کھانے کو دے معجزہ ۱۲۱، ایک دن ایک اعرابی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت
 دی اس نے کہا کہ آپ کی پیغمبری کی کیوں لیل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت جو میرے
 سامنے ہے یہ گواہ ہیں، نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، چنانچہ وہ درخت خدا
 کے حکم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر تین مرتبہ اس درخت نے کہا
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَبُّهُ لَأُتَى
 یہ حال دیکھ فوراً ایمان لے آیا معجزہ ۱۵، ایک دن ایک اونٹ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 عرض کی کہ میں جن لوگوں میں ہوں وہ نماز عشاء کی نہیں پڑھتے اور قبل نماز عشاء کے وہ لوگ سو جاتے
 ہیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو طلب کیا اور نماز کی ادائیگی کی سخت تاکید فرمائی
 معجزہ ۱۶، ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور معاذ کے لڑکوں کے حق میں
 دعا فرمائی تو اس مکان کے درو دیوار اور پھرتوں نے فیض زبان سے آمین کہا معجزہ ۱۷، ایک لڑکا
 جس دن تولد ہوا اسی دن اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے، حضرت نے پوچھا ہے
 لڑکے میں کون ہوں؟ اس نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو پوچھ
 کہتا ہے اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے واسطے برکت کی دعا کی۔ معجزہ ۱۸، ایک شخص گونگا مادر زاد
 تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے بے تامل کہا آپ رسول خدا ہیں۔
 معجزہ ۱۹، ایک عورت اپنے لڑکے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اس لڑکے کو جنون ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے
 پر پھیرا فی الفور اس کا جنون جاتا رہا معجزہ ۲۰، ایک شخص اپنے لڑکے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس لایا اور کہا اسے حضرت یہ لڑکا مثل گونگے کے چپ رہتا ہے اور بات نہیں کرتا آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی اپنی کلی کا پلایا وہ فی الفور باتیں کرنے لگا اور پھر ایسا بڑا عالم اور عقلمند ہوا
 کہ اکثر لوگ اس سے تعلیم پاتے تھے۔ معجزہ ۲۱، ایک شخص کو استسقا کی بیماری تھی بلکہ وہ قریب الہلاکت
 ہو چکا تھا اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر دعا کی درخواست کی اور اس ہلک بیماری
 سے شفا کی خواہش ظاہر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آبِ دہن تھوڑا سا خاک میں ملا کر اس کو دیا اس
 نے دھنکا اپنی زبان پر رکھی حکم خدا وہ فی الفور شفا ہو گیا معجزہ ۲۲، نزدہ نیر میں حضرت علی کرم وجہہ کی آنکھوں
 میں شدت کا درد تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے شفا کی دعا کی اور پھر تھوڑا سا لعاب
 دہن مبارک کا آنکھوں میں لگایا۔ حکم خدا آنکھوں کو فی الفور آرام ہو گیا۔ معجزہ ۲۳، ایک شخص کی آنکھ سفید

ہو گئی تھیں۔ اور اس کو کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ وہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ کے پاس آیا آپ نے اس کی آنکھوں پر کچھ ٹرہ کر چھونکا بفضل خدا اس کی باطنی اصلی حالت پر آگئیں اور وہ شخص اچھی طرح سے دیکھنے لگا معجزہ ۲۱
 ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے ٹوٹے ہوئے
 پاؤں پر پھیرا بحکم خدا فوراً جوڑ مل گیا اور اس نے بیماری سے شفا پائی معجزہ ۲۵ ایک شخص نے کہا
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آپ زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ اس کی قبر پر گئے وہاں جا کر آپ نے اس لڑکے کو
 آواز دی کہ اے لڑکے تیری خواہش ہے پھر دنیا میں آنے کی یا اس نے کہا نہیں اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم میں نے تو آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے
 ماں باپ مشرف باسلام ہوتے ہیں اگر تیری خواہش دنیا میں آنے کی ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ
 آ کر رہ اس نے کہا ماں باپ سے زیادہ ہر بان تو میں نے خدا کو پایا معجزہ ۳۶ ایک دن حضرت جابر
 نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس میں ایک بکری ذبح کی متب حضرت جابر نے
 کھیل سمجھ کر اپنے ایک چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا اس کی ماں یہ حال دیکھ کر دوڑی اور لڑکا مارے
 ڈر کر بھت پر چڑھ گیا۔ اور جب اس لڑکے نے اپنی ماں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بہت زیادہ ڈرا اور
 پھت پر سے کود کر وہ بھی مر گیا اس عرصہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر پر تشریف
 لے آئے آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارے لڑکے کہاں ہیں۔ اس وقت حضرت جابر نے کہا کہ ان کا
 کہ اگر میں ان دونوں کا مرنا بیان کروں گا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تب ناچار
 ہو کر لڑکوں کی ماں نے ان کے مرنے کا احوال بیان کیا چنانچہ یہ بات سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بیقرار ہو کر ان دونوں کی لاشوں پر جا کھڑے ہوئے۔ اور پھر دعا کی۔ چنانچہ فوراً دونوں لڑکوں نے
 زندہ ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور پھر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کہ تم لوگ بکری کا گوشت کھاؤ اور اس کی ہڈی نہ توڑو۔ پھر بعد اس کے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنا دست
 مبارک اس پر رکھ کچھ کلام پڑھا اور پھر اس پر دم کیا۔ چنانچہ وہ فوراً بکری کا زندہ جگمگا ہوا معجزہ ۳۷
 ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں دعا فرماتے تھے ان کی تین پشت
 تک اس دعا کا اثر باقی رہتا تھا معجزہ ۳۸ ایک دن حضرت انس بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے واسطے کچھ دعا کی کیجیے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا الہی
 مال اولاد میں انس کو برکت دے حضرت انس کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس

قدر دولت مند ہوا کہ دولت مند میری کبھی کم نہ ہوئی اور جو عیش و خوشی میں نے کی ہے سو کسی کو
 نصیب نہ ہوئی اور اولاد بھی میری تقریباً ایک سو سے زائد ہوئی معجزہ ۲۹۔ ایک بار آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے واسطے برکت کی دعا کی سو ان کے واسطے دروازہ
 روزی کا اس قدر کثادہ ہوا کہ اگر وہ پتھر اٹھاتے تو اس کے نیچے بھی سو ناپانڈی پاتے پہلے وہ فقیر
 تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایسے میرے تھے کہ ان کی موت کے بعد پچاس ہزار مہو جب
 وصیت قماجوں کو دینے لگے اور چار لاکھ دینار چاروں بیٹیوں کے حصے میں آئے حالانکہ وہ خود بھی
 بہت کچھ نصیبت کر چکے تھے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہشت کی بشارت دی
 تھی معجزہ (۳۰) ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر
 ہاتھ پھیرا اور پھر دعا اللہ تعالیٰ سے کی اس دعا کی برکت سے حضرت عمر ہر وقت جو ان معلوم ہوتے
 تھے حالانکہ وہ اسی برس کی عمر رکھتے تھے معجزہ ۳۱ ایک دن ایک شخص کے چہرہ پر دست مبارک
 پھیرا ایسی صفائی اور لطافت ان کے چہرے پر نمودار ہوئی کہ دوسرے کامنہ اس کے منہ میں مثال
 آئینے کے نظر آتا تھا۔ معجزہ ۳۲ ایک دن تھوڑا سا پانی حضرت زینب کے منہ پر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ڈال دیا تب وہ بی بی ایک حسینہ اور خوبصورت ہو گئیں اور پھر ان کے حسن و جمال
 میں کمی کو نہ پایا معجزہ ۳۳۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے بدن پر واسطے دنیغ
 مرض کے اپنا ہاتھ پھیرا اس کے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ بوٹے مٹک و عنبر پر غالب تھی ہر
 چند کہ عورتیں اس کے اتمام کی طرح خوشبو لیتی تھی لیکن وہ خوشبو سب پر غالب تھی معجزہ ۳۴ حضرت
 انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف
 لے گئے تو اس وقت حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے تین دن سے کچھ
 کھانا نہیں کھایا یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور پھر اپنا شکم مبارک کا کپڑا اٹھا کر
 دکھایا کہ میں نے بھی چار پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ تم کو اچھی طرح سے تسکین و تسلی ہو جائے یعنی چار
 دن سے کھانا تناول نہیں کیا پھر اس کے بعد اپنی صاحبزادی کی بھوک سے نگیں ہو کر صحرا کی طرف تشریف
 لے گئے وہاں ایک عربی اونٹوں کو پانی پلواتا تھا اس کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 عربی کوئی نہ زوری بنا اس نے کہا تم کو زور سپانی نکالو ایک ڈول پر تین جز سے زوری کے دوں گا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا جب پہلے ڈول کی اجرت میں خرما ملے تو دتبادل فرما
 کر پھر پانی نکالنے میں مشغول ہوئے جب آٹھ ڈول اور نکالے قضا سے ابھی سے رسی ٹوٹ گئی

اور ڈیل توں میں گر پڑا۔ یہ دیکھ کر اعرابی بہت ہی غصہ ہوا اور ایک ہٹا پنچ بھی رسید کیا پھر کسی ترکیب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈول بھی کمزوں سے نکالا اور پوچھ بیس خرمیں اپنی اپورت کے نے کہ حضرت طاہمہ کے گھر آئے اعرابی نے جب حضرت کا بصر و نخل دیکھا تو اس نے اپنی حرکت معقول سے نام و پشیمان ہو کر اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کی درد سے بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا پھر حضرت غافل کے دروازے پر آکر شور و غوغا کرنے لگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی خیر سن کر باہر نکلے لائے اس اعرابی نے آپ سے بہت عذر پیش کیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا ہاتھ اپنا تو نے کیا کیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تقصیر معاف کیجئے میں نے نادانستہ گستاخی کی ہے اس کے خوف سے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا آپ سے عفو تقصیر کا خواہاں ہوں آپ بیشک رحمت اللعالمین ہیں لہذا میرے حال پر رحم کیجئے اور میرے کئے ہوئے ہاتھ درست کیجئے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کئے ہوئے ہاتھ کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھو کر دیا حکم خدا اس کا ہاتھ بدستور سابق ہو گیا۔ اور پھر وہی اعرابی اس معجزہ کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا معجزہ (۳۵) ایک روایت میں ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لکڑیاں واسطے تعمیر کے مسجد مدینہ منورہ درکار ہیں یہ لکڑیاں کہاں سے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں میرا مکان سے اس مکان میں لکڑیاں بہت عمدہ ہیں اگر وہ کسی طرح سے آسکیں تو پھر مسجد بہت آسانی سے تعمیر ہو سکے گی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ سے التجا کی خدا کے فضل و کرم سے از غیب وہ لکڑیاں مدینہ منورہ میں آگئیں اور پھر وہ مسجد تری میں لگائی گئیں معجزہ ۳۶ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبوت کی شہرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل قریش کے ظلم و ستم زیادہ ہو گئے تھے لیکن اس وقت ایک یہودی پڑا بی عقلمند تھا اور مدینہ منورہ میں رہتا تھا ہمیشہ توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن توریت میں صفت اور نام مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا دیکھا، اسے غصہ کے اپنی بیوی سے قہقہے منگوا کر صفت و نام مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاٹ دیا۔ پھر دوسرے دن اپنے معمول کے مطابق توریت پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ پھر اسی مقام میں نام مبارک موجود ہے۔ پھر کاٹنے پر مستعد ہوا فوراً ایک آواز غیب سے آئی کہ اے ملعون کہ اگر تو تیرا مبارک صفت اور نام مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاٹا تو ہرگز نہ مٹا سکے گا۔ تب یہودی ڈرا اور جاناکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہیں۔ اسی وقت وہ مدینہ منورہ سے جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ پر ایمان لایا اور سچا مسلمان ہو گیا۔ معجزہ (۳۷)

حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے ایک یہودی بکری کے کباب بنا کر گوشت میں زہر ملا لیا ملا کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لایا اور پھر کہا کہ اے محمد ابن عبد اللہ میں یہ کباب آپ کے واسطے لایا ہوں تناول کیجئے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کھانے کا کیا تب وہ گوشت بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس گوشت کو نہ کھائیں کیونکہ اس گوشت میں زہر قاتل ملا ہوا ہے۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی اس گوشت میں تو زہر ملا ہوا ہے اس یہودی نے کہا سچ فرمایا آپ نے۔ لیکن یہ بتائے کہ آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی آپ نے فرمایا اس گوشت نے پھر اس یہودی نے آپ سے عرض کی کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ اس گوشت کو کھائیے اور زہر آپ کو اثر نہ کرے تو پھر ہم جانیں گے کہ آپ بیشک نبی سچے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ایک ٹکڑا اس میں سے کھایا اور بقیہ اپنے صحابہ کو تقسیم کر دیا اور سب صحابہ بھی بسم اللہ پڑھ کر کھائے اور اس کی برکت سے کسی پر زہر نے اثر نہ کیا۔ پس اکثر یہودیوں نے اس معجزہ سے دین قبول کیا معجزہ ۳۸ روایت ہے کہ ایک دفعہ بارہ ہزار آدمی اہل یمن کے واسطے حج کرنے مکہ معظمہ آئے تھے اور ان کے ساتھ ایک بیت بھی تھا جس کا نام ہبل تھا۔ وہ بہت ہی جیٹا اور اہل ان سے مرصع تھا اور ریشمی کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا اور وہاں کے لوگ اس کی پوری کیا کرتے تھے۔ یہودیکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تب ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا ہبل میری پیغمبری کی گواہی دے تو تم سب چھ پر ایمان لاؤ گے۔ کہا انہوں نے اگر ایسا ہووے گا تو ہم ضرور سب ایمان لادیں گے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ہبل بت کو اپنے پاس منگوایا اس نے آتے ہی آپ کے حضور لبیک کہا: پھر آپ نے اس سے کہا کہ اب تم ادھر کو آؤ چنانچہ وہ ادھر کو لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا آیا اور پھر رسول خدا کے سامنے باادب کھڑا ہو گیا۔ پس اسی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اس کو ماری اور پھر اس سے فرمایا کہ تو کہہ کہ میں کون ہوں؟ وہ بولا اَنْتَ سَرَسُوْلٌ لِّدٰہِ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنَّ لٰدٰہَ لِرَبِّہِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ وَرَجَعْتُ لِعِیْنِ اَبِیْ رَسُوْلِہِ خَدٰیہِ اُوْرِیْسِ گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی مجھ کو لائق بندگی کے مگر اللہ تعالیٰ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بندے اللہ کے اور مجھے سوائے اللہ کے ہیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں تو ایک پیغمبر ہوں ان لوگوں نے مجھے اپنی یہودی میں پکڑا ہے اور یہ محض غلط ہے جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھی تو وہ ایک بارگی ہی بارہ ہزار سب کے سب مسجد میں گر پڑے اور اپنے اپنے گناہوں

کی توبہ استغفار کرنے لگے۔ اور پھر اسی وقت کابل مسلمان ہو گئے معجزہ ۱۲۶۹ (۱) روایت میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو کر ابو ایوب انصاری کے گھر اترے تو ان کی خدمت ایک لکڑی تھی اور اس میں غلہ وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کیوں اس زمین میں بکھیر دیے۔ چنانچہ چند ہی ایام میں اُگے اور پک کر تیار ہوئے کھیت کاٹا گیا اور بھر گندم کو پیس کر کھایا گیا اور اس کے کانٹے کے بعد اس کی جڑوں سے بیگن کا درخت پیدا ہوا۔

معجزہ ۱۲۷ (۲) ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہؓ کے نکاح کے روز حضرت عائشہ صدیقہ کھانا پکاتی تھیں آنحضرت نے اپنا ہاتھ مبارک اس چولہے میں تیز آگ جلتی تھی داخل کیا اور پھر دیر تک اس کے اندر اپنا دست مبارک رکھے رہے لیکن آپ کے ہاتھ کو کسی طرح کی کچھ ضرر نہ ہوئی معجزہ ۲۱ روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص انصار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میری بہن پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن فرزند ایک سے بھی نہ ہو ایماں تک کہ وہ سب بوڑھی ہو گئیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائی اس دعا کی برکت سے ان کی بیویوں کے استفادہ عمل ہوا اور پھر فرزند تولد ہوئے۔ معجزہ ۴۲ (۳) روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوک کی راہ اپنے صحابہؓ کے ساتھ ایک مقام پر اترے وہاں ساتھیوں نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پکانے کے واسطے لکڑیاں نہیں ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے لکڑیوں کے پتھر رکھ دیئے وہ مانند لکڑیوں کے جلتے رہے معجزہ ۴۳ (۴) روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم الیجر کو ساتھ لے کر غارتوں میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کے ساتھ اس وقت درندے اور چمندرے چلے آتے تھے اور باتیں کرتے جاتے تھے معجزہ ۴۴ (۵) ایک روایت میں ہے کہ اہل طائف نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ طلب کیا کہ اگر اس پتھر سے ایک درخت میوہ دار پیدا ہووے تو ہم سب آپ پر ایمان لاویں گے یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس پتھر پر رکھ دیا قدرت الہی سے ایک درخت میوہ دار اس پتھر سے پیدا ہوا۔ پھر اہل طائف اس معجزے پر ایمان لائے معجزہ ۴۵ (۶) خبر ہے کہ حد بدیہ کی لڑائی کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ صفر کو تیار اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن راہ میں تھے انہوں نے جواب دیا الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس آواز کو سن کر حضرت فاطمہؓ نے عرض کی کہ اے میرے آبا جان میں بہت بھوک کی ہوں معجزہ ۴۶ (۷) روایت ہے کہ خندق کی لڑائی کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے مانند آفتاب کے روشنی ظاہر ہوئی اور اسی روشنی کے شعاع سے بہت سے لوگ غنمی

میں آئے۔ معجزہ ۴۷) ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری قوم خزرج میں مقتول ہوا تھا اور ان کو قاتل کا دریافت کرنا مشکل تھا تب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقتول پر کسی درخت کی شاخ رکھی تب اس مقتول نے حکم الہی سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتلایا معجزہ ۴۸) ایک روایت میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں آئے تو وہاں آپ نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ساتھ بت ہے اور وہ بت سونے کا ہے یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا یہ بت لکڑی کا ہے اور آپ نے اپنا دست مبارک اس بت پر رکھ دیا چنانچہ وہ بت لکڑی ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر کثرت پرست ایمان لے آئے اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی چھوڑ دی معجزہ ۴۹) ایک روایت میں ہے کہ جب سعد بن معاذ کے حکم سے بنی قریظہ قتل ہوئے خون سے ان کی زمین بھر گئی لیکن حضور کی دعا کی برکت سے بدل جاتی رہی معجزہ ۵۰) ایک مرتبہ شہر جدہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف فرما ہوئے اور وہ اسی دن کی راہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے مابین طائف جدہ زمین تہ بہ تہ قدم مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجادی مانند نھان کپڑے کے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساعت میں وہاں پہنچ گئے معجزہ ۵۱) ایک روایت میں ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن یزید النخعی کو اسلام کی دعوت دی وہ بولا پھر کے معبودوں کو اگر تم سونا بنا دو تو تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ سے دعا کی اس دعا کی برکت سے وہ سب رونے کے ہو گئے اس کو دیکھ کر وہ سب ایمان لے آئے اور سب مسلمان ہو گئے معجزہ ۵۲) ایک دن حضرت فاطمہ نے شکایت کی یا رسول اللہ حسین بھوکے ہیں اور ہمارے کچھ کھانے کی قسم موجود نہیں تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹخن میں جس میں ٹھیلی تلی ہوئی اور اس کے علاوہ اس میں طرح طرح کی نعمتیں بھی تھیں حضرت فاطمہ کے گھر میں بھیجا سب نے اسودہ سے لے کر کھایا اور پھر دیکھا کہ کھانا اسی طرح سے پھر موجود ہے کچھ بھی کم نہ ہوا معجزہ ۵۳) ایک بار لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا کہ روٹی اور سالن کو ہو اپر لپکاؤ تو ہم سب ایمان لے آئیں گے پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کی برکت سے روٹی اور سالن ہو اپر لپکایا اور پھر سب کو ان کھایا اور سارے اسی وقت مسلمان ہو گئے معجزہ ۵۴) ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک انصاری کو جو کہ عرصہ سے برص اور بیزام کی بیماری مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا ہو گئی اور وہ انصاری بھلا چنگا ہو گیا۔

معجزہ ۵۵ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عیسوی کو دعوت اسلام دی تو ان لوگوں نے کہا ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مٹی کی پڑیاں بنا کر پھونک مارتے تو وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتی تھی اگر آپ بھی ہم کو ایسا معجزہ دکھاسکیں تو ہم لوگ آپ پر ایمان لادیں گے تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی خاک اٹھا پڑیا کی صورت بنا کر بسم اللہ پڑھ کر چھوٹک مار سی خدا کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی **معجزہ ۵۶** ایک روایت میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک مرد قریشی نے آکر کہا یا رسول اللہ البجہل پر دس ہزار دینار میرے ولجہ ہیں اور مجھے دیتا نہیں ہر روز مجھے لیت دلعل میں رکھتا ہے۔ اور مجھے سخت حیران کرتا ہے کیونکہ وہ زبردست ہے اور میں کمزور ہوں۔ اگر آپ اس کے پاس جا کر دلاویں تو مجھ پر بہت ہی احسان ہو گا یہ باتیں سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہمراہ لے کر البجہل کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ اور وہ اس وقت قریشیوں کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کی بہت تعظیم و تکریم کی اور پھر کہا اس ارادے سے تشریف لائے ہیں فرمایا البجہل دس ہزار دینار اس غریب کو کمبوں نہیں دیتا۔ یہ سنتے ہی فوراً دس ہزار دینار اس کو دینے پھر وہ مرد قریشی خوش ہو کر اسی وقت آپ پر ایمان لے آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لائے تو البجہل کی بیوی البجہل سے لڑنے لگی کہ کیوں تو نے اپنے دشمن کی خاطر و ملامت کی اور ان کے کہنے سے اپنا مال بھی اپنے ہاتھ سے کھویا۔ اس نے کہا کہ جب محمد ابن عبداللہ میرے پاس آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ دو اڑ رہے ان کے دونوں کانڈھوں پر موجود ہیں اور جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو قریب تھا کہ وہ مجھے اپنے منہ میں رکھ کر نکل جائیں۔ میں نے اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اسی وقت اس مرد کی واجب الادا رقم دیکر فوراً رخصت کر دیا **معجزہ ۵۷** ایک روایت میں ہے کہ البجہل بارہا قریشیوں کی مجلس میں کہا کرتا تھا کہ مجھ کو دیکھئے محمد ابن عبداللہ کے مجھے شدید خوف اور لرزہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا سبب کا یہ ہوتا ہے کہ بہت نیرے بردار اور شیر اور سانپ گردا گرد ان کے مجھ کو نظر آتے ہیں اور وہ کہتے کہ اگر کوئی شخص محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کسی قسم کی بے ادبی اور نامعقول گفتگو کرے گا تو اس کو ہم سب مار ڈالیں گے پس اسی طرح کاجادو ہر وقت محمد ابن عبداللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ سچ ہے خدا جس کو گمراہ کرتے اس کو راہ پر لوٹن لائے وہ لعین یہ سب معجزے دیکھ کر جادو ہی شمار کرتا تھا **معجزہ ۵۸** ایک روایت میں ہے کہ جب حبر بنو تہ بنیغیر کی اطراف عرب میں مشہور ہوئی تو اکثر لوگ ہر چار طرف سے آئے لگے ایک مرتبہ بہت لوگ اعرابی بقصد ایمان کے کی راہ سے آتے تھے۔ قریش اور البجہل نے کہا کہ تم محمد ابن عبداللہ کے پاس جاتے ہو۔ مگر تم ان پر بغیر معجزے کے ایمان نہ لانا یہ سن کر ان سب نے کہا کہ معجزہ ان سے طلب کریں تو ان سب

اُدراجادو جو ہے وہ آسمان پر نہیں چلتا چنانچہ ان سے کہو کہ چاند کو آسمان پر دو ٹکڑے کر دیں تب ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے پاس جادو ہے یا معجزہ بس البجہل کے کہنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر چاند کی طرف اشارہ کیا تو اسی وقت چاند شق ہو گیا۔ بحکم خداوندِ تعالیٰ کے یعنی اسی وقت دو ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا مشرق کو اور دوسرا مغرب کو چلا گیا۔ پھر یہ دیکھ کر البجہل بولا کہ آپ پھر دو دنوں کو ملا دیں۔ چنانچہ آپ نے اشارہ فرمایا تو وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے پس وہ یہودی تو ایمان لے آیا اور البجہل کہنے لگا کہ محمد ابن عبد اللہ نے ہماری آنکھیں جادو سے باندھ کر دو ٹکڑے دکھائے ہیں اب اس کی تحقیقات ان مسافروں سے کرنی چاہیے جو رات کو سفر میں تھے کہ فلاں تاریخ کو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے تم لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں الغرض اس نے مسافروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا فلاں رات کریم نے چاند کو دو ٹکڑے ہونے دیکھا تھا جب لوگوں نے یہ گوئی دی تب بھی البجہل ایمان نہ لایا۔ معجزہ ۱۱ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نوے سال ہجری میں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی مسجد میں فرمایا کہ اے میرے صحابو! نجاشی بادشاہ نے وفات پائی ہے اور اس کی نماز جنازہ اسی وقت ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ ادا کی۔ بعد نماز کے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائب میت پر نماز جنازہ واجب ہے تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مجھ کو حضرت جبرائیل نے اس کی وفات کی خبر دی تھی اور اس کی لاش کو میں نے دیکھا اس واسطے نماز جنازہ ادا کی پھر تمہاری بھی نماز جنازہ میری اقتدا میں درست ہوئی۔ الغرض جیسے معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ایسے معجزات اور کسی نبی یا مرسل یا پیغمبر مرسل سے ظہور میں نہیں آئے اور جو جو کرامتیں اس امت کے اولیاء اللہ سے ظاہر ہوئی ہیں وہ ^{حقیقت} وہ بھی ایک قسم کے معجزات ہیں اور وہ قیامت تک اسی طرح درخشاں رہیں گی۔

ہجرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

ایک روایت میں ہے کہ جب معراج کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک عرب میں ہر طرف مشہور ہوئی تب اکثر اہل عرب حضرات آپ پر ایمان لے آئے اور بعض شدید مشرک لوگ ایذا اور تکلیف دینے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مستعد ہو گئے اس لیے جناب باری تعالیٰ سے حضرت جبرائیل آئے اور پھر فرمایا اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بعد سلام اور درود کے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مدینہ منورہ میں بھیجو سوائے ابوبکرؓ کے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا تو ان میں حضرت مصعبؓ اور ابن مکتوم رضی اللہ عنہما اور ابن مسعودؓ اور عمارؓ اور بلالؓ اور سعدؓ وغیرہ تقریباً چھبیس صحابہ کرام کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کے ہمراہ مدینہ منورہ کو روانہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منتظر وحی الہی کے رہے اور ادھر البجیل یعنی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مار ڈالنے کا کافروں سے صحتی مشورہ کیا اس مشورہ میں ابلیس خبیث علیہ اللعنة ایک پیر مرد کی صورت بن کر ان کافروں کے پاس آیا اور کہا اے صاحبو میں بوڑھا ہوں اور بچہ کار ہنسنے والا ہوں اور میں تمہاری مدد کے واسطے آیا ہوں اور میں مال اور آدمی بہت رکھتا ہوں پھر یہ سن کر انہوں نے اس ابلیس کو اپنے لوگوں میں بیٹھے کی جگہ دی اور اپنی مجلس شوریٰ میں شریک کر لیا۔ اس وقت البجیل نے کہا اے بڈھے کہو کہ محمد ابن عبد اللہ کے حق میں کیا تدبیر کی جائے یہ سن کر اس لعین مردود نے کہا کہ اے ابوالحکم البجیل، محمد ابن عبد اللہ نے تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوٹا کیا ہے اور وہ اپنے چھوٹے دین کو جادو کے ذریعے جاری کرنا چاہتا ہے اور تم حاکم مکہ ہو قوم تمہاری بیشمار ہے اور لشکر بھی کافی تعداد میں ہے اور محمد ابن عبد اللہ تو اس وقت تنہا ہیں کیونکہ اس وقت ان کے ساتھی بھی سب کے سب مدینے چلے گئے ہیں اور جس وقت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سوتے ہیں ایک شخص اسی وقت جا کر ان کا سر کاٹ لاوے اور اسی طرح سے کسی کو خبر بھی نہ ہوگی چنانچہ مجلس شوریٰ نے یہ رائے پسند کر لی اور آپس میں یہ بات مقرر ہوئی۔ تب البجیل لعین نے کہا کہ اے یارو آج کی رات محمد کا سر کاٹنا ضروری ہے۔ غرض اس کام کے لیے بیس آدمی جری بہادر کار آزمودہ کو قریش میں مقرر کیا اور حضرت جبرائیل نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آج قریش کی مجلس شوریٰ میں یہ بات قطعی مقرر ہوئی ہے کہ آج کی رات سر آپ کا تن سے جدا کریں گے اور حکم جناب باری تعالیٰ کا یوں ہوا کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں اور اب تمام کام اسلام کے ہیں سے انجام پائیں گے۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی حقیقت ابوبکر صدیق سے بیان کی جب رات ہوئی علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ میں ماہ ربیع الاول شب دوشنبہ کو نبوت کے تیرھویں سال اور شب معراج کے آٹھ مہینے کے بعد کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تیرہن برس کی تھی ہجرت فرمائی۔ اور اسی شب میر ان بیس آدمیوں کے جو البجیل یعنی کے متبعین کیے تھے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے

گھر پر جا کر محاصرہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک خواب ایسا مسلط کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرے سے نکل گئے اور ان کو اصلاً جہنم ہوئی۔ پیچھے ایک ساعت کے ایلیس نے نیند سے اٹھا کر کہا کہ اے یار محمد ابن عبد اللہ تو بجا کنا چاہتے ہیں، تب میں آدمی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آنحضرت کے بستر پر آئے تو دیکھا کہ حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کو اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ محمد ابن عبد اللہ کہاں ہیں علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے ان کو سمیت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر انہوں نے مجبور ہو کر اس امر کی جزا جو اہل جہنم لیں کو کی، پھر شیطان نے کہا کہ اے ابو جہل میں جانتا ہوں کہ محمد ابو بکر کو اپنے ساتھ بے کربدینہ کی طرف بھاگے ہیں تو لوگ اس کا مدد ہی چھپا کریں یقیناً وہ تم کو ضرور ملیں گے وہ لوگ غار اٹحل جبل ثور میں جا کر چھپ رہے ہیں گے تم ان کو وہاں پاؤ گے پس تمام قریش نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی خانہ تلاشی کی ان کو بھی نہ پایا۔ تب پھر وہ لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور وہاں حضرت جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو زور دیا کہ آتے آتے آپ کے پیچھے آتے ہیں اور وہ آپ کو ایذا دینا چاہتے ہیں۔ آپ اس غار اٹحل میں ہی چھپ رہے ہیں۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے ساتھ اس غار میں جا کر چھپ گئے اور خدا کے حکم سے ماری نے اس غار کے منہ پر جالا بنا دیا اور پھر دو کبوتروں نے اس میں دو انڈے بھی دیئے اور حضرت جبرائیل نے انڈے خاک و بیڑہ بھی اس پر پھینچا دی تاکہ وہ پرانے معلوم ہو اسی طرح سے آتے دلے کفار نہ پہچان سکیں۔ جب وہ بدخواہ غار اٹحل میں پہنچ گئے اور ہر طرف تلاش کرنے لگے۔ ایلیس یعنی کو معلوم تھا اس نے چاہا کہ آدمی کی صورت بن کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دے اس وقت حضرت جبرائیل نے اپنا پر شیطان کو ارکوردیاٹے نیچے میں گرادیا اور پھر وہ بدخواہ اس غار کے دروازے پر آکر تلاش کرنے لگے کوئی کہتا تھا کہ شاید اس غار کے اندر رکھے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں اس کے اندر کبوتر کا جادویں گے منہ تو اس کا بہت ہی چھوٹا ہے اور کسی نے کہا کہ پھر یہاں سے محمد ابن عبد اللہ کہاں گئے چنانچہ اسی طرح کفار عرب آپس میں کہہ رہے تھے کہ دو کبوتر غار کے منہ سے اڑ گئے جب کبوتر کے انڈے اور ماری کا جالا خاک اور کوڑا اس پر پڑا ہوا دیکھا تو وہ ناچار مجبور ہو کر واپس لوٹ گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک اس غار کے اندر خدا کے آگے سجدہ ریز رہے اور حضرت ابوبکر نے جو دیکھا کہ اس غار کے اندر چاروں طرف سانپن چھو کے سوراخ بہت ہیں تو انہوں نے اپنے کپڑے اور اپنی دستار کو چھپا چھپا کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ صرف ایک کپڑا ریز جامد کو ثابت

رکھا اور پڑا نہ ہونے کے سبب ایک سوراخ باقی رہا۔ اور وہ بند نہ ہو سکا۔ حکم الہی سے ایک مار زہوار نے چاہا کہ اس سوراخ سے نکل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک چومے اسی وقت ابو بکر صدیق کی نظر اس پر پڑی چنانچہ انہوں نے اپنے پیر کو اسی سوراخ پر رکھ دیا۔ اور اس کے باہر آنے کی راہ بند کر دیا پھر اس غار کے اندر سے سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں کاٹا اور پھر نہرتے ان پر غلبہ کیا جس کی وجہ سے ان کے تمام بدن میں لرزہ پڑا۔ لیکن باوجود اتنی شدید تکلیف کے اپنا پاؤں اس غار کے منہ سے نہ پٹایا اور مثل ستون کے قائم رکھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ اے ابو بکرؓ کیا حال ہے تمہارا انہوں نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ اس سوراخ سے نکلتا تھا۔ اس واسطے میں نے اس سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کیا اور اس سانپ نے میرے پاؤں میں کاٹا اور اس کے زہر نے مجھ پر غلبہ کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا پاؤں اس سوراخ سے چھین لو پھر حضرت ابو بکرؓ نے اپنا پاؤں اس سوراخ سے کھینچ لیا۔ یکایک وہ سانپ اپنے سوراخ سے نکل آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق آپ کے قدم چومنے سے مجھے محروم کرتے ہیں اسی واسطے میں نے ان کے کاٹا ہے یہ کہہ کر وہ ایمان لایا اور پھر وہ قدم بوس ہو کر اپنے سوراخ کے اندر گھس گیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم کو تین بار چوس کر تھوکا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو شفا کامل بخشی اور پھر چوتھے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اس غار سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور ادھر ابو جہل نے سراقہ بن ابوجحتم کو یہ خط لکھا کہ محمد ابن عبد اللہ یہاں سے بھاگ کر مدینے کی طرف جاتے ہیں لہذا مناسب ہے تم کو وہ جہاں بھی ملیں ان کو پکڑ کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس ہدایت پر سراقہ بن جحتم نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ میں پکڑا اور اپنا نیزہ دلہنے میں پکڑا اور اپنے گھوڑے کو دوڑا کر ارادہ کیا کہ وہ دفعۃً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوے اور پھر انکو پکڑ لیوے خدا کے حکم سے اس وقت زمین اسکے گھوڑے کو پیٹ تک نکل گئی اس وجہ سے سراقہ نے سمجھا کہ محمد ابن عبد اللہ سچے رسول ہیں اور پھر وہ اپنی عذر خواہی کرنے لگا اور اتر کر کہا کہ اگر آپ مجھ کو چھڑاویں گے تو اب واپس چلا جاؤں گا اور مزید کہنے لگا کہ جو بدخواہ آپ کے پیچھے آتے ہیں ان کو بھی پھیر دوں گا اور میں ان سے کہوں گا کہ میں نے اس طرف بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو فرمایا۔ **يَا اَرْضِ حَلِيصِي** یعنی اے

گو پہنچا اور لڑائی بدرالکبریٰ کے ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مشرک سوداگر ابوسفیان اور عمر بن العاص شام کی طرف سے آتے ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو بھیجیں تاکہ وہ ان سب کو ماریں اور مال غنیمت حاصل کریں اور ان سے کسی طرف کا خوف نہ کریں۔ خدا کے فضل و کرم سے تم کو فتح نصرت ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اور ایک سو مرد مسلمان جمع ہوئے ان میں تیرہ آدمی گھوڑے کے سوار اور اسی آدمی شتر سوار اور باقی پایادہ تھے اور کسی کے پاس ہتھیار لڑائی کا نہ تھا۔ مگر ہر ایک کے پاس ایک لاکھی تھی۔ ان کافروں سے لڑنے کے واسطے جب پہاڑ بدر کے نزدیک پہنچے تو اہل سوداگروں کو یہ احوال کسی طرح سے معلوم ہو گیا۔ آخر انہوں نے یہ جفر کے میں پہنچائی کہ محمد ابن عبداللہ نے جماعت کثیرے کو تمہاری راہ بند کی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ارادہ تخت و تاج کار کھتے ہیں پس ابو جہل نے یہ بات سن کر منادی کی تمام اہل مکہ ایک بزار ایک سو سوار ہمراہ رکھتے ہیں پس ابو جہل ان سواروں کو لے کر خود لڑنے کو آیا اور حضرت جبرائیل یہ بتر لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ تم سے لڑنے کو ابو جہل کا اتنا بڑا لشکر آتا ہے اور خدا کے فضل و کرم سے تمہاری ہی نصرت ہوگی اور وہ سب کے سب ذلیل و خائب و خاسر ہوں گے جو لوگ تم سے تھے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور اہر دوسرے دن ہی دونوں طرف سے لشکر جمع ہوئے اور جب ابو جہل نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بہت ہی حضور معلوم ہوا۔ اور اپنے لشکر کو دیکھا تو بہت بڑا معلوم ہوا۔ اس واسطے وہ خوش ہو کر کہنے لگا کہ میرے ساتھ اتنا لشکر ہے کہ ہم لوگ محمد ابن عبداللہ کے خدا سے بھی لڑ سکتے ہیں اور اس لشکر کے واسطے تو ہمارا لشکر تھوڑا سا کافی ہے جب یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور اپنے خداوند قدوسی سے التجا میں کرنے لگے کہ اے خداوند قدوس تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سو وہ پورا فرما اور ہم کو اس جم غفیر لشکر پر فتح دے۔ پس اول لشکر ابو جہل سے عقبہ اور شیبہ اور دلید ابن میسرہ جنگ گاہ میں اکھڑے ہوئے اور لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن رواحہ اور عوف ابن حارث اور معوذہ ابن حارث لڑائی میں آئے۔ نبی لشکر ابو جہل کے لوگ حقارت سے کہنے لگے کہ اول نام اپنا بتاؤ پیچھے ہم سے لڑو۔ پھر ان تینوں مومنوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر مشرکوں نے کہا کہ تم لوگ ہماری لڑائی کے قابل نہیں ہو واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد ایک لمبہ نفرہ مارا کہ اے محمد ابن عبداللہ

ہمارے مقابل میں ہمارا ہمسفر بھیجیں آپ نے حضرت حمزہؓ اور علی مرتضیٰؓ اور عبیدہ بن عمارؓ کو بھیجا پھر دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی حضرت حمزہؓ نے ابو جہل کے لشکر سے شیبہ کاسر کاٹا اور علی مرتضیٰ نے میغزہ کو مارا اور عتبہ نے حضرت عبیدہؓ کا پاؤں توڑا لیکن پھر بھی حضرت عبیدہؓ نے عتبہ مردود کو قتل کیا اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے تو آپ نے ان کو بہشت کی نشانت سنائی اور ان کے پیچھے سے شترکوں نے تیر مار کر پانچ مومنوں کو شہید کیا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں آکر دعائے نصرت طلب فرمائی، نبی خدا عزوجل نے ایک ہزار فرشتے بھیجے انہوں نے آکر شترکوں کو جہنم واصل کیا اور عبداللہ بن مسعود نے جنگ گاہ میں ابو جہل کاسر کاٹا اور سجدہ شکر بجایا لائے اور اس دن بہت کافر مارے گئے اور بہت سے قید کر لیے گئے اور بہت سے شکست باکرہ جھاگ گئے اور ایک روایت میں ہے کہ جس دن کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے مارنے کا قصد کیا تو خدا کے حکم سے اس دن خود بخود کافروں کے سر کاٹ کر زمین پر گرے اور ان کافروں کی لاشوں کو خندق میں ڈال دیا گیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارے کھڑے ہو کر کہا کہ اے یہ بخونخوار قاتل ہمارے تم نہیں تھے صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر تعجب ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقتولوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ مردے بات سنتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے۔

پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قحیاب صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے ہر تیرہ آدمی شہید ہوئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امیروں کو اپنے پاس بوجہ عتبہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کی تکلیفیں دی ہوئی یاد نہیں پھر آپ نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ تم عتبہ کو قتل کر دو اسی وقت علی مرتضیٰ نے عتبہ کی گردن اڑادی اور وہ ہمیشہ کے لیے داخل جہنم ہوا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے کہ نام ان کا سودہ تھا قیدیوں کو قتل کے وقت کہا کہ تم اگر لڑائی میں مارے گئے ہوتے تو اس وقت اس خرابی سے کیوں مارے جاتے یہ بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ پر غصہ ہوئے اور پھر ان کو طلاق دیدی۔ سودہ نے نکلیں ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ کو بہت منتوں اور سفارش اور عفو و تقصیر پر راضی کیا۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش منظور کی اور حضرت سودہ کو پھر نکاح میں لائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے سچو کہ اس وقت امیر ہو کر آئے تھے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تم کو آزاد کر دوں گا۔ اس وقت حضرت عباس مسلمان ہو گئے اور اس طرح سے دولت ایمان ان کے ہاتھ لگی اور وہ جنت کے مستحق ہوئے چنانچہ میں اس واقعہ کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

احوال جنگ احد

ایک روایت میں آیا ہے کہ مشرکوں نے جنگ بدر کی ہزیمت کے بعد لڑائی کا سامان پھرتیار کیا اور اس وقت سردار قریش ابوسفیان تھے وہ کافر معہ جم غفیر و لشکر کثیرے کو مدینہ کو بارادہ تاحنت و تاراج آئے اور حضرت حیرائیل ابن نے یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ فوج کفار کی مدینہ کے متصل آئی ہے۔ لہذا لشکر اسلام مسلح ہو کر سہر کاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیل احد پر آیا جو کہ مدینہ منورہ سے دو کوس کے فاصلے پر واقع ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ ابن زبیر کو ستر تن نیز انداز کیے اسی کوہ پر لشکر وغیرہ کی حفاظت کو متعین کیا اتنے میں لشکر دونوں کی طرف سے صف کشیدہ ہوئے اول تیروں کا سینہ برسا پھر شیشہ و خنجر بجلی کی طرح چمکنے اور خون کے دریا بہاتے رہے۔ الغرض اسلامی فوج نے پروردگار کے فضل و کرم سے لشکر کفار پر فتح و نصرت پائی اور مشرکوں نے ہزیمت و شکست کھائی اور تقریباً ستر گنہگار کوہ احد کے باوجود ممالعت عبد اللہ بن زبیر کے یہ ہزیمت دیکھ کر عنایت لوٹنے کو دوڑے کفار کی فوج موقعہ کو غنیمت جان کر اس پہاڑ پر پہنچی اور پھر لشکر اسلام مغلوب ہوا اور پھر اس مغلوبیت میں ستر آدمی شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی جگہ پر ایک پتھر کی ضرب شدید سے شہید ہوئے اور آپ کے دہن مبارک سے خون بہا اور ایک صحابی اپنی یگرتی سے آپ کا ہونہ مبارک پونچھتے تھے۔ ایسے لہجے میں یہ حال دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ کر پکارا کہ اے لوگو! محمد ابن عبد اللہ تو مقتول ہو گئے یہ آواز سنکر کافروں نے خوش ہو کر لشکر اسلام پر حملہ کیا اس وقت بہت سے مسلمان فوج ہوئے اور کتنے ہی شہید ہوئے اور چند لوگ غازی بنے اور بعض بھاگے اصحاب کبار وغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چیر گیری کو آئے انہوں نے آکر دیکھا کہ آپ کا دندان مبارک شہید ہوا ہے۔ اس عرصہ میں حضرت حمزہؓ اور دو اور اصحاب نے شہادت پائی اور کافروں نے اپنے ظلم و ستم سے ان کو مثلہ کیا یعنی ناک کاں ہاتھ پاؤں کاٹے یہ دیکھ کر اصحاب کبار کی آتش خشم نے جوش مارا پھر فوراً اپنی فوج سے کوٹ پڑے اور مانند برق کے ان پر گرے اور نہایت جو شیلے فلک شکاف نعرے مارا کہ کفاروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور جناب حضرت علیؓ نے شہداء نے حضرت حمزہؓ کی لاش دیکھ کر کہا اے چچا جان خدا کے حکم سے ستر آدمیوں کو تمہارے عوض میں مثل کروں گا یہ کہہ کر انہوں نے برق رفتار گھوڑے کو چمکایا اور اپنے ہاتھ میں تلوار سے کوفرہ بلند کیا۔

اور پھر اپنے گھوڑے کو برقی کی طرح سے کفاروں پر ڈال دیا۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی باگ حضرت عباس پکڑے ہوئے تھے۔ کہ فوراً اجیر اٹیل نازل ہوئے اور انہوں نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے آپ کی مدد کرتے اور کافروں کا سرتن سے جدا کرتے ہیں غرض لشکر اسلام نے فتح و کامیابی پائی۔ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور اسی وقت علی مرتضیٰ کو مدینہ منورہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ ادھر تمام تمام اہل مدینہ اور اہلبیت آواز بدلتے ہوئے گھبراتے تھے خبر ظفر و کامیابی کی سنکر شاد ہو گئے اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسلمانوں کی لاشیں بعد نماز جنازہ وقتائیں اور کچھ لاشوں کو مدینہ منورہ میں لے آئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑھیا نے اپنے بیٹے اور بھائی کو دیکھ کر کہا کہ اگر ہزار بیٹے اور بھائی ہوتے تو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تصدق کرتی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے مردوں کی تعزیت کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنکر فرمایا کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کوئی بیوتا تو ان کی بھی تعزیت کرتا یہ فرمان سنکر سب مردوزن نے اپنے مردوں کو چھوڑ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تعزیت کی بلکہ اب تک ملک عرب میں یہ رسم جاری ہے کہ کوئی بھی کسی مردے کی تعزیت کے واسطے آوے تو پہلے تعزیت حضرت حمزہؓ ہی کی کرے گا اور بعد میں اس کی کریگا جس کے واسطے وہ وہاں گیا ہے۔ اس واقعہ کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

احوال جنگ بدر الصغریٰ

ایک روایت میں آیا ہے کہ جنگ احد کی لڑائی سے اگلے سال کہ معظمہ میں بڑا تحط پڑا سب لوگ وہاں کے خراب و تباہ ہونے پھر کافروں نے خوف اور ڈر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مل کر آپس میں تدبیر و مصلحت صلاح کی ٹھہرائی اور ایک فاسد بنام مسعود کو مدینہ منورہ بھیجا اس شخص نے اپنے مکر و فریب سے آنحضرت صلی اللہ وسلم کو ڈرایا کہ یا رسول اللہ گزشتہ سال باوجود کم جمعیت کفار کے آپ کی فوج بہت ماری گئی اور اس سال تو ان کا روز جمعیت خوب ہے ہرگز آپ اس طرف کا قصد نہ فرمادیں۔ لیکن آپ نے اس بات پر قطعاً عمل نہیں کیا اور آپ لشکر اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ کو جا کر محاصرہ میں لائے مگر کفاروں میں سے کوئی شخص اڑنے کو نہ آیا بلکہ بہت سے آدمی تو خفیہ طور پر آکر مسلمان ہو گئے پھر فخر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو مراجعت

فرمائی اور پھر سال آئندہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بقیع حج اور اپنے
 ہمراہ شتر و بنے قربانی کے لیے لے کر روانہ ہوئے یہ دیکھ کر اہل مکہ نے جمع ہو کر جنگ کا قصد کیا اور اس
 وقت تمام مسلمان احرام میں تھے۔ ان کو کچھ بھرا بہٹ محسوس ہوئی۔ انفاقہ قضاء الہی سے کفار
 بر لشکر اسلام کو دیکھ کر ایسا رعب غالب ہوا کہ وہ خود بخود بھاگ گئے۔ پھر ان کافروں نے دو قاصد
 ایک ابو سعید سفینی دوسرے اسمعیل بن عمر کو بھیج کر حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم بارادہ حج تشریف لائے ہیں اور جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تب وہ لوگ خوش ہو کر حرف صلح
 درمیان میں لائے اور انہوں نے اگر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال ہم قطع کے مارے
 ہوئے ہیں آپ کی خدمت بھی نہ ہو سکے گی اس واسطے یہ آرزو ہے کہ ابھی آپ مدینے کو پھر جائیں اور
 ایک تننا صلح کی بھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آگیا۔ اور ان کی التماس قبول کر لی
 پھر عہد و پیمانہ آئشی و صلح کا لکھا گیا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الحرام کو بدریہ اور تحفہ بھجوایا
 اور بہت سے مساکین لوگوں کو خیرات دی اور اپنے صحابیوں کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کی
 طرف تشریف فرما ہوئے۔

احوال جنگِ خیبر

ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں حصہ میں حج مبارک سے
 فارغ ہو کر بھڑھیار سے مژدہ مسلمان ہونے کا مشی کا سنا۔ پھر جز صلح پارس کی پہنچی۔ اس
 کے بعد آپ نے خیبر کی طرف بارادہ جہاد کو چ فرمایا اور مع لشکر وہاں پہنچے اور اوپر خیبر کے یہود
 بھی فوج کثیر لے کر مقابلہ کو آئے جب لشکر دونوں طرف کا صف کشیدہ ہوا۔ تب ایک مرد
 مسلمان نے سات آدمی یہودی جنہم رسید کیے اور پھر اس نے شہادت پائی، پھر سرد عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلوا کر حکم جنگ کا سنا اور فرمایا اور اس وقت حضرت علی کی آنکھوں
 میں شدید درد تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا
 کو قبول فرمایا۔ آرام ہوتے ہی حضرت علی مرتضیٰ اپنے تیز برق گھوڑے پر سوار ہو کر اور اپنے تلوار
 کو اپنے ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں آکر نعرہ بکیر بلند کیا۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے آپ پر
 شدید حملہ کیا۔ شیر خدا حضرت علی نے ایک ہی حملہ میں بہت سے کافروں کو فی النار و الشقر کیا اس
 عرصے میں ایک یہودی پہلوان رستم زمان لاف مارتا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی شیر خدا پر حملہ

کیا حضرت علی مرتضیٰ نے اس کو ایک ایسا ہاتھ مارا کہ آپ کی تموار سے وہ گھوڑے سمیت دو ٹکڑے ہوا۔ کافروں نے یہ حال دیکھ کر بہت اور شکست کھائی اور پھر انہوں نے اپنے قلعہ میں پناہ لی پس اس وقت حضرت علی مرتضیٰ نے موقع کو غنیمت سمجھے ہوئے وہ خیمہ کو پکڑ کر زور کر امت کا دکھایا تو تمام قلعہ میں لرزہ رازنے کا سا ڈر گیا اور خدا کے حکم سے دروازہ کھڑکھڑا اور قیصل کے ہتھے گرا پھر تو لشکر اسلام بھی قلعہ میں داخل ہو گیا اور وہاں مال و دولت بہت کچھ ہاتھ آیا۔ اور بہت یہودی قتل ہوئے اور کثیر تعداد میں مرد و زن گرفتار ہو کر قید ہوئے اس میں سے ایک عالی خاندان نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ان بی بی نے ایک خط مہری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوفی خراج میں لکھوا کر اپنی قوم کو دیا چنانچہ وہ خط ان کے پاس اب تک موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

بیان وفات آنحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

ایک روایت میں ہے کہ اٹھویں تاریخ ذوالحجہ خاتم الانبیاء نے اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ عرفات میں دو رکعت نماز ادا کی اتنے میں حضرت حیرانبل یہ آخری آیت لیکر حاضر ہوئے۔ قوله تعالیٰ اَلَيْسَ الْكَلْبُ كَلْبًا وَيُنَافِقُ وَاَتَمَّهَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا وَجَمَسَا یعنی آج کے دن کمال کیا میں نے دین تمہارا اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پھر میں راضی ہوا تمہارے دین اسلام سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید المرسلین نے جان لیا کہ اب سفر آخرت میرا بالکل قریب آچکا ہے اسی واسطے آپ بعد فرانت حج بیت اللہ کے اپنے ابا و اجداد کے مکانات دیکھنے گئے اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو کر آپ نے فرمایا کہ شاید دوسرے سال مکہ معظمہ میں آنا نہ ہو گا یہ فرمان سکر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم گریہ و زاری میں مصروف ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر درو پیدا ہوا۔ چنانچہ تیرہ نمازیں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدا میں پڑھیں پھر مدینہ منورہ تشریف لائے الغرض ماہ صفر کو بروز بدھ کے میمونہ خاتون کے گھر میں جو کہ زوجہ آنحضرت صلعم کی تھیں ۱۰ دروہل و دربخار شروع ہوا۔ شدت مرض کے وجہ سے سب ازواج مطہرات تیمار داری کے واسطے وہاں آئیں پھر وہاں سے آنحضرت صلعم اہلبیت میں سے کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر عائشہ خاتون کے حجرے میں تشریف لائے اور اپنا سر مبارک ان کے زانو پر رکھ کر آپ نے آرام فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ بدن مبارک آپ کا بہت گرم ہے آپ نے فرمایا کہ اسے عائشہ تم سے مفارقت کا دن بالکل قریب آگیا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ سکر آہ سر و دل پرورد سے بھری آپ نے فرمایا اے عائشہ تم

صبر شکر کرو کیوں کہ موت کا شریعت ہر ایک نے چھکنا ہے اور دوسرے دن جمعہ تھا حضرت بلال سے اذان سنکر سید المرسلینؐ نے چند صحابہ کرام کو منڈھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں با وقت تمام پہنچ کر فرمایا مجھ میں بوجہ ضعف کے طاقت نہیں ہے لہذا امیر ہی اہانت ہے کہ ابو بکر صدیق امامت کے فرائض انجام دیں گے۔ یہ فرمان آپؐ کا سنکر تمام صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو بھرانے اور حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے فرمان سے امامت کرائی اور آپ نے ان کی اقتداء میں بدشواری نماندگی اور پھر آپ نے چند امور کی وصیت فرمائی کہ اے میرے بھائیوں میں نے وحی الہی کے موافق سب نیک و بد سے آگاہ کیا اب وقت میرا آخر پہنچا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر نیک کار و بار کرتے رہنا اور اس کار و بار کو نہایت ہوشیاری سے میرے بعد کرنا تا صحابہ کرام میں گریہ و زاری ہوئی پھر ابو بکر صدیق نے دست بستہ ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات ایک خواب میں نے دیکھا ہے آپ نے فرمایا اس کو بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا ہے کہ چادر عائشہ کے سر سے اڑ گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبیر اس خواب کی اس کے یہ ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے پیچھے حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ عدل میرا ٹوٹ گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ عدل میں ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک ورق قرآن شریف کا ہوا پر اڑ گیا ہے فرمایا آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عثمان ورق قرآن شریف کا عبارت میری روح سے ہے اور تن سے مراد ہوا ہوگی۔ پھر حضرت علیؑ کو اللہ نے وجہ سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ میری ڈھال ٹوٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیری میں تھا اور اس کا ٹوٹنا میرا اس دار فانی سے جانا ہے اس کے بعد حسنین نے کہا یا جدی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک درخت بزرگ گر پڑا آپ نے اس خواب کی تعبیر لیں بیان کی کہ اے میرے فرزندو، وہ درخت میں ہوں کیوں کہ میں اس جہاں سے جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے گھر کا ستون گر پڑا آپ نے اس خواب کی تعبیر لیں بیان فرمائی کہ اے عائشہ جو عورت یہ خواب دیکھے تو مستقبل قریب میں اس کا شوہر ہی مرتا ہے اس وقت سب صحابہ کرام اور تمام بیٹیاں اور سارے اہلبیت زار زار روئے اور بہت ہی پریشان و مضطرب و بیقرار ہوئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابو بیاری کی شدت مجھ پر بہت ہے آپ لوگ بلال سے

کہو کہ وہ سارے مدینہ میں اعلان کر دیں کہ صرف دو روز رسول خدا صلی علیہ وسلم کے باقی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیں کہ جس شخص کو دعویٰ مجھ پر کسی قسم کا ہو وہ آکر مجھ سے وصول کر لے اور اپنا حق قیامت کے دن پر موقوف نہ رکھے الغرض ایک مرد عکاشہ نامی نے دعویٰ تازیانے کا کیا اور کہا یا رسول اللہ جنگ احد میں آپ کے ہاتھ سے میری پیٹھ پر کوڑا لگا تھا لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کا عوض مجھے مل جائے چنانچہ یہ سکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سے وہ کوڑا جو کہ سات سیر وزن کا تھا منگوایا اور تمام لوگوں کو عکاشہ کے بدلے لینے کا معلوم ہوا تو ہر ایک صحابہ کبار وغیرہ اس سے کہتے تھے کہ اے عکاشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے ہمارے بدن پر دس دس بیس بیس چالیں چالیں کوڑے مار لے اور چونکہ آنحضرت صلعم اسی وقت شدید بیماری میں مبتلا ہیں ان سے درگزر کر دے لیکن وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوا چنانچہ آنحضرت صلعم نے فرمایا عکاشہ کوڑا اپنے ہاتھ میں لے اور تبتا چاہے مار آپ کے فرمان کے مطابق عکاشہ نے درہ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو تنگی پیٹھ پر کوڑا لگایا تھا اور آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں پتھر یا اصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرا میں اتار دیا اور موجودہ حاضرین اس وقت زار و قطار رو رہے تھے اور اپنی زبان سے کہتے جاتے تھے۔

عکاشہ کو نے آخر بات ہم سب کی نہیں مانی چوں کہ فرزند کعبہ پر خیر و کج مانند مسلمان! چنانچہ عکاشہ پشت مبارک کے قریب آکھڑا ہوا اور پھر اس نے مہر نبوت کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی فوراً اسے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ پھر کوڑا ہاتھ سے پھینک کر آپ کے قدم مبارک پر گرا اور کہنے لگا اے سید المرسلین مجھ کیسے کو کیا طاقت ہے کہ آپ کے غلاموں کی پشت تک بھی کڑا لے جا سکوں۔ میں کیسے نالائق آپ کی درگاہ کا یوں میری پیٹھ پر جس روز تازیانہ لگاتھا میں نے اسی روز بخش دیا تھا۔ اب تو غرض میری ہی تھی کہ میں اس جیلہ سازی سے مہر نبوت کی زیارت کروں اور پھر آتش و دوزخ سے بچکر رہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عکاشہ زہے نصیب تیرے کہ آگ و دوزخ کی تجھ پر حرام ہو گئی۔ پھر ربیع الاول دوسری تاریخ پیر کے روز اس نے تقاضے نے عزرائیل کو فرمایا کہ آنحضرت کی خدمت میں جا کر ادب سے کھڑے رہنا اور بے اجازت ان کی جان قبض نہ کرنا چنانچہ مالک الموت نے اعرابی کی صورت بن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آواز دی کہ میں اندر آنے کے واسطے اجازت چاہتا ہوں آپ ادب سے آواز آہستہ تھی تو بھی سب مکان گونج گئے۔ اس وقت حضرت فاطمہؑ نے کہا کہ اے اعرابی اس وقت

اس وقت آنحضرت صلعم پر بہوشی طاری ہے اور تکلیف سے بے چین ہیں۔ لیکن اس نے نہ سنا اور
 اور وہ بار بار لپکا کر تاراج کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچی تو آپ نے اپنی آنکھیں
 کھول دیں اور پوچھا اے فاطمہ تم کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ ایک اعرابی ہاتھ میں تلوار ہے دروازہ پر چلا تا
 ہے اور گھر میں آنے کی اجازت پاہتا ہے اس سے ہر چند کہتی ہوں مگر وہ واپس نہیں جاتا یہ سنکر
 رسول خدا صلعم نے فرمایا۔ اے فاطمہ وہ اعرابی نہیں ہے کہ وہ چلا جاوے بلکہ یہ شخص وہ ہے کہ عورتوں
 کو سوہ اذخول کو تھیم بنائے تم اس کو اندھا لگو پھر ملک الموت نے آکر سلام کیا اور نہایت مودبانہ طور
 سے گھر آیا۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ابے میرے اور تم میری زیارت کو آئے ہو یا جان قبض کرنے
 انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ مگر آپ کے
 حکم سے آئی جان قبض کروں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھہر و حضرت جبرائیل ابھی آدیں
 گئے چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت جبرائیل آگئے۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا اے انجی جبرائیل فرمان
 ابھی تھا کہ میری عمر زے برس کی ہوگی اور ابھی تو میری عمر کے صرف تریسٹھ ہی برس گزرے ہیں۔ یہ سنکر
 حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کے ستائیس برس معراج میں گزرے اور کہا حکم الہی یوں بھی ہے
 کہ اگر آپ دنیا میں رہنا منظور کریں تو جتنی عمر جاہیں عنایت کر دوں پھر آنحضرت صلعم نے پوچھا مرضی
 الہی کس میں ہے انہوں نے کہا مرضی الہی تو آپ کو جنت میں بلانے کی ہے کیونکہ دوزخ کی آگ سرد
 کی گئی ہے اور آگ کے واسطے جنت کو آراستہ کیا گیا ہے اور وہاں کے حور و غلمان آپ کے منتظر ہیں
 وہ تمام اپنا بناؤ سنبھال کر کے متعذر خدمت کے تیار ہیں یہ سنکر رسول خدا صلعم نے فرمایا میں بھی راضی
 برضائے مولا ہوں۔ پھر فرمایا انجی جبرائیل میرے جانے کے بعد تم اس دنیا میں آؤ گے یا نہیں حضرت
 جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلعم آپ کے بعد دس بار اور دنیا میں آؤں گا کہ ہر ایک بار ایک چیز دنیا
 سے لے جاؤں گا آنحضرت صلعم نے پوچھا وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ
 صلعم اول بار تو ہر گوبہ جبرائیل سے لے جاؤں گا اور دوسری بار گوسہ شرم اور تیسری بار گوبہ محبت اور
 چوتھی بار گوبہ عدل اور پانچویں گوبہ برکت اور چھٹی بار گوبہ سخاوت اور ساتویں بار گوبہ صداقت
 اور آٹھویں بار گوبہ جلال اور نویں بار گوبہ علم اور دسویں بار برکت قرآن مجید کو لے جاؤں گا بس یہ
 دس چیزیں ہیں آپ کے بعد لینے آؤں گا پھر اس کے بعد آثار قیامت ظاہر ہوں گے اور اسرا قیل
 صورت چھوئیں گے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ میرے بعد میری امت کا
 کیسا حال ہوگا حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی امت کو میرے بے

سونپ دو اور پھر میں بروز قیامت اس کو واپس کر دوں گا پھر آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ عمل برتے میری کا کون دیوے گا اور کھن کون پہنچائے گا اور نماز جنازہ کون پڑھائے گا اور میں کہاں دفنایا جاؤں گا یہ سنکر جبرائیل دربار الہی میں گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے اور اکبر لہے کہ اللہ تعالیٰ کا یوں فرمان ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق امت کریں اور حضرت علی رضی عنہ سے واپس آئے اور کھن پنہائیں اور آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہو کر آرام فرمائیں پھر اس کے بعد آنحضرت صلعم نے وصیت فرمائی کہ میرے صحابہ و اطہال و حرام میں قرق جاتا اور اپنے سال کی زکوٰۃ دینا اور فقیروں کو ان کے حق سے محروم مت کرنا اور زن و فرزند، یتیم و یتیم پر شفقت کرنا اور ان کو کسی طرح سے تکلیف نہ دینا اور اس وقت سب حاضرین مجلس کا غم سے عجب حال تھا اور مانند نقش دیوار ہو گئے تھے خصوصاً حضرت فاطمہ ان کو آنحضرت صلعم نے فرمایا اے جگر گوشہ میری رنج نہ کرنا کیوں کہ بعد چھ ماہ کے تم بھی میرے پاس آجاؤ گی اس وقت خاتون جنت کو تکلیف ہوئی۔ پھر حضرت پیغمبر خدا صلعم نے فرمایا اے عزرائیل اب اپنے کام میں مشغول ہو چنانچہ پھر ملک الموت نے اپنا ہاتھ حضور اکرم صلعم کے سینہ مبارک پر رکھا پھر پیغمبر خدا صلعم نے ایک آہ بھری اور پھر فرمایا اے ملک الموت مجھ کو ایذا پہنچی میں نے جانا کہ ایک پہاڑ میری چھاتی پر آ بیڑا ہے اور پھر فرمایا کہ میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہو گی۔ عزرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی روح مبارک جڑی آسانی سے قبض کر رہا ہوں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عزرائیل جتنی سختی اور تکلیف جان کنی کے عالم میں ہے وہ تو مجھے ہی دیدے لیکن میری امت کو جان قبض کرنے کے وقت ذرا ایذا نہ دینا کیوں کہ وہ بہت ہی ضعیف و کمزور سے نبی ملک الموت نے عہد کیا کہ جو کوئی آپ کی امت میں سے بعد نماز فریضہ کے آیتہ الکرسی پڑھے گا اس کی جان ایسی ایسی آسانی سے قبض کر دوں گا جیسے سوئے ہوئے پٹے کے منہ سے ماں اس کی چھاتی نکال لیتی ہے اور اس بچے کو اس کی تیر نہیں ہوتی پھر حضرت خاتم النبیین صلعم نے آخری وصیت کی کہ اے میرے صحابہ و اہل بیت اور گناہ کے کام مت کرنا اور اپنا آئینہ سینہ کو زنگ کینہ سے پاک رکھنا اس کے بعد صحابہ کو ام نے مؤذبانہ التماس کرتے ہوئے آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آوے گی آنحضرت صلعم نے اس کا جواب کچھ نہ دیا مگر اشارہ کے واسطے اپنی شہادت کی انگلی اٹھایا کہ بعد ایک برس کے کوئی سبھی بعد ایک ہزار برس کے اور کچھ لوگوں نے کہا یہ حال تو معبود برحق ہی جانتا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں۔ بس اتنے میں آنحضرت صلعم نے اپنی جان مبارک بحق تسلیم کی اور تمام حاضرین نے کہا۔ **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ** اسی دم تمام صحابہ و اہل بیت

دیگرہ کی جو غم سے کیفیت طاری ہوئی کیا ممکن کہ وہ تحریر میں لاسکوں اور کئی روز تک تمام صحابہ کرام پر عالم بیوشی رہا۔ بہر صورت اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کے فرمائے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غسل دیا اور کفن پٹنایا اور جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تار ہوا۔ ملک کے آدمیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی اور زمین و آسمان کے فرشتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا۔ اور موافق وصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت اور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔

چند اشعار برائے تعزیت

دفن جس دم کہ زمین میں شہ لولاک ہوا
 رقبہ روئے زمین غیرت الماک ہوا
 غم ہو اسب کو یہاں اور خلد میں آئی شادی
 حور و غلمان بنے دی مل کر مبارک یا دی
 بس اسے غلام نبی دل سے ہو غلام نبی
 بر آویں کام تیرے سب طفیل نام نبی
 اس غم سے دل قلم کا ز بس چاک چاک ہے
 جانا ضرور سب کے تپیں زیر خاک ہے
 زبان خامہ کو اب بند دے نہ طول کلام
 خدا کے فضل و کرم سے ہوئی کتاب تمام

شبیر برادرز - بہمنی اردو بازار لاہور

فضیلت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عابد اور زاہد اور عارف اور خائف تھے۔ ریاضت و مجاہدہ و خلوت و مشاہدہ ان کا خارج از بیان ہے ان کے احوال عبادت کا تو یہ حال ہے کہ حماد بن سلیمان کہتے ہیں کہ وہ تمام رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے ایک روایت میں ہے کہ اول نصف شب وہ جاگتے تھے۔ ایک روز راہ میں تشریف لیے جا رہے تھے۔ اچانک ایک ایک آدمی نے کہا یہ شخص تمام رات عبادت الہی کیا کرتے ہیں بعد اس کے وہ تمام رات عبادت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے شرماتا ہوں کہ لوگ میری توصیف بیان کریں جو مجھ میں نہ ہو اور ان کے احوال زید کی یہ کیفیت تھی کہ ایک روایت ہے ربیع بن عاصم سے کہ بلایا میرے پیش زید بن عمر بن میسرہ نے پس میں ابو حنیفہ کو لے گیا پس زید بن میسرہ ان کو بیت المال سو پیسے لے لیکن ابو حنیفہ نے انکار کیا۔ اس شخص نے تقریباً بیس چابک مارے پس آپ نظر کریں کہ کس طرح وہ ولایت سے بھاگے اور چند اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے چنانچہ انس بن مالک اور جابر بن عبد اللہ اور دائد بن الاسقع سے نقل ہے کہ عبد اللہ بن مبارک کے روبرو کسی نے ابو حنیفہ کو برائی کے ساتھ ذکر کیا اس وقت عبد اللہ بن مبارک نے کہا کہ تم ذکر ایسے شخص بنا کرتے ہیں کہ تمام دنیا اسکی طرف متوجہ ہے اور وہ شخص دنیا سے بھاگتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ مقدس مطہر پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے کہا اسلام علیکم یا سید المرسلین اور آپ جو رب سے بھی مشرف ہوئے اور آواز آئی کہ ! وعلیک السلام یا امام المسلمین محمد بن نجیح سے ایک روایت ہے کہ امیر المومنین ابو جعفر عباسی نے دس ہزار درہم حضرت ابو حنیفہ کے پاس بھیجے ان کو لے کر اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ان درہموں کو رکھ چھوڑو۔ اور جب میں مر جاؤں تو یہ درہم واپس کر دینا اور ان سے کہنا کہ یہ وہی تمہاری ودیعت ہے جو آپ نے حضرت ابو حنیفہ کے پاس چھوڑ دی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کو خلیفہ نے ولایت قضا دینے کے واسطے بلایا تو آپ نے فرمایا کہ میں لائق قضا کے نہیں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کس واسطے فرمایا تو آپ نے اس سے کہا کہ اگر یہ بات میری سچی ہے تو میں قضا کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو جو ماجھی قاضی قاضی ہونے کے لائق نہیں ہے ایک روایت شریک مخفی سے ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کثیر السکوت تھے اور بہت کم سخن فرمایا کرتے تھے لیکن

جب زیادہ ضروریات ہوتی تو آپ گفتگو فرمایا کرتے ورنہ خاموش اور سکوت فرمایا کرتے۔

فضیلت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر عبادت ان کا یہ تھا کہ رات کو وہ نین حصول میں تقسیم کرتے تھے ایک حصہ میں علم تدریس کی تکرار وغیرہ رہتی تھی اور ایک ثلث میں نماز پڑھتے تھے اور ثلث میں آپ آرام کیا کرتے تھے اور حضرت ربیع سے ایک روایت ہے کہ حضرت امام شافعی رضوان المبارک میں سات قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے اور یہ ساتوں مرتبہ کا پڑھنا قرآن مجید کا نماز میں پورا تھا حسین ترابی سے ایک روایت ہے کہ میں کئی رات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا تو میں نے دیکھا کہ وہ بقدر ثلث شب کے نماز پڑھتے تھے کبھی آپ پچاس آیتیں اور کبھی سو آیتیں پڑھتے تھے اور جب آپ آیات رحمت پر پہنچتے تو سوال کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا واسطے اپنے اور سب مسلمانوں کے واسطے بھی اور جب گزرتے آیات عذاب سے تو اس جگہ نجات چاہتے تھے اپنے واسطے بھی اور جمیع مومنین کے واسطے بھی گویا رجا اور خوف انکی ذات تشریف میں جمع تھا اور فرمایا ہے کہ امام شافعی نے دس برس کی عمر سے کبھی سیر سو کر کھا نا نہیں کھایا۔ اس واسطے کہ غذا میرے بدن کو ثقل کرتی ہے اور دل کو سخت کرتی ہے اور دینی سمجھ بوجھ کو زائل کرتی ہے اور نیند کو بڑھاتی ہے اور عبادت الہی سے باز رکھتی ہے۔ پس فوراً کہیے کہ شکم سیر سو نہ کرنے میں کتنی خرابیاں فرماتے ہیں اور کم کھانے میں کتنی بڑی حکمتیں مضمر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام شافعی نے کہا کہ نہیں قسم کھاتی میں نے کبھی نہ سچی اور نہ جھوٹی پس منظر کیجئے انکی حرمت تو قیصر کہ ان کے تئیں خداوند قدوس کا کیا مرتبہ تھا اور یہ دلیل ہے ان کے کمال پر جو ان کو حلال الہی سے حاصل ہوا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ایک مسئلہ دریافت کرنے کے واسطے پس آپ نے اس سے سکوت فرمایا کچھ دیر بعد اس شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ جواب کس واسطے نہیں دیتے آپ نے اس سے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میری فضیلت میرے سکوت میں ہے یا جواب دینے میں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ کس وجہ سے محافظت زبان کی کیا کرتے تھے اور سکوت ان کا باعث فضیلت اور طلب ثواب تھا۔ ایک روایت حضرت امام شافعی سے ہے کہ ایک حکیم نے دو سمرے حکیم کو دکھا جب تک کہ علم ملا تو اس کو اودھ منت کر گناہوں کی طلعت سے ورنہ تو پھر اطی تاریکی میں حیرت زدہ رہے گا۔ اور اہل علم علم کے نور سے گزر جائیں گے امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص دعویٰ

جب دنیا اور سب خالق کا ایک دل میں رکھے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ حضرت حمید سے روایت ہے کہ حضرت امام شافعی بعض دایان ملک کے ساتھ مین کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں سے دس ہزار درہم لے کر مکے میں تشریف لاتے تھے آپ نے مکے سے باہر استادہ کیا اور شام تک وہ سب درہم تقسیم فرما دیئے ایک بار آپ حمام میں تشریف لے گئے اور حمامی کو مال کثیر دے کر تشریف لے گئے ایک روز سواری پر آپ کے ہاتھ سے چابک زمین پر گر پڑا ایک شخص نے فوراً اٹھا کر آپ کو دیا آپ نے اس کو اسی وقت پچاس دینار کا انعام دیا۔ اور سخاوت آپ کی بیان تحریر سے باہر ہے اور یہ سخاوت آپ کی زہد پر دلیل ثابت کرتی ہے اس واسطے کہ مجھ نے دنیا دولت کا مساک کرتا ہے اور زاہد پاک یا زہدینا کی تفریق سے اپنے دل کو پاک کرتا ہے اس کی نظر میں دنیا تفریق کے مانند ہے درحقیقت ایسا ہی شخص زاہد و پاک یا زہدینا ہے اور شدت خوف خدا اس درجے پر تھی کہ سفیان بن عیینہ نے ایک روز حدیث شریف خوف دلانے والی پڑھی اس کے سنتے ہی حضرت امام شافعی کو غش آگیا۔ لوگوں نے سفیان سے عرض کی کہ اس حدیث نے تمہیں اور میں کی جان قبض کی ہے فرمایا اگر سچ ہے تو افضل زمانہ میرا ہے عبداللہ بن محمد سے روایت ہے کہ میں بغداد میں ہنر کے کنارے وضو کرتا تھا اور اس وقت امام شافعی عراق سے تشریف لائے اور فرمایا کہ اے غلام پورے طور سے وضو کر اپنا تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے عقبی میں نیکی کرے اور تجھ کو اپنا پسندیدہ بنائے چنانچہ میں وضو سے بافراغت ہو کر جلدی سے آپ کے پیچھے گیا پھر انہوں نے میری طرف التفات کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے میں نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ تم مجھ کو سکھاؤ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سکھایا حضرت امام شافعی نے فرمایا جان لو جو کوئی سچ بولے گا یقیناً سخاوت پاوے گا اور جو کوئی اپنے دین میں ڈر یا گواہ بلاکت سے سلامتی میں رہے گا۔ اور جس میں یہ تین خصلتیں ہوں گی اس کا دین کامل ہو گا ایک جو دوسرے کو امر نیک بتائے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو۔ دوسرے وہ جو کار بد سے منع کرے اور آپ بھی اس کا ربد سے باز رہے تیسرے حدود اللہ کی حفاظت کرے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حدیں شرع میں باندھی ہیں ان سے تجاوز نہ کرے اور جو دنیا سے زاہد اور عاقبت میں راغب رہا اور اللہ تعالیٰ نے نزدیک سچا رہا وہ سخاوت نہ پائے گا۔ کسی نے حضرت امام شافعی سے پوچھا کہ ریا کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ ریا بذات خود ایک فتنہ ہے کہ خواہش نفسانی نے علماء کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر گرہ باندھی ہے اسی وجہ سے وہ نفس کی بدی اور گناہ کا خیال کرتا ہے اور اسی واسطے وہ اپنے اعمال کا

ابطاق کرتے ہیں امام شافعیؒ نے فرمایا ہے جو شخص اپنے تئیں نگاہ رکھے اس کو علم کوئی نفع دے گا اور جو کوئی علم میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اس پر اسرار الہی کھلیں گے اور امام فزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب اعمال لکھ کر فرمایا کہ خلوص نیت امام شافعیؒ کی اور بے ریائی ان کی اس درجے پر تھی کہ فرماتے تھے کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ لوگ میرے علم سے متمتع ہوں اور میری طرف سے وہ علم منسوب نہ ہو پس غور کیجیے کہ آفت علم اور طلب شہرت اور اسم سے اس درجہ لغزت تھی کہ سوائے وجہہ اللہ کے دوسری طرف التفات ہی نہ تھا اور اسی قسم کی ایک روایت اور بھی ہے کہ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ میں نے کسی علمی بحث میں کبھی تکرار نہیں کی مگر اس وجہ سے تکرار کرتا تھا کہ خطا سے محفوظ رہ جاؤں اور تمنا یہ ہوتی تھی کہ اس نیک کام کے کرنے کی توفیق خداوند مقدوس عنایت فرمائے اور یہ چاہتا تھا کہ اس تکرار سے حق ظاہر ہو جائے گا خواہ میری زبان سے ادا ہو یا دوسرے کی زبان سے اور جو شخص کہ بروقت مناظرہ کے حقائق کو مجھ سے قبول کرتا تھا تو اس کی بیعت میرے دل میں آتی تھی اور میں اس کا معتقد ہوتا تھا اور جو کوئی مقابروہ کرتا تھا بیوی واسطے حق چھپانے کے جتیں کرتا وہ میری نظروں میں حقیر ہو جاتا تھا۔ اور ایک روایت امام احمد بن حنبلؒ سے ہے کہ میں چالیس برس سے نماز کے بعد امام شافعیؒ کے واسطے دعا مانگتا ہوں اور ایک روز ان کے بیٹے نے کہا کہ اباجان امام شافعیؒ کون ہیں جس کے واسطے تم ہمیشہ دعا کرتے ہو امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا اے بیٹے میرے وہ امام شافعیؒ دنیا کا استاد تھا اور اس میں عافیت خلق ہر وقت موجود رہتی تھی اور نہیں ہے کوئی شخص دنیا میں وہاں کے چھوڑے گا مگر امام شافعیؒ کی سنت اس کی گرہ پر ہوگی۔ حالانکہ امام احمد بن حنبلؒ بذات خود تیس لاکھ حدیث کے حافظ تھے باوجود ان فضائل کے پھر بھی امام شافعیؒ کے شاگرد ہونے میں نے تو نہایت مختصر احوال امام شافعیؒ لکھا ہے ورنہ مناقب شافعیؒ کثیر ہیں۔

فضیلت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم کی تعظیم میں نہایت ہی مبالغہ سے کام لیتے تھے اور سب صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کو بیٹھتے تھے تو دھنوکہ کے خوشبو لگا کر کمال وقار سے اور نہایت شان و شوکت سے بیٹھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی تعظیم کروں نیز فرماتے تھے کہ علم ایک نور ہے اور اللہ تعالیٰ

جہاں مناسب خیال کرتا ہے اس کو عنایت فرماتا ہے اور انصاف بھی ان کا معاملہ میں ایسا نھانہ
 کہ امام شافعیؒ سے روایت ہے کہ امام مالک کے پاس حاضر تھا کہ کسی شخص نے ان سے اٹھائیں
 مثلے پر چھپے تو انہوں نے بیس مثلوں میں فرمایا کہ لا ادری یعنی میں نہیں جانتا۔ جس شخص کو لہبت مہینی
 ہوتی اس کا نفس کب قبول کرتا ہے جو اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا اس واسطے فرمایا امام شافعیؒ
 نے کہ جس وقت ذکر کیا جائے علماء کا پس امام مالک ان میں مانند نجم کے ہیں اور نہیں ہے کسی
 کا احسان مجھ پر زیادہ امام مالک سے اور زہد بھی ان کا اس درجے پر تھا کہ امیر المؤمنین مہدی نے ان
 سے پوچھا کہ تمہارا گھر اپنا ہے فرمایا نہیں لیکن میں نے بیع عبدالرحمن سے سنا ہے کہ فرماتے تھے نسبت
 آدمی کی اس کا گھر ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا کہ تمہارا گھر اپنا ہے فرمایا نہیں پس اس نے انکو ایک ہزار
 دینار دیئے اور فرمایا کہ اس سے گھر خریدو لیکن امام مالک نے وہ دینار خرچ نہ کیے ویسے ہی رکھ دیئے
 جب ہارون الرشید نے ارادہ دیا میں سے بچنے کا کیا تب امام مالک سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو
 میں لوگوں سے تمہاری کتاب موٹا پر عمل کرواؤں گا جس طرح کہ حضرت عقی اپنے صحیح کو لئے قرآن مجید پر عمل
 کروایا اور رومروں کے لکھے ہوئے موقوف کر دیئے حضرت امام مالک نے کہا کہ موٹا پر عمل کروانے
 کی تو کوئی سبیل نہیں ہے اس واسطے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکوں میں منفرق
 ہوئے اور انہوں نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں بھرپور حصہ لیا ہے اور تمام اہل شہر کے
 پاس علم موجود ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بہتر ہے واسطے لوگوں کے اگر
 وہ جائیں اس کی قدر منزلت کو اور مدینہ میں یہ حاجت ہے کہ آدمی کی جنابت کو ایسا نکالنا ہے جیسے
 بھٹی میں لوہے کا میل نکل جاتا ہے اور وہ جو آپ کے دینار ہیں سو وہ حاضر خدمت ہیں اگر مزاج
 چاہے تو اس کو بے جا ذرا پھیرا اس کو چھوڑ جاؤ یعنی تو مدینہ منورہ کی مفارقت مجھ کو تکلیف دیتا
 ہے بسبب اس مال کے اور میں مدینہ الرسول پر کسی چیز کو اختیار نہ کروں گا۔ ایک روایت میں ہے
 کہ حسب ان کا علم دنیا میں منتشر ہوا تو ہر طرف سے لوگ مال کیش بھیجتے تھے اور امام مالک رحمۃ
 اللہ علیہ ان سب چیزوں کو خیر کے کاموں میں صرف کیا کرتے تھے اور امام فرماتے تھے کہ نہ ہونا
 مال کا زہد نہیں بلکہ زہد تو فارغ کرنا قلب کا ہے اور محبت مال سے اس واسطے کہ حضرت سلیمان
 علیہ السلام باوجود اس سلطنت برفت اقلیم کے زہد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے
 کہ میں نے دروازے پر امام مالک کے خراسان کے پچھڑے اور مصر کے چجر، کھینے کہ ان سے بہتر
 پچھ کہیں نہیں دیکھے تھے میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ کیا خوب ہیں امام مالک

رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سب میری طرف سے آپ کو دیدیے ہیں۔ پھر میں نے کہا آپ اپنی ہوا
 کے واسطے رکھ لیجئے کہنے لگے کہ میں شرماتا ہوں خداوند قدوس سے کہ میں یا مال کروں دابے
 سے اس خاک کو کہ جس جگہ قدم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر پڑا۔ نقل ہے کہ ایک لوز
 ہارون الرشید نے کہا کہ تم ہمارے یہاں آیا کرتے تاکہ ہمارے لڑکے تم سے تمہاری کتاب موٹا پڑھیں
 یہ سنکر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ۔ **أَعَزَّ اللَّهُ الْأَصِيلُ**۔ یہ علم تمہارے گھر سے نکلا ہے۔ پس
 اگر تم عزت دو گئے تو عزیز ہو گا اور تم ذلت دو گئے تو ذلیل ہو گا۔ اور علم آپ کا کسی کے پاس نہیں
 جاتا بلکہ علم کے پاس سب آتے ہیں۔ یہ سنکر ہارون رشید نے کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر اپنے
 بیٹوں سے کہا کل سے تم بھی مسجد میں دیگر لوگوں کی طرح سے جایا کرو۔

فضیلت حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

کتاب تذکرہ الاولیاء میں مذکور ہے کہ بیٹھ جانی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل میں ایسی حضرت
 ہے جو مجھ میں نہیں ہے کہ وہ وجہ جلال کھاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتے ہیں۔ سری
 سقطی سے مروی ہے کہ معتز نے حاکم کو فہ کو درغلا کر امام احمد بن حنبل کو کپڑا دیا تاکہ ان سے
 قرآن مجید کو محقق کہلاوئیں چنانچہ امام موصوف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہزار تازیانے ار سے
 تاکہ وہ اس ناقابل برداشت کو دیکھ کر قرآن مجید کو فحوق کہیں۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ اور ہر وقت یہ کہا
 کہ قرآن مجید فحوق نہیں ہے میں کس طرح اس کو خدا کی فحوق کہوں اسی حالت میں آپ کا ازار بند کھل
 گیا۔ ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے مگر عیب سے ایک ہاتھ پیدا ہوا۔ اور اس نے آپ کا ازار بندھا دیا
 جب یہ حال کرامت دیکھا تو پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی ضرب شدید کی وجہ سے اور اسی
 صدمہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ نقل ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کسی نہر میں وضو کرتے تھے اور
 دوسرا شخص بھی اس سے وضو کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنے جی میں کہا کہ شاید امام احمد بن حنبل کو یہاں
 میرے وضو کرنے سے کرامت آئے اس لیے اٹھ کر امام احمد بن حنبل کے قریب زبردست بیٹھ
 کر اپنا وضو کیا۔ جب وہ مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیا سلوک
 کیا اس نے کہا اے یار کوئی سبب میری نجات کا نہ تھا بس یہی ایک روز میں نے امام احمد بن حنبل
 کی حرکت و دفع کرامت کے باعث زبردست بیٹھ کر وضو کیا وہی سبب میری رستگاری
 ہوا کہتے ہیں کہ آپ بغداد میں رہتے تھے مگر آپ نے روٹی بغداد کی کبھی نہ کھائی اس واسطے

کہ بغداد کو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غازیوں کے واسطے وقف کیا تھا آپ
 پر روز موصول ہوا۔ روٹی منگا کر کھاتے تھے ایک بیٹا ان کا جس کا نام صالح تھا وہ ایک سال
 اصفہان میں قاضی کے عہدے پر رہا تھا بزہد و اصلاح آراستہ دہ تفتویٰ و صلاح پیراستہ صاحب
 الدہر قائم الدلیل تھے ایک دن اپنے سامنے روٹی رکھی ہوئی دیکھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ فرمایا کہ اٹکی
 روٹی روز جنبی نہیں ہے اس کا کیا سبب ہے کیونکہ روٹی کی وضع بدلی ہوئی ہے۔ نادم نے کہا آج
 کا خمیر آپ کے فرزند صالح کے گھر سے لائے تھے۔ فرمایا کہ وہ قاضی تھا اس کے یہاں کا خمیر میں نہ کھاؤں
 گا۔ لہذا اس روٹی کو دروازے پر رکھو اور جو سائل آوے اس سے کہہ دو کہ آٹا احمد کے گھر کا اور
 خمیر صالح کے گھر کا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو اس کو لو کہتے ہیں کہ چالیس دن تک وہ روٹی دھری رہی
 لیکن اس روٹی کو کسی محتاج نے نہ لیا۔ آخر الامر وہ روٹی وہ دریا میں ڈال دی۔ چنانچہ احمد بن حنبل رحمۃ نے اس وقت سے اس
 دریا کی ٹھیلی بھی نہ کھائی۔ منقول ہے آپ سے جو کوئی مسئلہ پوچھتا تھا جواب دیتے تھے اگر مسئلہ حقائق
 کا پوچھتا تو بیتر حمانی کا حوالہ دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ رضا کے کیا معنی ہیں جواب دیا کہ اپنے سب کام
 خدا کو سونپنا۔ پھر پوچھا کہ محبت کے کیا معنی ہیں تو فرمایا کہ اس مسئلہ کو بشر حمانی سے دریافت کر لو۔ پھر پوچھا
 کہ زہد کے کہتے ہیں۔ فرمایا زہد کی کئی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو حرام کا ترک اور یہ زہد عوام ہے دوسرا پادری
 حلال کی ترک کرنا اور یہ زہد خواص ہے۔ تیسرا اس چیز کا ترک کرنا جو خدا کو بھلا دیرے اور یہ زہد عارفان
 ہے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اپنی وفات کے قریب پہنچے تو لوگوں نے انہیں زخموں کی طرف اشارہ
 کرتے ہوئے ذکر کیا تو آپ نے بھی اپنے ہاتھ سے اشارے سے فرمایا کہ ابھی مکمل آرام نہیں ہوا ہے
 پھر آپ کے فرزند نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا فرماتے ہیں۔ کہا میرے سامنے شیطان کھڑا ہے
 اور وہ ہاتھوں مل کر نہایت افسوس سے کہتا ہے کہ اے احمد تو اپنا ایمان میرے ہاتھ سے چلاے گا
 تو میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ ابھی نہیں۔ ابھی تو چند تنفس باقی ہیں اے فرزند ابھی قریب شیطان
 اور سلب ایمان سے بہت نڈر نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے انتقال فرمایا تو آپ کے
 جنازے پر ہزار ہا پرندے آکر رونے لگے اور اپنی بیتابیاں دکھانے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر چالیس
 ہزار گبر و ترسا و یہود و مسلمان ہوئے اور اپنی زاریں توڑ ڈالیں اور پکار پکار کر بولے۔ لَآ اِلٰهَ
 اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ۔ محمد بن حزمیہ نے امام احمد بن حنبل کو بعد وفات کے خواب
 میں دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا یا امام المؤمنین اللہ تعالیٰ سے کیا معاملہ رہا۔ تو حضرت

امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے افضل عظیم و الطاف قدیم سے مجھے بخش دیا اور تاج کرامت کا میرے سر پر رکھا اور پھر فرمایا کہ یہ اسی کا بدلہ ہے جو تو نے میرے کلام کو مخلوق نہ کہا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے مذہب کے لوگ کم تھے لیکن ان کے درع اور زہد کے احوال مشہور ہیں۔ اور کیمیائے سعادت اور اچھا العلوم ان کی خوبی اور کمال سے بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

عملیات کی مشہور کتاب

حرز سلیمانی

حضرت خواجہ اشرف علی لکھنوی

بدیہ : ۱ - روپے

زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح کرنے والی کتاب

مکاشفہ القلوب

حجۃ الاسلام امام غزالیؒ

مترجم : علامہ عنصر مبارکی چشتی

تعارف - محمد عبدالحکیم شرف قادری

عبادت کی طرف رغبت دلانے والی کتاب

سراج السالکین

حجۃ الاسلام امام غزالیؒ

مترجم - علامہ عنصر مبارکی چشتی

برقہم کے موثر تعویذات کا مجموعہ

نقش سلیمانی

حضرت خواجہ اشرف علی لکھنوی

مجلد بدیہ : ۱ - روپے

ادبیار اور صوفیاء کا تذکرہ

گلزار صوفیاء

مصنف - علامہ عبدالمفتخری

صفحات ۵۴۰ قیمت ۱ - روپے

۵۲۲ حیات انبیاؑ کا مجموعہ

عجائب الفقہ

مفتی جلال الدین احمد امجدی

قیمت ۱ - روپے

قصص الانبیاء

سائز ۳۶۶۲۳ صفحہ ۱۶
قیمت مجلد ۳۰ روپے
کاڈ کور ۳۶
موضوع ہندی و تصحیح

داستان اولیاء

اولیاء کرام کے واقعات و حکایات

مولانا محمد شریف نقشبندی

سید سعید علی شاہ زنجبانی

قصص الاولیاء

تذکرۃ الاولیاء

مولانا محمد شریف نقشبندی

مبارک علی شاد

سوانح کر بلا

مولانا نعیم الدین مراد آبادی

حج و عمرہ کی دعائیں

علامہ عالم فقری

قیمت ۱/- روپے

نماز مترجم

علامہ عالم فقری

تذکرہ اولیائے پاکستان

علامہ عالم فقری

۶۴ صفحہ خوبصورت - ہدیہ - ۱/- روپے
۵۰ صفحہ ۵۰/- قیمت مجلد - ۱/- روپے

